

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

مُصَنَّفَاتُ ابْنِ سَيِّدٍ

مؤلف

الإمام العلامة الفقيه المحدث مولانا محمد امجد علی صاحب دہلی

للتولید

جلد نمبر ۱


دربار نمبر ۱۹۶۳۹ تا ۳۳۸۷۹

ترجمہ

مولانا محمد امجد علی صاحب دہلی

مکتبہ رحمانیہ (پشاور)

اردو بازار لاہور



وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ سورة نجم 27: 4,3

مُصَنَّفُ ابْنِ شَيْبَةَ

جلد نمبر ۶

حدیث نمبر ۱۹۶۴۹ تا حدیث نمبر ۲۳۸۷۹

مؤلف

الإمام ابن جرير عبد الله بن محمد بن ابن شيبان العباسي الكوفي

المؤلف ۲۳۵ھ

مترجم

مولانا محمد اویس سرور ظیلہ



مکتب رحمانیہ (رجسٹرڈ)

پتہ: سنسٹن عرقی سنسٹریٹ، اوڈو بازار لاہور
فون: 042-37224228-37355743

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق ملکیت بحق ناشر محفوظ ہیں



مکتبہ رحمانیہ (رجسٹرڈ)

نام کتاب ÷

مُصَنَّف ابْنِ شَدِیْبَةَ
(جلد نمبر ۱)

مترجم ÷

مولانا محمد اویس سرسرنیہ

ناشر ÷

مکتبہ رحمانیہ (رجسٹرڈ)

مطبع ÷

خضر جاوید پرنٹرز لاہور



اِقْرَأْ سَنَرُ عَنْرِی سَسْرِیْثِ. اَوْدُوْا بَااَزَا لَآهَوْر
فون: 042-37224228-37355743

ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ﷺ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

تنبیہ

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔ بصورت دیگر اس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ ادارہ ہذا اس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے،

اجمالي فهرست

جلد نمبر ۱

حدیث نمبر ۱ ابتدا تا حدیث نمبر ۴۰۳۶ باب: إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى رَعَى، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ

جلد نمبر ۲

حدیث نمبر ۴۰۳۷ تا حدیث نمبر ۸۱۹۶ باب: فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

جلد نمبر ۳

حدیث نمبر ۸۱۹۷ تا حدیث نمبر ۱۲۲۴۱ باب: فِي مَسِيرَةِ كَوْمِ تَقْصِرُ الصَّلَاةَ

تا

حدیث نمبر ۱۲۲۴۱ تا حدیث نمبر ۱۲۲۴۲ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الْآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

جلد نمبر ۴

حدیث نمبر ۱۲۲۴۲ تا حدیث نمبر ۱۶۱۵۱ باب: كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالْتِدَاوْرِ

تا

حدیث نمبر ۱۶۱۵۱ تا حدیث نمبر ۱۹۶۳۸ باب: فِي الْمُحْرَمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوعِ

جلد نمبر ۵

حدیث نمبر ۱۶۱۵۲ تا حدیث نمبر ۱۹۶۳۸ باب: مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ؟

جلد نمبر ۶

حدیث نمبر ۱۹۶۳۹ تا حدیث نمبر ۲۳۸۷۹ باب: كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

حدیث نمبر ۲۳۸۷۹ تا حدیث نمبر ۲۳۸۸۰ باب: الرَّجُلُ يَقُولُ لِعَلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حَرٌّ

جلد نمبر ۷

حدیث نمبر ۲۳۸۸۰ کتاب الطّب

تا

حدیث نمبر ۲۷۲۶۰ کتاب الأدب باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَاقَةِ

جلد نمبر ۸

حدیث نمبر ۲۷۲۶۱ کتاب الدِّيَاتِ

تا

حدیث نمبر ۳۰۹۴۴ کتاب الْفَضَائِلِ وَالْقُرْآنِ باب: فِي نَقْطِ الْمَصَاحِفِ

جلد نمبر ۹

حدیث نمبر ۳۰۹۴۵ کتاب الْأَيْمَانِ وَالرُّؤْيَا

تا

حدیث نمبر ۳۳۴۲۸ کتاب التَّيْبِ باب: مَا قَالَ فِي الرَّجْلِ يَسْتَشْهَدُ يَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟

جلد نمبر ۱۰

حدیث نمبر ۳۳۴۸۸ باب: مَنْ قَالَ يُغْتَسِلُ الشَّهِيدَ

تا

حدیث نمبر ۳۶۸۸۲ کتاب الرَّهْدِ باب: مَا قَالَ فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

جلد نمبر ۱۱

حدیث نمبر ۳۶۸۸۳ کتاب الْأَوَائِلِ تا حدیث نمبر ۳۹۰۹۸ کتاب الْجَمَلِ

فہرست مضامین

کِتَابُ الْجِهَادِ

- ۳۳ جہاد کی فضیلت اور اس کی ترغیب ❀
- ۹۹ کیا جہاد کرنا واجب ہے ❀

کِتَابُ الصَّيْدِ

- ۱۰۲ کیا کتے کا شکار کیا ہو جانور کھانا جائز ہے ❀
- ۱۰۵ جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر شکاری کتا شکار میں سے کھالے تو پھر بھی اسے کھا سکتے ہیں ❀
- ۱۰۷ اگر کوئی آدمی اپنے کتے کو کسی شکار پر چھوڑے اور کوئی دوسرا کتا بھی اس کے پیچھے لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ ❀
- ۱۰۸ اگر کوئی شکاری کتے کو روانہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ ❀
- اگر کوئی آدمی شکاری جانور کو روانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا لیکن شکار کے مرنے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ ❀
- ۱۰۹ اگر کوئی آدمی اپنے کتے کو کسی شکار پر چھوڑے لیکن وہ کوئی دوسرا جانور شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ❀
- ۱۱۰ مشرک کے کتے کے شکار کا حکم ❀
- ۱۱۱ مجوسی کے شکاری پرندے کے شکار کا بیان ❀
- ۱۱۲ اگر کوئی آدمی شکار کو پکڑے اور اس میں زندگی کی رفق موجود ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ❀
- ۱۱۳ اگر کوئی شکار کو دیکھے بغیر کتے کو روانہ کر دے اور بسم اللہ بھی پڑھ لے ❀

- ۱۱۴ کتوں کو شکار پر چھوڑتے وقت کیا کہا جائے؟
- ۱۱۵ اگر کتا شکار کا خون پی لے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۱۵ جن حضرات کے نزدیک باز کا شکار بھی جائز ہے
- ۱۱۶ اگر باز اپنے شکار میں سے کھالے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۱۸ مجوسی کی شکار کردہ مچھلی کا حکم
- ۱۱۹ جن حضرات نے مجوسی کے شکار کو مکروہ قرار دیا ہے
- ۱۲۰ اگر کوئی شکار کی طرف تیر مارے لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، بعد میں اسے اپنا تیر جانور کو لگا ہوا ملے کیا حکم ہے؟
- ۱۲۲ اگر شکار کو تیر لگے اور وہ پانی میں گر جائے
- ۱۲۳ اگر کوئی بھی آدمی شکار کو تیر مارے اور اس کا عضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۲۵ اگر درانتیاں شکار کے لیے لگائی جائیں اور ان کی زد میں کوئی شکار آجائے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۲۶ معراض کے ذریعہ شکار کا بیان
- ۱۲۹ اگر مٹی کی گولی یا پتھر کو شکار پر پھینکا جائے اور شکار مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۱۳۰ نڈی اور مچھلی کا شکار اور ان کی حلت کی صورت
- ۱۳۱ وہ مچھلی جو سمندر میں مر جائے اور خراب ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟
- ۱۳۲ جن حضرات نے سمندر میں مر کر خراب ہو جانے والی مچھلی کو کھانے کی اجازت دی ہے
- ۱۳۳ اگر سمندر مچھلی کو باہر پھینک دے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۱۳۵ اس مچھلی کا حکم جسے دوسری مچھلی مار ڈالے
- ۱۳۶ اگر کوئی آدمی شکار کو نیزہ مار کر شکار کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۳۷ کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کا حکم
- ۱۳۷ اگر پالتو جانور جیسے اونٹ گائے وغیرہ وحشی ہو جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟
- ۱۳۹ جال میں پھنس کر مرنے والی مچھلی کا حکم
- ۱۴۰ جو حضرات فرماتے ہیں کہ ناخن اور ہڈی کے علاوہ ہر وہ چیز جو خون بہائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے
- ۱۴۱ جو حضرات فرماتے ہیں کہ ذبح حلق اور شدرگ کے علاوہ ہے
- ۱۴۷ ذبح شدہ جانور اگر حرکت کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۴۹ جھنڈے کی ممانعت کا بیان
- ۱۵۰ اگر مرغی یا بکری وغیرہ کو تیر مارا جائے اور وہ مر جائے تو کیا حکم ہے؟

- ۱۵۱..... کون سے پرندوں اور جانوروں کا کھانا منع ہے؟
- ۱۵۳..... کوئے کے گوشت کا بیان
- ۱۵۴..... ربوع (چوہے کی مانند ایک جانور) کے کھانے کا بیان
- ۱۵۵..... چھکلیوں کو مارنے کا بیان
- ۱۵۶..... سانپوں کو مارنے کا بیان
- ۱۵۹..... کتوں کو مارنے کا بیان
- ۱۶۱..... جانور کے چہرے پر گدائی کرنے اور نشان لگانے کی ممانعت
- ۱۶۲..... جن حضرات نے جانور پر نشان لگانے کی اجازت دی ہے
- ۱۶۳..... کتابا لئے کی مذمت اور اس کی وجہ سے ثواب کا نقصان
- ۱۶۵..... کتابا لئے کی رخصت
- ۱۶۶..... فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتابا ہو
- ۱۶۷..... شہری کبوتروں کے مارنے کا بیان

کِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ

- ان حضرات کے اقوال کا تذکرہ جو فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں دو شریک ہوں تو نفع ان کی طے کردہ مقدار کے بقدر تقسیم ہوگا اور نقصان اس المال میں سے پورا کیا جائے گا..... ۱۶۸
- اگر کسی آدمی نے کوئی چیز دیکھے بغیر خریدی تو جن حضرات کے نزدیک اسے رکھنے یا چھوڑنے کا اختیار ہوگا..... ۱۷۰
- یہودی یا عیسائی کو شریک بنانے کا بیان..... ۱۷۲
- ایک آدمی نے کسی سے غلے پر بیع سلم کی اور کچھ غلہ لے لیا اور کچھ اس المال واپس لے لیا۔ جن حضرات کے نزدیک یہ درست ہے..... ۱۷۳
- جن حضرات کے نزدیک بیع سلم میں کچھ سامان اور باقی مال لینا مکروہ ہے..... ۱۷۴
- بیع سلم میں گروی رکھوانے کا بیان..... ۱۷۷
- جن حضرات کے نزدیک سلم میں گروی رکھوانا مکروہ ہے..... ۱۷۹
- جن حضرات کے نزدیک آقا اور اس کے غلام کے درمیان سود نہیں ہوتا..... ۱۸۰
- سبزیوں اور بانس نما چیزوں کی فروخت کا بیان..... ۱۸۱

- ۱۸۲ ایک آدمی درزی کو کپڑے دے اور درزی انہیں کاٹ دے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۸۳ اگر کسی آدمی کے سامنے غلے کو تولا جائے تو کیا خریدتے وقت دوبارہ تلوانا ہوگا؟
- ۱۸۵ ایک درہم کم ایک دینار میں کپڑا خریدنے کا حکم
- ۱۸۶ اگر کوئی شخص محرم رشتہ دار کا مالک ہو تو وہ آزاد ہوگا یا نہیں؟
- ۱۸۸ اگر کسی شخص کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس امانت بھی ہو اور اس پر قرض بھی ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۱۸۹ اگر کوئی آدمی مر جائے یا مفلس ہو جائے اور اس کے پاس سامان ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۱۹۱ ایک آدمی دوسرے کو کسی مکان میں ٹھہرا لے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۹۳ جن حضرات کے نزدیک قبضے سے پہلے صدقہ و زکوٰۃ معتبر نہیں
- ۱۹۵ خدمت کے غلام کے عوض مکاتب بنانے کا بیان
- جن حضرات کے نزدیک بیع عینہ ناجائز ہے یعنی ایسی بیع جس میں ایک آدمی دوسرے کو معلوم مدت کے ادھار اور معلوم شمن کے عوض ایک چیز بیچے پھر بیچنے والا خود نقد قیمت جو پہلے سے کم ہو ادا کر کے وہ چیز اس سے خرید لے
- ۱۹۷ ایک آدمی کرائے پر کوئی سواری لے پھر طے شدہ مقام سے آگے لے جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۹۸ اگر گاہک کوئی چیز خرید لے اور وہ قبضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۹۹ اس مکاتب کا بیان جس کا مولیٰ یہ شرط لگا دے کہ وہ نہ تو اس شہر سے نکلے گا نہ شادی کرے گا
- ۲۰۰ زیور چڑھی تلوار، زیور چڑھے سامان اور مصحف وغیرہ کی بیع کا بیان
- ۲۰۲ نیلامی کی بیع کا بیان
- ۲۰۳ جن حضرات کے نزدیک مصاحف کی خرید و فروخت مکروہ ہے
- ۲۰۶ جن حضرات نے مصحف خریدنے کی اجازت دی ہے
- ۲۰۷ جن حضرات نے مصاحف کو بیچنے کی اجازت دی ہے
- ۲۰۸ مصاحف کی کتابت پر اجرت لینا
- ۲۰۹ اگر کوئی شخص باندی خریدنا چاہے تو کیا اسے چھو سکتا ہے؟
- ۲۱۰ جن حضرات کے نزدیک بھیتی کے کٹنے اور سالانہ وظیفہ ملنے کی مالیت کی بدلے بیع کرنا مکروہ ہے
- ۲۱۱ جن حضرات کے نزدیک سالانہ وظیفہ تک کے لیے بیع جائز ہے
- ۲۱۳ جو کے بدلے گندم اور اس طرح کی دوسری بیعات کا بیان
- ۲۱۳ بیع میں خلاص کا بیان
- ۲۱۵ جو حضرات غلام کی گواہی کو بہتر مانتے تھے
- ۲۱۷

- ۲۱۷..... جن حضرات کے نزدیک غلام کی گواہی معتبر نہیں
- ۲۱۸..... اگر راہن اور مرتہن میں اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۲۰..... باغ کے پاس سے گزرنے والا اس کا پھل کھا سکتا ہے
- ۲۲۳..... جن حضرات کے نزدیک مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا
- ۲۲۵..... امراء اور گورنروں کے تحائف قبول کرنے کا بیان
- ۲۲۸..... جن حضرات کے نزدیک رضاعی بھائی (جو کہ غلام ہو) کو بیچنا درست ہے
- ۲۲۹..... جن حضرات کے نزدیک رضاعی بھائی کو بیچنا مکروہ ہے
- ۲۳۰..... خرید و فروخت پر گواہ بنانے کا بیان
- ۲۳۱..... اہل کتاب سے کس کی قسم لی جائے گی؟
- ۲۳۲..... غلے کو ذخیرہ کرنے کا بیان
- ۲۳۵..... اگر ایک آدمی دوسرے کو کپڑا دے اور اس سے کہا کہ اسے اتنے کا بیچ دے جو زیادہ ہو اوہ تیرا ہے
- ۲۳۷..... خرچ کو راس المال کے ساتھ ملایا جائے گا
- ۲۳۸..... اگر آدمی کسی چیز کو خرید کر واپس کرے اور ساتھ اضافی درابہم دے تو یہ کیسا ہے؟
- ۲۴۰..... ایک غلام کے بدلے دو غلام اور ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ
- ۲۴۱..... ایک آدمی دوسرے آدمی سے کوئی چیز خریدے اور کہے: اگر ادھار کے ساتھ ہو تو اتنے کی اور اگر نقد ہو تو اتنے کی، اس صورت کا کیا حکم ہے؟
- ۲۴۲..... ولاء کی بیع اور اس کو ہبہ کرنے کا بیان
- ۲۴۷..... جن حضرات کے نزدیک ولاء کو ہبہ کرنے کی اجازت ہے
- ۲۴۸..... اس چیز کے اندر بیع سلف کا بیان جو لوگوں کے پاس نہ ہو
- ۲۴۹..... اجیر (کرائے پر کام کرنے والا) نقصان کی صورت میں ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟
- ۲۵۱..... ایسی چیز کا معاملہ کرنا جو آدمی کے پاس موجود نہ ہو
- ۲۵۳..... غیر موجود چیزوں اور بھائے ہوئے غلام کی بیع کا بیان
- ۲۵۶..... کیا آقا اپنی مدبرہ باندی سے جماع کر سکتا ہے؟
- ۲۵۷..... اگر ایک عورت کا مہر اس کے خاوند پر لازم ہو اور وہ مر جائے، جبکہ اس پر کچھ قرضہ بھی ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۲۵۸..... اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکاتب بنایا جائے اور ان میں سے کچھ مر جائیں تو کیا حکم ہے؟
- ایک آدمی کوئی باندی خریدے اور اس باندی سے اس کی اولاد بھی ہو اور پھر کوئی آدمی اس بات پر گواہی قائم کر دے کہ

- ۲۵۹..... یہ باندی اس کی ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۵۹..... عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضمان
- ۲۶۳..... جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے
- ۲۶۵..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا کچھ حصہ ادا کر دیا تو وہ غلامی میں واپس نہیں جاسکتا
- ۲۶۷..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہے خواہ تھوڑی مدت بعد ہی کیوں نہ ہو
- ۲۶۷..... اگر کوئی شخص اپنی باندی کو بیچے یا آزاد کرے اور اس کے حمل کو متثنیٰ کر دے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۶۷..... اگر ایک آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے، پھر اس کے خلاف گواہی قائم ہو جائے تو اس سے قسم لی جائے گی کہ اس نے اسے نہیں بیچا
- ۲۶۸..... کیا گندم کے بدلے دگنی جولی جاسکتی ہے؟
- ۲۶۹..... جن حضرات کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے
- ۲۷۰..... گندم اور جو کو ملا کر بیچنے کا بیان
- ۲۷۱..... ام ولد باندی کی اولاد کا حکم ان کی ماں کا ہوگا
- ۲۷۲..... مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے
- ۲۷۳..... اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے کوئی چیز خریدے، بائع کچھ چیز اس کے حوالے کر دے لیکن مشتری اس پر قبضہ نہ کرے پھر وہ چیز بائع کے پاس ضائع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۷۶..... تہمت لگانے والوں کی گواہی کا بیان، جن حضرات کے نزدیک اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی
- ۲۷۷..... جن حضرات کے نزدیک تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی
- ۲۷۸..... توبہ کا اندازہ کن علامات سے ہوگا؟
- ۲۷۹..... مدبر غلام کی بیع کا بیان
- ۲۷۹..... ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر قرض ہو، اگر مقرض قرض خواہ کو کوئی مدیدے تو کیا اسے قرض میں شمار کیا جائے گا؟
- ۲۸۱..... مجبور شخص سے کوئی چیز خریدنے کا بیان
- ۲۸۳..... برودہ قرض جو کسی نفع کا سبب بنے، ناجائز ہے
- ۲۸۴..... کچی بھجور کو پکی بھجور کے بدلے خریدنا
- ۲۸۴..... کیا آدمی اپنے غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر سکتا ہے؟
- ۲۸۶..... عورتوں کی گواہی کس چیز میں قابل قبول ہے؟
- ۲۸۷..... اگر دو گواہوں کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۸۸.....

- ۲۸۹..... کیا حوالہ میں رجوع کی جاسکتی ہے؟
- ۲۹۱..... اگر عورت اپنے خاوند کو کوئی چیز دے تو واپس لے سکتی ہے یا نہیں؟
- ۲۹۲..... کیا آدمی دوسرے کے پاس زمین رہن رکھوا سکتا ہے؟
- ۲۹۳..... اگر کوئی شخص وارث یا غیر وارث کے لئے قرض کا اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۹۴..... نقد ادا ہونے کے بعد ایک مقررہ مدت پر غلے کی بیع کرنا
- ۲۹۷..... ایک آدمی گھر خریدے اور اس کی تعمیر کرے، پھر شفع یا مستحق نکل آئیں تو کیا حکم ہے؟
- ۲۹۷..... مکان کو مہربنا کر شادی کرنے کا حکم
- ۲۹۸..... اگر ایک آدمی نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۹۹..... خمس سے باندی خریدنے کا بیان
- ۲۹۹..... اگر کوئی شخص آزاد کرنے کی نیت سے غلام خریدے تو کیا طریقہ ہے؟
- ۳۰۰..... اگر کچھ لوگ اونٹ پر لدے کسی سامان تجارت میں شریک ہوں تو اس کی فروخت کا طریقہ
- ۳۰۱..... خراجی زمین کو خریدنے کا بیان
- ۳۰۳..... ایک آدمی کوئی چیز خریدے اور پھر اس میں عیب نظر آئے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۰۵..... بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر کر انہیں فروخت کرنا درست نہیں
- ۳۰۶..... بیع کی خرید و فروخت کا حکم
- ۳۰۷..... اگر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو، ایک دوسرے پر کسی چیز کے حق کا دعویٰ کرے تو قسم کس پر ہوگی؟
- ۳۰۸..... معلم کے اجرت لینے کا بیان
- ۳۱۰..... جو حضرات معلم کے اجرت لینے کو ناپسند کرتے ہیں
- ۳۱۱..... جو حضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ بیع سلم میں جب ثمن سپرد کر دیا جائے تو اس کو کسی اور کام میں خرچ کر دے
- ۳۱۲..... اگر خرید و فروخت کرنے والوں کا اختلاف ہو جائے
- ۳۱۳..... منہ دکھائی کے وقت بیوی کو کوئی تحفہ پیش کرنا
- ۳۱۵..... کوئی شخص کسی کی سفارش کرے تو اس کو ہدیہ دینا
- اس شخص کے بارے میں جو ایک جماعت کے ساتھ لکھت پڑت کرے (یعنی کسی معاملہ، تجارت وغیرہ میں ایک سے زیادہ آدمیوں سے تحریری معاہدہ کرے).....
- ۳۱۶.....
- ۳۱۷..... جس غلام کو آقا نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو اس کا بیان
- ۳۱۸..... غلام آقا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہو جائے

- ۳۱۹..... کوئی شخص باندی خریدنے کے بعد اُس کے ساتھ صحبت کرے پھر وہ اس میں موجود عیب پر مطلع ہو جائے.....
- ۳۲۰..... قحط کے زمانے میں شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنا.....
- ۳۲۲..... کتے کے شمن کے متعلق جو وارد ہوا ہے اس کا بیان.....
- ۳۲۳..... جن حضرات نے شکاری کتے کی قیمت (شمن) وصول کرنے کی اجازت دی ہے.....
- ۳۲۵..... قرض کی ادائیگی تک قید کرنا.....
- ۳۲۶..... آدمی کا کوئی چیز راہِ خدا میں وقف کرنا.....
- ۳۲۷..... گھرا اور رہنے کی جگہ کا وقف کرنا.....
- ۳۲۸..... پانی کی خرید و فروخت کرنا.....
- ۳۳۰..... نابینا شخص کی گواہی کا بیان.....
- ۳۳۲..... عطاء (سالانہ وظیفے یا راشن) کو فروخت کرنے کا بیان.....
- ۳۳۳..... مضارب رب المال کی مخالفت کرے اور نفع کمالے.....
- ۳۳۴..... حجام کی کمائی کا بیان.....
- ۳۳۸..... کوئی شخص صدقہ کرے اور وہی چیز وراثت میں دوبارہ اُس کو مل جائے.....
- ۳۴۰..... کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دے.....
- ۳۴۱..... کوئی شخص کسی آدمی کو ایک شہر میں پیسے دے اور دوسرے شہر میں پہنچ کر اُس سے وصول کر لے.....
- ۳۴۴..... بچوں کی گواہی کا بیان.....
- ۳۴۶..... رنگ ریز وغیرہ کا بیان.....
- ۳۴۷..... اگر کوئی باندی خود کو آزاد قرار دے (اور اس سے شادی کر لی جائے تو) کیا حکم ہے؟.....
- ۳۴۸..... کوئی شخص اگر غلام کو تصرف (تجارت) وغیرہ کرنے سے روک دے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۳۴۹..... جو حضرات آزاد شخص کو تجارت سے روکنے کو ناپسند کرتے ہیں اور جو حضرات اُس کی اجازت دیتے ہیں.....
- ۳۵۰..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ (غلام اور باندی کو) حماقت کی وجہ سے واپس کیا جائے گا.....
- ۳۵۱..... کوئی شخص غلام خریدے، پھر اس کے آدھے سر کو گنجا پائے یا گنجنے کی بیماری میں مبتلا پائے تو کیا حکم ہے؟.....
- ۳۵۱..... راشن کی پرجیوں کو فروخت کرنے کا بیان.....
- ۳۵۳..... ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو پھر ان میں سے کوئی ایک اُس غلام کو مکاتب بنا لے.....
- ۳۵۴..... کوئی شخص فوت ہو جائے اور اُس پر قرض ہو، جس کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر ہو.....
- ۳۵۵..... کوئی شخص پیمانے کے ذریعے ناپی جانے والی چیز بیچے اور برتن کے بدلے میں کچھ نکال لے تو کیا حکم ہے؟.....

- ۳۵۶..... کوئی شخص یہ کہتے ہوئے سامان فروخت کرے کہ میں ہر عیب سے بری ہوں، تو کیا حکم ہے؟
- ۳۵۸..... جو حضرات اجیر کو اجرت بتائے بغیر اُس سے کام لینے کو ناپسند خیال کرتے ہیں
- ۳۵۹..... کوئی شخص باندی خرید کر لائے بعد میں اس باندی میں عیب ظاہر ہو جائے
- ۳۶۰..... شادی میں بادام اور شیرینی تقسیم کرنا
- ۳۶۲..... قرآن مجید کی آیت ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ کی تفسیر کا بیان
- ۳۶۳..... کسی شخص کو کوئی بچہ ملے اور وہ اُس کو پالے اور اُس پر خرچ کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
- ۳۶۴..... کسی شخص کو گمشدہ اونٹ ملے اور وہ اُس پر خرچ کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۶۵..... گاہک سے بیع مرابحہ کرنے یا اسے دھوکہ دینے کے لیے کپڑے وغیرہ پر قیمت لکھ کر چٹ لگا دینا
- ۳۶۶..... دو آدمیوں کا کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے پھر ان میں سے ایک گواہ پیش کر دے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۶۸..... کسی شخص کی امانت دوسرے کے پاس ہو اور وہ اُس کو دے دے
- ۳۶۹..... کوئی شخص کسی سے کپڑا خریدے اور اُس کو کاٹ بھی لے پھر اُس کپڑے میں عیب پائے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۷۱..... کوئی شخص غلام یا گھر خریدے پھر اُس کو کرایہ پر دے کر ان سے نفع حاصل کرے
- ۳۷۳..... کوئی شخص کھجور کا درخت خریدے پھر پھل کاٹنے سے قبل آگے فروخت کر دے
- ۳۷۴..... جو حضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص بیع کرے اور اس میں بعض مجبول حصہ مستثنیٰ کر لے
- ۳۷۶..... جن حضرات نے اس بیع کی اجازت دی ہے
- ۳۷۷..... جن حضرات نے سونے اور چاندی اور ایک دوسرے کے بدلے دینے کی اجازت دی ہے
- ۳۷۹..... جن حضرات سونے اور چاندی کو ایک دوسرے کے بدلے دینے کو ناپسند قرار دیتے ہیں
- ۳۸۰..... جو حضرات نصف، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے
- ۳۸۳..... جو حضرات بٹائی پر زمین دینے کو ناپسند کرتے ہیں
- ۳۸۷..... زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پر دینا
- ۳۸۸..... دو آدمی کسی چیز پر دعویٰ کریں پھر ان میں سے ایک دو گواہ پیش کر دے اور دوسرا ایک گواہ پیش کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۸۹..... وہ غلام جسے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہو
- ۳۹۰..... کوئی شخص سامان یا غلام خریدے پھر اُس کے بعض حصہ میں عیب پائے
- ۳۹۲..... مضارب کے خرچ کی کیا صورت ہوگی؟
- ۳۹۳..... غائب کے لئے شفعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
- ۳۹۴..... تولیہ بیع ہے کہ نہیں؟

- ۳۹۵..... کوئی شخص بھگوڑے غلام کو پکڑ لے پھر وہ اُس کے پاس سے بھی بھاگ جائے
- ۳۹۶..... جب کیل اور وزن کو نام لے کر متعین کر لیا جائے تو پھر کیل کر دینا چاہیے
- ۳۹۷..... کوئی شخص گندم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں بیج تولیہ (بغیر نفع کی بیج) کر سکتا ہے؟
- ۳۹۸..... جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے قبل آگے بیج مٹ کرو
- ۴۰۰..... جو حضرات فرماتے ہیں کہ مکاتب جب بدل کتابت کی ادائیگی کرے تو پہلے قسط میں کچھ کمی (رعایت) کرنی چاہیے
- ۴۰۲..... کنویں کی منڈیر (احاطہ) کتنا ذراغ ہو؟
- ۴۰۳..... کوئی شخص اپنے مدبر غلام کو مکاتب بنا لے پھر وہ فوت ہو جائے جبکہ مکاتب پر بدل کتابت میں سے کچھ ابھی باقی ہو، تو کیا حکم ہے؟
- ۴۰۴..... یتیم کا مال مضاربتہ میں دینا
- ۴۰۶..... یتیم کا مال کھانا جرمِ عظیم ہے
- ۴۰۹..... کسی شخص کا کسی سے غلام اجرت پر لینا
- ۴۱۰..... کسی شخص کے پاس امانت کا مال ہو وہ شخص اُس مال کو کاروبار میں لگا کر نفع کمالے تو وہ منافع کس کا شمار ہوگا؟
- ۴۱۱..... کوئی شخص بیعِ مسلم کرتے ہوئے یوں کہے: جو کچھ گندم میں سے ہے وہ اتنے کا ہے
- ۴۱۲..... کپڑوں میں بیعِ مسلم کرنا
- ۴۱۳..... مکاتب اگر بدل کتابت سے عاجز آجائے تو اُس کو غلامی میں واپس لوٹا دیا جائے گا
- ۴۱۴..... جس چیز کی مقدار معلوم ہو اُس کو اندازے سے فروخت کرنا
- ۴۱۶..... مکاتب اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمہ بدل کتابت بھی ہو اور اُس پر قرض بھی ہو
- ۴۱۸..... اگر دونوں طرف سے گواہی قائم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۲۰..... مضاربتہ، عاریتہ اور امانت کا بیان
- ۴۲۳..... رہن اگر کسی عادل شخص کے قبضہ میں ہو تو کیا وہ مقبوضہ شمار ہوگا؟
- ۴۲۳..... کوئی شخص کسی کو مال مضاربت دے
- ۴۲۳..... ام ولد کی بیع کرنا جب اُس کا جنین (نا تمام بچہ) گر جائے
- ۴۲۵..... اگر کسی شخص کو سامانِ تجارت دے، پھر خود کو اس کی ضرورت پیش آجائے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۲۶..... آدمی کوئی چیز خریدتے وقت اس میں زیادتی طلب کرے
- ۴۲۷..... عورت اور باندی کا عطیہ (ہدیہ) کب جائز ہے؟
- ۴۲۹..... بلی کی قیمت کا بیان

- ۴۳۰ مکاتب آزاد لڑکا چھوڑ کر فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۱ کوئی شخص اپنا غلام آزاد کرے اُس (غلام) کے پاس اپنا مال بھی موجود ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۳ کافر اس حال میں مسلمان ہو کہ اُس کے پاس اپنی زمین ہو.....
- ۴۳۴ مکاتب کچھ بدل کتابت ادا کرنے کے بعد باقی سے عاجز آجائے تو کیا حکم ہے؟
- ۴۳۵ مکاتب بدل کتابت کے لئے سوال کرے تو اُس کو عطا کیا جائے گا.....
- ۴۳۶ کسی سے باغ میں کام کروانے کے احکام.....
- ۴۳۷ کپڑا بننے والے کو کپڑے میں سے اجرت دینا.....
- ۴۳۸ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے مال کو بغیر اجازت حاصل کرنے اور استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۴۳۸ کوئی شخص باندی کو فروخت یا آزاد اس طرح کرے کہ اُس کے لطن میں جو بچہ ہے اُس کو مستثنیٰ کر دے.....
- ۴۳۹ کوئی شخص یا باندی خریدے.....
- ۴۴۰ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفور ادا کرنا واجب ہے.....
- ۴۴۰ کسی شخص کی زوجیت میں باندی ہو پھر وہ اُس سے بچہ جنم دے.....
- ۴۴۱ کوئی شخص کسی کو مضاربہ کوئی چیز دے.....
- ۴۴۲ دس کی بیع بارہ کے ساتھ.....
- ۴۴۳ ام ولد کی بیع کرنا.....
- ۴۴۵ ام ولد اگر نمش کام کرے تو کیا وہ دوبارہ غلامی میں آجائے گی یا نہیں؟
- ۴۴۶ اس غلام کے بارے میں جو کسی شخص کو چوری چوری مال دے دے تاکہ وہ اس غلام کو خریدے.....
- ۴۴۸ شراب کی بیع کا بیان.....
- ۴۵۰ پڑی ہوئی کوئی چیز ملے تو اُس کا کیا کرے؟
- ۴۵۴ لقطہ میں جو رخصت دی گئی ہے.....
- ۴۵۸ جو حضرات لقطہ اٹھانے کو ناپسند کرتے ہیں.....
- ۴۶۰ جس نے لقطہ اٹھایا تھا اُس سے اگر ضائع ہو جائے.....
- ۴۶۰ جو حضرات حیوان میں سلم کی اجازت دیتے ہیں.....
- ۴۶۲ جو حضرات حیوان میں بیع سلم کو ناپسند کرتے ہیں.....
- ۴۶۳ کوئی شخص ہبہ دینے کے بعد واپس لینے کا ارادہ کرے.....
- ۴۶۵ جو حضرات ہبہ دے کر رجوع کرنے کو ناپسند کرتے ہیں.....

- ۳۶۶..... نشئی آدمی کا خرید و فروخت کرنا
- ۳۶۷..... دو آدمی کسی سامان کے مالک ہوں ان میں سے ایک کو دس درہم اور دوسرے کو نو درہم میں طے ہوں
- ۳۶۸..... کوئی شخص کسی کے پاس رہن رکھواتے ہوئے یوں کہے کہ اگر میں تیرے پاس رہن چھڑوانے نہ آیا تو یہ چیز تیری
- ۳۶۸..... غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو، ان میں سے ایک شخص اپنا حصہ آزاد کر دے
- ۳۷۱..... مسلمانوں میں عدالت کیا ہے؟
- ۳۷۲..... کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدے کہ اس کو فروخت یا بہ نہیں کرے گا
- ۳۷۵..... اس شخص کے بارے میں جو اپنا غلام آزاد کر دے اور اس کی اس غلام کے علاوہ کوئی جائیداد یا مال وغیرہ نہ ہو
- ۳۷۶..... کوئی شخص مرض الوفا میں غلام آزاد کر دے
- ۳۷۷..... جن حضرات نے مرض الوفا میں اپنا غلام آزاد کیا
- ۳۷۸..... کیا صرف سن کر گواہی دینا درست ہے؟
- ۳۷۹..... یہود و نصاریٰ کے درمیان فیصلہ کرنا
- ۳۸۱..... شرابی آدمی کی گواہی قبول کریں گے کہ نہیں؟
- ۳۸۱..... بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں
- ۳۸۳..... آدمی سے قسم اٹھوائی جائے وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے
- ۳۸۳..... قاضی کا تحوہ (اجرت) لینا
- ۳۸۵..... پھلوں کی بیع کا بیان (اُن کو کب فروخت کیا جائے گا؟)
- ۳۸۸..... آقا کا غلام یا باندی کا مال استعمال کرنا
- ۳۸۸..... قاضی کا مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا
- ۳۸۹..... یہودی، نصرانی اور غلام کی گواہی دینا
- ۳۹۱..... نوٹس دیتے وقت دو یا زیادہ لوگوں کو گواہ بنایا جائے گا
- ۳۹۲..... کوئی شخص سامان خریدے اور اس میں عیب ہو
- ۳۹۳..... کوئی شخص اتنے اتنے کی چیز خریدے اور اس کو پھر مراہینہ فروخت کرے، پس وہ زیادہ وصول کر لے
- ۳۹۳..... گوشت اور سری میں بیع سلم کرنا
- ۳۹۴..... سا بری پکڑنے کی بیع کا حکم
- ۳۹۴..... غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھر ان میں سے ایک اُس کو آزاد کر دے

- ۴۹۵..... کفالت میں کفیل کو قید کرنا
- ۴۹۵..... کوئی شخص اپنے غلام سے علیحدگی اختیار کر لے اُس مال پر جو وہ مقرر حصہ ادا کرتا ہے
- ۴۹۶..... مدبر کتنے مال سے آزاد شمار ہوگا
- ۴۹۷..... جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کفن جمع مال میں سے دیا جائے گا
- ۴۹۸..... جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ راستہ میں پڑا ہوا نونو مولود بچہ اگر ملے تو وہ آزاد شمار ہوگا
- ۵۰۰..... غیر موجود چیز کی صرف صفت اور کیفیت بیان کر کے فروخت کرنا
- ۵۰۱..... تھنوں میں دودھ کی بیج کرنا
- ۵۰۳..... امام عادل (عادل بادشاہ) کا بیان
- ۵۰۴..... کوئی شخص اپنے گھر میں کتوں کھولے
- ۵۰۴..... کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے: اگر تو میرے قرض خواہ سے علیحدہ ہوا تو، تو آزاد ہے
- ۵۰۵..... اگر کوئی شخص (مدعی یا مدعی علیہ) قاضی سے گواہی دینے کا مطالبہ کریں
- ۵۰۶..... زرگروں کی مٹی کی بیج کا بیان
- ۵۰۶..... کوئی شخص کھانا (گندم) خریدے، تو کیل کرنے والے کی اجرت کس پر ہوگی
- ۵۰۷..... بھگوڑے غلام کی مزدوری
- ۵۰۹..... قاضی اور والی کا ہدیہ وصول کرنا
- ۵۱۳..... کوئی شخص کسی کو ہدیہ دے یا اُس کی طرف ہدیہ بھیجے
- ۵۱۷..... آدمی کا اپنے آپ کو بچانے کے لئے رشوت وغیرہ دینا
- ۵۱۸..... سود کی حرمت کا بیان
- ۵۲۱..... کوئی شخص کسی کی زمین چرا لے
- ۵۲۳..... اس شخص کے بیان میں جو اس بات کا قائل ہے کہ مسلمان اپنی طے شدہ شرط کے مطابق معاملات کریں گے
- ۵۲۵..... خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور چیز کی قیمت کو ویسے ہی بڑھانا تاکہ لالچ میں آکر دوسرا اُس کو خرید لے
- جو حضرات ربحِ مالہ بضم ن کے تناول کرنے کو ناپسند کرتے ہیں یعنی ایسے سامان کو فروخت کرنا جو اس نے خریدا تو ہو لیکن اُس پر قبضہ نہ کیا ہو تو ایسی بیج درست نہیں ہے اور ایسا نفع حلال نہیں ہے
- ۵۲۶..... جنہوں نے ادھار زیادہ قیمت پر بیچنے کی اجازت دی ہے
- ۵۲۷..... ادھار بیج میں ربح رکھنا
- ۵۲۸.....

- ۵۲۸ پانی میں مچھلی کی بیج کرنا، اور جھاڑیوں کی بیج کرنا
- ۵۲۹ مدیر غلام کی خدمت کی بیج
- ۵۳۰ جو حضرات چوری والے مال (چیز) کے خریدنے کو ناپسند کرتے ہیں
- ۵۳۰ کمیشن ایجنٹ کا اجرت لینا
- ۵۳۱ جو حضرات حیوان میں شفعہ کو درست نہیں سمجھتے
- ۵۳۲ پرس (ہوا) پر دو شخص دعویٰ کریں
- ۵۳۳ جو یہ فرماتے ہیں کہ رہن کو بادشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا
- ۵۳۳ جو حضرات اس چیز کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت دیتے ہیں کہ جس عوام کا نقصان نہ ہو
- ۵۳۳ عورت اپنے خاندان کے گھر سے صدقہ کر سکتی ہے
- ۵۳۵ شریک کا اپنی شرکت میں بیج کرنا جائز ہے
- ۵۳۶ وزن کرتے ہوئے کچھ زیادہ دینا
- ۵۳۷ رشوت دینے اور لینے والا
- ۵۳۷ کوئی شخص غلام کو رہن رکھوا کر پھر اس کو آزاد کر دے
- ۵۳۹ دو شخص مشترک ہوں (شرکت کر لیں) اور ان میں سے ایک دینا اور دوسرا درہم لے آئے
- ۵۳۹ قاضی کے پاس قضاء پر کوئی بیٹھ سکتا ہے
- ۵۴۰ سامان کے بدلے میں اونٹ وغیرہ خریدنا
- ۵۴۰ کچھ لوگ کسی شخص کے لئے گواہی دیں
- ۵۴۱ کوئی شخص کسی سے جانور خریدے
- ۵۴۱ کوئی شخص خریدنے کے لئے کوئی چیز چکھ کر دیکھے
- ۵۴۲ کوئی شخص پیسوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھر اس سامان کو خرید لے
- ۵۴۲ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کفالہ اور حوالہ دونوں ایک جیسے (برابر) ہیں
- ۵۴۲ درست شیشے کوٹوں نے شیشے کے بدلے فروخت کرنا
- ۵۴۳ دودھ میں پانی ملانا
- ۵۴۳ کوئی شخص سبزی فروش کے پاس پیسے توڑوائے
- ۵۴۳ کوئی شخص محفہ بکری خرید لے پھر وہ اس کا دودھ استعمال کر لے

- ۵۳۵..... لکڑی کی چھت جس کا دو گھروں والے دعویٰ کریں
- ۵۳۵..... جو حضرات ادھار کی ادھار کے ساتھ بیع کرنے کو ناپسند کرتے ہیں
- ۵۳۶..... انگور کے رس (شیرہ) کی بیع کرنا
- ۵۳۷..... کوئی شخص موہو بہ چیز کو بہہ کرے
- ۵۳۸..... کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھالے
- ۵۵۰..... کوئی شخص باندی دیکھے جو فروخت ہو رہی ہو اور وہ باندی کہے میں چوری شدہ ہوں
- ۵۵۱..... کوئی شخص غلام کو مکاتب بنائے
- ۵۵۱..... کوئی شخص غلام کو مکاتب بنا لے اور اُس کی میراث کی شرط لگا دے کہ وہ میں وصول کروں گا
- ۵۵۲..... گانا گانے والی اور نوحہ کرنے والی کی اجرت
- ۵۵۳..... کوئی شخص کپڑوں کے بدلے چمک دستاویز خرید لے
- ۵۵۳..... تنگ دست کو مہلت دینا اور اُس کے ساتھ نرمی کرنا
- ۵۵۵..... بیع میں قیمت مقرر کرنا
- ۵۵۶..... تجارت اور اُس کی فضیلت میں
- ۵۵۹..... بلاوجہ قسم اٹھانے کے ممانعت
- ۵۶۱..... جو حضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ غلام کے پاس اگر کوئی پیشہ نہ ہو اور پھر اُس کو مکاتب بنایا جائے
- ۵۶۲..... جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرض وغیرہ دو تو جو دیا ہے اُس کے مثل لو
- ۵۶۳..... کوئی شخص سیاہ دراہم قرض دے کر سفید وصول کرے
- ۵۶۳..... کوئی شخص باندی خریدے اور وہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے
- ۵۶۳..... کوئی شخص کسی کو سامان فروخت کرے ایک مقررہ وقت کے لئے اور شرط لگا دے کہ اگر اُس مدت سے قبل فروخت کیا تو وہ اُس کا زیادہ حق دار ہے
- ۵۶۳..... مکاتب اپنے آقا کو یوں کہے: تو بدل کتابت کم کر دے میں جلدی ادا کر دوں گا
- ۵۶۶..... جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مکاتب سے سامان لینے میں کوئی حرج نہیں
- ۵۶۶..... قرض اور عطیہ دینے پر ثواب کا بیان
- ۵۶۹..... بتوں کی بیع کرنا
- ۵۷۰..... شامی دینار کو کوئی دینار کے بدلے فروخت کرنا

- ۵۷۱..... کوئی شخص دینار میں بیع صرف کرے اور قیراط زائد ہو جائے
- ۵۷۲..... تقسیم کرنے والے کی اجرت
- ۵۷۳..... صفائی کرنے والے کی اجرت
- ۵۷۵..... جو حضرات بیع منابذہ اور ملاسہ سے منع کرتے ہیں
- ۵۷۵..... کھانے میں بیع سلم کرنا
- ۵۷۶..... زمین کے ایک جریب کی بیع دو جریب کے ساتھ
- ۵۷۶..... کاتے ہوئے اونٹنی کپڑے کی بیع کرنا بغیر کاتے ہوئے اونٹنی کپڑے کے ساتھ
- ۵۷۷..... کوئی شخص اپنے غلام لے کر عشر وصول کرنے والے کے پاس سے گذرے
- ۵۷۷..... کوئی شخص کسی کو مال مضاربت کے طور پر دے
- ۵۷۹..... جب تک دونوں شریک جمع نہ ہو جائیں حساب نہیں کریں گے
- ۵۷۹..... جو حضرات بیع مراہجہ کو ناپسند کرتے ہیں
- ۵۷۹..... جب ہبہ ہلاک ہو جائے تو رجوع نہیں ہے
- ۵۸۰..... درزی اور کپڑا سلوانے والے میں اگر اختلاف ہو جائے
- ۵۸۰..... لوگ اونٹوں کے پاس سے گذریں
- ۵۸۲..... گندم اور کھجور میں بیع سلم کرنا
- ۵۸۳..... جو حضرات لوٹ مار کو ناپسند کرتے ہیں اور اُس کی ممانعت
- ۵۸۶..... سامان میں شرکت کرنا
- ۵۸۶..... والد اپنے بیٹے سے کوئی چیز خریدے یا اُس کو کوئی چیز فروخت کرے
- ۵۸۷..... آزاد شخص اپنے آپ کو رہن رکھوائے، پھر وہ اُس کا اقرار کر دے
- ۵۸۸..... وہ ائمہ جن کے ساتھ جو اکھٹلا جاتا ہے
- ۵۸۸..... کوئی شخص دوسرے شخص سے کہے کہ: اپنا غلام فلاں کو فروخت کر دے، تیرے لئے پانچ سو درہم ہیں
- ۵۸۹..... بیع میں ہاتھ لگا کر چھونا
- ۵۸۹..... کپڑے مضاربت میں دینا
- ۵۸۹..... سامان کی ترتیب کرنا
- ۵۹۱..... تنگ دستی کی وجہ سے فروخت کیا جائے تو وہ واپس کیا جائے گا کہ نہیں؟

- ۵۹۲ پھسل کر یا ٹھوکر کھا کر گرنے کی وجہ سے جانور واپس کرنا
- ۵۹۲ بکری کا کھینوں کو کھانا
- ۵۹۲ گوبر اور پاخانہ سے زمین کو کھا ڈالنا
- ۵۹۳ جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے
- ۵۹۳ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولا یأب الشهداء اذا ماعوا کی تفسیر میں جو وارد ہوا ہے
- ۵۹۵ جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہی اُس کا مالک ہے
- ۵۹۷ کوئی شخص کسی کو اپنا دین بہتہ کر دے
- ۵۹۷ عورت (بیوی) فوت ہو جائے اور اُس کی چھوٹی اولاد اور خادم ہوں
- ۵۹۸ بازار کی دکانوں کا کرایہ
- ۵۹۹ غنی کا مال مٹول کرنا
- ۶۰۰ گواہوں کے درمیان تفریق کرنا
- ۶۰۰ کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اُس پر قرضہ ہو اور اُس کے پاس کفن نہ ہو
- ۶۰۱ کوئی شخص کسی کو بکریاں دے
- ۶۰۱ بیع کرنے والے رضامندی کے بعد جدا ہوں گے
- ۶۰۲ کوئی شخص کچھ عرصہ کے لئے مکان کرایہ پر لے
- ۶۰۳ کوئی شخص کچھ مدت کے لئے کسی کو سامان فروخت کرے
- ۶۰۳ کوری زمین سونے کے بدلے کرایہ پر دینا
- ۶۰۶ کوئی شخص دوسرے کی زمین پر بغیر اُس سے پوچھے کاشت کرے
- ۶۰۷ یہودی اور نصرانی کی گواہی درست ہے
- ۶۰۸ جانور کرایہ پر دینا
- ۶۰۹ کپڑوں کو رنگنے والی مٹی کو دو کو ایک کے بدلے دینا
- ۶۰۹ کوئی شخص تازہ کھانے میں سلم کرے پس اُس کی ساتھی سے ملاقات نہ ہو
- ۶۰۹ کوئی شخص دوسرے کو گھر بنانے کی اجازت دے پھر اُس کو نکال دے
- ۶۱۰ نقدی کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کریں
- ۶۱۱ کوئی شخص ملاح کو غلہ دے اور اُس کو نقصان کا ضامن بنائے

- ۶۱۲ جس کا کیل یا وزن نہ کیا جاتا ہو اُس کی قبضہ سے قبل بیع کرنا
- ۶۱۳ سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے میں برابر سراب فروخت کی جائے گی
- ۶۱۹ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بیع کر دو تو جب تک آپ کے اور اُس کے درمیان اشتباہ ہو اُس سے جدا نہ ہو
- ۶۲۰ جو حضرات بیع صرف کو ناپسند کرتے ہیں
- ۶۲۱ کوئی شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال ہو یا پھر پھل دار درخت ہوں
- ۶۲۳ جانور کو جانور اور نقد دراہم کے بدلے فروخت کرنا
- ۶۲۳ انگوروں کو کب فروخت کیا جائے؟
- ۶۲۳ شفعہ بندوں کے اعتبار (حساب) سے ہے
- ۶۲۵ دروازوں اور حدود میں شفعہ
- ۶۲۵ پتیل کو لوہے کے مقابلہ میں ادھار فروخت کرنا
- ۶۲۶ مکاتب اگر اپنا بدل کتابت سارا ایک ساتھ لے آئے
- ۶۲۷ ایک سکہ کی بیع دو سکوں کے ساتھ
- ۶۲۷ کوئی شخص ایسا غلام فروخت کرے جس پر قرضہ ہو
- ۶۲۸ کوئی شخص جانور خرید کر اُس پر سواری کرے پھر بعد میں اس میں عیب پائے
- ۶۲۸ دو گواہ گواہی دیں پھر اُن میں سے ایک رجوع کر لے
- ۶۲۹ کچھ لوگ زراعت میں شریک ہوں
- ۶۳۰ بائع اور مشتری جب جدا نہ ہوں اُن کو اختیار ہے
- ۶۳۲ جو حضرات محض تکلم سے ہی بیع کو لازم قرار دیتے ہیں (یعنی مجلس سے جدا ہونا ضروری نہیں ہے)
- ۶۳۲ کوئی شخص اگر یوں کہے کہ اگر میں نے اپنا غلام تجھے فروخت کیا تو آزاد ہے
- ۶۳۲ بیع محاققہ اور بیع مزانیہ کا بیان
- ۶۳۵ گےہوں کو کھجور کے بدلے ادھار فروخت کرنا، گھاس پوس کو گندم کے بدلے ادھار فروخت کرنا
- ۶۳۵ کوئی شخص چیز کو اس شرط پر خریدے کہ پہلے اس کو دیکھے گا
- ۶۳۷ کوئی شخص پوچھے کہ تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہے کہ نہیں
- ۶۳۷ مکاتب کی بیع کا بیان
- ۶۳۸ مکاتبہ باندی فوت ہو جائے اور اُس پر بھی بدل کتابت باقی ہو تو اس کے بچوں کا حکم

- ۶۳۸ عمری کے متعلق جو وارد ہوا ہے
- ۶۳۲ جو حضرات عمری والے کو رجوع کرنے کا اختیار دیتے ہیں
- ۶۴۲ زخمی کا بیان
- ۶۴۳ جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے
- ۶۴۵ جو حضرات اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ کیل شدہ چیز کی کیل شدہ کے ساتھ بیع سلم کی جائے
- ۶۴۶ کوئی شخص مال مضاربت اس شرط پر دے کہ وہ ضامن ہے
- ۶۴۶ ذمی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے
- ۶۴۷ جو حضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کچھ دے کر اُس سے زیادہ وصول کیا جائے
- ۶۴۹ بازار کی دکانوں میں جانے کی اجازت لینا
- ۶۵۰ آزادی، دین اور طلاق کے معاملات میں عورتوں کی گواہی کا حکم
- ۶۵۱ کوئی شخص پھل فروخت کرے، اور صدقہ سے بری ہو جائے
- ۶۵۲ کوئی شخص (والد) اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ لے لے
- ۶۵۳ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے مال میں سے بغیر اجازت نہیں استعمال کر سکتا
- ۶۵۵ اولاد کے لئے والد کے مال میں سے جو حلال ہے
- ۶۵۶ جو حضرات پڑوسی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرماتے ہیں
- ۶۵۸ ذمی اور اعرابی کے لئے حق شفعہ
- ۶۵۹ اعرابی کے لئے حق شفعہ
- ۶۵۹ جب راستے اور حدود الگ اور جدا ہو جائیں تو پھر حق شفعہ نہیں ہے
- ۶۶۰ اگر دو گھروں کا ایک ہی راستہ ہو تو اس میں بھی شفعہ نہیں ہے
- ۶۶۱ جو حضرات فرماتے ہیں کہ صرف زمین میں شفعہ ہے
- ۶۶۱ کوئی گھر فروخت ہو اور اُس کے دو پڑوسی ہوں
- ۶۶۲ شفعہ اگر خود مشتری کو خریدنے کی اجازت دے
- ۶۶۳ کوئی شخص کسی کو دراہم قرض دے
- ۶۶۵ کوئی شخص دوسرے سے سامان خریدے
- ۶۶۶ کوئی شخص ایسی چیز کو فروخت کرے جس کا وہ مالک نہیں ہے

- ۶۶۶ کچھ لوگ اگر کسی ایک مکان میں شریک ہوں
- ۶۶۷ کوئی شخص رہن رکھوائے اور وہ ہلاک ہو جائے
- ۶۷۰ والد اور بیٹے میں تفریق کرنا
- ۶۷۳ جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے
- ۶۷۴ کوئی شخص بیع کرے پھر اس کو غلطی لگ جائے
- ۶۷۵ کوئی شخص کھانا خریدے اور وہ زیادہ نکل آئے تو زیادتی کس کی ہوگی؟
- ۶۷۶ کوئی آزاد شخص اپنے اوپر غلام ہونے کا اقرار کر لے
- ۶۷۷ شریکین میں سے اگر کسی ایک پر قرضہ آجائے
- ۶۷۷ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کفیل ضامن ہوگا
- ۶۷۷ قرآن کی آیت ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ کا بیان
- ۶۷۹ کوئی شخص بغیر اجازت کفیل بن جائے
- ۶۷۹ جس کی گواہی قبول نہیں ہے
- ۶۸۰ بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی
- ۶۸۱ مشرکین کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا
- ۶۸۲ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ملتوں (مذہب) کا اختلاف ہو تو گواہی قابل قبول نہیں
- ۶۸۳ اہل کتاب کی ایک دوسرے پر گواہی
- ۶۸۳ غلام کی کفالت کا بیان
- ۶۸۳ جس کے ہاتھ حد میں کئے ہوں اُس کی گواہی کا بیان
- ۶۸۵ دو خصموں کے درمیان صلح کا بیان
- ۶۸۶ اگر جھگڑنے والے کسی ایک کی بات پر راضی ہو جائیں
- ۶۸۷ دراہم کو تبدیل کرنا اور توڑنا
- ۶۸۷ کھونے سکوں کو خرچ کرنے کا بیان
- ۶۸۹ کسی شخص پر دین آجائے
- ۶۹۰ جن حضرات نے ریشم میں مسلم کرنے کی اجازت دی ہے
- ۶۹۱ جو حضرات ریشم میں بیع مسلم کرنے کو ناپسند کرتے ہیں

- ۶۹۲ کوئی شخص کسی کے پاس رہن رکھوائے اور مرتہن کے پاس کچھ حصہ ضائع ہو جائے
- ۶۹۲ رہن جب مرتہن کے پاس ہو تو پھر وہ باقی قرض خواہوں سے زیادہ حق دار ہے
- ۶۹۳ اسی شخص کی گواہی
- ۶۹۴ کسی شخص کا دوسرے پر قرضہ ہو لیکن وہ اس کا انکار کر دے
- ۶۹۶ غلام مفلس ہو جائے پھر وہ دین کا اقرار کر لے
- ۶۹۶ ایک شخص نے دوسرے سے کہا: میں آپ کو سامان کا بتاتا ہوں، آپ اُس میں مجھے شریک کر لیں
- ۶۹۷ فیصلہ کرنے والے کا جھکاؤ خصمین میں سے کسی ایک کی طرف ہو
- ۷۰۰ قاضی کے فیصلہ سے کیا چیز حلال نہیں ہوتی
- ۷۰۱ قضاء کے متعلق جو وارد ہوا ہے
- ۷۰۳ قاضی کے لئے فیصلہ میں کس چیز سے آغاز اور ابتداء کرنا بہتر ہے
- ۷۰۶ گواہ اور طالب گواہ یعنی مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا
- ۷۰۷ قاضی کے فیصلہ کے بعد دوسرے قاضی سے فیصلہ طلب کرنا، کیا اُس کو پہلے قاضی کا حکم رد کرنے کا اختیار ہے؟
- ۷۰۸ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ افلاس کی وجہ سے (میں) آزاد کے مال کو فروخت نہیں کیا جائے گا
- ۷۰۸ کوئی شخص دوسرے کے پاس اپنی کسی چیز کا دعویٰ کرے
- ۷۰۹ کوئی شخص کسی کو قیمت لگا دے
- ۷۰۹ کوئی شخص گھر فروخت کر کے پھر اس میں رہنے کی شرط لگا دے
- ۷۱۰ اگر کسی شخص اور اس کے پڑوسی کے درمیان سے دیوار گر جائے (یعنی منہدم ہو جائے اور بے پردگی ہوتی ہو)
- ۷۱۱ تنگ دست کو مہلت دینے اور اُس کے ساتھ نرمی کرنے کا ثواب
- ۷۱۲ جس کے متعلق کلام کرنا گواہ کے لئے مناسب نہیں
- ۷۱۳ کوئی شخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے، پھر وہ مقروض ہو جائے اور اُس کا آقا فوت ہو جائے
- ۷۱۳ کوئی شخص اپنے ہی کارخانے پر آئے اور اُس سے سامان خریدے
- ۷۱۳ بھجور کے درخت کو کیسے وصول کریں گے؟
- ۷۱۳ کسی شخص پر رمضان کا لازم آنا
- ۷۱۵ اس بہتی کو قبول کرنا جس میں مختلف گھر بھی ہوں اور درخت بھی
- ۷۱۵ راستہ سے متعلق اگر اختلاف ہو جائے تو کتنا رکھا جائے گا

- کوئی شخص گاڈر کا ایک کنارہ پڑوسی کی دیوار پر رکھ دے ۷۱۶
- جھوٹی گواہی کی وعید کا بیان ۷۱۶
- جھوٹے گواہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے؟ ۷۱۷
- کوئی شخص وزن کر کے چارہ خریدے اور اُس پر بغیر وزن کیے قبضہ کر لے ۷۱۹
- کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میرا غلام آزاد ۷۱۹
- قاضی کے پاس کوئی قصہ لایا جائے وہ اُس میں غور کرے ۷۲۰
- جو حضرات گواہ کے ساتھ قسم لیتے ہیں ۷۲۱
- کوئی شخص کشتی کرایہ پر لے وہ ڈوب جائے ۷۲۲
- کوئی شخص جانور ادھار لے کر کرایہ پر دے دے تو کرایہ کس کا ہوگا؟ ۷۲۲
- دو شخص کسی مال میں شریک ہوں لیکن لیکن اس حال کو مخلوط نہ کریں ۷۲۲
- دھوبی کپڑے کے مالک سے مدد مانگے اور مالک بھی دھوبی کے ساتھ کپڑے کوٹے ۷۲۳
- مریض وارث کو دین سے بری کر دے ۷۲۳
- جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ دیر مطالبہ نہ کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا ۷۲۳
- کوئی شخص غلام کو چوری کر کے فروخت کر دے ۷۲۴
- کوئی شخص فلوس خریدے ۷۲۴
- کوئی شخص کپڑوں کی گٹھڑی فروخت کرے ۷۲۴
- کوئی شخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے پھر اُس کو فروخت کر دے ۷۲۵
- گواہ کے خلاف گواہی دینا ۷۲۵
- بیع مقاداة کا بیان ۷۲۶
- ہاتھ سے کمانا ۷۲۶
- تریوز اور کلژی وغیرہ کی بیع کا بیان ۷۲۶
- انگور میں بیع سلم کرنا ۷۲۶
- کوئی شخص یوں قسم اٹھالے کہ وہ سامان کو فروخت نہیں کرے گا، مگر جوٹن مقرر کر دیا ہے اُس کے ساتھ ۷۲۷
- کوئی شخص کوئی چیز خریدے، کچھ پیسے نقد دے اور کچھ ادھار کرے ۷۲۷
- چچ تاجر کے فضائل ۷۲۸

- ۴۲۸..... کوئی شخص خدمت کی شرط لگا کر غلام کو آزاد کر دے
- ۴۲۹..... قرض کے متعلق لکھ لینا
- ۴۳۰..... کوئی شخص نقد گندم کی بیع کر کے پھر اُس سے اقالہ طلب کرے
- ۴۳۰..... گندم کا ایک گز چارہ کے سومیزان کے بدلے فروخت کرنا
- ۴۳۰..... کوئی شخص پرانی گندم قرض لے
- ۴۳۰..... کوئی شخص اہل ذمہ کی اعانت کرے اور اُن کے لئے خریدے
- ۴۳۱..... کوئی شخص مدت مقررہ کے لئے دین کی بیع کرے
- ۴۳۱..... کوئی شخص کچھ سالوں کے لئے اپنا گھر کرایہ پر دے دے
- ۴۳۲..... دلال ضامن ہوگا
- ۴۳۲..... کسی شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنایا پھر وہ فوت ہو گیا اور اُس پر قرض تھا
- ۴۳۳..... آدمی کا دوسرے کو بغیر وزن کیے شریک کرنا
- ۴۳۳..... آدمی کا بکری کے بدلہ غلام فروخت کرنا
- ۴۳۳..... کسی شخص کا قرآن کو رہن رکھوانا
- ۴۳۴..... کسی شخص کا کرایہ پر گھر لینا
- ۴۳۴..... جو حضرات رہنے والے کے لئے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اجرت (کرایہ) میں جلدی کرے
- ۴۳۴..... کی آدمی کو کرایہ پر لیا جائے اور اس کو کچھ رقم وغیرہ دے دی جائے
- ۴۳۴..... کسی شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے پھر وہ دوسرے سے فیصلہ دوبارہ کروائے
- ۴۳۵..... کوئی شخص یہ کہہ کر کپڑا فروخت کرے کہ اگر پورا کپڑا لیا تو اتنے میں اور اگر ادھا کپڑا لیا تو اتنے میں
- ۴۳۵..... قاضی کا قاضی کو خط لکھنا
- ۴۳۶..... جو حضرات گواہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ اُس شخص کو لے کر آئے جو گواہ کا تزکیہ کرے
- ۴۳۶..... کسی شخص کا بیع کو خریدنا
- ۴۳۶..... کوئی شخص جانور خریدے پھر اُس میں عیب پائے
- ۴۳۷..... کسی شخص کا دوسرے کو کوئی چیز دینا
- ۴۳۷..... کسی شخص کا کسی شخص سے طعام (گندم وغیرہ) غصب کرنا
- ۴۳۸..... کسی شخص کے والد پر دین کا دعویٰ کیا جائے

- ۷۳۹ کسی شخص کو مال حرام ملے پھر وہ اُس پر نادم ہو
- ۷۴۰ کسی قوم کا مشترکہ غلام ہو، پس اُن میں سے کوئی شخص غلام کو مکاتب بنا لے، اور دوسرا آزاد کر دے
- ۷۴۱ مکاتب غلام اس حال میں فوت ہو کہ اُس کا باندی سے ایک لڑکا ہو۔ (اولاد ہو)
- ۷۴۱ کچھ لوگ ایک زمانے تک مکان میں رہائش پذیر رہے، پھر کچھ لوگ آئے اور اُس مکان پر دعویٰ کر دیں کہ وہ اُن کا ہے
- ۷۴۳ کوئی شخص کسی کو یوں کہے کہ اگر تو فلاں جگہ پر گیا تو تجھے کچھ دوں گا
- ۷۴۳ کوئی شخص غلام خرید کر اُس کو آزاد کر دے
- ۷۴۳ کسی شخص کا قیت لگانا
- ۷۴۴ اُس شخص کے بارے میں جس کو واپس کر دیا جائے
- ۷۴۴ کوئی شخص در اہم خریدے، اور اُن کو دیناروں سے تبدیل کرائے
- ۷۴۴ ملاوٹ کے متعلق جو وارد ہوا ہے
- ۷۴۵ جو حضرات یہ پسند کرتے ہیں کہ مضاربت والوں کے درمیان ایک ماہ کی مدت ہونی چاہیے
- ۷۴۵ اگر گواہوں کے الفاظ میں اختلاف ہو جائے
- ۷۴۵ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ خصم کی بات نہیں قبول کریں گے جب تک کہ دوسرا خصم حاضر نہ ہو جائے
- ۷۴۶ کسی شخص کا بیٹے کی باندی سے خدمت لینا
- ۷۴۶ گھروں کے سامنے والا میدان
- ۷۴۷ دو آدمی کسی چیز میں شریک ہوں پھر ان میں سے ایک قیمت ادا کر دے
- ۷۴۷ کسی شخص کا دوسرے شخص پر دین ہو
- ۷۴۸ کوئی شخص دوسرے کو مال بطور مضاربت دے
- ۷۴۸ جن امور میں غلام کا اقرار جائز ہے
- ۷۴۹ کوئی شخص کسی کو گندم بطور قرض دے پھر وہ وصول کرنے کے لئے اُس کے پاس آجائے
- ۷۴۹ ایک شخص دوسرے سے کہے: میرا غلام تیرا ہے
- ۷۴۹ کوئی شخص گندم خریدے اور اس میں نقص پائے
- ۷۵۰ کوئی شخص حمام میں داخل ہو اور حمام والے کو کچھ دے
- ۷۵۰ ایک شخص دوسرے سے یوں کہے کہ: اگر تو نے اتنا کام کیا تو تیرے لئے اتنی اجرت ہے
- ۷۵۰ کوئی شخص کسی کو دے کر دوسرے کے لئے مال بھیجے

- ۷۵۱..... کوئی شخص کسی دوسرے سے کچھ خریدے
- ۷۵۲..... صحیح دیناروں کی مکسور دینار کے ساتھ تبادلہ کرنا
- ۷۵۲..... جو حضرات ایک قسم کے ساتھ گواہ کو قبول نہیں کرتے
- ۷۵۲..... خصومت میں وکالت کا بیان
- ۷۵۳..... کوئی شخص سامان خریدے، لیکن اس بیعہ کا عیب سے بری ہونا نہیں بیان کیا گیا
- ۷۵۳..... دو شخص کسی چیز میں شریک ہوں پھر ان میں سے ایک دوسرے پر قیمت ادا کر دے
- ۷۵۳..... قرض کی ادائیگی پر ثواب
- ۷۵۴..... کوئی شخص دوسرے کو ہدیہ کرے اور وہ ہدیہ قبول کر لے
- ۷۵۴..... گواہ پر تہمت لگا دی جائے
- ۷۵۴..... کوئی شخص دوسرے کی پوتہ چاک کر دے
- ۷۵۵..... جن کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی
- ۷۵۵..... کسی کا پرنا لہ راستہ میں گرتا ہو
- ۷۵۵..... کوئی شخص اپنے گھر میں سے مقررہ حصہ فروخت کرے
- ۷۵۶..... چراگاہ کی گھاس اور اُس کی بیج کرنا
- ۷۵۶..... بیع غزبان
- ۷۵۸..... سامان سمندر میں گر جائے، پھر اس میں سے ایک شخص وہ نکال لے
- ۷۵۸..... گوشت کو فروخت کرنے کے لئے اُس میں پھونک مار کر ہوا بھرنا
- ۷۵۹..... مصحف کو مصحف کے ساتھ بدلنا
- ۷۵۹..... جو حضرات میراث میں مصحف (قرآن) کی تقسیم کو ناپسند کرتے ہیں
- ۷۵۹..... کوئی شخص کسی شئی میں تجارت کرے اور اُس میں اپنی پسندیدہ شئی نہ دیکھے
- ۷۶۰..... کوئی شخص باندی خرید کر اُس کے ساتھ ہمبستری کرے
- ۷۶۰..... خصموں کو سلام کرنا
- ۷۶۰..... شریکین میں سے کوئی میراث کا وارث بنے
- ۷۶۰..... قصائیوں کے حصوں کو خریدنا
- ۷۶۱..... کوئی شخص غلام کو اس شرط پر خریدے کہ وہ اس کو آزاد کرے گا
- ۷۶۱..... خصی کی گواہی کا بیان

- ۷۶۱ کوئی شخص نقد شمن کے بدلے چیز فروخت کرے پھر اُس کو ساتھی سے خرید لے
- ۷۶۱ کوئی شخص معاشر کے پاس سے گزرے اور کھانا طلب کرے
- ۷۶۲ کوئی شخص باجا تو زدے
- ۷۶۲ دلالت کی اجرت کا بیان
- ۷۶۲ بیع کرتے وقت کوئی علامتی نشان مقرر کرنا
- ۷۶۳ کسی شخص کے دوسرے پر کچھ دراہم ہوں
- ۷۶۳ کوئی شخص باندی خریدے پھر اس کے پیٹ پر پھوڑا پائے
- ۷۶۳ کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور وہ اس سے ضائع ہو جائے تو اس کا بیان
- ۷۶۳ کسی شخص کا دوسرے کو بطور مضاربت مال دینا
- ۷۶۶ کوئی شخص سامان خریدنے کے بعد اُس میں عیب پائے
- ۷۶۷ کوئی شخص اس طرح بیع کرے کہ وہ دینا راتنے میں لے گا
- ۷۶۷ کوئی شخص ایسی باندی خریدے جس کو حیض نہ آتا ہو
- ۷۶۷ کوئی شخص کسی پر مختلف چیزوں کا دعویٰ کرے
- ۷۶۸ کوئی شخص بکریوں کو ودیعت کے طور پر لے پھر اُن کو فروخت کر دے
- ۷۶۸ کسی شخص پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ جائے
- ۷۶۹ کوئی شخص دوسرے کو یوں کہے: قرضہ کی ادائیگی تک مجھ سے یہ درہم خرید لو
- ۷۶۹ کوئی شخص دو تین سالوں کے لئے پھلوں کی بیع کرے
- ۷۷۰ ہبہ دے کر اُس سے رجوع کرنا
- ۷۷۰ کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کا اقرار کرے
- ۷۷۱ دو آدمیوں کا کسی چیز میں اختلاف
- ۷۷۱ چیتے کی کھال کی بیع
- ۷۷۱ پارچہ بافت اگر کپڑا خراب کر دے
- ۷۷۲ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بیع صرف اسی شخص کی منعقد ہوگی جو بیع کو سمجھتا ہو
- ۷۷۲ دو آدمیوں کا کسی کے پاس ایک چیز امانت رکھوانا
- ۷۷۳ شریک کا بیان
- ۷۷۳ آدمی کا اپنی ام ولد کو فروخت کرنا

- ۷۷۴ کوئی شخص کسی سے سامان خریدے
- ۷۷۴ کوئی شخص رہن رکھوائے تو رہن کا نفقہ (خرچہ) کس پر ہے؟
- ۷۷۶ کوئی شخص کرایہ پر لے کر اُس سے زیادہ کرایہ پر آگے دے دے تو اُس کا حکم
- ۷۷۸ جو حضرات فرماتے ہیں اگر اس میں کچھ کام کر دے تو پھر اس کی اجازت ہے
- ۷۷۹ دو غلاموں کے درمیان اختیار
- ۷۸۰ اگر ایک آدمی دوسرے کو سواری دے اور کہے کہ اس پر کام کرو تو کیا حکم ہے؟
- ۷۸۰ اگر ایک آدمی کا اصطلب ہو اور اس کا کوئی نام رکھے
- ۷۸۰ کھجوروں کے پکنے سے پہلے ان کی بیع کا حکم
- ۷۸۰ مردار کو اٹھانے کی اجرت لے
- ۷۸۱ کوئی شخص اتنی اتنی مدت کے لئے بیع کرے
- ۷۸۱ چرواہے پر رمضان
- ۷۸۲ ظالم بادشاہ کے پاس گواہی دینا
- ۷۸۲ وصی متہم ہو جائے
- ۷۸۳ دو آدمیوں کا مشترکہ سامان ہو
- ۷۸۳ کوئی شخص اپنی والدہ کو باندی دے
- ۷۸۳ دو آدمیوں کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے
- ۷۸۴ قوم اگر کسی شے کے بارے میں باہمی اتفاق کر لیں
- ۷۸۴ کوئی شخص فارسی کے الفاظ سے غلام کو آزاد کرے
- ۷۸۴ جس کے ختنے نہیں ہوئے اُس کی گواہی کا بیان
- ۷۸۵ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدے
- ۷۸۵ اگر گھر کو دراہم کے بدلے خریداجائے
- ۷۸۶ سوت کا تہ والے پر سوت کا دعویٰ کیا جائے
- ۷۸۶ کوئی شخص یوں کہے: جس دن میں فلاں کو خریدوں تو وہ آزاد ہے
- ۷۸۷ کوئی شخص اپنے غلام سے کہے: تو اللہ کے لئے ہے
- ۷۸۸ غلام کو آقا کسی کام کی اجازت دے
- ۷۸۸ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شفعہ میں وراثت نہیں چلے گی

- ۷۸۹ جو حضرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ بعض قرض خواہوں کو قرض ادا کرے اور بعض کو (فی الحال) نہ دے ۷۸۹
- ۷۸۹ جو حضرات بیماری سے بری نہیں کرتے تھے ۷۸۹
- ۷۸۹ جس پر مطالبہ ہو وہ فوت ہو جائے ۷۸۹
- ۷۹۰ سامان کو نفع کماتے ہوئے فروخت کرنا ۷۹۰
- ۷۹۰ کوئی شخص کسی کو یہ کہہ کر دینا روے کہ اس کو تبدل کر دے ۷۹۰
- ۷۹۰ کوئی شخص باندی کو فروخت کرے پھر اُس کے لڑکے کا دعویٰ کر دے ۷۹۰
- ۷۹۰ کوئی شخص کھیت کا بھوسہ (چارہ) خرید کر پھر اُس کو چھوڑ جائے ۷۹۰
- ۷۹۱ کوئی شخص سامان خریدے ۷۹۱
- ۷۹۱ کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے کہ تو ایک سال میری خدمت کر پھر تو آزاد ہے ۷۹۱
- ۷۹۱ ولد لڑنا کی گواہی ۷۹۱
- ۷۹۲ کسی شخص پر قرضہ ہو اور وہ باوجود مال دار ہونے کے ادا نہ کرے ۷۹۲
- ۷۹۲ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ: میں نے وصول کر لیا ہے اور میں راضی ہو گیا ۷۹۲
- ۷۹۳ کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر کپڑا دیکھے اور کسی کو کہے کہ! میں آپ کو اس کے مثل فروخت کروں گا ۷۹۳
- ۷۹۳ کچھ لوگ میراث کے وارث بنیں، پھر ان میں سے کچھ لوگ اپنا حصہ دوسروں کو تقسیم سے پہلے ہی فروخت کر دیں ۷۹۳
- ۷۹۳ مکاتب غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھر ان میں سے ایک اُس کو آزاد کر دے ۷۹۳
- ۷۹۳ کوئی شخص مزدور کو اس طرح کرایہ پر لے کہ اُس کو صرف سفر میں کھانا دے گا ۷۹۳
- ۷۹۳ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والد (پاپیے) کے کئے کچھ ہو ۷۹۳
- ۷۹۳ کوئی شخص بطور مرابحہ کوئی سامان فروخت کرے ۷۹۳
- ۷۹۵ قرضہ کے متعلق جو وارد ہوا ہے ۷۹۵
- ۷۹۷ جانوروں کے باڑہ (ساتبانوں) کو توڑنے کا بیان ۷۹۷
- ۷۹۸ کسی شخص کا قرض خریدنا ۷۹۸
- ۷۹۸ دیناروں کو تبدل کرنا ۷۹۸
- ۸۰۰ کوئی شخص چیز خریدنے کے بعد اس میں کچھ کمی یا زیادتی پائے ۸۰۰
- ۸۰۰ کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے: ”نہیں ہے تو مگر آزاد“ ۸۰۰



کِتَابُ الْجِهَادِ

(۱) مَا ذَكَرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

جہاد کی فضیلت اور اس کی ترغیب

(۱۹۶۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مَوْتَةَ فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَأَبْنُ رَوَاحَةَ ، قَالَ : فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ يُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا خَلَّفَكَ ، فَقَالَ : أَجْمَعُ مَعَكَ ، فَقَالَ : لَعْدُوَّةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

(ترمذی ۱۶۳۹۔ احمد ۱/۳۵۶)

(۱۹۶۳۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے موتہ کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا اور ان پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا، آپ نے حکم دیا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا لیا جائے اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبد اللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ لشکر کی روانگی کے باوجود حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے پیچھے رہ گئے، جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ آپ پیچھے کیوں رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام لگانا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔

(۱۹۶۵۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْدُوَّةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . (بخاری ۲۷۹۳۔ مسلم ۱۱۱۳)

(۱۹۶۵۰) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام کا لگا دینا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔

(۱۹۶۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرْحُبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَاوِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ رُوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَعَرَبَتْ . (مسلم ۱۱۱۵ - احمد ۵ / ۳۲۲)

(۱۹۶۵۱) حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام کا لگا دینا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہو۔

(۱۹۶۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَدْوَةٌ ، أَوْ رُوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا . (بخاری ۲۷۹۳ - ۱۵۰۰)

(۱۹۶۵۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام ساری دنیا سے بہتر ہے۔

(۱۹۶۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاجِحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ . (بخاری ۲۵۱۸ - مسلم ۱۳۶)

(۱۹۶۵۳) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔

(۱۹۶۵۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لَوْ فُتِنَتْهَا ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(۱۹۶۵۴) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا: پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے کہا: پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔

(۱۹۶۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَمَّاكِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : مَثَلُ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْبَدِيِّ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى يَرْجِعَ الْغَازِي مَتَى مَا رَجَعَ . (احمد ۳ / ۲۷۲ - بزار ۳۲۲۲)

(۱۹۶۵۵) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا واپس آنے تک اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے۔

(۱۹۶۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ نَائِبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَدْوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . (بخاری ۲۷۹۲ - مسلم ۱۳۹۹)

(۱۹۶۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام کا لگا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔

(۱۹۶۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَرَادَ قَلْبُهُ مِنَ الْخَوْفِ ، تَخَاثَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَخَاثُ عِدْقُ النَّخْلَةِ .

(طبرانی ۶۰۸۶ - ابن المبارک ۳۵)

(۱۹۶۷) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو اور خوف کی وجہ سے اس کا دل کانپنے لگے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے کھجور کے خوشے سے کھجوریں گرتی ہیں۔

(۱۹۶۸) حَدَّثَنَا عُثْمَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْرَةَ تَبُوكَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ ذُرْوَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَّا ذُرْوَيْهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُعْنَى ذُرْوَةُ الْإِسْلَامِ . (احمد ۵ / ۲۳۷ - طبرانی ۳۰۵)

(۱۹۶۸) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے اسلام کے کوہان کی چوٹی کے بارے میں بتادیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے کوہان کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔

(۱۹۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ إِيمَانًا بِهِ وَتَصَدِيقًا لِرُسُلِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ . (بخاری ۳۶ - مسلم ۱۰۷)

(۱۹۶۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے نکلا وہ یا تو اسے جنت میں داخل کرے گا یا اجر و غنیمت لے کر واپس لائے گا۔

(۱۹۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنَا بِعَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَطِيقُونَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنَا فَلَعَلَّنَا أَنْ نَطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ بآيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَقْتَرُ مِنْ صِيَامِهِ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى أَهْلِهِ .

(بخاری ۲۷۸۷ - مسلم ۱۱۰)

(۱۹۶۶۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ بتا دیجئے، شاید ہم اس کی طاقت رکھتے ہوں! حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جہاد کے واپس آنے تک روزہ رکھے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے راتوں کو قیام کرے وہ اس قیام و صیام میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔

(۱۹۶۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تُخْرَجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَحْمِلُهُمْ ، وَلَوْ دِدْتُ أَنْ أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أَقْتُلُ ، ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أَقْتُلُ .

(بخاری ۲۹۷۲ - مسلم ۱۳۹۷)

(۱۹۶۶۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہوں، لیکن لوگوں کو بھیجنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔

(۱۹۶۶۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِجِهَادٍ فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانٍ بِي وَتَصَدِيقٍ بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَأَنْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَبْعُونِي ، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَخْلَفُوا بَعْدِي ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوِ دِدْتُ أَنْ أَعْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَعْزُو فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَعْزُو فَأُقْتَلَ .

(مسلم ۱۳۹۶ - احمد ۲/۲۳۱)

(۱۹۶۶۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس شخص سے وعدہ کیا ہے جو میرے راستے میں مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلے کہ میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا یا اسے اس کے گھر اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں گا۔ یہ فرما کر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے! کہ اگر مجھے مسلمانوں پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ لیکن چونکہ میرا یہاں رہنا ضروری ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کو روانہ کر دیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا ضروری ہوتا ہے اس لیے وہ میری بات مان لیتے ہیں۔ ان کے دل اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ وہ مجھے پیچھے چھوڑ دیں۔ قسم ہے

اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر جہاد کروں پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر جہاد کروں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔

(۱۹۶۶۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ : الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفَّوْا فِي الصَّلَاةِ ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفَّوْا فِي فِتْنَةِ الْعُدُوِّ . (احمد ۳ / ۸۵ - عبد بن حميد ۹۱۱)

(۱۹۶۶۳) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ تین آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے ایک وہ آدمی جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے۔ دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بنائیں اور تیسرے وہ لوگ جو دشمن سے مقابلے کے لیے صف بنائیں۔

(۱۹۶۶۴) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيعًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَبِيَّانٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَذَكَرَ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهَرَمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يُفْتَحَ لَهُمْ بِصَدْرِهِ . (احمد ۵ / ۱۵۳ - ابن حبان ۳۳۵۰)

(۱۹۶۶۴) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ ان میں حضور ﷺ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو کسی لشکر میں ہو، وہ دشمن سے برس پیکار ہوں اور انہیں شکست ہو جائے لیکن یہ آدمی سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ فتح عطا فرمادیں۔

(۱۹۶۶۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهَا أَنْ تَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلَا أَنْ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، إِلَّا الشَّهِيدَ فَيَعْمَنِي أَنْ يَرْجَعَ فَيُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ . (بخاری ۲۸۱۷ - مسلم ۱۰۸)

(۱۹۶۶۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا کچھ ضرور عطا فرمادیتے ہیں کہ دنیا میں واپس جانا یا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کا حصول اس کے نزدیک کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوتی۔ سوائے شہید کے، کیونکہ وہ جب شہادت کا اجر دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ دنیا میں واپس چلا جائے اور اللہ کے راستہ میں شہید کر دیا جائے۔

(۱۹۶۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : آتَتْهُ امْرَأَةٌ قُتِلَ ابْنُهَا ، وَكَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ وَكَانَ اسْمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَسَتَعَلَّمُ مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا جَنَّانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفُورِ دُونَ الْأَعْلَى . (بخاری ۳۹۸۲)

(۱۹۶۶۶) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا جس کا نام حارثہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اس عورت کا

اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ عورت حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی۔ اگر وہ جنت کے علاوہ کہیں اور ہے تو میں ایسا ماتم کروں گی کہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جنتیں تو بہت سی ہیں اور وہ تو جنت الفردوس میں ہے۔

(۱۹۶۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فَضِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْدَاءُ عَلَى بَارِقٍ: نَهْرٍ بِيَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةِ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً. (احمد ۱/۲۶۶- ابن حبان ۳۶۵۸)

(۱۹۶۶۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شہداء باریق میں ہیں، باریق جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے جو کہ ایک سبز گنبد میں ہے۔ شہداء کو صبح و شام ان کا رزق دیا جاتا ہے۔

(۱۹۶۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبٍ، عَنِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ الشَّهْدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا تَحِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِلْمَانِ أَضَلَّتَا فِصْلَيْهِمَا فِي بَرَّاحٍ مِنَ الْأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (احمد ۲/۳۲۷)

(۱۹۶۶۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے سامنے کچھ شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ابھی شہید کا لبوز میں پر خشک نہیں ہوتا کہ جنت میں اس کی دو بیویاں اس طرح سے بے تاب ہو کر اس کا انتظا کرتی ہیں جیسے کسی دودھ پلانے والی ماں کا دودھ پیتا بچہ زمین پر گم ہو جائے اور وہ اس کو تلاش کرے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں (شہید کے استعمال کے لیے) ایسا قیمتی جوڑا ہوتا ہے جو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔

(۱۹۶۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ جَابِرٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَى الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأَهْرَبِقَ دَمَهُ. (دارمی ۲۳۹۲- ابن حبان ۳۶۳۹)

(۱۹۶۶۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ سے سوال کیا گیا کہ افضل جہاد کس شخص کا ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ جس کا گھوڑا ہلاک ہو جائے اور اس کا اپنا خون بہہ چکا ہو۔

(۱۹۶۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَى الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأَهْرَبِقَ دَمَهُ.

(طیالسی ۲۲۷۲)

(۱۹۶۷۰) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور ﷺ سے سوال کیا گیا کہ افضل جہاد کس شخص کا ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ جس کا گھوڑا ہلاک ہو جائے اور اس کا اپنا خون بہہ چکا ہو۔

(۱۹۶۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرَ النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةٌ مَنْ أَخَذَ بَعَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهِعَةً اسْتَوَى عَلَى مَنبِيهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْمَوْتَ فِي مَطَانِهِ ، وَرَجُلٌ فِي شَعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشُّعَابِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ . (مسلم ۱۲۷- ابن حبان ۳۶۰۰)

(۱۹۶۷۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چل کھڑا ہو، جب بھی وہ کوئی خطرہ محسوس کرے تو لپک کر گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ پھر موت کو موت کی جگہوں پر تلاش کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی گھائی میں چلا جائے وہاں نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں کو خیر کی خاطر چھوڑ دے۔

(۱۹۶۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا .

(بخاری ۲۸۰۸- مسلم ۱۳۳)

(۱۹۶۷۲) حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، اس نے قتال کیا اور شہید ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت سا کمایا۔

(۱۹۶۷۳) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي نَجَاهَ الْعَدُوِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ السُّيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَثٌ الْهَيْئَةَ : يَا أبا موسى أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ عِمْدَهُ وَالتَفَّتْ إِلَيَّ أَصْحَابِي ، وَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى الْعَدُوِّ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . (مسلم ۱۳۶- ترمذی ۱۲۵۹)

(۱۹۶۷۳) حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے دشمن کا آنا سامنا ہونے پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ یہ حدیث سن کر ایک پراگندہ حالت کے حامل شخص نے کہا کہ اے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ! کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، میں نے سنی ہے۔ اس پر اس آدمی نے اپنی تلوار نکالی اور نیا م کو توڑ کر اپنے ساتھیوں کو سلام کیا پھر دشمن کی طرف بڑھا اور ان سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔

(۱۹۶۷۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَامَ يَزِيدُ بْنُ شَجْرَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ أَصَحَّتْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ، وَفِي الْبُيُوتِ مَا فِيهَا ، فَإِذَا لَقَيْتُمُ الْعُدُوَّ غَدًا فَقَدْ مَا قُدَمَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطُوبَةٍ ، إِلَّا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعَيْنِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ اسْتَتَرَنَ مِنْهُ ، وَإِنْ اسْتُشْهِدَ كَانَتْ أَوَّلَ نَضْحَةٍ كَفَّارَةً خَطَايَاهُ ، وَتَنْزِيلُ إِلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ ، تَنْفُضَانِ عَنْهُ التُّرَابَ ، وَتَقُولَانِ لَهُ : مَرْحَبًا ، قَدْ أَنْ لَكَ ، وَيَقُولُ : مَرْحَبًا قَدْ أَنْ لَكُمْ .

(طبرانی ۶۳۲ - مسندہ ۵۲۷)

(۱۹۶۷۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہوئے تھے اور ان سے فرمایا کہ تم پر تمہارے گھروں میں ہبز، سرخ، اور زرد نعتیں برس رہی ہیں، کل جب تم دشمن کی طرف بڑھو تو ایک ایک قدم رکھ کر آگے بڑھنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آدمی دشمن کے مقابلہ میں ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو موٹی آنکھوں والی حوریں اس کی طرف بڑھتی ہیں اور جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو حوریں بھی اس سے پردہ کر لیتی ہیں۔ جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے شہید ہونے کے بعد دو حوریں اس کے پاس آتی ہیں اور اس سے مٹی صاف کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تجھے خوش آمدید! ہم تیرے لیے ہیں، وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو میں تمہارے لیے ہوں۔

(۱۹۶۷۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُوسَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَبْرَةَ بِنِ أَبِي فَاكِهٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرَفَيْهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ : تَسْلِمُ وَتَدْعُ دِينَكَ وَدِينِ آبَائِكَ ؟ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ ، فَقَالَ : تَهَاجِرُ ، وَتَدْعُ مَوْلِدَكَ فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طَوْلِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تَجَاهِدُ ، فَتَقْتُلُ ، فَتَنْزَوْحُ امْرَأَتَكَ ، وَيُقَسِّمُ مِيرَاثَكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَمِنَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ حَرَقًا ، أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ .

(بخاری ۲۳۳۱ - طبرانی ۶۵۵۸)

(۱۹۶۷۵) حضرت سبرہ بن ابی فاکہہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان ابن آدم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی وہ اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اسلام قبول کر لے گا اور اپنے اور اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا تو یہ بڑے گھائے کا سودا ہوگا۔ پھر ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو ہجرت کرے گا تو اپنے جائے پیدائش کو چھوڑ دے گا اور اس گھوڑے کی طرح ہو جائے گا جو بیڑیوں میں بندھا ہو۔ پھر جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کرے گا تو مر جائے گا۔ پھر تیری بیوی کی کہیں شادی ہو جائے گی اور تیری میراث تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے

بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان شیطانی وساوس کے باوجود جس شخص نے یہ اعمال جاری رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے خواہ وہ شہید ہو جائے یا ڈوب کر مر جائے یا جل کر مر جائے یا اسے درندے کھالیں۔

(۱۹۶۷۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ جَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ قَالَ : وَآيِنَ الْمُجَاهِدُونَ ، فَخَرَّ عَنْ دَائِيَّتِهِ وَمَاتَ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، أَوْ لَسَعَتْهُ دَابَّةٌ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ قُتِلَ قَعَصًا فَقَدْ اسْتَوْجَبَ الْمَمَاتَ . (احمد ۳/۳۶۱ - حاکم ۸۸)

(۱۹۶۷۶) حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی تین انگلیوں کو جمع فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والے کہاں ہیں؟ اور وہ اپنی سواری سے گر کر مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا اجر ثابت ہو گیا، یا اسے کسی چیز نے ڈس لیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، یا وہ طبعی موت مر گیا تو اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا اور اگر کوئی دشمن ہاوارسہ کر مر تو اس نے اپنے ٹھکانے کو پایا۔

(۱۹۶۷۷) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَيْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا ؟ قُلْنَا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : رَجُلٌ مُمَسِّكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يَمُوتَ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شُعْبٍ يَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ يَعْتَزِلُ شَرَّ النَّاسِ . (نسائی ۲۳۵۰ - دارمی ۲۳۹۵)

(۱۹۶۷۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ لوگوں کے پاس تشریف لائے، سب لوگ بیٹھے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مرتبہ کس شخص کا ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، یا رسول اللہ ﷺ! ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین درجہ اس شخص کا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کو پکڑے جا رہا ہو اور وہ شہید کر دیا جائے یا مر جائے۔ میں تمہیں بتاؤں اس کے بعد کس شخص کا مرتبہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو کر کسی گھاٹی میں رہتا ہو، نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہتا ہو۔

(۱۹۶۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، زَادَ فِيهِ ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاهُكُمْ فِي أَحْوَافِ طَيْرٍ خَضِرٍ ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ ، وَتَأْكُلُ

يَمَارِهَا ، وَتَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَأْنَتْ ، فَلَمَّا رَأَوْا حُسْنَ مَقِيلِهِمْ ، وَمَطْعَمِهِمْ وَمَشْرِبِهِمْ ، قَالُوا : يَا لَيْتَ قَوْمَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا ، كَيْ يَرْغَبُوا فِي الْجِهَادِ ، وَلَا يَنْكَلُوا عَنْهُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنِّي مُخَيِّرُ عَنْكُمْ وَمَبْلَغُ إِخْوَانِكُمْ ، فَفَرِحُوا وَاسْتَشْرُوا بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟

(ابوداؤد ۲۵۱۲۔ احمد ۱/ ۲۶۵)

(۱۹۶۷۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جنت کی نہروں پر جاتے ہیں جنت کا پھل کھاتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں جہاں اپنے عمدہ ٹھکانے اور بہترین کھانے پینے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش ہماری قوم ان چیزوں کو جان لے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تاکہ وہ بھی جہاد کا شوق رکھیں اور اس سے پیچھے نہ ہنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بھائیوں کو ان باتوں سے مطلع کر دیتا ہوں۔ اور پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے مرقرآن مجید کی یہ آیات ہیں۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منارہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہوا ہے اور اس سے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (آل عمران: ۱۶۹-۱۷۱)

(۱۹۶۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ ، هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(سعید بن منصور ۲۳۰۹)

(۱۹۶۷۹) حضرت ابویاس معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کی ایک رہبانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔

(۱۹۶۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رِيَّاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بَلِيَّةٍ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي أَرْضِ خَوْفٍ ، لَعَلَّهُ أَلَّا يَوُوبَ إِلَى أَهْلِهِ . (نسائی ۸۸۶۸)

(۱۹۶۸۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی رات بتاتا ہوں جو شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اس پہرے دار کی رات ہے جو اللہ کے راستے میں ایسی جگہ پہرہ دے جہاں سے اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ جانے کا خوف ہو۔

(۱۹۶۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَبَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرِ الْعَقِيلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، الشَّهِيدُ ، وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَأَدَّى حَقَّ مَوْلِيهِ ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ أَمِيرٌ مُسْلَطٌ ، وَذُو ثَرَوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ . (ترمذی ۱۶۳۲۔ احمد ۳/ ۴۷۹)

(۱۹۶۸۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے تین شخص داخل ہوں گے۔ ایک شہید، دوسرا پاک دامن اور اہل و عیال کے باوجود سوال سے بچنے والا اور تیسرا وہ غلام جس نے اپنے رب کی بہترین عبادت کی اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کیا۔ اسی طرح تین شخص سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے ایک ظالم امیر اور دوسرا وہ مالدار جو مال کا حق ادا نہ کرے اور تیسرا غریب متکبر۔

(۱۹۶۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَشْهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيَسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَشْهَدُ .

(مسلم ۱۵۰۵۔ احمد ۲/ ۲۳۳)

(۱۹۶۸۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں پر ہنستا ہے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرے اور وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ وہ اس طرح کہ ایک اللہ کے راستے قاتل کرتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے کو ہدایت دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔

(۱۹۶۸۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زَيْبَادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ غَزَوْا ، وَحَسِنِي شَيْءٌ ، فَذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُلْحِقُنِي بِهِمْ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ قَالَ : أَتَكَلَّفُ ذَلِكَ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ النَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ إِحْيَانَكَ لَيْلِكَ وَصِيَامَكَ نَهَارَكَ كَنُومَةَ أَحَدِهِمْ .

(۱۹۶۸۳) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور میں کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں ان کے برابر ہو جاؤں، حضور ﷺ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم رات کو قیام کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا: میں ایسا کر لوں گا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم ہر دن کو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں! میں ایسا کر لوں گا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا ان کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتا۔

(۱۹۶۸۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيَّ

ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَهُوَ مَتَحْنُطٌ فَقُلْتُ: أَيُّ عَمٍّ، أَلَا تَرَى مَا لَقِيَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: الْآنَ يَا ابْنَ أُخِي، الْآنَ يَا ابْنَ أُخِي.

(۱۹۶۸۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے فرمایا: اے بھتیجے! اب پتہ چلا ہے، اب پتہ چلا ہے۔

(۱۹۶۸۵) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ قَالَ: هُمْ أَوْلَهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَوْلَهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۱۹۶۸۵) حضرت اوزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی سودہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ پھر فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسجد کی طرف سب سے پہلے جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلے نکلتے ہیں۔

(۱۹۶۸۶) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ فَرُوقَةَ اللَّحْمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا سَرِيَّةٍ خَرَجَتْ فَرَجَعَتْ وَقَدْ أَحْفَقَتْ فَلَهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ.

(۱۹۶۸۶) حضرت فرہ نعمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جائے اور بغیر مال غنیمت کے واپس آئے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔

(۱۹۶۸۷) حَدَّثَنَا عَيْسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: مَنْ بَاتَ حَارِسًا حَرَسَ لَيْلَةً أَصْبَحَ وَقَدْ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ مَكْحُولٌ: بَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ نَحَاتَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ.

(۱۹۶۸۷) حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری، صبح کو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری رات پہرہ دے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

(۱۹۶۸۸) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارِسٌ نَطْحَةٌ، أَوْ نَطْحَتَانِ، ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ أَصْحَابُ بَحْرٍ وَصَحْرٍ كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْنٌ خَلْفَهُ قَرْنٌ مَكَانَهُ، هِيَ هَاتِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، هُمْ أَصْحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيْرًا. (حارث ۷۰۲)

(۱۹۶۸۸) حضرت ابن محیریز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فارس مسلمانوں سے ایک یا دو مرتبہ جنگ کرے گا پھر اس کے بعد مملکت فارس کا وجود نہ رہے گا۔ روم سینٹوں والا ہے وہ سمندر اور چٹانوں کے مالک لوگ ہیں۔ جب ان کا ایک سینٹ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ آخری زمانے میں یہ ختم ہو جائیں گے۔

(۱۹۶۸۹) حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مَفْضَلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ حُجْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ قَالَ : هُمُ الشَّهَدَاءُ نَبِيَّةُ اللَّهِ حَوْلَ الْعَرْشِ ، مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفِ .
(۱۹۶۸۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ پھر فرمایا اس آیت میں مستحق لوگوں سے مراد شہداء ہیں، وہ اللہ کے عرش کے گرد رزق پانے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلواریں گردن میں لٹکا رکھی ہیں۔

(۱۹۶۹۰) حَدَّثَنَا عَيْسَى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ حَزَنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُوتِهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامًا إِنَّهُمْ لِمِثْلِكُمْ ، أَوْ خَيْرٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَنْ يُخْزِيَ اللَّهُ أُمَّةً أَنَا أَوْلَاهَا عِوَالِ الْمَسِيحِ آخِرُهَا . (حاکم ۴)

(۱۹۶۹۰) حضرت عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ حضرت مسیحؑ کو اس امت کی کچھ ایسی قومیں پائیں گی جو تمہاری طرح ہیں یا تم سے بہتر (یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی) اللہ تعالیٰ اس امت کو ہرگز رہے یا روم و گار نہیں چھوڑے گا جس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے آخر میں حضرت مسیحؑ ہیں۔

(۱۹۶۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ يَوْمَ بَدْرٍ : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ قَالَ مِسْعَرٌ : إِنَّمَا أَلْتَمَسْتُ فِي آلِ عُمَرَ ، وَإِنَّمَا أَلْتَمَسْتُ فِي الْحَدِيدِ ؟ فَقَالَ ابْنُ قُسْحَمٍ : إِنَّ فَتْحَتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا لِمَنْ لَقِيَ هَؤُلَاءِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ؟ فَقَالَ : الْجَنَّةُ ، قَالَ : حَسْبِيَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَفِي يَدِهِ تَمْرَاتٍ فَأَلْقَاهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ .

(مسلم ۱۳۵ - ابن المبارک ۷۷)

(۱۹۶۹۱) حضرت ابو بکر بن حفص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر میں ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ ”یعنی اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔“ (حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ یا تو یہ سورۃ آل عمران کی آیت تھی یا سورۃ الحدید کی)۔ حضور ﷺ کا یہ فرمان سن کر ابن قسحم رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول! اس شخص کا کیا بدلہ ہے جو ان کافروں سے لڑے اور شہید ہو جائے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ ابن قسحم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کے بدلے میں جنت میرے لیے کافی ہے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، انہوں نے کھجوریں پھینکیں، آگے بڑھے اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

(۱۹۶۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نَعِيمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَوْمَ

الْقَادِسِيَّةَ : اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَيْبَةَ سَوْدَاءَ بَدِيَّةَ ، فَرَوَّجِنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقِيلَ ، قَالَ : فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُلٍ عَظِيمٍ .

(۱۹۶۹۲) حضرت نعیم بن ابی ہند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کا نام لے کر دعا کی کہ اے اللہ میری بیوی رضی اللہ عنہا کالی اور پستہ قد ہے، آج جنت کی کسی حور سے میری شادی کرادے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں جب ساتھیوں کا ان کی نعش سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک بڑے پہلوان سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔

(۱۹۶۹۳) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَيَّ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يَفْخُصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنَا أَمْرُؤٌ مِنَ الْأَنْصَارِ .

(۱۹۶۹۳) حضرت سعد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں لوگوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہ تڑپ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا: (ترجمہ) ”وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ بہترین ساتھی ہیں۔“ ایک آدمی نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اے اللہ کے بندے! اس نے کہا کہ میں ایک انصاری ہوں۔

(۱۹۶۹۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَرَّتْ امْرَأَةٌ بِأَيْنِهَا وَرَوَّجَهَا قَتِيلَيْنِ ، فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْوَحْيَ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ مُنَافِقِينَ لَمْ نَبْكِهِمَا ، وَلَمْ نُنْعَمْهُمَا عَيْنًا ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُنَافِقِينَ ، فَلَنَا فِيهِمَا مَا نَعْلَمُ ، قَالَ : أَجَلُ ، لَمْ يَكُونَا مُنَافِقِينَ ، لَقَدْ تَلَّقْنَا بِشِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَلَقَدْ تَبَاشَرْتُ بِهِمَا الْمَلَائِكَةُ ، قَالَ : تَقُولُ الْمَرْأَةُ : الْآنَ حَقُّ آلَا أَبِكِهِمَا قَالَ : أَلَا إِنَّكَ مَعَهُمَا .

(عبدالرزاق ۲۹۹۲)

(۱۹۶۹۳) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک عورت کا بیٹا اور اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی۔ اگر یہ دونوں منافق تھے تو نہ ہم ان پر رومیں گے اور نہ ان کے بارے میں آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اگر یہ دونوں منافق نہیں تھے تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں منافق نہیں تھے۔ انہیں جنت کے پھل پیش کیے گئے اور فرشتوں نے ان استقبال کیا۔ اس عورت نے کہا کہ پھر تو ضروری ہے کہ میں نہ روؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اور سنو! تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔

(۱۹۶۹۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ قَدْ انْتَشَرَ قَصَبُهُ ، أَوْ بَطْنُهُ ، فَقَالَ : لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : ضُمَّ إِلَيَّ مِنْهُ ، أَدْنُو قَيْدِ رُمْحٍ ، أَوْ رُمْحِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ :

فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.

(۱۹۶۹۵) حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں لوگوں کا گڈرا ایک ایسے شخص پر ہوا جس کا پیٹ پھسا ہوا تھا اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ میری آنتیں اندر کر دو تا کہ میں اللہ کے راستے میں مزید ایک یا دو نیروز کی مقدار آگے بڑھ سکوں۔ چنانچہ اس نے ایسا کر دیا۔

(۱۹۶۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ مُسْلِمُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، قَالَ : الشَّهْدَاءُ فِي قَبَابٍ فِي رِيَاضٍ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ ، يُبْعَثُ لَهُمْ حَوْثٌ وَنُورٌ يَعْتَرِكَانِ ، يَلْهُونَ بِهِمَا ، إِذَا احْتَا جُوا إِلَى شَيْءٍ عَقَرَهُمَا صَاحِبُهُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ فَوَجَدُوا طَعْمَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ .

(۱۹۶۹۷) حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہداء جنت کے باغچوں میں گنبدوں میں ہوں گے۔ ان کے سامنے ایک مچھلی اور ایک اونٹ کا تماشا ہوگا جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ جب انہیں کسی کھانے کی چیز کی ضرورت ہوگی تو ان میں سے ایک دوسرے کو مار ڈالے گا۔ وہ اسے کھائیں گے اور جنت میں موجود ہر چیز کا ذائقہ محسوس کریں گے۔

(۱۹۶۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجْرَةَ ، قَالَ : السُّيُوفُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ إِلَى الْعُدُوِّ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : اللَّهُمَّ انصُرْهُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ، قَالَتْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقَطَّرُ مِنْ دَمِ السَّيْفِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ حَوْراً وَإِنْ تَمَسَّحَانَ الْعَبَّارَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولَانِ : قَدْ أَنْ لَكَ وَيَقُولُ لَهُمَا : وَاِنَّمَا قَدْ أَنْ لَكُمْ .

(۱۹۶۹۷) حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں، جب کوئی شخص دشمن کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ! اس کی مدد فرما۔ اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ! اسے معاف فرما۔ تلوار کا وار لگنے سے ہونے والے زخم سے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جنت سے دو حوریں اترتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تیرے لیے ہیں۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوں۔

(۱۹۶۹۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ ، أَوْ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ . (بخاری ۲۶۔ مسلم ۱۳۵)

(۱۹۶۹۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل بہتر یا افضل ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا: مقبول حج۔

(۱۹۶۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الشَّهْدَاءِ الَّذِينَ يُلْقُونَ فِي الصَّفِّ فَلَا يَلْفُتُونَ وَجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا ، أَوْ لَيْكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرْبِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ ، إِنْ رَبُّكَ إِذَا ضَحِكَ إِلَى قَوْمٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ .

(طبرانی ۴۱۳۳۔ حارث ۶۳۳)

(۱۹۶۹۹) حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ افضل شہداء وہ ہیں جو کسی صف میں دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے چہرے نہیں پھیرتے اور شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں عیش کریں گے۔ ان کا رب انہیں دیکھ کر مسکرائے گا۔ تمہارا رب جس قوم کو دیکھ کر مسکراتا ہے اس سے حساب نہیں لیتا۔

(۱۹۷۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا يَرِيدُ أَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَوْمِ ، وَأَمْرَاتُهُ تَنَاشِدُهُ ، قَالَ : رَدُّوا هَذِهِ عَنِّي ، فَلَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الَّذِي أُرِيدُ مَا نَفَسْتُ عَلَيْهَا ، إِنِّي وَاللَّهِ لَإِنْ اسْتَطَعْتُ لَا يَمْضِي يَوْمٌ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَيَّ جَسَدِي فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَمَرَرْنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَبِيلًا فِي تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ .

(۱۹۷۰۰) حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں ایک آدمی خود کو موت کے لیے پیش کر رہا تھا اور اس کی بیوی اسے روک رہی تھی۔ اس شخص نے کہا اسے مجھ سے دور کر دو۔ جو مقصد اس وقت میرے پیش نظر ہے اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اسے ایک دن میں اس کی جگہ سے ہٹا دیتا۔ اگر تم میرا جسم حاصل کر سکو تو اسے دفن دینا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو شخص اس جنگ کے شہداء میں پڑا ہے۔

(۱۹۷۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا كَثْمَسٌ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْأَحْمَسِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ : حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَاتِ ، إِنِّي لَا إِخَالَتِي أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : ذَكَرْتُ ثَلَاثَةَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَقُلْتُهُ ، أَمَّا الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ ، فَرَجُلٌ لَقِيَ فِتْنَةً فَانْكَشَفَتْ فِتْنَةً ، فَقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَرَجُلٌ أَسْرَى مَعَ قَوْمٍ حَتَّى يَحْوُوا أَنْ يَمْسُوا الْأَرْضَ ، فَنَزَلُوا ، فَقَامَ يُصَلِّي حَتَّى أَيْقَظَهُمْ بِرَجْلِهِمْ ، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارٌ سُوءٌ فَصَبَّرَ عَلَى آذَانِهِ . (احمد ۵ / ۱۵۱)

(۱۹۷۰۱) حضرت ابن احمس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ”ت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے آپ کا بیان کردہ ایک ارشاد نبوی ﷺ پہنچا ہے۔ انہوں نے فرمایا: بیان کرو، میرے خیال میں، میں نے بھی حضور ﷺ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو سنا

ہے اور بیان کیا ہے کہ جن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان میں ایک تو وہ آدمی جو کسی جماعت سے قتال کرے، وہ جماعت غالب آنے لگے تو یہ پھر بھی ان سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فتح عطا فرمادیں۔ دوسرا وہ آدمی جو رات کو لوگوں کے ساتھ سفر کرے، جب وہ سب تھک کر لیٹ جائیں تو یہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور پھر لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے جگائے۔ تیسرا وہ آدمی جس کا پڑوسی کوئی برا شخص ہو اور وہ اس کی تکالیف پر صبر کرے۔

(۱۹۷.۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَوْفِ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ التُّعْمَانِ بْنِ مِقْرَنٍ فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ ، فَقَالَ : أُصِيبُ فُلَانًا وَفُلَانًا وَآخَرُونَ لَا أَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجُلٌ شَرَى نَفْسَهُ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بْنُ عَوْفٍ : ذَلِكَ وَاللَّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أَوْلَيْكَ وَلَكِنَّهُ مِمَّنْ اشْتَرَى الْآخِرَةَ بِالذَّنَا.

(۱۹۷.۲) حضرت مدرک بن عوف احمسی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہما کا قاصد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے مجاہدین کی صورت حال پوچھی تو اس نے بتایا کہ فلاں فلاں شخص شہید ہو گئے اور کچھ ایسے لوگ بھی شہید ہوئے جنہیں میں نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! ایک آدمی ایسا بھی تھا جو خود کو موت کے لیے پیش کر رہا تھا۔ اس پر حضرت مدرک بن عوف رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! خدا کی قسم وہ میرے ماموں تھے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا۔

(۱۹۷.۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا زَحَفَ الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَوَضَعَتْ حَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَتَحَاتُّ كَمَا يَتَحَاتُّ عِدْقُ النَّخْلَةِ.

(۱۹۷.۳) حضرت سلیمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں اور پھر اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کھجوروں کا خوشہ جھڑتا ہے۔

(۱۹۷.۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَذْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْفَضْلُ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ لِمَنْ قَدَحَ.

(۱۹۷.۴) حضرت انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح دس حج کرنے سے افضل ہے۔

(۱۹۷.۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَفْرَةٌ بَعْنِي عَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةً.

(۱۹۷.۵) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک لڑائی پچاس مرتبہ حج کرنے سے افضل ہے۔

(۱۹۷.۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعْبِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِنَةَ دَرَجَةٍ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ ، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(بخاری ۲۷۹۰۔ نسائی ۴۳۴۰)

(۱۹۷.۶) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں سو درجے ہیں۔ دو درجوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان خلاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان درجوں کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے۔

(۱۹۷.۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الصَّحْحِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنْ بُرَأْنَةِ : ﴿ اذْفَرُوا وَخِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 》 .

(۱۹۷.۷) حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البراءۃ کی پہلی آیت یہ نازل ہوئی: (ترجمہ) ”نکلو! بلکہ ہو یا پوچھو، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔“

(۱۹۷.۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيحٍ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحُبَّاجِ ، عَنْ حَنْشِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّنَعَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً 》 قَالَ : عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(۱۹۷.۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں گھوڑوں پر خرچ کرنا ہے۔

(۱۹۷.۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدَّمَشْقِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً 》 قَالَ : عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَرْبِطْهُ رِبَاءً ، وَلَا سُمِعَةَ كَأَنَّ مِنَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

(۱۹۷.۹) حضرت سہل بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں گھوڑوں پر خرچ کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا باندھے اور اس میں کسی قسم کی ریایا شہرت پسندی کی آمیزش نہ ہو تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو اپنا مال دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔

(۱۹۷.۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسْعَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ عِبَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِي مَنْحَرِ عَبْدِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكِيٍّ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَلِجَ اللَّيْلُ فِي الضَّرْعِ . (ترمذی ۱۲۳۳۔ احمد ۵۰/۲)

(۱۹۷۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک تاک میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے خوف سے رونے والے کا جہنم میں داخل ہونا ایسی طرح ناممکن ہے جس طرح تھنوں میں دودھ کا واپس جانا۔

(۱۹۷۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيَهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ ، مُصْرَجًا بِالْإِدْمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ ، كَانَهُمَا مُعْرِضَانِ عَنْهُ .

(طبرانی ۱۳۶۸۔ ابن حبان ۷۰۳۷)

(۱۹۷۱۱) حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام خواب میں نبی کریم ﷺ کو دکھائے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک فرشتے کی صورت میں ہیں اور ان کے پیروں پر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ان دونوں حضرات کا رخ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سے دوسری طرف ہے۔

(۱۹۷۱۲) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ ، أَنَّ وَبَرَةَ أَبَا كُرْزٍ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ ، إِذْ هُوَ بِغَلَامٍ مِنْ قُرَيْشٍ شَابٍّ مُعْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ ذَلِكَ فَلَانٌ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَادْعُوهُ ، قَالَ : مَا لَكَ اعْتَزَلْتَ مِنَ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَرِهْتَهُ لِلْغُبَارِ ، قَالَ : فَلَا تَعْتَزِلْهُ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَدَّرِيْرَةٌ الْجَنَّةِ . (ابوداؤد ۳۰۵۔ نسائی ۸۸۱۹)

(۱۹۷۱۲) حضرت ربیع بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ چلتے جا رہے تھے کہ قریش کا ایک لڑکا راستے سے ذرا ہٹ کر چل رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ فلاں لڑکا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں وہی ہے۔ آپ نے اسے بلا کر اس سے پوچھا کہ تم راستے سے ہٹ کر کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا: کہ میں غبار سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ راستے سے ہٹ کر نہ چلو کیوں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے! یہ غبار جنت کی خوشبو ہے۔

(۱۹۷۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعُوَامِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ أَقَامَ عَنِ الْجِهَادِ عَامًا وَاحِدًا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ فَغَزَا مِنْ عَامِهِ ، وَقَالَ : مَا رَأَيْتُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ رُخْصَةٍ .

(۱۹۷۱۳) حضرت ابو عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے ایک سال جہاد پر نہ جاسکے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ”نگلو! ہلکے ہو یا بوجھل۔“ پھر آپ ایک سال تک حج کرتے رہے اور

فرماتے تھے اس آیت کے بعد کسی قسم کی رخصت باقی نہیں رہتی۔

(۱۹۷۱۴) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنْ بَرَاءَةٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ .

(۱۹۷۱۳) حضرت ابومالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البراءۃ کی سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾

(۱۹۷۱۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ : الشَّيْخُ وَالشَّابُّ .

(۱۹۷۱۵) حضرت ابوصالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ سے مراد ہے جوان اور بوڑھے سب نکلیں۔

(۱۹۷۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شُبُوحًا وَشَبَابًا ، قَالَ قَتَادَةُ : نَشَاطًا وَغَيْرَ نَشَاطٍ .

(۱۹۷۱۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح جوان اور بوڑھوں سے اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح ہوشیار اور نادان سے کی ہے۔

(۱۹۷۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ : مَشَاغِلُ وَغَيْرُ مَشَاغِلٍ .

(۱۹۷۱۷) حضرت حکم رضی اللہ عنہ نے آیت قرآنی ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ کی تفسیر مصروف اور فارغ سے کی ہے۔

(۱۹۷۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الشَّيْخُ وَالشَّابُّ .

(۱۹۷۱۸) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر جوان اور بوڑھوں سے کی ہے۔

(۱۹۷۱۹) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ : فِينَا النَّقِيلُ وَذُو الْحَاجَةِ ، وَالضَّعْفَةُ وَالْمُدُّ تَغْلُ .

(۱۹۷۱۹) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم میں مریض، ضرورت مند، کمزور اور مصروف لوگ ہیں۔

(۱۹۷۲۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شُبُوحًا وَشَبَابًا .

(۱۹۷۲۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں۔

(۱۹۷۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بُوِعِدَ مِنَ النَّارِ مِثَّةَ خَرِيفٍ . (نسائی ۳۵۲۳)

(۱۹۷۲۱) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا

وہ جنت سے سوزخرف دور کر دیا جاتا ہے۔

(۱۹۷۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَمِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا . (بخاری ۲۸۳۰۔ نسائی ۲۵۶۱)

(۱۹۷۲۲) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ستر خریف جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔

(۱۹۷۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّعْمَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

(۱۹۷۲۳) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا اپنا قول بھی یہی منقول ہے۔

(۱۹۷۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا . (ابن عدی ۷۱۷)

(۱۹۷۲۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ستر خریف دور فرمادیتے ہیں۔

(۱۹۷۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ شَجْرِ بْنِ عَطِيَّةٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ خَنْدَقٌ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

(۱۹۷۲۵) حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ایک خندق دور فرمادیں گے اور اس خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان خلاء کے برابر ہے۔

(۱۹۷۲۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يُعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُعْقُوبَ بْنَ عَاصِمٍ بْنَ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ فِي الْجَنَّةِ فُصْرٌ ، يُقَالُ لَهُ عَدْنٌ ، فِيهِ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافِ حَبْرَةٍ قَالَ يُعْلَى أَحْسَبُهُ ، قَالَ : لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ .

(۱۹۷۲۶) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔ اس میں پانچ ہزار دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر پانچ ہزار پردے ہیں۔ اس میں صرف نبی، صدیق یا شہید داخل ہوں گے۔

(۱۹۷۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الصَّحْحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ : ﴿أَوْلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ﴾ قَالَ : هَذِهِ لِلشُّهَدَاءِ خَاصَّةٌ .

(۱۹۷۲۷) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ

شہداء کے ساتھ خاص ہے۔

(۱۹۷۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لِلشَّهَدَاءِ خَاصَّةٌ .

(۱۹۷۲۸) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ خاص ہے۔

(۱۹۷۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لِلشَّهِيدِ يَسْتُ حِصَالُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ : يُؤَمَّنُ

مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ، وَمِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَيُسْفَعُ فِي كَذَا وَكَذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْإِيمَانِ ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ . (بخاری ۶۳۲ - احمد ۴/۲۰۰)

(۱۹۷۲۹) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہید کو قیامت کے دن چھ انعام ملیں گے ① وہ اللہ کے عذاب سے مامون رہے گا۔

② وہ بڑے خوف (فزع اکبر) سے محفوظ رہے گا۔ ③ وہ اپنے گھر والوں میں سے اتنے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

④ اسے ایمان کا زیور پہنایا جائے گا۔ ⑤ وہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے گا۔ ⑥ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔

(۱۹۷۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ ، خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حَجَّاتٍ .

(۱۹۷۳۰) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کر چکا ہو اس کا ایک غزوہ دس حج کرنے سے بہتر ہے۔

(۱۹۷۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنْ

هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ فَقَالَ : أَمَا إِنَّا قَدْ

سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَرَأَوْاهُمْ كَطَيْرٍ خَضِرٍ ، نَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ ، فِي أَيُّهَا شَانَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ

مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ ، إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ ، فَقَالَ : سَلُونِي مَا شِئْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا

نَسَأَلُكَ ، وَنَحْنُ نَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِئْنَا ، قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَطْلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَطْلَاعَةً ،

فَقَالَ : سَلُونِي مَا شِئْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسَأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِئْنَا ، قَالَ : فَبَيْنَمَا

هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَطْلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَطْلَاعَةً ، فَقَالَ : سَلُونِي مَا شِئْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسَأَلُكَ ، وَنَحْنُ

نَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِئْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا ، قَالُوا : نَسَأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي

أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا هَذَا تَرَكَّهُمْ .

(مسلم ۱۵۰۲ - ابن ماجہ ۲۸۰۱)

(۱۹۷۳۱) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں

سوال کیا: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے

اس بارے میں حضور ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ شہداء کی رو میں سبز پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں اور جنت

میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پھر وہ عرش سے لٹکے ہوئے قنادیل پر بیٹھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے

جو تم چاہتے ہو وہ مانگو، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم آپ سے اور کیا مانگیں، ہم جنت میں سیر کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم مجھ سے جو چاہتے ہو مانگو۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم تجھ سے کیا مانگیں، ہم جنت میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے گا کہ تم جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم آپ سے کیا مانگیں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم جا کر تیرے راستے میں جہاد کریں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہ جنت کی کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال میں چھوڑ دیں گے۔

(۱۹۷۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ ، قَالَ : قُلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ : حَدِّثْنَا يَا كَعْبُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْتَدُرَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعُدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي النَّحَّامِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا الدَّرَجَةُ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمَّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِئَةَ عَامٍ ، يَا كَعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْتَدُرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَابَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْبَةً كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً . (ترمذی ۱۶۳۳۔ احمد ۳ / ۲۳۵)

(۱۹۷۳۲) حضرت شرجبیل بن سمط رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے کعب رضی اللہ عنہ! ہمیں حضور ﷺ کی بیان کردہ کوئی حدیث سنائیں اور اللہ سے ڈریں! حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دشمن پر تیر چلاؤ۔ جس کا تیر دشمن کو لگ گیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرمادیتے ہیں۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عبدالرحمن بن ابی نہام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! وہ درجہ کتنا ہے! حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ درجہ تمہارے باپ کی زمین جتنا نہیں بلکہ دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے پھر کہا اے کعب رضی اللہ عنہ! حضور ﷺ کی بیان کردہ کوئی حدیث سنائیں اور اس سے ڈریں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے بال اللہ کے راستے میں سفید ہوئے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور جس شخص نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک غلام آزاد کیا۔

(۱۹۷۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَتَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَابَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .

(۱۹۷۳۳) حضرت مالک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے قدم اللہ کے راستے میں گرا آلود ہوئے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔

(۱۹۷۳۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لِأَنَّ أُمَّتُكَ بَسُوطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إِثْرِ حَجَّةٍ .

(۱۹۷۳۳) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں اپنا کوڑا استعمال کروں یہ مجھے حج کے بعد حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

(۱۹۷۳۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : ابْنِي أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(۱۹۷۳۵) حضرت سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔

(۱۹۷۳۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَأَنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاكَ إِلَّا الدَّيْنَ ، كَذَا قَالَ لِي جَبْرِيلُ .

(۱۹۷۳۶) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: کہ اگر تم صبر کرتے ہوئے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اور پیچھے نہ دیکھتے ہوئے شہید ہوئے، تو قرض کے علاوہ تمہارے سارے اعمال معاف ہو جائیں گے۔ مجھے جبریل نے یونہی بتایا ہے۔

(۱۹۷۳۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَقْبَلْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلَا يُكَلِّمُهُ ، وَلَا يُجَالِسُهُ .

(۱۹۷۳۷) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی پیچھے رہ جانے والوں سے ملے تو نہ ان سے بات کرے اور نہ ان کی ہم نشینی اختیار کرے۔

(۱۹۷۳۸) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : عَمْرٌ : عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ ، فَإِنَّهُ عَمَلُ صَالِحٍ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ .

(۱۹۷۳۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم حج لازم ہے، یہ ایک نیک عمل ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جہاد حج سے

افضل ہے۔

(۱۹۷۳۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ فِي الْحِنَةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنٌ حَوْلَهُ الْمَرْوَحُ وَالْبُرُوجُ ، لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ .

(۱۹۷۳۹) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔ اس کے ارد گرد چراگا ہیں ہیں۔ اس کے پانچ ہزار دروازے ہیں۔ ہر دروازے سے صرف نبی، صدیق، شہید یا عادل امام ہی داخل ہو سکتا ہے۔

(۱۹۷۴۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زُرِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : النَّعَّاسُ عِنْدَ الْقَتْلِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ ، وَعِنْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿إِذْ يُعَاشِكُمْ النَّعَّاسُ أَمَنَةٌ مِنْهُ﴾ ؟

(۱۹۷۴۰) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت نیند آنا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی طمانیت ہے اور نماز کے وقت نیند آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿إِذْ يُعَاشِكُمْ النَّعَّاسُ أَمَنَةٌ مِنْهُ﴾

(۱۹۷۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرِي بِبَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ يَرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَرَفَعَ أَبُو طَلْحَةَ رَأْسَهُ يَقُولُ : نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . (بخاری ۳۸۱۱ - مسلم ۱۳۲۶)

(۱۹۷۴۱) حضرت انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما حضور ﷺ کے ساتھ کھڑے تیر چلا رہے تھے اور حضور ﷺ ان کے پیچھے تھے، حضور ﷺ نے سر مبارک بلند کر رکھا تھا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما بھی اپنا سر بلند کر کے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول! میں آپ سے پہلے نشانہ بنوں گا۔

(۱۹۷۴۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ النَّعَّاسُ يَوْمَ أُحُدٍ . (بخاری ۳۸۱۱ - ترمذی ۳۰۰۷)

(۱۹۷۴۲) حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن ان لوگوں میں سے تھا جن پر اللہ تعالیٰ نے سکون کی نیند طاری کی۔

(۱۹۷۴۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ نَحْوٍ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ . (ترمذی ۳۰۰۷)

(۱۹۷۴۳) حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما کی روایت حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے۔

(۱۹۷۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلِيمٍ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبَصْرَةِ كَانَ مِنْ بَعْثٍ مَعَهُ الْبَرَاءُ ، وَكَانَ مِنْ زُرَّانِيهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ : اخْتَرِ مِنْ عَمَلِي ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ : وَمُعْطَى أَنْتَ مَا سَأَلْتُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ إِمَارَةَ مِصْرَ ، وَلَا جَبَايَتَهُ ، وَلَكِنْ

أَعْطِنِي قَوْسِي وَرُمُوحِي ، وَقَرَسِي وَسَيْفِي ، وَدِرْعِي ، وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَبَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ .

(۱۹۷۴۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو بصرہ بھیجا گیا تو ان کے ساتھ جانے والوں میں حضرت براء رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ ان کے نائبین اور وزراء میں سے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے لیے کوئی عہدہ منتخب کر لیجئے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں جو آپ سے طلب کروں گا آپ مجھے دیں گے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں! حضرت براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے مصر اور اس کی نواحی بستیوں کی امارت نہیں مانگتا، بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری کمان، میرا گھوڑا، میرا نیزہ اور میری تلوار دے دیں اور مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے دیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت براء رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ اس لشکر کے سب سے پہلے شہید تھے۔

(۱۹۷۴۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ الْبُرَاءُ بَيْتٍ مِنْ شِعْرِ فَقُلْتُ لَهُ : أَيُّ أَحْيَى تَمَثَّلْتَ بَيْتٍ مِنْ شِعْرِ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ آخِرُ شَيْءٍ تَكَلَّمْتُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي ، لَقَدْ قُلْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مِثْلَ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلًا .

(۱۹۷۴۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے ایک شعر گنگایا۔ میں نے ان سے کہا اے بھائی! آپ شعر گنگتا رہے ہیں، اگر یہ آپ کا آخری کلام ہوا تو کیا بنے گا؟ انہوں نے فرمایا: کہ میں اپنے بستر پر نہیں مروں گا، میں نے نانوے مشرکوں اور کافروں کو قتل کیا ہے۔

(۱۹۷۴۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : غَيْبَتْ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ أَرَانِي اللَّهَ قَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ كَيَرَيْنِ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ بِمَا صَنَعَ هَؤُلَاءِ ، يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ بِمَا جَاءَ بِهِ هَؤُلَاءِ ، يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْدٌ بَاخِرًا هَادِيًا ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَنَا مَعَكَ ، قَالَ سَعْدٌ : فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ ، وَوَجَدَ فِيهِ بَضْعَ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً بِسَيْفٍ وَطَعْنَةً بِرُمِحٍ وَرَمِيَّةً بِسَهْمٍ فَكُنَّا نَقُولُ : فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾ ؟ (بخاری ۲۸۰۵ - مسلم ۱۵۱۲)

(۱۹۷۴۶) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے چچا کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی معیت میں پہلی لڑائی میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن اگر اللہ نے مجھے دوبارہ کافروں سے لڑنے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں! پھر غزوہ احد میں جب مسلمان بکھر گئے تو میرے چچا نے کہا کہ اے اللہ! میں مسلمانوں کے قتل پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور کافروں کے قتل پر براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے تو انہیں احد کے پاس حضرت

سعد بن ابی وقاصؓ سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ جیسی لڑائی انہوں نے کی میں ایسی لڑائی کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ ان کے جسم میں بیس سے زیادہ تلواروں، نیزوں اور تیروں کے نشان تھے۔ ہم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے: (ترجمہ) ”ان میں سے بعض نے تو اپنی منت کو پورا کر دیا اور بعض انتظار کر رہے ہیں۔“ (الاحزاب: ۲۳)

(۱۹۷۶۷) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْجَرَّاشِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمُوحِي ، وَجُعِلَ الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَيَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . (ابوداؤد ۴۰۲۷ - احمد ۵۰ / ۲)

(۱۹۷۶۷) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہاں تک کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، میرا رزق میرے نیزے کے نیچے ہے۔ میری مخالفت کرنے والے کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔

(۱۹۷۶۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَرْثَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٌ قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حَبِيهِ ، وَأَهْلِهِ قَامَ إِلَى صَلَاتِهِ ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي ، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَرَّ أَصْحَابُهُ ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْفِرَارِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَانِكِيهِ : يَا مَلَانِكِي انظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي . (ابوداؤد ۲۵۲۸ - حاکم ۱۱۲)

(۱۹۷۶۸) حضرت عبداللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو اپنی محبوب بیوی، بستر اور لحاف کو چھوڑ کر میری چاہت اور میرے انعامات کی خواہش میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس کے ساتھ بھاگ جائے، اسے میدان جنگ سے بھاگنے کا وبال یاد آئے اور وہ واپس جانے کے بجائے دشمن پر لپکے اور شہید ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میرے اس بندے کو دیکھو، یہ دشمن کی طرف میری چاہت اور میرے انعامات کی خواہش میں واپس گیا اور شہید ہو گیا۔

(۱۹۷۶۹) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : اتَّكَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ابْنَةِ مَلْحَانَ ، قَالَ : فَأَغْفَى فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَتَسَمُّ ، قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِمَّ صَحَّحُكَ ؟ قَالَ : مِنْ أَنَسٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْرُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَحْضَرَ ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمَلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ ، قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ، قَالَ :

فَنَكَحَتْ عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتْ مَعَ ابْنِهِ قِرَاطَةَ ، فَلَمَّا قَلَلَتْ وَقَصَّتْ بِهَا ذَاتِهَا فَقَتَلَتْهَا فَذَفِنَتْ ثُمَّ .

(بخاری ۲۷۸۸ - مسلم ۱۶۰)

(۱۹۷۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے کہ آپ ﷺ پر نیند طاری ہو گئی، کچھ دیر بعد آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہنز سمندر میں جہاد کریں گے، قیامت کے دن بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرمادے۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ بعد ازیں وہ اپنے بیٹے حضرت قرظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سوار ہو کر سمندری سفر پر روانہ ہوئیں، واپس آتے ہوئے اپنی سواری سے گر کر شہید ہو گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔

(۱۹۷۵) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَأَنْ أُغْزَوْ فِي الْبَحْرِ غَزْوَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ فِنْطَارًا مُتَقَبَّلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(۱۹۷۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک لڑائی لڑنا میرے نزدیک اللہ کے راستے میں بہت سا مال خرچ کرنے سے بہتر ہے جو قبول ہو جائے۔

(۱۹۷۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِيَ فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنْ غَزَوْ الْبَحْرَ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوَتَيْنِ فِي الْبَرِّ وَإِنْ شَهِدَ الْبَحْرَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدِ الْبَرِّ ، إِنْ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ أَصْحَابُ الْوُكُوفِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَصْحَابُ الْوُكُوفِ ؟ قَالَ : قَوْمٌ تَكْفُوهُمْ مَرَارِكُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . (عبدالرزاق ۹۶۳۱)

(۱۹۷۵) حضرت علقمہ بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جسے میرے ساتھ جنگ کا موقع نہ مل سکا اسے چاہیے کہ سمندری جہاد میں حصہ لے، کیونکہ ایک سمندری جنگ خشکی پر لڑی جانے والی دو جنگوں سے افضل ہے۔ سمندر میں شہید ہونے والے کے لیے خشکی کے دو شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ اللہ کے نزدیک افضل شہداء، ”اصحاب الوکوف“ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! ”اصحاب الوکوف“ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: کہ جن کی سواریاں الٹ جائیں اور اس سے وہ شہید ہو جائیں۔

(۱۹۷۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ يَسَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الْمَانِدُ فِي الْبَحْرِ غَارِيًّا كَالْمَتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ شَهِيدًا فِي الْبَرِّ .

(۱۹۷۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندری جہاد سے زندہ سلامت واپس آنے والا اس عابد کی طرح ہے جو خشکی

پر لڑتے ہوئے خون میں لوٹ لوٹ ہو کر شہید ہو چکا ہے۔

(۱۹۷۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي مُخَبَّرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : غَزَوَةٌ فِي الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًا فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأَوْدِيَةَ كُلَّهَا .

(۱۹۷۵۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سمندر کا ایک غزوہ خشکی کے دس غزوات سے افضل ہے۔ جس نے جنگ فرماتے ہوئے سمندر کو عبور کیا گویا اس نے زمین کی تمام وادیوں کو عبور کر لیا۔

(۱۹۷۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : خَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَازِيًا فِي الْبَحْرِ وَأَنَا مَعَهُ .

(۱۹۷۵۴) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سمندری جہاد پر روانہ ہوئے میں ان کے ساتھ تھا۔

(۱۹۷۵۵) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ ، أَوْ غَازٍ ، أَوْ مُعْتَمِرٌ .

(۱۹۷۵۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حاجی، مجاہد اور عمرے کا ارادہ کرنے والے کے علاوہ کوئی سمندر کا سفر نہ کرے۔

(۱۹۷۵۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : عَجِبْتُ لِرَاكِبِ الْبَحْرِ وَعَجِبْتُ لِتَاجِرِ هَجْرٍ .

(۱۹۷۵۶) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے سمندری سفر کرنے والے اور تجارت کی خاطر ہجرت کرنے والے پر بہت عجب ہے۔

(۱۹۷۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْ جَيْشٍ رَكِبُوا الْبَحْرَ أَبَدًا . يَعْنِي التَّغْيِيرَ .

(۱۹۷۵۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سمندر کا سفر کرنے والے لشکر کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔

(۱۹۷۵۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُسْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْرَةَ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْخُبَرِيِّ ، أَنَّهُ وَافَى الْمَقْدَادَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيَتِ الصَّيَارِفَةِ وَقَدْ فَضَّلَ عَنْهُ عِظْمًا فَقُلْتُ لَهُ : لَقَدْ أَعْدَرَ اللَّهُ إِلَيْكَ يَا أَبَا الْأَسْوَدِ ، قَالَ : أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ الْبَحُوثِ يَعْنِي سُورَةَ التَّوْبَةِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ .

(۱۹۷۵۸) ابوراشد حمرانی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جہادی سفر میں ایک تابوت پر سوار تھا۔ ان کا ہم اتنا وزنی اور زیادہ تھا کہ تابوت سے لٹک رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابواسود رضی اللہ عنہما: اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کو مذکور قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ البراءۃ یعنی سورۃ التوبہ کی آیت ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ نے ہمارے معذور

نے کانٹا رکھا ہے۔

(۱۹۷۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي الْإِدْيِ أَرْضَعَنِي مَنْ بَنِي مُرَّةَ ، قَالَ : كَانَنِي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مَوْتِهِ نَزَلَ عَنْ قَوْسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَهَرَقَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . (ابوداؤد ۲۵۶۲ - حاكم ۲۰۹)

(۱۹۷۵۹) حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بنو مرہ کے رضاعی والد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جنگ موتہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے شقراء گھوڑے سے اترے، اس کی کوچیوں کاٹیں اور لہراتے ہوئے شہید ہو گئے۔

(۱۹۷۶۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ عَلَى عَبْدِ بْنِ مَخْرَمَةَ صَرِيحًا عَامَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاجْعَلْ لِي فِي هَذَا الْمِخْنِ مَاءَ لَعَلِّي أَفْطِرُ ، فَاتَيْتُ الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ دَمًا فَضَرَبْتُ بِحِجْفَةٍ مَعِي ، ثُمَّ اغْتَرَفْتُ فِيهِ فَاتَيْتَهُ فَوَجَدْتَهُ قَدْ قَضَى .

(۱۹۷۶۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں، میں حضرت عبد اللہ بن محزمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ زخموں سے چہ زمین پر پڑے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہوا تو انہوں نے پوچھا: اے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما! کیا روزے دار نے افطار کر لیا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھے اس ڈھال میں پانی دے دو تا کہ میں افطار کر لوں۔ میں پانی لینے حوض پر گیا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خون کو الگ کر کے پانی لیا، جب میں ان کے پاس آیا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔

(۱۹۷۶۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ .

(۱۹۷۶۱) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں تمام مسلمانوں سے بڑھ کر لڑائی کی۔

(۱۹۷۶۲) حَدَّثَنَا معاويةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الْوَالِئِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ النَّاسِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَعْدُ .

(۱۹۷۶۲) حضرت معاویہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا۔

(۱۹۷۶۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : يُعْطَى الْمُجَاهِدِينَ .

(۱۹۷۶۳) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنے کی وصیت کی تو وہ مجاہدین کو دی جائے گی۔

(۱۹۷۶۴) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرِ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :

صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقٌ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

(۱۹۷۶۳) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دیتے ہیں جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے خلاء کے برابر ہے۔

(۱۹۷۶۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ أَضَعَ جَنْبِي لِلَّهِ فِي التَّرَابِ ، أَوْ أَجَالَسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامِ كَمَا يَلْتَقِطُ طَيِّبَ التَّمْرِ لِأَحْبَبْتِ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْتُ بِاللَّهِ .

(۱۹۷۶۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے راستے میں نہ چلوں، میں اللہ کے راستے میں اپنی پیشانی کو مٹی پر نہ رکھوں اور ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کروں جو اچھے کلام کو اس طرح چنتے ہیں جیسے عمدہ کھجوروں کو چننا جاتا ہے تو میری خواہش ہوگی کہ میرا انتقال ہو جائے۔

(۱۹۷۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : قَدْ مَنَعَنِي كَثِيرًا مِنَ الْفِرَاقَةِ ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(۱۹۷۶۶) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں زیادہ جہاد کرنے کی وجہ سے میں بہت سا قرآن نہیں سیکھ سکا۔

(۱۹۷۶۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ لَيْلَةٌ ، أُبَشِّرُ فِيهَا بَغْلَامًا ، وَيُهْدَى إِلَيَّ عَرُوسٌ أَنَا لَهَا مُحِبٌّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْحَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَصْبَحَ بِهِمُ الْعُدُوُّ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ .

(۱۹۷۶۷) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر ایسی رات جس میں مجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دی جائے اور میری طرف ایک ایسی لہن بھیجی جائے جس سے میں محبت رکھتا ہوں، اس رات سے زیادہ پسند نہیں، جو سخت مشقت والی ہو، میں مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ اسے بسر کروں اور صبح کو انہیں لے کر دشمن پر حملہ کروں۔ پس تم پر جہاد لازم ہے۔

(۱۹۷۶۸) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ يَوْمٍ أَنَا أَمْرٌ ؟ يَوْمٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ لِي فِيهِ الشَّهَادَةَ ، أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ لِي فِيهِ كَرَامَةً .

(۱۹۷۶۸) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! میں نہیں جانتا کہ میں کس دن سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس دن سے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائیں یا اس دن سے جس میں مجھے کوئی بڑا اعزاز دیا جائے۔

(۱۹۷۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : بُنِنْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ ، قَالَ : إِنَّ

أَذْرَكْتَنِي وَآيَسَ لِي قُوَّةٌ فَأَحْمِلُونِي عَلَى سَرِيرٍ يَعْنِي الْقِتَالَ ، حَتَّى تَصْعُقُونِي بَيْنَ الصَّفِّينِ .

(۱۹۷۶) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑائی کا وقت آجائے اور مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہ ہو تو مجھے اٹھا کر صفوں کے درمیان رکھ دینا۔

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرَّكِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمِيَلَةَ ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَتَبَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةِ ضِعْفٍ . (ترمذی ۱۶۳۵ - احمد ۴ / ۳۴۵)

(۱۹۷۸) حضرت خرم بن فاتک اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک درہم خرچ کیا اسے سات سو گنا اجر عطا کر دیا جائے گا۔

(۱۹۷۹) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ جَنَّةِ الْمَأْمُورِيِّ ، فَقَالَ : أَمَا جَنَّةُ الْمَأْمُورِيِّ فَجَنَّةٌ فِيهَا طَيْرٌ خُضِرَ تَرْتَفِقِي فِيهَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ .

(۱۹۸۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے جنت المادئی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ یہ وہ جنت ہے جس میں سبز پرندے ہیں کہ ان میں شہداء کی روئیں ہوں گی۔

(۱۹۸۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللَّهِ إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يُرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ لَا يَقْتَرُ حَتَّى يَرْجِعَ .

(ابن ماجہ ۲۷۵۴ - ابو یعلیٰ ۱۳۳۱)

(۱۹۸۲) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی مغفرت اور رحمت عطا فرمائیں گے یا وہ اجر اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اور اپنے ان اعمال میں کوئی سستی نہ برتے۔

(۱۹۸۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عَثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُيَيْبِ الْجُرَيْشِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ عَلَى تَمِيمٍ وَسَافَرَ مَعَهُ فَرَأَاهُ قَصَرَ فِي السَّفَرِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِيهِ ، فَقَالَ : رَحِمَكَ اللَّهُ ، أَرَأَيْكَ قَدْ قَصُرْتَ عَمَّا كُنْتَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِكَ ؟ فَقَالَ : أَوْ لَا يَكْفِينِي ، أَنْ يَكُونَ لِي أَجْرَ صَائِمٍ وَقَائِمٍ .

(۱۹۸۴) حضرت ابونب جرش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا اور ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں سفر پر نکلا۔ سفر میں نکل کر اس نے اپنے معمول کی عبادت سے کم عبادت کی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تم پر

رحم فرمائے! تم نے اپنے معمول سے کم عبادت کیوں کی؟ اس نے کہا: اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے مجھے دن کو روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے برابر ثواب مل رہا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔

(۱۹۷۷۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : غَارَتْ خَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَقَدْ رَجَلَ شَعْرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَرَى شَعْرَكَ حَبَسَكَ ؟ فَقَالَ : لَا يَبِينُكَ بَرَجُلٍ سَلِمَ ، قَالَ : وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوَفِّرُوا شَعْرَهُمْ .

(۱۹۷۷۴) حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین کے گھڑسواروں نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور ﷺ ان کو بھگانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ توڑی دیر بعد آئے انہوں نے بالوں پر کنگھی کی ہوئی تھی۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ شاید تمہارے بالوں نے تمہیں روک رکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس ایک آدمی قیدی بنا کر لاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بالوں کو درست رکھنا پسند کرتے تھے۔

(۱۹۷۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : لَأَنْ يَكُونَ لِي ابْنٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِئَةِ أَلْفٍ .

(۱۹۷۷۵) حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ایک بیٹا میرے نزدیک ایک لاکھ بیٹوں سے بہتر ہے۔

(۱۹۷۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَبُّكُمْ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي ابْتِغَاءَ وَجْهِِي فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ، إِنْ أَنَا قَبَضْتَهُ فِي وَجْهِهِ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ أَنَا أَرْجَعْتَهُ أَرْجَعْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَعَيْنِيْمَةٍ . (بخاری ۳۶ - مسلم ۱۳۹۵)

(۱۹۷۷۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے جو شخص میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے نکلے اس کا ضامن ہوں کہ اگر میں نے اس کی جان لے لی تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں اسے واپس لے آیا تو میں اسے اجر اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لاؤں گا۔

(۱۹۷۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَسَفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزُّعْرَاءِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لِكَيْتَبَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغْبِطُ الرَّجُلَ فِيهِ بِقَلْبِهِ حَادِيَهُ كَمَا يُغْبِطُ بِكُفْرَةِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَمَا خَيْرٌ مَالِ الرَّجُلِ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : قَرَسٌ صَالِحٌ وَسِلَاحٌ صَالِحٌ يَزُولَانِ مَعَ الْعَبْدِ حَيْثُ زَالَ .

(۱۹۷۷۷) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں اہل اہل و عیال کی کمی پر اس طرح فخر کیا جائے گا جیسے اہل و عیال کی زیادتی پر فخر کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا: اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ! اس دن آدمی کا بہترین مال کیا چیز

ہوگی؟ انہوں نے فرمایا: عمدہ گھوڑا اور عمدہ ہتھیار جو ہر جگہ اس کے ساتھ رہیں۔

(۱۹۷۷۸) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي طَلِيحَانَ ، قَالَ : غَزَا أَبُو أَيُّوبَ أَرْضَ الرُّومِ فَمَرِيضٌ ، فَقَالَ : إِذَا نَأَيْتَ ، فَإِنَّ صَافِقَتَهُمُ الْعُدُوَّ قَادِفُنُونِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ . (نسائی ۳۳۲۰ - سعید بن منصور ۲۳۵۰)

(۱۹۷۷۸) حضرت ابوطلیحان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سرزمین روم میں جہاد کے لیے گئے اور وہیں بیمار ہو گئے۔

انہوں نے فرمایا کہ جب میں مریجوں اور تمہارا دشمن سے سامنا ہو تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر دینا۔

(۱۹۷۷۹) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَامٍ الدَّمَشَقِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا رَامِيًا ، فَكَانَ يَمُرُّ بِي عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَيَقُولُ : يَا خَالِدُ أَخْرِجْ بِنَا نَرُمِي ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ تَعَالَ أَخْبِرُكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمَنْبِلُهُ وَكَيْسَ اللَّهِوُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَلَأَعْتَهُ أَهْلَهُ وَرَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَيْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِيَّ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَيَهِيَ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا ، أَوْ كَفَرَهَا .

(۱۹۷۷۹) حضرت خالد بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ماہر تیر انداز تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جب کبھی میرے پاس

سے گزرتے تو فرماتے کہ اے خالد! چلو آؤ تیر اندازی کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے کچھ سستی کی تو انہوں نے فرمایا: کہ اے

خالد رضی اللہ عنہ! آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آدمیوں کو

جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بنانے والے کو اگر اس نے اس کے بنانے میں خیر کا ارادہ کیا۔ اس کے چلانے والے کو اور اس

کے سیدھا کرنے والے کو۔ دل لگی کے تین کام ایسے ہیں جن میں ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی کا اپنے گھوڑے کو سدھانا، دوسرا آدمی کا

اپنی بیوی سے صحبت کرنا اور تیسرا کمان سے تیر پھینکنا اور اس کو سیدھا کرنا۔ جس شخص نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اس

نے اس نعمت کی ناشکری کی۔

(۱۹۷۸۰) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ، قَالُوا : لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةُ عَيْنَهُ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشَّهَدَاءِ فَأَجْرِبَتْ عَلَيْهِمَا يَعْنِي عَلَى قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَلَى قَبْرِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ ، فَبَرَزَ قَبْرَاهُمَا ، فَاسْتَصْرَحَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَجَنَاهُمَا يَتَشَبَّانِ تَشَبُّبًا كَانَهُمَا مَاتَا بِالْأُمْسِ ، عَلَيْهِمَا بُرْدَتَانِ قَدْ غَطَّتِي بِهِمَا عَلَيَّ وَجْهِيهِمَا ، وَعَلَى أَرْجُلَيْهِمَا شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِ الْإِذْخِرِ .

(۱۹۷۸۰) حضرت اسحاق بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے کچھ آدمیوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چشمے کا پانی احد

کے شہداء کی قبروں کی طرف آ گیا۔ اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی قبر ظاہر ہو

گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان حضرات کی قبروں کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ جب ہم نے ان حضرات کے مبارک جسموں و قبروں

سے نکالا تو وہ اس طرح تازہ تھے جیسے گل ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ ان کے چہرے والے حصوں کو چادر سے اور پاؤں کو اذخر نامی گھاس سے ڈھانپا گیا تھا۔

(۱۹۷۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ : أَيُّ بَنِي لَوْلَا نُسَيَاتٍ أَخْلَفُهُنَّ مِنْ بَعْدِي مِنْ بَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ ، لِأَحْبَبْتِ أَنْ أَقْدَمَكَ أَمَامِي وَلَكِنْ كُنْتُ فِي نَظَارِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَلَمْ أَلَيْتُ أَنْ جَانَتْ بِهِمَا عَمَّتِي فَيَلِينِ يَعْنِي أَبَاهُ وَعَمَّهُ قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَيَّ بَعِيرٍ .

(بخاری ۳۰۵۲)

(۱۹۷۸۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اے میرے بیٹے! اگر مجھے ان بچیوں کی فکر نہ ہوتی تو میں میدان جنگ میں تمہیں اپنے سے پہلے بھیجتا، لیکن ان کی دیکھ بھال کے لیے تم یہاں مدینہ میں رہ جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد میری پھوپھی میرے والد اور میرے چچا کی نعشوں کو ایک اونٹ پر لاد کر لے آئیں۔

(۱۹۷۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالُوا : لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَنَا مِنَ الْخَيْرِ كَمَا يَزِدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنَا أَبْلَغُ عَنْكُمْ فَتَزَكَّتْ : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ فَرِحِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ .

(۱۹۷۸۲) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت (ترجمہ): ”جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیئے جائیں انہیں مردہ شمار نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے۔“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے شہادت کے بعد کہا کہ کاش ہمارے بھائیوں کو اس خیر کا علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان تک تمہارا یہ پیغام پہنچاتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ فَرِحِينَ﴾ سے لے کر ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۶۹) تک آیت نازل فرمائی۔

(۱۹۷۸۳) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الدَّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . (ابن المبارک ۱۰۵)

(۱۹۷۸۳) حضرت طاووس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، اللہ نے میرے رزق کو میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے، میرے مخالفت کرنے والے کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے، جس

نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ ان میں سے ہے۔

(۱۹۷۸۴) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَسْمَاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قَوْمٍ ، فَقَدْ صَدَقْتَ اللَّهَ مَا وَعَدْتَهُ ، وَاللَّهُ صَادِقُكَ مَا وَعَدَكَ . (ابن سعد ۴۲۹)

(۱۹۷۸۴) حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما حالت نزع میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا: اے قوم کے سردار! اللہ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا اور اللہ نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے بھی سچا کر دکھائے گا۔

(۱۹۷۸۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَتْ كَثِيبَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِنْ كَتَائِبِ الْكُفَّارِ فَلَقِيَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَمَلَهُمْ عَلَيْهِمْ فَخَرَقَ الصَّفَّ حَتَّى خَرَجَ ، ثُمَّ كَبَّرَ رَاجِعًا فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَإِذَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَلَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ .

(۱۹۷۸۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ کفار کا ایک لشکر مشرق کی طرف سے آیا تو انصار کے ایک آدمی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا، پھر پیچھے سے ان پر حملہ آور ہوا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے دو یا تین مرتبہ ایسا کیا، جب دور سے دیکھا گیا تو وہ حضرت سعد بن ہشام تھے۔ اس بات کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے کیا گیا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی: (ترجمہ) کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ (البقرہ: ۲۰۷)

(۱۹۷۸۶) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ اتَى بَطْعَامَ ، قَالَ شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ كَانَ صَانِمًا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قُتِلَ حَمْرَةَ ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِنُهُ ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، وَقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ مُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، وَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِنُهُ ، قَدْ أَصَبْنَا مَا أَصَبْنَا ، قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ : أُعْطِينَا مِنْهَا مَا أُعْطِينَا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنِّي لِأَخْشَى أَنْ تَكُونَ قَدْ عَجَلْتَ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي الدُّنْيَا ، قَالَ شُعْبَةُ : وَأُظَنُّهُ قَامَ ، وَلَمْ يَأْكُلْ .

(۱۹۷۸۶) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ روزے سے تھے، ان کے پاس کھانا لایا گیا تو انہوں نے فرمایا: کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا تو ان کو کفنانے کے لیے ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا تو ان کو کفنانے کے لیے بھی ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا حالانکہ وہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ اب دنیا کا بہت سامان و متاع ہمارے قبضہ میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ ہمیں ہمارا اجر دنیا ہی میں نندے دیا گیا ہو۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ اٹھ گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔

(۱۹۷۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : تَجَهَّزْتُ غَازِيًا ، فَلَمَّا وَصَعْتُ رِجْلِي فِي الْعَرُزِ ، قَالَ لِي أَبِي ، يَا بَنِي أَجْلِسْ ، قُلْتُ : أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ أَتَجَهَّزَ وَأَنْفِقَ ؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يُكْتَبَ لِي أَجْرُ غَازٍ وَأَنَّهَا كُرْبَةٌ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا فَسَوْفَ تَرَانِي كَيْفَ أَفْعَلُ ، وَإِنْ لَمْ أَدْرَكْتُهَا فَعَجَلْ عَلَيْهَا .

(۱۹۷۸۷) حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاد کی تیاری کر کے نکلنے لگا تو میرے والد نے مجھ سے فرمایا: ٹھہر جاؤ اے میرے بیٹے! میں نے کہا آپ مجھے پہلے نہیں روک سکتے تھے جب میں نے تیاری نہیں کی تھی اور اس پر روپے خرچ نہیں کیے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہارے لیے مجاہد کا اجر لکھ دیا جائے۔ انہوں نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرف سے ایک مصیبت آنے والی ہے اگر میں نے اسے پالیا تو تم دیکھو گے میں اس میں کیا کرتا ہوں اور اگر میں اسے نہ پاسکا تو تم چھپ کر اس کی طرف لپکتا۔

(۱۹۷۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُيَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ لَعْبِيدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ الْغَزْوَ فَأَشْرَفَ إِلَيْهِ أَبُوهُ ، فَقَالَ : يَا بَنِي لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ صَرِيحَ الشَّامِ إِذَا جَاءَ بَلَغَ كُلَّ مُسْلِمٍ .

(۱۹۷۸۸) حضرت ابن معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جہاد کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی نہ جاؤ، شام سے ایک جنگ آنے والی ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زد میں لے گی۔

(۱۹۷۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أُنْدَقْتُ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةَ أَسْيَافٍ ، فَمَا صَبَرْتُ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةً يَمَانِيَةً .

(۱۹۷۸۹) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں جو تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹیں۔ صرف ایک یعنی مضبوط تلوار باقی رہی جس نے میرا ساتھ دیا۔

(۱۹۷۹۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ سَيْفًا ، فَقَالَ : لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ سَيْفًا تَقُومُ بِهِ فِي الْكَيْوَلِ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَقُولُ :

إِنِّي أَمْرٌوُ بَابِعْنِي خَلِيلِي وَنَحْنُ عِنْدَ أَسْفَلِ النَّحِيلِ .

أَلَا أَقَوْمُ الدَّهْرِ فِي الْكَيْوَلِ أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ .

(۱۹۷۹۰) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے ایک تلوار دیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں تلوار دوں لیکن تم بچھلی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضور ﷺ نے اس کو تلوار دی وہ مشرکین سے لڑائی کرتا جاتا تھا، ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھتا تھا۔ (ترجمہ) میں وہ شخص ہوں کہ مجھ سے میرے خلیل نے

کھجور کے درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ وعدہ لیا ہے کہ میں کھجیل صف میں نہ کھڑا رہوں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تلوار کو لے کر دشمنوں سے جنگ کروں۔

(۱۹۷۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَا أَيُّهَا عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا لِحَقِّ بِالشَّامِ .

(۱۹۷۹۱) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آیا آئے گا کہ ہر مومن شام چلا جائے گا۔

(۱۹۷۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخُوَيْتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ فُرْصٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ الْعَشْرَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَوْلُهُ تَعْلَى ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا﴾ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فَجَعَلَ عَلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الرَّجُلَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ فَحَقَّقَ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَنَقَّصُوا مِنَ النَّصْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ . (بخاری ۳۶۵۲ - ابوداؤد ۲۳۹۹)

(۱۹۷۹۲) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں پر اس بات کو فرض قرار دیا گیا تھا کہ ایک آدمی دس مشرکوں سے قتال کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) اگر تم میں بیس صبر کرنے والے ہیں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر سو ہیں تو وہ ہزار پر غالب آئیں گے۔ یہ بات مسلمانوں پر دشوار گذری تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمادی کہ ایک آدمی دو مشرکوں سے قتال کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ (ترجمہ) اگر تم میں سو صبر کرنے والے ہیں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے۔ بعد میں ان پر اس میں بھی تخفیف کر دی گئی اور مدین اسی کے بقدر کمی کر دی گئی۔

(۱۹۷۹۳) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْغَسَّانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الشَّامُ ، وَأَحَبُّ الشَّامِ إِلَيْهِ الْقُدْسُ ، وَأَحَبُّ الْقُدْسِ إِلَيْهِ جَبَلُ نَابِلِسَ ، لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَاسَحُونَ بَيْنَهُم بِالْحِبَالِ .

(۱۹۷۹۳) حضرت کعب بن زینب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب ملکوں سے پسندیدہ ملک شام ہے، شام میں سب سے محبوب جگہ القدس ہے۔ قدس میں سب سے محبوب جگہ جبل نابلس ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ آیا آئے گا کہ وہ رسیوں کے ذریعے لین دین کریں گے۔

(۱۹۷۹۴) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقُ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ . (حاکم ۳۶۲ - ابن عساکر ۲۳۲)

(۱۹۷۹۴) حضرت ابو زہریہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کا

ٹھکانہ دمشق، و حال کے مقابلے میں ان کا ٹھکانہ بیت المقدس اور یا جوج ماجوج کے مقابلے میں ان کا ٹھکانہ بیت الطور ہے۔

(۱۹۷۹۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ بَرِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ الْمُهْرِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرَّقَاعِ إِذْ ، قَالَ : طُوبَى لِلشَّامِ طُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَ إِذَا ؟ قَالَ : لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أُجْنِحَتِهَا عَلَيْهَا . (ترمذی ۳۹۵۳۔ ابن حبان ۱۱۳)

(۱۹۷۹۵) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور ﷺ کے گرد بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا: شام کے لیے خوشخبری، شام کے لیے خوشخبری۔ آپ ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! شام کے لیے خوشخبری کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ شام پر فرشتوں نے اپنے پر پھیلار کھے ہیں۔

(۱۹۷۹۶) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَالَ مَكْحُولٌ ، وَابْنُ زَكْرِيَّا ابْنِي خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَرَمَلَتْ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ لِي جُبَيْرٌ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْيَةِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَصَالِحُكُمْ الرُّومُ صَلَاحًا آمِنًا تَمَّ تَعَزُّونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوٌّ فَتَنْصَرُونَ وَتَعْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ مَرْتَفِعٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ فِعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَيُجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ . (ابوداؤد ۲۷۱۱۔ ابن حبان ۶۷۰۸)

(۱۹۷۹۶) حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں، حضرت مکحول رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ابی زکریا رضی اللہ عنہما، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کی طرف گئے۔ انہوں نے ہمیں حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث سنانی کہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ چلو ایک صحابی حضرت ذوفمر کے پاس جائیں۔ میں جبیر بن نصیر کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت جبیر نے ان سے ”بدنہ“ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ اہل روم عنقریب تم سے امن والی صلح کریں گے، پھر تم اور وہ دشمنوں کے ساتھ جنگیں کرو گے، ان جنگوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں مال غنیمت اور سلامتی حاصل ہوگی، پھر تم نیلوں والی ایک سرزمین پر ٹھہرو گے تو وہاں ایک عیسائی صلیب کو بلند کر کے ہے گا کہ صلیب غالب آگئی۔ اس پر مسلمانوں کے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ دے گا۔ اس موقع پر اہل روم صلح ختم کر دیں گے اور لڑائی کے لیے جمع ہوں گے۔

(۱۹۷۹۷) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَفَرُّوا الْأَطْفَارَ فِي أَرْضِ الْعُدُوِّ فَإِنَّهَا سِلَاحٌ .

(۱۹۷۹۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں ناخن لے رکھو کیونکہ یہ بھی ایک تھیار ہے۔

(۱۹۷۹۸) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِذَا عُرِضَ عَلَيْكُمُ الْغَزْوُ فَلَا تَخْتَارُوا أَرْمِينِيَّةَ ، فَإِنَّ بِهَا عَذَابًا مِنَ الْقَبْرِ .

(۱۹۷۹۸) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جہاد کی پیش کش کی جائے تو ارمینیا کا انتخاب مت کرنا کیونکہ وہاں اللہ کی طرف سے سخت سردی کا عذاب نازل ہوا ہے۔

(۱۹۷۹۹) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنَا حَدِيقَةٌ ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَشَرِبَ الْخُمْرَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَحْدَهُ ، فَقَالَ حَدِيقَةُ : تَحْدُونَ أَمِيرَكُمْ ، وَقَدْ دَوَّوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ، فَقَالَ : لِأَشْرَبْنَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ، وَلَا شَرِبْنَا عَلَى رَغْمٍ مِنْ رَغْمٍ .

(۱۹۷۹۹) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرزمین روم میں جہاد کیا، اس وقت ہمارا امیر ایک قریشی تھا، اس نے شراب پی تو ہم نے اس پر حد جاری کرنا چاہی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے امیر پر حد جاری کرو گے حالانکہ تم دشمن کے قریب ہو، اس طرح تو دشمن تم پر چڑھ دوڑے گا؟ اس امیر نے کہا کہ میں ضرور شراب پیوں گا اگرچہ یہ حرام ہے اور میں ضرور شراب پیوں گا خواہ کسی کو برا لگے۔

(۱۹۸۰۰) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمُقَدَّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا رَابَطْتَ ثَلَاثًا فَلْيَتَعَبِدَ الْمُتَعَبِدُونَ مَا شَأُؤُوا .

(۱۹۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی تین دن جہاد کی تیاری میں گزار لو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ عبادت کرنے والے کتنی عبادت کرتے ہیں۔

(۱۹۸۰۱) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجِيرَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ صَلَاحُ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . (مسلم ۱۵۳۰ - احمد ۵ / ۳۴۰)

(۱۹۸۰۱) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن جہاد کی تیاری میں گزارنا ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس شخص کا انتقال جہاد کی تیاری میں ہوا اسے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا اور اس کے لیے نیک اعمال کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا۔

(۱۹۸۰۲) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : سَاحِلُ الْبَحْرِ . (ابن ماجہ ۲۷۶۷ - احمد ۲ / ۳۰۴)

(۱۹۸۰۲) یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔

(۱۹۸.۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُنْبَرِ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا كَتَمْتُمْ كُمُوهُ كَرَاهِيَةً تَفَرَّقُكُمْ عَنِّي ، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رَبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ رَبَاطِ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ ، فَلْيُخْتَرْ كُلُّ امْرِءٍ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ .

(ترمذی ۱۶۶۷۔ طیالسی ۸۷)

(۱۹۸.۳) ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث سنی تھی جو میں نے تم سے اس لیے چھپائی تاکہ تم مجھ سے دور نہ چلے جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں سرحدوں کی ایک دن کی نگرانی دوسری جگہوں پر ایک ہزار دن کی نگرانی سے بہتر ہے، پس ہر شخص اپنے لیے جو چاہے منتخب کر لے۔

(۱۹۸.۴) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : تَمَامَ الرَّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا . (سعيد بن منصور ۴۳۱۰)

(۱۹۸.۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رباط چالیس دن کا ہوتا ہے۔

(۱۹۸.۵) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدْفِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الدِمَارِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّبَاطُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا . (طبرانی ۷۶۰۶)

(۱۹۸.۵) حضرت مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رباط (سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری) چالیس دن کا ہوتا ہے۔

(۱۹۸.۶) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُفْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ ابْنَ لَابِنِ عُمَرَ رَابَطَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ : ابْنُ عُمَرَ : أَعَزِمُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلَترَابَطَنَّ عَشْرًا حَتَّى تَتِمَّ الْأَرْبَعِينَ .

(۱۹۸.۶) حضرت عمر بن عبد اللہ مولیٰ عفیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے نے تیس دن جہاد کے لیے گزارے۔ جب واپس آئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم واپس جاؤ اور دس دن مزید جہاد کے لیے گزارو تاکہ چالیس دن پورے ہو جائیں۔

(۱۹۸.۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَجَبْرِ بْنَ نَفِيرٍ يَقُولَانِ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَفْضَلُ الْجِهَادِ الرَّبَاطُ ، فَقُلْتُ : وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِذَا انْطَاطَ الْغَزْوُ وَكَثُرَتِ الْغُرَايِمُ وَاسْتُحَلَّتِ الْغَنَائِمُ فَأَفْضَلُ الْجِهَادِ يَوْمِنَا الرَّبَاطُ .

(ابن حبان ۳۸۵۶۔ طبرانی ۳۳۳)

(۱۹۸۰۷) حضرت ابو امامہ اور حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آیا آئے گا کہ اس میں افضل جہاد باط ہو گا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوے کم ہو جائیں گے، تاوان زیادہ ہو جائیں، مال غنیمت کو حلال سمجھا جانے لگے گا تو اس موقع پر افضل جہاد باط ہے۔

(۱۹۸۰۸) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَا : مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا .

(۱۹۸۰۸) حضرت یزید بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اور صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص جہاد کے لیے سفر کرتا ہوا انتقال کر گیا تو اس نے شہادت کا درجہ پایا۔

(۱۹۸۰۹) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : لَقَدْ افْتَتَحَ الْفَتْوحَ أَقْوَامٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةً سِوَاهُمْ الذَّهَبَ ، وَلَا الْفِضَّةَ ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتَهَا الْعَلَابِيُّ وَالْأَتَاكُ وَالْحَدِيدُ .

(۱۹۸۰۹) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ قوموں کو بہت سی فتوحات حاصل ہوں گی۔ ان قوموں کی تلواروں کا زیور سونے یا چاندی کا نہیں بلکہ سرخ تانبے، سفید تانبے اور لوہے کا ہوگا۔

(۱۹۸۱۰) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَدَعَ رَأْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

(سعید بن منصور ۲۳۲۵۔ بزار ۷۶۷)

(۱۹۸۱۰) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا اللہ کے راستے میں سر درد ہو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

(۱۹۸۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَسِئَلًا : أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تَفْتَحُ أَوْلَى قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، أَوْ رُومِيَّةَ ؟ قَالَ : فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بِصَنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا فَجَعَلَ يَقْرَأُ ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُ إِذْ سِئَلًا : أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ يُفْتَحُ أَوْلَى قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، أَوْ رُومِيَّةَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ تَفْتَحُ أَوْلَى . (احمد ۱۷۶/۲۔ حاکم ۳۲۲)

(۱۹۸۱۱) حضرت ابو قبیل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے اپنا ایک حلقوں والا صندوق منگوا دیا اور اس میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ پھر فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے گرد بیٹھ کر لکھا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ نبی

پاک ﷺ نے فرمایا تھا کہ پہلے ہر قل کا شہر فتح ہوگا۔

(۱۹۸۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ ، قَالَا : قَالَ سَلْمَانُ بْنُ رَيْعَةَ : قَتَلْتُ بِسَيْفِي هَذَا مِئَةَ مُسْتَلِيمٍ كُلِّهِمْ يُعْبَدُ غَيْرَ اللَّهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلًا صَبْرًا .

(۱۹۸۱۲) حضرت سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس تلوار سے سو ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی صاحب دین آدمی کو قتل نہیں کیا۔

(۱۹۸۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لَقَدْ رَأَيْتُنِي خَامِسَ خَمْسَةٍ ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَا فِي يَدِي ، وَلَا رَجُلِي ظَفَرٌ إِلَّا وَقَدْ نَصَلْ ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَالَفَ إِلَيَّ ذِكْرٍ هَذَا ، اللَّهُ يُجْزِيَنِي بِذَلِكَ .

(۱۹۸۱۳) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، میں ان پانچ یا چھ آدمیوں میں سے ایک تھا جن کے ہاتھوں اور پاؤں کا ہر ناخن نکل چکا تھا۔ پھر فرمایا کہ نہ جانے میں نے کیوں اس بات کو بیان کر دیا میں تو اس کا اجر صرف اللہ سے چاہتا تھا۔

(۱۹۸۱۴) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ ، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلَا أَنْ لَهُ مِثْلُ نَعِيمِهَا إِلَّا الشَّهِيدَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الثَّوَابِ يَوْذًا أَنَّهُ رَجَعَ فَقُتِلَ . (سعید بن منصور ۲۵۵۳)

(۱۹۸۱۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سوائے شہید کے کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ واپس دنیا کی طرف اور دنیا کی نعمتوں کی طرف جانے کی خواہش کرتا ہے اور وہ یہ خواہش اس لیے کرتا ہے کہ وہ جب شہادت کے اجر کو دیکھتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ واپس دنیا میں جائے اور دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہو۔

(۱۹۸۱۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ ذَنْبَهُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ الْأَرْضَ مِنْ دَمِهِ ، وَيُحَلِّي حُلَّةَ الْإِيمَانِ ، وَيَزَوِّجُ الْحُورَ الْعِينِ ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَوْمَنْ مِنَ الْفَرَجِ الْأَكْبَرِ أَوْ فَرَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

(۱۹۸۱۵) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید کو چھ طرح کا اجر ملتا ہے ① اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔ ② اسے ایمان کا زور پہنایا جاتا ہے۔ ③ حور عین سے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ ④ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ⑤ قبر کا عذاب اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ ⑥ قیامت کے دن کی سختی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔

(۱۹۸۱۶) حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مَفْضِلٍ ، عَنْ مُعِينَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الْمُبَارَزَةِ فَأَكْتَبَ هَيْبَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَيْنَانُ مَرُصُوصٍ» .

(۱۹۸۱۶) حضرت مغیرہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے مبارزت کے بارے میں سوال کیا تو تھوڑی دیر انہوں نے سر کو جھکایا پھر اس آیت کی تلاوت کی (ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے رستے میں صف بنا کر اس طرح قتال کرتے ہیں جیسے کہ کوئی مضبوط عمارت ہو۔

(۱۹۸۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قَالَ : اِنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَوْ بِمَشَقِّصٍ .

(۱۹۸۱۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو خواہ تیر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۹۸۱۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا لَقِيتَ فَانْهَدْ فَاِنْمَا فَاِنَهُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي النَّفَقَةِ .

(۱۹۸۱۸) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو تو خوب تو اتنا ہو کر دلیری سے اس پر حملہ کرو کیونکہ یہ آیت تو خرچ کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۱۹۸۱۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ عَمَارَةَ ، قَالَ : شَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَ رُبَاعِيَةً ، وَذَلِقَ مِنَ الْعَطَشِ حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ أَبِي بَنْ خَلْفٍ يَطْلُبُ بَدَنَ أَخِيهِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ قَلْبِيرُزُّبَلِي ، فَإِنْ كَانَ نَبِيًّا فَتَلِّمْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَوْنِي الْحَرْبَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَبِكَ جِرَاكَ ؟ قَالَ : إِنِّي قَدِ امْتَسَقَيْتُ اللَّهَ دَمَهُ ، فَأَخَذْتُ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ فَصَرَغَهُ عَنْ ذَائِبِهِ وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنْقَدُوهُ فَقَالُوا : مَا نَرَى بِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدِ امْتَسَقَى اللَّهَ دَمِي إِنِّي لَأَجِدُ لَهَا مَا لَوْ كَانَ عَلَى مُضَرَ وَرَبِيعَةَ لَوْ سِعَتْهُمْ .

(بخاری ۲۹۱۱ - مسلم ۴۱۶)

(۱۹۸۱۹) حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور آپ کے سامنے والے دانٹ بھی ٹوٹ گئے تھے۔ آپ پیاس کی شدت سے بے چین ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور آپ کے بہت سے ساتھی بھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں ابی بن خلف اپنے بھائی امیہ بن خلف کا بدلہ لینے کے لیے موجود تھا۔ اس نے لگا کر کہا کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، وہ میرے سامنے آئے، اگر وہ واقعی نبی ہے تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نیزہ دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو شدید پیاس اور گرمی کا شکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا خون پلائے گا۔ آپ نے نیزہ پکڑا، اس کی طرف تشریف لے گئے اور اسے نیزہ مار کر سواری سے نیچے گرا دیا۔ اس نے ساتھی اسے بچا کر لے گئے اور اسے تسلی دی کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے میرا خون مانگا ہے، مجھ

اس زخم کی اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ میں تقسیم کر دی جائے تو سب بے چین ہو جائیں۔

(۱۹۸۲۰) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُمَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ رُوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

(احمد ۲ / ۵۳۲)

(۱۹۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام کا لگانا، جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔

(۱۹۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ نَعْلَبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ ؟ قَالَ فَقَالُوا : الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذْ نُ لَقِيْلٍ ، الْقَتِيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْحَارُّ عَنْ دَائِبَتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ ، وَالْفَرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ ، وَالطَّعِنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَجْنُوبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ ، يَعْنِي فَرْحَةَ ذَاتِ الْجَنْبِ . (مسلم ۱۶۳ - احمد ۲ / ۳۴۱)

(۱۹۸۲۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا: کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے۔ آپ نے فرمایا: کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جان دینے والا بھی شہید ہے، اللہ کے راستے میں سواری سے گر کر ہلاک ہونے والا بھی شہید ہے، اللہ کے راستے میں ڈوبنے والا بھی شہید ہے، اللہ کے راستے میں طاعون کا شکار ہونے والا بھی شہید ہے، اللہ کے راستے میں پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے، اور اللہ کے راستے میں پھوڑے کا شکار ہو کر مرنے والا بھی شہید ہے۔

(۱۹۸۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ ، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذْ نُ لَقِيْلٍ ، الْقَتِيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ يَعْنِي حَامِلًا شَهِيدًا . (احمد ۵ / ۳۱۵ - دارمی ۲۳۱۳)

(۱۹۸۲۲) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جو اللہ کے راستے میں قتال کرے اور جان دے دے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے، طاعون سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، بچے کو جنم دیتے ہوئے مرنے والی عورت بھی شہید ہے۔

(۱۹۸۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَعِيْلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ : إِنَّا كُنَّا لَنَرُجُو أَنْ تَكُونَ وَقَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيلٌ ، الْقَبِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجُمُعِ شَهِيدٌ وَالْحَرَقُ وَالْعَرَقُ وَالْمَجْنُوبُ شَهِيدٌ يَعْنِي قُرْحَةَ ذَاتِ الْجَنْبِ .

(ابن ماجہ ۲۸۰۳ - طبرانی ۱۷۸۰)

(۱۹۸۲۳) حضرت ابوعمیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جبرین تنیک نبی ہوئے کے مرض الوفات میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کے گھر والوں نے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کا انتقال اللہ کے راستے میں شہادت سے ہوگا۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جان دینے والا بھی شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، طاعون سے مرنے والا شہید ہے، بچے کو جنم دیتے ہوئے مرنے والی عورت شہید ہے، جل کر، ڈوب کر اور پھوڑے سے مرنے والا بھی شہید ہے۔

(۱۹۸۲۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : الطَّاعُونَ شُهَدَاءُ وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبُطْنُ وَالنَّفْسَاءُ .

(۱۹۸۲۳) حضرت صفوان بن امیہ فرماتے ہیں کہ طاعون شہادت ہے، ڈوبنا شہادت ہے، پیٹ کی بیماری سے اور عورت کا بچے کو جنم دیتے ہوئے مرنا شہادت ہے۔

(۱۹۸۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرٍاءَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ مَنْ يَغْرُقُ فِي الْبُحُورِ وَيَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ وَتَأْكُلُهُ السَّبَاعُ لَشَهِيدًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(۱۹۸۲۵) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، یا پہاڑوں سے گر جاتے ہیں، یا جانور نہیں کھا جاتے ہیں، یہ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہداء شمار کیے جائیں گے۔

(۱۹۸۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الطَّاعُونَ وَالْبُطْنُ وَالنَّفْسَاءُ وَالْعَرَقُ ، وَمَا أُصِيبَ بِهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ شَهَادَةٌ .

(۱۹۸۲۶) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاعون، پیٹ کی بیماری، حمل، غرق اور ان کو بچنے والی ہر تکلیف شہادت کا سبب ہے۔

(۱۹۸۲۷) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، أَنَّ أَبَا حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمَنِي عَمَلًا يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، قَالَ : لَا أَجِدُهُ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ لَا تَفْتَرُ وَتَصُومَ ، لَا تَفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيْسْتَنُ فِي طَوْلِهِ فَتُكْتَبُ

بِهِ حَسَنَاتُهُ. (بخاری ۲۷۸۵۔ احمد ۲/۳۴۳)

(۱۹۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تو کسی ایسے عمل کو نہیں جانتا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جب مجاہد نکل جائے تو مسجد میں جاؤ اور بغیر سستی کے نماز پڑھو اور بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھو؟ اس نے کہا: میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجاہد کا گھوڑا اپنی رسی میں چکر لگاتا ہے پھر بھی مجاہد کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔

(۱۹۸۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ ، أَوْ مَا مِنْ أَحَدٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا حَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْعُوهُ : تَعَالَى يَا فَلَانُ ، تَعَالَى هَذِهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ ، هَذَا الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. (بخاری ۱۸۹۷۔ مسلم ۸۵)

(۱۹۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو قیامت کے دن بہت سے ٹمہبان فرشتے اسے بلائیں گے کہ اے فلاں! ادھر آ جا، ادھر خیر ہے یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ایسے شخص کے لیے تو کوئی بلاکت نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔

(۱۹۸۲۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ ، قَالَ : لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَهُ صِرْمَةٌ مِنْ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ أَتَى بِهَا مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ فَبَاعَهَا ، ثُمَّ أَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ ، فَذَلِكَ خَيْرُ النَّاسِ .

(۱۹۸۲۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں بہترین شخص کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سے بہترین شخص نہیں۔ بلکہ لوگوں میں بہترین گاؤں میں رہنے والا وہ شخص ہے جس کے پاس اونٹوں یا بکریوں کا ریوڑ ہو، وہ اسے لے کر شہر کی طرف آئے اور پھر انہیں بیچ کر ان کی قیمت اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور مسلمانوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان برسر پیکار ہو جائے یہ شخص لوگوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔

(۱۹۸۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اللَّحْلَاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا غَبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ . (احمد ۲/۳۴۲۔ حاکم ۷۲)

(۱۹۸۳۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ ایمان اور نیک عمل ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے اور اللہ کے رستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۹۸۳۱) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى مُعَاذٍ ، قَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً .

(ترمذی ۱۲۳۸ - احمد ۴ / ۱۱۳)

(۱۹۸۳۱) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بال اللہ کے راستے میں سفید ہوئے یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گے اور جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر چلایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے۔

(۱۹۸۳۲) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنْ حَالٍ أَحْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجْهَهُ سَاجِدًا .

(۱۹۸۳۲) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ اہم مقام وہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں ہو یا جب اس نے اپنے چہرے کو سجدے کی حالت میں مٹی پر رکھا ہو۔

(۱۹۸۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَةِ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتْلَ وَهُوَ ابْنُ بَعْضِ وَسِتِينَ سَنَةً .

(۱۹۸۳۳) حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر سولہ برس تھی۔ وہ حضور ﷺ کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک رہے اور ساٹھ سال سے کچھ زائد ان کی عمر تھی جب انہیں شہید کیا گیا۔

(۱۹۸۳۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا آتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ حُصْرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ شِدَّةً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا مَخْرَجًا ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرِينَ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۶﴾ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : ﴿اعْلَمُوا أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَرِيزَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا

أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، إِنَّمَا كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعَرِّضُ بِكُمْ وَيَحْتَنِكُمْ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ زَيْدٌ : فَقَالَ أَبِي : فَإِنِّي لَقَائِمٌ فِي السُّوقِ إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ مُبِضِينَ قَدْ أَطْلَعُوا مِنَ النَّيَّةِ فِيهِمْ حَدِيثُ بَنِي الْيَمَانِ يَشْتَرُونَ النَّاسَ ، قَالَ :

فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبَشِرْ بِنَصْرِ اللَّهِ وَالْفَتْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ رَبِّ قَائِلٍ لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ .

(۱۹۸۳۳) حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام آئے تو ان کا اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس وقت وہ شدید تکلیف کا شکار ہوئے۔ انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں مدد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دیا: ”اما بعد! اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، ایک مشکل دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آسکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت بھی لکھ بھیجی (ترجمہ) اے ایمان والو! صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو۔ (آل عمران: آخری آیت)

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں یہ آیت لکھ بھیجی: (ترجمہ) جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل، تماشا، زینت، باہمی تفاخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص ہی تو ہے۔ (الحدید: ۲۰)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا پھر فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگو! ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمہیں جہاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں کھڑا تھا کہ سفید لباس والے کچھ لوگ گھائی سے نیچے اترے ہوئے نظر آئے، ان میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری دے رہے تھے۔ میں خوشی سے سرشار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے کہا اے امیر المؤمنین! فتح کی خوشخبری ہو! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا کہ کاش خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتح کی خوشخبری دینے والا بھی آجائے۔

(۱۹۸۳۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رِزْقَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي سَنَابِكِ خَيْلِهَا وَأَرْجَئِهَا مَا لَمْ يَزُرْ عَوَا فَبَادَا زَرَعُوا صَارُوا مِنْ النَّاسِ . (۱۹۸۳۵) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا رزق گھوڑے کے کھروں اور نیزوں کے نیچے رکھ دیا ہے جب تک یہ زراعت نہیں کرتے۔ جب یہ زراعت کریں گے تو عام لوگوں کی طرح ہو جائیں گے۔

(۱۹۸۳۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَمُؤْمِنٌ اعْتَزَلَ فِي شَعْبٍ مِنَ الْجِبَالِ ، أَوْ قَالَ شِعْبَةٍ : كَفَى النَّاسَ شَرًّا .

(بخاری: ۲۷۸۶۔ مسلم: ۱۱۲)

(۱۹۸۳۶) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ مومن جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، اور وہ مومن جو لوگوں سے کنارہ کش ہو کے پہاڑ کی ایک گھائی میں جا کر بیٹھ گیا ہو۔

(۱۹۸۳۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسِ السَّكُونِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : فِي آخِرِ حَدِيثِهِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِكُمْ الْيُسْرَ ، وَلَمْ يَرِدْ بِكُمْ الْعُسْرَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَعَزُوزٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّتَيْنِ ، وَلِحَاجَةٍ أَحْتَجُّهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمْرَتَيْنِ وَلِعُمْرَةٍ اعْتَمَرْتُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةِ آمِيَهِنَّ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ .

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوبکھ براء بن قیس سکنوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے بیان فرما رہے تھے۔ اپنے بیان کے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ خدا کی قسم! اللہ کے راستے میں ایک غزوہ دوج کرنے سے زیادہ افضل ہے، ایک حج میرے نزدیک دو مرتبہ عمرے کرنے سے بہتر ہے اور ایک عمرہ میرے نزدیک تین مرتبہ بیت المقدس جانے سے بہتر ہے۔

(۱۹۸۳۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ بَزِيدِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى أَصْحَابِ الْبَحْرِ مِرَارًا حِينَ يَسْتَوِي فِي مَرْكَبِهِ وَيُخَلِّي أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَحِينَ يَأْخُذُهُ الْمَيْدُ فِي مَرْكَبِهِ وَحِينَ يُوَجَّهُ الْبُرُوقُ فَيُشْرِفُ إِلَيْهِ . (ابن خزيمة ۳۳۳)

(۱۹۸۳۸) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندر والوں پر کئی مرتبہ مسکراتا ہے، ایک جب وہ اپنے اہل و عیال اور مال کو چھوڑ کر اپنی کشتی پر بیٹھتا ہے، دوسرا جب اس کی کشتی سمندر میں بچکولے کھاتی ہے اور تیسرا جب اسے خشکی نظر آتی ہے اور وہ اس کی طرف جھانکتا ہے۔

(۱۹۸۳۹) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ الْعَطَارِدِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ فِي الْقِتَالِ لَمْ يَلْتَفِتْ .

(۱۹۸۳۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ دورانِ قتال جب کسی صف میں کھڑے ہوتے تھے تو دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

(۱۹۸۴۰) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ عُمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ قَالَ : أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ بَيْضٍ فَفَاقِعَ فِي الْحَبَّةِ .

(۱۹۸۴۰) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحيں پانی کے بلبلوں کی طرح جنت میں سفید پرندوں میں ہوتی ہیں۔

(۱۹۸۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مَا يُحِبُّ مِنَ الْخِيَلَاءِ فَالرَّجُلُ يَخْتَالُ بِسَيْفِهِ عِنْدَ

الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا يُحِبُّ الْمُرَاحَ . (ابوداؤد ۲۶۵۲ - احمد ۵ / ۳۳۵)

(۱۹۸۳۱) حضرت ابن سنیک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو موقع پر فخر کو پسند کیا جا سکتا ہے ایک اس آدمی کا فخر جو قتال کے وقت کھوار اٹھا کر اکڑ کر چلے اور دوسرا اللہ کے راستے میں صدقہ پر فخر، البتہ تکبر اور غرور کو پسند نہیں کیا جا سکتا۔

(۱۹۸۴۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنِ السَّمْطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي جُنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَهُمْ حَصْرٌ وَحَصْرٌ ، فَقَالَ سَلْمَانُ لِأَمِيرِ الْجُنْدِ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَوْنًا لَكَ عَلَى هَذَا الْجُنْدِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَابَطَ يَوْمًا ، أَوْ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ عَدْلَ صِيَامِ شَهْرٍ وَصَلَاتِهِ الَّتِي لَا يُفْطِرُ ، وَلَا يَنْصَرِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُجِرَ لَهُ أَجْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . (مسندہ ۳۵۵)

(۱۹۸۳۲) حضرت سمط بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک لشکر میں تھے، مسلمانوں کو حصار اور تکلیف کا سامنا ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے امیر لشکر سے کہا میں آپ کو حضور ﷺ کا ایک فرمان سنا تا ہوں جو اس لشکر کے معاملے میں آپ کے لیے مدد کا سبب ہوگا۔ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے ایک دن یا ایک رات اللہ کے راستے میں جہاد کی غرض سے گزاری یہ اس کے لیے اس مہینہ کے برابر ہیں جس میں وہ مسلسل روزے رکھے اور مسلسل نماز پڑھے، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا اسے اس وقت تک اس شہادت کا اجر ملتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کا بدلہ دینے سے فارغ نہ ہو جائیں۔

(۱۹۸۴۳) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَسَانَ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ قَالَ : النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . (۱۹۸۳۳) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔

(۱۹۸۴۴) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ قَالَ : مَنْ رَبَطَ قَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا . (۱۹۸۳۴) ایوب بن خالد انصاری رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے گھوڑا پالا وہ قرض حسن دینے والا ہے۔

(۱۹۸۴۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ رَوْحِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَأْتِ بِأَبَا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا فُتِحَ لَهُ ، فَقَالَ مُوسَى : سَمِعْتُ أَشْبَاخَنَا

يَقُولُونَ: زوجين دينار ودرهم، أو درهم ودينار.

(۱۹۸۳۵) حضرت عبداللہ بن عبد اللہ بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں زوجین کو خرچ کیا وہ جنت کے جس دروازے سے بھی جائے گا وہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ راوی موسیٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ زوجین سے مراد دینار اور درہم ہیں۔

(۱۹۸۴۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَحْمَى، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمُهْرِيِّ وَمُدْرِكٍ، قَالَا: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَذُحَانٌ جَهَنَّمَ فِي صَدْرِ مُؤْمِنٍ.

(۱۹۸۴۶) حضرت ابو شیبہ مہری اور حضرت مدرک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک مومن کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۹۸۴۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: أَرْوَاهُ الشُّهَدَاءُ فِي طَيْرٍ خُضِرٍ تَسْرَعُ فِي الْجَنَّةِ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مُعَلَّقَةٍ فِي الْعَرْشِ فَيَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ فَيَقُولُ: سَلُونِي ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنَا إِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ فَتَلَّهُ أُخْرَى.

(۱۹۸۴۷) حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شہداء کی روئیں سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں جہنم کی سیر کرتی ہیں۔ وہ عرش سے لگی ہوئی قندیلوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے تین مرتبہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے جو چاہتے ہو مانگو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ اور لڑائی کریں۔

(۱۹۸۴۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَضْحَكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ: عَمْسُهُ يَدُهُ فِي الْعُدُوِّ حَاسِرًا، قَالَ: فَاتَّقَى دِرْعًا كَانَتْ عَلَيْهِ فَفَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (بیہقی ۹۹)

(۱۹۸۴۸) حضرت عاصم بن قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہما نے سوال کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات پر مسکراتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب کوئی مجاہد بغیر مسلح حالت میں دشمن پر چڑھائی کرتا ہے۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہما نے اپنی زرہ پھینک دی اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

(۱۹۸۴۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عَثْمَانَ، عَنْ نُمَيْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّحْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ بِالْحَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا رَبُّ مَبِيضٍ لِيَشَابِهَ مُدَنَسٍ لَدِينِهِ.

(۱۹۸۴۹) نمران بن حمر جسی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے۔ بہت سے کپڑوں کو صاف رکھنے والے ایسے ہیں جو دین کو میلا کر رہے ہیں۔

(۱۹۸۵۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عُطَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبَّحَ مِنِّي ضِعْفٍ .

(۱۹۸۵۰) حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنے زائد مال میں سے ایک روپیہ خرچ کیا اسے سات سو گنا اجر دیا جائے گا۔

(۱۹۸۵۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ عَمَرُ : حَجَّاهَا هَاهُنَا ، ثُمَّ يُبَشِّرُ بِيَدِهِ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ أَخْرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى .

(۱۹۸۵۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مکہ کرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں یہاں حج کروں گا پھر اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا۔

(۱۹۸۵۲) حَدَّثَنَا هُوْدُذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ خَسَنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي عَمِي ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْمَوْزُوْدَةُ فِي الْجَنَّةِ . (ابوداؤد ۲۵۱۳ - احمد ۵۸)

(۱۹۸۵۲) حضرت خساء بنت معاویہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہیں کہ مجھ سے میرے چچا (اسلم بن سلیم رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! جنت میں کون جائے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا نبی جنت میں جائیں گے، شہید جنت میں جائے گا اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکی جنت میں جائے گی۔

(۱۹۸۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ : جُرِحَ طَلْحَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُرْحًا . (سعيد بن منصور ۲۸۳۹)

(۱۹۸۵۳) حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بیس سے زیادہ زخم آئے تھے۔

(۱۹۸۵۴) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَتَنَجِيزًا لِمَوْعُودِ اللَّهِ فَهُوَ مِثْلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ . (احمد ۳۶۵ / ۲ - ابن حبان ۳۶۲۱)

(۱۹۸۵۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اللہ کے وعدے کے حصول کے لئے اللہ کے راستے میں نکلے، وہ اس روزہ دار، شب زندہ دار کی طرح ہے جو مجاہد کے نکلنے سے واپس آنے تک روزے میں مصروف رہے۔

(۱۹۸۵۵) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ جَرِيحٌ يَجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا

جَاءَ جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُمِي ، لَوْ نُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ ، قَدَمُوا أَكْثَرَ الْقَوْمِ قُرَانًا فَاجْعَلُوهُ فِي
الْحَدِيدِ . (بيهقي ۱۱)

(۱۹۸۵۵) حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے راستے میں زخم لگا، وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ خون کا رنگ تو سرخ ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ جو قرآن زیادہ جانتا ہوا ہے آگے کرو اور اسے لحد میں اتارو۔

(۱۹۸۵۶) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَنِي وَبَيْنَ كَاتِبِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ صَدَاقَةً مَعْرُوفَةً فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يَنْسَخَ لِي رَسُولَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ
قَالَ : فَتَسَخَّرَهَا لِي ، فَكَانَ فِيهَا ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ
قَالَ : لَا تَسْأَلُوا الْقِيَامَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا ، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ وَكَانَ يَنْتَظِرُ
فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ نَهَدَ إِلَى عَدُوِّهِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ مَنِّزِلَ الْكِتَابِ وَمَجْرِي السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ،
اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَأَنْصِرْنَا عَلَيْهِمْ . (بخاری ۲۹۲۶۔ مسلم ۴۰)

(۱۹۸۵۷) مدینہ منورہ کے ایک شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور عبید اللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ کے ایک کاتب کے درمیان گہری دوستی تھی۔ میں نے اس سے کہا مجھے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کے عبید اللہ بن زیاد کی طرف لکھے گئے ایک خط کا نسخہ بنا دے۔ اس نے مجھے اس کا نسخہ بنا کر دیا تو اس میں تھا: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دشمن سے تیرا آزما ہونے کی دعائے مانگو، جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ حضور ﷺ کا معمول یہ تھا کہ زوال کے وقت تک انتظار فرماتے جب سورج زائل ہو جاتا تو دشمن پر حملہ کرتے اور فرماتے: (ترجمہ) اے اللہ! تو کتاب کو نازل کرنے والا ہے۔ تو بادلوں کو برسانے والا ہے، تو لشکروں کو شکست دینے والا ہے، انہیں شکست دے دے اور ہماری مدد فرما۔

(۱۹۸۵۷) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هَزِيمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : فَضَّلُ الْغَزَايِ فِي
الْبَحْرِ عَلَى الْغَزَايِ فِي الْبَرِّ كَفَضْلِ الْغَزَايِ فِي الْبَرِّ عَلَى الْجَالِسِ فِي بَيْتِهِ .
(۱۹۸۵۷) حضرت یحییٰ بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں جہاد کرنے والے کی خشکی میں جہاد کرنے والے پر اتنی فضیلت ہے جتنی خشکی میں جہاد کرنے والے کی گھر میں بیٹھے والے پر ہے۔

(۱۹۸۵۸) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ عَامَ تَبُوكَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ إِلَى
نَخْلَةٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى

ظَهَرَ قَوَسِيهِ ، أَوْ ظَهَرَ بَعِيرِهِ ، أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا يَفْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَرُوعُوهُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ. (احمد ۳/ ۳۷ - حاکم ۶۷)

(۱۹۸۵۸) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین اور بدترین آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو یا پیدل ہو اور اسے موت آجائے۔ بدترین آدمی وہ، جو فاجر اور بے حیا آدمی ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا تو ہے لیکن اس کے مضامین پر کان نہیں دھرتا۔

(۱۹۸۵۹) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) قَالَ : كُفُوًا وَشَبَابًا ، قَالَ : مَا أَرَى اللَّهَ عَدَرَ أَحَدًا ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَجَاهَدَ.

(۱۹۸۵۹) حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں جوانوں اور بوڑھوں ہر دو کو حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے خیال میں اس آیت نے کسی کے لیے کسی عذر کو نہیں چھوڑا، پھر وہ شام چلے گئے اور جہاد کیا۔

(۱۹۸۶۰) حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

(احمد ۱/ ۳۰ - حاکم ۱۷۵)

(۱۹۸۶۰) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا یا مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔

(۱۹۸۶۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمَرَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ بَرِيدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الدُّعَاءَ كَانَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ نَزُولِ الْقَطْرِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالنِّقَاءِ الصَّفِيِّ.

(۱۹۸۶۱) ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین مواقع ہیں جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ① بارش کے وقت ② نماز کی اقامت کے وقت ③ جنگ میں صفوں میں کھڑا ہونے کے وقت۔

(۱۹۸۶۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُنْذَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي رِيَّاحَ بْنَ الْحَارِثِ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَمْ يَشْهَدْ بِشَهْدَةِ الرَّجُلِ مِنْهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَبَرَ فِيهِ وَجْهَهُ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ ، وَلَوْ عَمَرَ عَمْرَ نُوحٍ.

(ابن ابی عاصم ۱۳۳۵)

(۱۹۸۶۲) حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ کی معیت میں اللہ کے راستے میں جہاد کی غرض سے ایک ایسا دن گزارنا جس میں چہرہ غبار آلود ہو جائے یہ عمر نوح طے پر ساری عمر عبادت کرنے سے افضل ہے۔

(۱۹۸۶۳) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي كَيْسِرٍ ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّارِ . (مسلم ۱۵۰۵ - ابوداؤد ۲۳۸۷)

(۱۹۸۶۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کافر اور اس کا مسلمان قاتل جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۹۸۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : سَأَلَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَىٰ ذَابَةِ عَلَيْكَ مَكْتُوبَةٌ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : فَرَسٌ ، قَالَ : تِلْكَ الْغَايَةُ الْقُصْوَىٰ مِنَ الْأَجْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيَّ بَعْدَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ ؟ قَالَ : عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مُعْتَقِلٌ رُمَحَهُ عَلَىٰ قَرَيْبِهِ يَمِيلُ بِهِ النَّعَاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَسْتَغْفِرُ الرَّحْمَنَ وَيَلْعَنُ الشَّيْطَانَ ، قَالَ : وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ انظُرُوا إِلَيَّ عَبْدِي ، قَالَ : فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَخَبَّةُ جَنَّةٍ بَيَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ .

(۱۹۸۶۴) حضرت واصل بن سائب رقاشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بن رباح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے سوال کیا کہ کون سی سواری ایسی ہے جس کو رکھنا فرض ہے؟ میں نے عرض کیا: گھوڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو انتہائی اجر کی چیز ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک انبیاء، صدیقین اور شہداء کے بعد سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ وہ مومن بندہ جو اللہ کے راستے میں گھوڑے پر سوار اپنے نیزے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور نیند کی وجہ سے کبھی دائیں ڈولتا ہے کبھی بائیں۔ وہ رحمن سے مغفرت طلب کرتا ہے اور شیطان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دکھو، فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی: (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ (التوبہ: ۱۱۱)

(۱۹۸۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ، فَسَمَاهُ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَنَا

أَخَذْتُ سَيْفِي فَجَاهَدْتُ بِهِ أُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ فَقَتِلْتُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ ، أَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ حَدِيثُهُ
عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَفْهَمَ الرَّجُلُ وَأَفْهَمَهُ فَلَكَدْخَلَ النَّارَ كَذَا وَكَذَا يَصْنَعُ ، مَا قَالَ هَذَا ؟ فَقَالَ حَدِيثُهُ : إِنْ أَخَذْتُ
سَيْفَكَ فَجَاهَدْتُ بِهِ فَأَصَبْتُ الْحَقَّ فَقَتِلْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ فَقَتِلَ وَهُوَ
عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يُؤَفِّقْهُ اللَّهُ ، وَلَمْ يَسُدِّدْهُ دَخَلَ النَّارَ ، قَالَ الْقَوْمُ : صَدَقْتَ . (عبدالرزاق ۹۵۶۵)

(۱۹۸۶۵) حضرت ابو عبیدہ بن حدیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ! اگر میں اپنی تلوار پکڑ کر اللہ کی رضا کے جذبے پر قائم رہتے ہوئے جہاد کروں اور اسی جذبہ پر قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے فرمایا: جنت میں، حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اس شخص کی بات کو سمجھو اور اسے ٹھیک بات سمجھاؤ، کیونکہ بات کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ پھر حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے حق کو درست طریقے سے سمجھا پھر اپنی تلوار لے کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے لیکن اگر کوئی شخص حق کو سمجھنے میں غلطی کرے اور اس کو راہ حق کی ہدایت نہ ملے، اس پر وہ قتل ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس پر سب لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔

(۱۹۸۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْجُلُوسِ ، وَالْجُلُوسُ خَيْرٌ مِنَ الْقِتَالِ عَلَى الضَّلَالِ وَمَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَعَدَّهُ إِلَى مَا لَا يَرِيهِ .

(۱۹۸۶۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا گھر بیٹھنے سے بہتر ہے اور گھر بیٹھنا گمراہی کے راستے میں قتال کرنے سے بہتر ہے۔ جس آدمی کو کسی چیز میں شک ہو تو وہ شک سے بالاتر ہو کر معاملہ کو اختیار کرے۔

(۱۹۸۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْعُ لِي زَيْدًا وَلِيَجِيءَ بِاللُّوْحِ وَالذَّوَابِ ، أَوْ قَالَ : بِالْكَتِفِ ، فَقَالَ : اكْتُبْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فَقَالَ : ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ صَرِيرَ الْبَصَرِ . يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ ؟ فَانزَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ : ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ .

(بخاری ۲۸۳۱۔ مسلم ۱۵۰۸)

(۱۹۸۶۷) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ حضور ﷺ نے فرمایا: کہ زید رضی اللہ عنہ کو بلاؤ اور اسے کہو کہ تمہاری سختی اور دوات بھی لے آئے۔ پھر فرمایا لکھو ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ یہ آیت سن کر ایک نابینا صحابی حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا

یا رسول اللہ! میں جہاد کی طاقت نہیں رکھتا، آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ﴿غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ﴾ کو نازل فرمایا۔

(۱۹۸۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مِمَّنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَعَارِزِ ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذَا لَكَيْتُمْ ، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ الشُّجَاعَةَ وَالْحُجْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَالشُّجَاعُ يَقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يَبَالِي أَنْ لَا يَكُوبَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَالْحُجْبَانُ فَارٌّ عَنْ خَلِيلِيهِ ، وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مِنْ أَحْتَسَبَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

(۱۹۸۶۸) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ تم شہداء کن لوگوں کو سمجھتے ہو؟ حاضرین نے کہا اے امیر المؤمنین! جو جنگوں میں مارے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح تو تمہارے شہید اور بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں شہداء کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہادری اور بزدلی یہ لوگوں میں موجود خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جس میں چاہتا ہے رکھتا ہے۔ بہادر آدمی اس بات کی پرواہ کیے بغیر قتال کرتا ہے کہ اس کے پیچھے والوں کا کیا ہوگا۔ بزدل اپنی موت سے بھاگتا ہے، شہید اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ امور کو چھوڑ دے اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

(۱۹۸۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ سَلَ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الزُّبَيْرُ ، نَفَحَ نَفْحَةً ، أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، قَالَ فَلَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرٌ ؟ قَالَ : أَخْبِرْتُ أَنَّكَ أُخِذْتُ ؟ قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَلَسِيْفِهِ . (عبد الرزاق ۲۰۳۲۹ - احمد في فضائل الصحابة ۱۲۶۲)

(۱۹۸۶۹) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تلوار چلانے والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، ایک مرتبہ یہ افواہ پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گرفتار کر لیا ہے، اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تلوار پکڑ کر لوگوں میں سے گذرتے ہوئے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصہ میں تھے، ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پوچھا کہ اے زبیر! کیا ہوا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے خبر ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے پکڑ لیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعادی اور ان کی تلوار کے لیے بھی دعا فرمائی۔

(۱۹۸۷۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَابِرِ الرَّعِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَتَّعَ جَيْشًا فَمَشَى مَعَهُمْ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اعْبَرْتُ أَقْدَامَنَا فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ

رَجُلٌ: إِنَّمَا شِيعَنَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جَهَزْنَاهُمْ وَشِيعَنَاهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ .

(۱۹۸۷۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک لشکر کو رخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلے تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہمارے قدم اس کے راستے میں گرد آلود ہو گئے، ایک آدمی نے کہا کہ ہم تو محض ان کے پیچھے چلے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں تیار کیا، ہم ان کے پیچھے چلے اور ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے۔

(۱۹۸۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ بِحَسْبِ الشَّكِّ مِنْهُ ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَشِيعُهُمْ عَلَى رَجُلَيْهِ فَقَالُوا : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ رَكِبْتَ ، قَالَ : إِنِّي أُحْتَسِبُ حُطَايَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(۱۹۸۷۱) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ فرمایا اور آپ پیدل ان کے ساتھ چلے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ! آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے قدم چلانا چاہتا ہوں۔

(۱۹۸۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : لَمَّا أَسْلَمَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا أَتْرُكُ مَقَامًا قُمْتَهُ لِيَصِدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا قُمْتُ مِثْلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا أَتْرُكُ نَفَقَةً أَنْفَقْتُهَا أَصْدُبَهَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ مِثْلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْيَوْمِوكِ نَزَلَ فَتَرَجَّلَ فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا فَقِيلَ ، فَوَجِدَ بِهِ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ وَضَرْبَةٍ . (طبرانی ۱۰۲۲۔ حاکم ۶۳۲)

(۱۹۸۷۲) حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اللہ کے راستے سے روکنے میں جتنی طاقت خرچ کی ہے میں اللہ کے راستے کی طرف لانے میں اس سے دوہری طاقت خرچ کروں گا اور میں نے اللہ کے راستے سے روکنے میں جتنا مال خرچ کیا ہے میں اللہ کے راستے میں اس سے دوگنا مال خرچ کروں گا۔ جنگ یرموک میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور پیدل لڑتے ہوئے زبردست زانی کی اور شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر نیزوں، تیروں اور تلواروں کے ستر سے زیادہ زخم تھے۔

(۱۹۸۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ بِشْرِ التَّغْلِبِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدْمَشَقٍ ، وَكَانَ بَدْمَشَقٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ مَتَوَحِّدًا ، فَلَمَّا يُجَالِسُ النَّاسَ ، إِنَّمَا هُوَ يُصَلِّي فَإِذَا انْصَرَفَ ، فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَهْلِيلٌ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، فَمَرَّ بِنَاذَاتِ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَسَلَّمْنَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا ، وَلَا تَضُرُّكَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، كَبَاسِطٍ يَدِيهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَسَلَّمْنَا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا

وَلَا تُضْرَكَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَيَّ إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالنَّفْحَشَ .

(ابوداؤد ۳۰۸۶ - احمد ۴/۱۷۹)

(۱۹۸۷۳) حضرت قیس بن بشرؓ کہتے ہیں کہ میرے والد دمشق میں حضرت ابوالدرداءؓ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ دمشق میں ابن حنظلہؓ نام کے ایک گوشہ نشین انصاری صحابی بھی موجود تھے۔ وہ لوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہوتے تو تسبیح و تہلیل کرتے اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم حضرت ابوالدرداءؓ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو ہمیں فائدہ دے اور آپ کو اس کے بتانے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے صدقہ کو مسلسل بلا روکے جاری رکھنے والا۔ پھر وہ ایک دن ہمارے پاس سے گزرے اور سلام کیا تو حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو ہمیں فائدہ دے اور آپ کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنی ہو تو اپنی سواریاں اور اپنا لباس درست کر لیا کرو تاکہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے برے نہ لگو۔ اللہ تعالیٰ برے کام کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

(۱۹۸۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ : اَعْدُوا بِنَا حَتَّى نَجْتَعِلَ قَالَ : فَعَدَوْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : ابْنِي قَرَأَتِ الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَاءَةَ فَوَجَدْنَاهَا نَحْتُ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ : فَخَرَجَ . (۱۹۸۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن یزیدؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ تاکہ ہم مال غنیمت کے حصے بنا لیں۔ میں صبح ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رات کو سورۃ التوبہ کی تلاوت کی یہ سورت جہاد کی ترغیب دے رہی ہے۔ یہ فرما کر وہ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔

(۱۹۸۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ابْنُ عُمَرَ فِي الْجَعَالَةِ : لَا أْبِيعُ نَصِيْبِي مِنَ الْجِهَادِ ، وَلَا أَعْزُو عَلَى أَجْرٍ .

(۱۹۸۷۵) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں حاصل ہونے والا حصہ فروخت نہیں کرتا اور میں مال کے لیے جہاد نہیں کرتا۔

(۱۹۸۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الشَّقِيقِ بْنِ الْعِزَّارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْجَعَالِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَخَذْتَهَا فَأَنْفَقْتَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَتَرَكْتَهَا أَفْضَلُ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَمْ أَكْرَمْ لَأَرْتَشِي إِلَّا مَا رَشَانِي اللَّهُ .

(۱۹۸۷۶) حضرت شقیقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا

نہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں مل جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نہ لو تو بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو فرمایا کہ میں تو بغیر محنت کے وہی چیز لیتا ہوں جو اللہ مجھے دیتا ہے۔

(۱۹۸۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْجِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَعَابِلِ ، قَالَ : إِنْ جَعَلْتَهَا فِي سِلَاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : وَإِنْ جَعَلْتَهَا فِي عَبْدِ ، أَوْ أُمَّةٍ فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ .

(۱۹۸۷۷) حضرت عبد اللہ بن اعثم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا تو نہوں نے فرمایا کہ اگر تم اس مال کو کسی ہتھیار یا گھوڑے پر خرچ کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر کسی غلام یا باندی میں خرچ کر دو تو مناسب بات نہیں۔

(۱۹۸۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُنْبَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيَّ النَّاسِ بَعَثَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّا قَدْ وَصَعْنَا عَنْكَ الْبُعْثَ وَعَنْ وَلَدِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ جَرِيرٌ : إِنِّي بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ نَشِطَ نَخْرُجُ فِيهِ ، وَإِلَّا قَوَيْنَا مَنْ يَخْرُجُ . (بخاری ۵۷- مسلم ۹۷)

(۱۹۸۷۸) حضرت ابو بکر بن عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو ایک مرتبہ زبردستی جہاد کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو زبردستی نہیں بھیج رہے۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے دست اقدس پر امیر کی اطاعت و ماتبرداری اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی بیعت کی ہے۔ اگر ہمیں بھیجا جائے گا تو ہم جائیں گے وگرنہ جانے والوں کو قوت فراہم نہیں کریں گے۔

(۱۹۸۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سِئِلَ الْأَسْوَدُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْعَلُ لَهُ وَيُجْعَلُ هُوَ أَقْلًا مِمَّا جُعِلَ لَهُ وَيُسْتَفْضَلُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَسِئِلَ شُرَيْحٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ .

(۱۹۸۷۹) حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مجاہد کو مال غنیمت میں غیر مجاہد سے زیادہ حصہ ملے لیکن وہ اس زیادہ حصے کو کم سمجھے اور زیادہ کا مطالبہ کرے تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اسے اپنالو۔

(۱۹۸۸۰) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْجُعْلِ فِي الْقَبِيلَةِ بَأْسًا . (۱۹۸۸۰) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ مال غنیمت میں سے کوئی زیادہ حصہ کسی خاص قبیلے کو دینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۱۹۸۸۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ حُدَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُونَ الْجُعْلَ يَقْتَوُونَ بِهِ عَلَى عَدْوِهِمْ كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا . (ابوداؤد ۳۳۲ - بيهقي ۲۷)

(۱۹۸۸۱) حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اور جہاد کے مال غنیمت میں دوسرے مجاہدین سے زیادہ حصہ لیتے ہیں اور دشمن کے خلاف اسے بطور طاقت کے استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سی ہے جو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں اور (فرعون سے) اس کا عوض لیتی تھیں۔

(۱۹۸۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قُلْتُ : الرَّجُلُ يُرِيدُ الْغَزْوَ فَيَعَانُ ؟ قَالَ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُمْتَعُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ .

(۱۹۸۸۲) حضرت ابن عون رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جہاد کرنا چاہے تو کہہ اس کی مدد کی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

(۱۹۸۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نَسِيرٍ ، أَنَّ الرَّبِيعَ كَانَ يَأْخُذُ الْجَعَالََةَ فَيَجْعَلُهَا فِي الْمَسَاكِينِ .

(۱۹۸۸۳) حضرت نسیر فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع رضی اللہ عنہما مال غنیمت میں سے مجاہد کو ملنے والے والا زیادہ حصہ لیتے تھے اور انے مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔

(۱۹۸۸۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ أُعْطِيَ يَوْمَ غَزَا شَيْبَانَ فَقَبِلَهُ .

(۱۹۸۸۳) حضرت عثمان بن اسود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما کو جہاد کے ایک دن کے عوض کوئی چیز پیش کی گئی جو انہوں نے قبول فرمائی۔

(۱۹۸۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْجَعَائِلَ وَذَلِكَ فِي الْبُعْثِ .

(۱۹۸۸۵) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما، حضرت اسود رضی اللہ عنہما اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہما نے مال غنیمت میں سے مجاہد کو ملنے والے زائد حصہ کو کر قرار دیا ہے۔

(۱۹۸۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْجَعَائِلَ .

(۱۹۸۸۶) حضرت مسروق رضی اللہ عنہما نے جعائل کو کر وہ قرار دیا ہے۔

(۱۹۸۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ التَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ ، وَابْنُ قَسِيطٍ وَعَمْرُو بْنُ عُلْقَمَةَ يَأْخُذُونَ الْجَعَائِلَ وَيَخْرُجُونَ .

(۱۹۸۸۷) حضرت نعمان بن ابی عیاش رضی اللہ عنہ، ابن لقیط رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن علقمہ رضی اللہ عنہما مالِ غنیمت کے زائد حصے کو لیتے تھے اور جہاد کے لیے نکلتے تھے۔

(۱۹۸۸۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يُؤَالِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَغْزُو عَنْهُ .

(۱۹۸۸۸) حضرت عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ کسی آدمی سے دوستی لگاتے تھے اور پھر اس کے حصے کا جہاد کرتے تھے۔

(۱۹۸۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعُشْرِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . (بخاری ۹۶۹ - ابوداؤد ۲۳۳۰)

(۱۹۸۸۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے دس دن سے زیادہ محبوب دن اور کوئی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کیا یہ دن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ دن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ البتہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال لے کر جائے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔

(۱۹۸۹۰) حَدَّثَنِي عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ مِنْ وَرَاءِ نَهْرٍ بَلَخَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا عَيْشَ إِلَّا لِمَعَانِ الْخَيْلِ .

(۱۹۸۹۰) حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے دریائے بلخ کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا کہ زندگی تو بس گھوڑوں کی چمک کے ساتھ ہے۔

(۱۹۸۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَيْنَدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِئَةِ كُلِّهَا مَخْطُومَةٌ .

(مسلم ۱۵۰۶ - احمد ۱۲۱)

(۱۹۸۹۱) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک لگام والی اونٹنی لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یہ اونٹنی میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تجھے اس کے بدلے سات سو اونٹنیاں ملیں گی، وہ سب کی سب با لگام اونٹنیاں ہوں گی۔

(۱۹۸۹۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ نَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : رَفَعَتْ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجْفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ . (بخاری ۳۰۶۸ - ترمذی ۳۰۰۷)

(۱۹۸۹۲) حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد میں اپنا سراٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص نیند کا شکار ہے۔

(۱۹۸۹۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَادُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ .

(۱۹۸۹۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۹۸۹۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مَعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ

فَقُلْتُ : حَدَّثَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَبَابَةُ الْجَنَّةِ ، وَكَانَ

الْحَسَنُ يَقُولُ : زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ : دِينَارَيْنِ وَدِرْهَمَيْنِ وَعَبْدَيْنِ ، وَأَنْتَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

(ابن حبان ۴۶۳۳۔ احمد ۵/۱۵۱)

(۱۹۸۹۴) حضرت صعصعہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی

ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے حضور اقدس ﷺ سے سنی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی

مسلمان اللہ کے راستے میں اپنے مال کے دو حصے خرچ کرتا ہے تو جنت کے فرشتے اسے اپنی طرف بلا تے ہیں۔ حضرت حسن

بصری رضی اللہ عنہ زوجین کا معنی بیان فرماتے کہ اس سے مراد یا تو دو دینار یا دو درہم یا دو غلام یا کوئی سی دو چیزیں ہیں۔

(۱۹۸۹۵) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ

يُبْعَثَ بَعَثْنَا نَدْبَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَمَلَ لَهُ مِنَ الْعِدَّةِ مَا يُرِيدُ ، جَهَّزَهُمْ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْأَعْيُنُ

فَرِحَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ .

(۱۹۸۹۵) حضرت ميمون بن مهران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب کوئی لشکر بھیجنے کا ارادہ کرتے تو لوگوں کو اس کے لیے

جمع فرماتے، جب مطلوبہ مقدار پوری ہو جاتی تو اپنے پاس موجود چیزوں سے انہیں سامان جہاد فراہم کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے

دور میں 'اعطیہ' فرض نہ تھا۔

(۱۹۸۹۶) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلَ الْكَلَامِ قَلِيلَ الْحَدِيثِ ، فَلَمَّا أُمِرَ بِالْقِتَالِ شَمَّرَ ، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَأْسًا .

(۱۹۸۹۶) حضرت سعد بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ زیادہ تر خاموش رہتے اور بہت کم بات فرماتے تھے۔ جب قتال

کا حکم ہوتا تو اس کے لیے مستعد ہو جاتے اور سب لوگوں سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ فرماتے۔

(۱۹۸۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اعْزُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا .

(۱۹۸۹۷) حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرو تندرست رہو گے اور مال

غیبت حاصل کرو گے۔

(۱۹۸۹۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ الْجَنَّةِ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُجِدَّ بِهِ ، وَقَالَ : ارْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرَكَّبُوا ، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيَهُ قَرَسَهُ وَمَلَأَعْتَهُ أَهْلَهُ ، فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ . (ترمذی ۱۶۳۷۔ احمد ۱۳۸ / ۳)

(۱۹۸۹۸) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے بنانے والے کو جو اس کی بناوٹ میں خیر کی نیت رکھے، اس کے چلانے والے کو اور اس کے سیدھا کرنے والے کو۔ تیر چلاؤ اور جانور کی سواری کرو۔ میرے نزدیک تمہارا تیر اندازی کرنا سواری کرنے سے بہتر ہے۔ ہر کھیل مسلمان کے لیے مناسب ہے، البتہ کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو سدھانا اور بیوی سے دل لگی کرنا حق کے کھیل ہیں۔

(۱۹۸۹۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُمَيْرٍ الرَّعِنِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ التَّجِيبِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رِيْحَانَةَ يَقُولُ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَصَبْنَا بَرْدَ لَيْلَةٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْفَرُ الْحُفْرَةَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِيهَا ، وَيَضَعُ تَرْسَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ فِدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : أَبُو رِيْحَانَةَ ، فِدَعَا لِي بِدُونِ دُعَاءِ لِلْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ قَالَ : حُرْمَتِ النَّارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْيُنٍ : عَيْنِ سَهْرَتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعَيْنِ بَكَّتْ ، أَوْ دَمَعَتْ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ .

وَسَكَتَ مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْرٍ ، عَنِ الثَّالِثَةِ ، لَمْ يَذْكُرْهَا . (بخاری ۲۷۴۸۔ احمد ۱۳۳ / ۳)

(۱۹۸۹۹) حضرت ابوریحانہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ ایک جہاد پر نکلے۔ ایک رات بہت شدید سردی تھی سردی کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال تھا کہ گڑھا کھود کر اس میں داخل ہوتے اور اس پر اپنی زین ڈال دیتے۔ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا؟ ایک انصاری آدمی نے کہا کہ میں پہرہ دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس پر اس نے اپنا نسب نامہ بیان کیا تو حضور ﷺ نے اسے خیر کی دعادی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا؟ میں نے کہا میں پہرہ دوں گا۔ حضور ﷺ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں ابوریحانہ ہوں۔ حضور ﷺ نے میرے لیے ان انصاری صحابی کے علاوہ کوئی دعا فرمائی پھر فرمایا کہ تین آنکھیں ایسی ہیں جن پر جنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا۔ راوی محمد بن سیر نے تیسری آنکھ کا ذکر نہیں

کیا۔ (شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری آنکھ وہ ہے جو غیر محرم کو دیکھنے سے جھک گئی)۔

(۱۹۹۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَالْمَعْبِرَةَ بْنِ شَبَلٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانٌ إِذَا قَدِمَ مِنَ الْعَزْوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًا .

(۱۹۹۰۰) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ جب جہاد سے واپس آتے تو قادیسیہؓ پہنچتے اور جب حج سے واپس ہوتے تو جہاد کے لیے مدائن میں قیام فرماتے۔

(۱۹۹۰۱) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ كَلِمَ فِي سَبِيلِهِ ، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرْحِ . (بخاری ۲۳۷۷ - مسلم ۱۳۹۶)

(۱۹۹۰۱) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے راستے میں زخم لگا (اللہ ہر اس شخص کو جانتا ہے جسے اللہ کے راستے میں زخم لگا) قیامت کے دن اس کا زخم اسی حالت میں ہوگا جس دن سے زخم لگا۔

(۱۹۹۰۲) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُدْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

(احمد ۲۰ - ابن حبان ۳۶۲۸)

(۱۹۹۰۲) حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے مجاہد کے سر پر سایہ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سایہ نصیب فرمائیں گے جس شخص نے مجاہد کو جہاد کی تیاری کرائی اس کے لیے مجاہد کی شہادت یا واپس آنے تک اس کے برابر اجر ہے، جس شخص نے کوئی ایسی مسجد بنائی جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔

(۱۹۹۰۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ ، أَنَّ سَهْلًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ ، أَوْ مَكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ . (احمد ۳۸۷۷/۳ - حاکم ۸۹)

(۱۹۹۰۳) حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں مجاہد کی مدد کی، یا مشکل کے وقت میں کسی مقروض کی مدد کی یا مکاتب غلام کی اس کی آزاری کے لیے مدد کی تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔

(۱۹۹.۴) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَطَرَ صَانِمًا ، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا ، أَوْ حَاجًّا ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا . (ترمذی ۸۰۷ - احمد ۳ / ۱۱۳)

(۱۹۹۰۳) حضرت خالد بن ولیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو تیار کرایا یا کسی حاجی کا انتظام کیا یا ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا خیال رکھا تو اس کے لیے ان کے اجر کے برابر اجر ہوگا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

(۱۹۹.۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرِ الْعَقِيلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي : الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَسْغُلْهُ رِقُّ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ وَفَقِيرٌ مَتَّعِفٌ ذُو عِيَالٍ .

(ترمذی ۱۶۵۲ - احمد ۲ / ۳۲۵)

(۱۹۹۰۵) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان تین لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ایک شہید، دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کی خدمت کے باوجود اپنی رب کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے اور تیسرا وہ نادار جو اہل و عیال والا ہو لیکن کسی سے سوال نہ کرے۔

(۲) مَا قَالُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ أَجِبُ هُوَ؟

کیا جہاد کرنا واجب ہے

(۱۹۹.۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : كَانَ مَكْحُولٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ : إِنَّ الْغَزْوَ لَوَاجِبٌ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنْ شِئْتُمْ زِدْنِيكُمْ .

(۱۹۹۰۲) حضرت معمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکحول نے قبلہ کی طرف رخ کر کے دس مرتبہ قسم کھائی، پھر فرمایا کہ جہاد تم پر واجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اس سے زیادہ بھی قسم کھا سکتا ہوں۔

(۱۹۹.۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِي دَاوُدُ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : قَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْغَزْوَ لَوَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، قَالَ : فَسَكَتَ ، قَالَ : فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ لَوْ أَنْكَرَ مَا قُلْتُ لَبِئْسَ لِي ، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : تَجَهَّزْتُ؟ لَا يَنْهَرُنِي إِلَّا ذَلِكَ حَتَّى رَابَطْتُ ، قَالَ : قَدْ أَجْرَأْتُ عَنْكَ .

(۱۹۹۰۷) حضرت داؤد بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیبؓ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جہاد تمام لوگوں پر واجب ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش رہے۔ میں جانتا تھا کہ اگر انہیں میری بات سے اختلاف ہوگا تو وہ اسے ضرور ظاہر کریں گے۔ میں

نے پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے جہاد کے لیے تیاری کر لی ہے اور میں جہاد کے لیے روانہ ہونے لگا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری ذمہ داریاں انجام دوں گا۔

(۱۹۹۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْغَزْوُ وَاجِبٌ ؟ فَقَالَ : هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا عَلِمْنَا .

(۱۹۹۰۸) حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا جہاد واجب ہے۔ انہوں نے اور حضرت عمرو بن دینار نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے۔

(۱۹۹۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : عُرِيَ الْإِيمَانَ أَرْبَعَةً : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْجِهَادُ وَالْأَمَانَةُ .

(۱۹۹۰۹) حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد چار چیزیں ہیں۔ ① نماز ② زکوٰۃ ③ جہاد ④ امانت۔

(۱۹۹۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِيهِ : الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةٌ أَسْهُمٌ : الصَّلَاةُ سَهْمٌ ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ ، وَالْجِهَادُ سَهْمٌ ، وَالْحَجُّ سَهْمٌ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْمٌ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ . (بزار ۲۹۲۸۔ دارقطنی ۶۲۸)

(۱۹۹۱۰) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے آٹھ حصے ہیں، نماز ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ایک حصہ ہے، جہاد ایک حصہ ہے، حج ایک حصہ ہے، رمضان کا روزہ ایک حصہ ہے، حجے کام کا حکم دینا ایک حصہ ہے، برے کام سے روکنا ایک حصہ ہے۔ وہ شخص نامراد ہے جس کے پاس کوئی نہیں حصہ ہے۔

(۱۹۹۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا أَحْسَسَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا فَلَا يَغْزُونَ .

(۱۹۹۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو بزدلی لاحق ہو تو وہ ہرگز جہاد نہ کرے۔

(۱۹۹۱۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةِ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَشْرِ السَّكْسَكِيِّ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَاتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، مَا لَكَ تَحَجَّجْتَ وَتَعْتَمِرُ وَقَدْ تَرَكْتَ الْغَزْوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَبَلِكُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَيْنِي عَلَى خَمْسٍ : تَعْبُدُ اللَّهَ ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَحُجُّ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ . فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ تَعْبُدُ اللَّهَ ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَحُجُّ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ الْجِهَادُ حَسَنٌ . (بخاری ۸۔ مسلم ۳۲)

(۱۹۹۱۲) حضرت یزید بن بشر سکسکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت ان کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر! کیا بات ہے آپ حج اور عمرہ تو کرتے ہیں لیکن آپ نے

اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تیرا ناس ہو! ایمان کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ باتیں مجھے دوبارہ بتائیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے! تو اللہ کی عبادت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، حج کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے یونہی فرمایا ہے، ان کے بعد پھر جہاد اچھا عمل ہے۔

(۱۹۹۱۳) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْزُو بِنَفْسِهِ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَيَبْرَى أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

(۱۹۹۱۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے اور انہیں سواری پر سوار کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے تھی کہ نماز کے بعد افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔

(۱۹۹۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَانَ ، عَنْ أُمِّةِ الشَّامِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَكْحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيَوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانَهَا . (۱۹۹۱۳) حضرت امیر شامی فرماتے ہیں کہ حضرت مکحول اور حضرت رجاء بن حیوہ لشکر کے پچھلے حصے میں رہتے تھے اور اس سے جدا نہیں ہوتے تھے۔

(۱۹۹۱۵) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْغَالِبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَقْتُولِ .

(۱۹۹۱۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں غالب رہنے والا شہید سے افضل ہے۔

كَمَلُ كِتَابِ الْجِهَادِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ .

کِتَابُ الصَّيْدِ

شکار کے اسلامی آداب و احکام

(۱) مَا قَالُوا فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ؟

کیا کتے کا شکار کیا ہو جا جو رکھنا جائز ہے

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَهُْيُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: (۱۹۹۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلِ الصَّيْطِيُّ، عَنْ بِيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، قَالَ: إِذَا أُرْسِلَتْ كِلَابُكَ الْمُعْلَمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَا إِلَّا أَنْ يَأْكُلْنَ، فَإِنْ أَكَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخْرَى فَلَا تَأْكُلْ. (بخاری ۵۳۸۳۔ ابو داؤد ۲۸۴۲)

(۱۹۹۱۶) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا ہم لوگ کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو بھیجو اور انہیں بھیجتے وقت اللہ کا نام لو تو اس کے لائے شکار کو کھا لو خواہ کتے اس شکار کو مار ڈالیں، اگر وہ اس میں سے کھالیں تو پھر تم اس شکار کو مت کھاؤ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ جس شکار میں سے اس نے خود کھایا ہے اسے اپنے لیے دو چا ہوگا۔ اگر تمہارے کتوں کے ساتھ دوسرے کتے بھی مل جائیں تو پھر بھی اس شکار کو مت کھاؤ۔

(۱۹۹۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبَ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَكَمْ تَذَرِكُ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَوَجِدْتَهُ قَدْ مَاتَ فَكُلْ.

(۱۹۹۱۷) حضرت کھول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑو اور وہ اس میں سے کھالے اور تمہیں اس کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے تو اس میں سے مت کھاؤ اور اگر وہ اس میں سے نہ کھائے لیکن تم اس شکار کو مردہ حالت میں پاؤ تو بھی اس کو کھالو۔

(۱۹۹۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَأَخَذَ الصَّيْدَ فَأَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ قَتَلَ .

(۱۹۹۱۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑ دو اور وہ اس میں سے کھالے تو تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے شکار کو اپنے لیے دبوچا ہے اور اگر وہ اس میں سے نہ کھائے تو تم کھالو کیونکہ اس نے یہ شکار تمہارے لیے کیا ہے خواہ وہ شکار مر جائے پھر بھی کھالو۔

(۱۹۹۱۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ .

(۱۹۹۱۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑو اور وہ اس میں سے کچھ کھالے تو اس شکار کو مت کھاؤ کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے روکا ہے۔

(۱۹۹۲۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ فَأَضْرِبْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ .

(۱۹۹۲۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کتا اپنے شکار کو کھائے تو اسے مارو کیونکہ وہ سدھایا ہوا کتا نہیں ہے۔

(۱۹۹۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَيْسَ بِمُعَلِّمٍ .

(۱۹۹۲۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کتا اپنے شکار کو کھائے تو سدھایا ہوا نہیں ہے۔

(۱۹۹۲۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ .

(۱۹۹۲۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کتا شکار سے کھالے تو اس کو مت کھاؤ۔

(۱۹۹۲۳) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ الطَّلَبِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ ،

فَقَالَ : وَذَمَّهُ وَأَرْسَلَهُ وَأَذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ ، وَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ، مَا لَمْ يَأْكُلْ .

(۱۹۹۲۳) حضرت ابو منہال طائی کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کتے کے گلے میں سے سدھائے ہوئے کتے کی نشانی والا پٹہ ڈالو، اس کو شکار پر چھوڑ دو اور بسم اللہ پڑھو، پھر جو بھی شکار وہ کرے اسے کھالو، البتہ اس نے بھی کھالیا تو مت کھاؤ۔

(۱۹۹۲۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْ .

(۱۹۹۲۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کتا شکار میں سے کھالے تو اسے مت کھاؤ۔

(۱۹۹۲۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، قَالَ : إِنَّمَا أُمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ فَلَا تَأْكُلْ .

(۱۹۹۲۵) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار میں سے کھائے تو اس نے یہ شکار اپنے لیے کیا ہے تمہارے لیے نہیں کیا، اس لیے اسے مت کھاؤ۔

(۱۹۹۲۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ مَيْتَةٌ .

(۱۹۹۲۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شکار سے کتا کھالے وہ مردار ہے۔

(۱۹۹۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ .

(۱۹۹۲۷) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار میں سے کھالے تو تم مت کھاؤ۔

(۱۹۹۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُيَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَشْتُكَ فِي الْبَارِي .

(۱۹۹۲۸) حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو اس کو کھاؤ خواہ وہ شکار کو مار ڈالے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے باز کے بارے میں شک ہے۔

(۱۹۹۲۹) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلْ .

(۱۹۹۲۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کتا اپنے شکار میں سے کھالے تو کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا اس صورت میں شکار کو نہ کھاؤ۔

(۱۹۹۳۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ .

(۱۹۹۳۰) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار میں سے کھالے تو تم اس کو مت کھاؤ۔

(۱۹۹۳۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ .

(۱۹۹۳۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار میں سے کھالے تو اس کو مت کھاؤ۔

(۱۹۹۳۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ .

(۱۹۹۳۲) حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کتے کو روانہ کرتے وقت اللہ کا نام لو تو اس کے شکار کو کھا لو بشرطیکہ وہ خود اس میں سے نہ کھائے۔

(۱۹۹۳۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : صَيْدُ الْكَلْبِ ، إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ .

(۱۹۹۳۳) حضرت شعبی اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کتا اگر اپنے شکار میں سے کھائے تو تم اسے مت کھاؤ۔

(۱۹۹۳۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الصَّخَاكِ ؛ فِي الْكَلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا : فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ ، وَإِنْ قَتَلَ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ .

(۱۹۹۳۳) حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سدھایا ہوا کتا اگر شکار پر چھوڑ داور وہ اس شکار میں سے کھالے تو تم اسے مت کھاؤ اور اگر وہ اسے مار ڈالے لیکن نہ کھائے تو اسے کھاؤ۔

(۱۹۹۳۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَأَكَلَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ مَا عَلَّمْتَهُ .

(۱۹۹۳۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑ داور وہ اس شکار میں سے کھالے تو یہ شکار اس نے اپنے لیے روکا ہے تم اس میں سے مت کھاؤ، کیونکہ جو تم نے اسے سکھایا ہے وہ اس نے نہیں سیکھا۔

(۱۹۹۳۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ بَنِي صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُرْسِلَ الرَّجُلُ صَائِدَهُ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ ، فَلْيَأْكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ . (روایابی ۶۹۸)

(۱۹۹۳۶) حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے شکاری جانور کو چھوڑے اور وہ اس پر اللہ کا نام بھی لے تو اگر اس شکاری جانور نے شکار کو نہ کھایا ہو تب اس میں سے کھالے۔

(۱۹۹۳۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ ، وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيَّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ .

(بخاری ۵۳۷۸ - مسلم ۱۵۳۲)

(۱۹۹۳۷) حضرت ابو ثعلبہ خنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم شکاری لوگ ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑ داور اللہ کا نام لو، اگر وہ شکار کو روک لے تو تم اسے کھاؤ، میں نے کہا خواہ وہ اسے مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ اسے مار ڈالے۔

(۲) مِنْ رَخَّصَ فِي أَكْلِهِ وَأَكَلَهُ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر شکاری کتا شکار میں سے کھالے تو

پھر بھی اسے کھا سکتے ہیں

(۱۹۹۳۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ، قَالَ : كُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ .

(۱۹۹۳۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار میں سے کھا بھی لے تو پھر بھی اسے کھالو۔

(۱۹۹۳۹) حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَعِيدٍ وَسَلْمَانَ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا إِذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَيْدِهِ .

(۱۹۹۳۹) حضرت ابو جعفر، حضرت سعد اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہم اس بات کو جائز قرار دیتے تھے کہ اگر شکاری کتا شکار میں سے کچھ کھا لے تو پھر بھی اس میں سے کھایا جاسکتا ہے۔

(۱۹۹۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قُلْتُ إِنَّ لَنَا كِلَابًا ضَوَارِيَ نُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ فَتَأْكُلُ وَتَقَطُّعُ ، فَقَالَ : وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا بَضْعَةٌ .

(۱۹۹۴۰) حمید بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہمارے شکاری کتے ہیں، ہم انہیں شکار پر چھوڑتے ہیں، وہ اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں تو کیا ہمارے لیے اس کو کھانا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اس میں سے کھالو خواہ وہ صرف ایک ٹکڑا ہی باقی چھوڑیں۔

(۱۹۹۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يُرْسَلُ عَلَى الصَّيْدِ ، فَقَالَ : كُلُّهُ ، وَإِنْ أَكَلَ نَلْسِيهِ ، فَقُلْتُ : عَنْ مَنْ ؟ قَالَ : عَنْ سَلْمَانَ .

(۱۹۹۴۱) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کتے کو شکار پر چھوڑا جائے اور وہ اس میں سے کھالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے دو ٹکڑے کھائے تو کبھی کھائے پھر بھی تم اس میں سے کھا سکتے ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ بات آپ کس کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔

(۱۹۹۴۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَأَكَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ نَلْسِيهِ .

(۱۹۹۴۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑو اور وہ اس میں سے کچھ کھالے تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو خواہ وہ اس کے دو تہائی حصے کو کھالے۔

(۱۹۹۴۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : إِنْ أَكَلَ نَلْسِيهِ فَكُلْ النَّلْكَ الْبَاقِي .

(۱۹۹۴۳) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار کے دو تہائی حصے کو کھالے تو تم بقیہ ایک تہائی کو کھا سکتے ہو۔

(۱۹۹۴۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُلُّ مَنْ صَيْدَ الْكَلْبِ إِنْ أَكَلَ مِنْ طَرِيدَتِهِ .

(۱۹۹۴۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار کے اکثر حصے کو کھالے پھر بھی تم اسے کھا سکتے ہو۔

(۱۹۹۷۵) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فُكْلًا ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا بَضْعَةٌ .

(۱۹۹۳۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار میں سے کھالے تو تم بھی اس میں سے کھا سکتے ہو خواہ اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا ہی باقی رہے۔

(۲) الْكَلْبُ يُرْسَلُ عَلَى صَيْدِهِ فَيَعْتَقِبُهُ غَيْرَهُ

اگر کوئی آدمی اپنے کتے کو کسی شکار پر چھوڑے اور کوئی دوسرا کتا بھی اس کے پیچھے لگ جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۹۷۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُجَالِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ فَمَا يَجِلُّ لَنَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : يَجِلُّ لَكُمْ (مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمْتُمُ اللَّهَ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قُتِلَ ، قَالَ : وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخْرَى فَلَا تَأْكُلُ حَتَّى تَعْلَمَ ، أَنَّ كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ .

(ابوداؤد ۲۸۳۵ - ترمذی ۱۳۷۰)

(۱۹۹۳۶) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم شکاری لوگ ہیں، ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جن شکاری جانوروں کو تم اللہ کے دیئے ہوئے علم میں سے سکھاؤ تو وہ جس جانور کو تمہارے لیے شکار کریں اس کو کھا لو، بشرطیکہ تم نے اسے روانہ کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا ہو، میں نے عرض کیا خواہ وہ اسے مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں خواہ وہ اسے مار ڈالے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے بھی مل جائیں تو تم اس شکار کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تمہارے کتے نے اسے شکار کیا ہے۔

(۱۹۹۷۷) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ صَيْدِ الْكِلَابِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتْ مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى ، انْطَلَقْتُ أَقْوَدُهَا ؟ قَالَ : أَكُلُّهَا تَقْوُدُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقْوَدُ ، وَمِنْهَا مَا يَبْعِي ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ الصَّيْدَ ، وَخَلَعْتَ كَلْبَكَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَصَادَ ، وَأَمَّا الْكَلْبُ التَّابِعُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَا تَلْبَسْ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ حَيًّا فَتَذْبَحْهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَفْتَرِسَهُ كَلْبٌ لَمْ تُرْسِلْهُ فَذَلِكَ حَرَامٌ .

(۱۹۹۳۷) حضرت جمیل بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کتوں کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا انہیں شکار کے لیے سدھایا گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں! اور میں ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب کتے

تمہارے آگے چلتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں کچھ میرے پیچھے بھی آتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تم کوئی شکار دیکھو اور اپنے کتے کو اس پر چھوڑ دو اور اللہ کا نام لو تو جو شکار وہ کرے وہ کھا لو۔ البتہ اگر تمہارے پیچھے آنے والا کتا بھی شکار کرے تو اسے ان کے ساتھ نہ ملاؤ اگر وہ شکار تمہیں زندہ مل جائے تو اسے ذبح کر لو، اگر تم نے کتے کو نہیں چھوڑا بلکہ اس نے اسے خود شکار کیا اور مار ڈالا تو یہ حرام ہے۔

(۱۹۹۴۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعْلَمَ فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ فَيَجِدُ مَعَهُ كِلَابًا غَيْرَ مُعْلَمَةٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ، أَنْ كَلْبَهُ الْمُعْلَمَ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ شَكَّ فَلَا يَدْرِي لَعَلَّ غَيْرَ الْكَلْبِ شَرَكَهُ فَلَا يَأْكُلْ .

(۱۹۹۴۸) اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑے اور وہ شکار کو پکڑ کر مار ڈالے۔ لیکن یہ آدمی اپنے کتے کے ساتھ کچھ سدھائے کتے دیکھے تو کیا حکم ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ سدھائے ہوئے کتے نے اسے قتل کیا ہے تو اسے کھالے اور اگر اسے شک ہو کہ کسی دوسرے کتے نے اس کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا ہے تو اسے نہ کھائے۔

(۱۹۹۴۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَدَّ الْكَلْبُ الْأَذَى لَيْسَ بِمُعْلَمٍ عَلَى الْكَلْبِ الْمُعْلَمِ صَيْدًا فَقَدْ أَفْسَدَ .

(۱۹۹۴۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بلا سدھایا کتا سدھائے کتے کے ساتھ مل کر شکار کرے تو اس نے شکار کو خراب کر دیا۔

(۴) إِذَا أُرْسِلَهُ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ

اگر کوئی شکاری کتے کو روانہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۹۵۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنِ الرَّجُلِ يُنْسِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى كَلْبِهِ فَيَقْتُلُ ، قَالَ : يَأْكُلُ .

(۱۹۹۵۰) حضرت حجاج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کتے کو روانہ کرتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور کتے نے شکار کو مار ڈالا تو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے کھالے۔

(۱۹۹۵۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيُنْسِي أَنْ يُسَمِّيَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۱۹۹۵۱) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتے کو روانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس میں کوئی

حرن نہیں۔

(۱۹۹۵۲) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُنِّيلَ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(۱۹۹۵۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے کتے کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے۔

(۱۹۹۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَ كَلْبُهُ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلْيَأْكُلْ .

(۱۹۹۵۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کتے کو روانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو پھر بھی شکار کو کھالے۔

(۱۹۹۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَصَفْرَهُ فَيَنْسِي أَنْ يُسَمِّيَ فَيَقْتُلَهُ ، قَالَ : يَا كُمَّلُ .

(۱۹۹۵۴) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کتے یا شکرے کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور اس نے شکار کو مار ڈالا تو وہ اس شکار کو کھا سکتا ہے۔

(۵) إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ثُمَّ سَمِيَ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ

اگر کوئی آدمی شکاری جانور کو روانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا لیکن شکار کے

مرنے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۹۵۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ بِالسَّهْمِ ، وَلَمْ تُسَمِّ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَ الصَّيْدَ ، ثُمَّ سَمَيْتَ ، ثُمَّ قَتَلَهُ فَكُلْ ، وَالْكَلْبُ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۱۹۹۵۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم شکار کی طرف تیر پھینکو اور اس پر بسم اللہ نہ پڑھو اور شکار کے قتل ہونے سے پہلے تمہیں بسم اللہ یاد آ جائے اور تم پڑھ لو پھر شکار ہلاک ہو تو اسے کھا لو۔ کتے کا بھی یہی حکم ہے۔

(۱۹۹۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا انْقَلَبَ الْكَلْبُ وَصَاحِبُهُ لَا يَشْعُرُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا يَطْلُبُ الْكَلْبُ الصَّيْدَ : بِسْمِ اللَّهِ ، فَاصَادَ الْكَلْبُ فَلْيَأْكُلْ .

(۱۹۹۵۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک کے علم کے بغیر کتا شکار کے پیچھے لگ جائے کتے نے شکار کو تلاش کرنے کے بعد اگر شکاری بسم اللہ پڑھ لے اور پھر کتا شکار کرے تو وہ اسے کھا سکتا ہے۔

(۱۹۹۵۷) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ ، أَوْ سَهْمُكَ ، فَسَمَيْتَ أَنْ تُسَمِّيَ ، أَوْ حِينَ تَرْسِلُهُ ، ثُمَّ سَمَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ ، فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُسَمِّيَ حِينَ تَرْسِلُهُ .

(۱۹۹۵۷) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کتے یا تیر کو شکار کی طرف روانہ کرو اور اس وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ۔ پھر بعد میں وہ تیر یا کتا شکار تک پہنچے تو تم اس شکار کو نہیں کھا سکتے۔ اس لیے کہ یہ بات ضروری ہے کہ تم اسے روانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھو۔

(۱۹۹۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي رَجُلٍ رَمَى وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .

(۱۹۹۵۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۹۹۵۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ حَوْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : قُلْتُ : رَمَيْتُ بِحَجْرِي وَنَسَيْتُ أَنْ أُسَمِّيَ ، قَالَ : فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ .

(۱۹۹۵۹) حضرت ابن حرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میں اپنے پتھر کو شکار کی طرف پھینکتے ہوئے اللہ کا نام لینا بھول جاؤں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لو۔

(۶) الرَّجُلُ يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ

اگر کوئی آدمی اپنے کتے کو کسی شکار پر چھوڑے لیکن وہ کوئی دوسرا جانور شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۹۹۶۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۱۹۹۶۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے کتے کو کسی شکار پر چھوڑے اور وہ کوئی دوسرا جانور شکار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۹۹۶۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصِيبُ غَيْرَهُ ، قَالَ : يَأْكُلُ .

(۱۹۹۶۱) حضرت حجاج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر آدمی کسی شکار کی طرف تیر پھینکے اور وہ کسی اور جانور کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے کھا لے۔

(۱۹۹۶۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا وَاسْمَى عَلَيْهِ فَاصَابَ غَيْرَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۱۹۹۶۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے بسم اللہ پڑھ کر کسی جانور پر تیر پھینکا اور وہ کسی دوسرے جانور کو لگ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۹۹۶۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ .

(۱۹۹۶۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۹۹۶۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ يَرْمِي الصَّيْدَ ، وَلَا يَتَعَمَّدُ فَيَصِيبُ أَحَدَهُمَا قَالَ : يَا كُلُّ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ .

(۱۹۹۶۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے شکار کی طرف تیر پھینکا اس نے کسی خاص جانور کے نشانہ نہ باندھا اور وہ کسی ایک کو لگ گیا تو وہ اس کو کھا سکتا ہے، بشرطیکہ اس نے اسے روانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔

(۷) فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمُشْرِكِ

مشرک کے کتے کے شکار کا حکم

(۱۹۹۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي كَلْبِ الْمُشْرِكِ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ كَشْفَرْتِهِ ، قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَصِيدُ بِهِ فَلَا بَأْسَ .

(۱۹۹۶۵) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے مشرک کے کتے کے شکار کو مکروہ قرار دیا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر تم خود اس کے کتے سے شکار کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۹۹۶۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ .

(۱۹۹۶۶) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے مجوسی، یہودی اور عیسائی کے کتے کے شکار کو مکروہ قرار دیا۔

(۱۹۹۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَصِيدُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ .

(۱۹۹۶۷) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مجوسی کے کتے سے نہ تو شکار کر سکتا ہے اور نہ اس کا شکار کھا سکتا ہے۔

(۱۹۹۶۸) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ فَيَصِيدُ بِهِ ، وَلَا يَرَى بِأَسَا أَنْ يَسْتَعِينَ بِكَلْبِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَيَصِيدُ بِهِ .

(۱۹۹۶۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ مسلمان شکار کرنے میں کسی مجوسی کتے سے مدد لے، البتہ ان کے نزدیک یہودی اور عیسائی کے کتے سے مدد لے کر شکار کر سکتا ہے۔

(۱۹۹۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ .

(۱۹۹۶۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے مجوسی کے کتے سے شکار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۱۹۹۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَلْبُهُ كَسِغْتِهِ .

(۱۹۹۷۰) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا کتا اس کی چھری کی طرح ہے۔

(۱۹۹۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْيَهُودِيِّ

وَالنَّصْرَانِيَّ وَذَبَابِهِمْ ، وَلَا خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمُجُوسِ وَذَبَابِهِمْ .

(۱۹۹۷۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کا شکار اور ذبیحہ حلال ہے۔ البتہ مجوسی کے شکار اور ذبیحہ میں کوئی خیر نہیں۔

(۱۹۹۷۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمُجُوسِ وَلَا بَازِهِ ، وَلَا فِي كَلْبِهِ .

(۱۹۹۷۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجوسی کے شکار، اس کے باز اور اس کے کتے میں خیر نہیں۔

(۱۹۹۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا صَيْدَ كَلْبِ الْمُجُوسِ .

(۱۹۹۷۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے مجوسی کے کتے کے شکار کو مکروہ قرار دیا۔

(۱۹۹۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَهَيَّرَ الرَّجُلُ

كَلْبَ الْمُجُوسِيِّ ، أَوْ النَّصْرَانِيِّ ، أَوْ الْيَهُودِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ وَيَقُولُ : مَا عَلَّمْتُمْ أَنْتُمْ .

(۱۹۹۷۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ مسلمان کسی مجوسی، عیسائی اور یہودی سے اس کا کتا مانگ کر اس سے

شکار کرے۔ وہ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت (وما علمتم) پڑھتے کہ اس میں مسلمانوں کو خطاب ہے۔

(۱۹۹۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمُجُوسِيِّ .

(۱۹۹۷۹) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے مجوسی کے کتے کے شکار کو مکروہ قرار دیا۔

(۱۹۹۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمُجُوسِيِّ .

(۱۹۹۸۱) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے مجوسی کے شکار کو مکروہ قرار دیا۔

(۱۹۹۸۲) سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَكْرَهُ صَيْدَ كَلْبِ الْمُجُوسِيِّ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ .

(۱۹۹۸۳) حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجوسی کا کتا جب تک مسلمان سے تعلیم نہ لے تو اس کا شکار مکروہ ہے۔

(۸) فی صید طیر المجوسی

مجوسی کے شکاری پرندے کے شکار کا بیان

(۱۹۹۸۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمُجُوسِيُّ يُرْسِلُ إِلَى بَازِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

(۱۹۹۸۵) حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

(۱۹۹۸۶) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طَيْرِ الْمُجُوسِيِّ ، قَالَ : لَا يُؤْكَلُ .

(۱۹۹۸۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجوسی کے پرندے کا شکار نہ کھایا جائے گا۔

(۱۹۹۸۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَقْرِهِ وَبَارِزِهِ .

(۱۹۹۸۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجوسی کے شکرے اور باز کے شکار کو مکروہ قرار دیا۔

(۱۹۹۸۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا خَيْرَ فِي صَقْرِهِ ، وَلَا فِي بَارِزِهِ .

(۱۹۹۸۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجوسی کے شکرے اور باز کا شکار مکروہ ہے۔

(۱۹۹۸۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَقْرِهِ وَبَارِزِهِ .

(۱۹۹۸۲) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجوسی کے شکرے اور باز کا شکار مکروہ ہے۔

(۹) الرَّجُلُ يَأْخُذُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ وَمَا جَاءَ فِيهِ ؟

اگر کوئی آدمی شکار کو پکڑے اور اس میں زندگی کی رمتق موجود ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۱۹۹۸۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذْتَ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلُهُ .

(۱۹۹۸۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکار کو پکڑو اور اس میں زندگی کی رمتق موجود ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں مرجائے تو اسے مت کھاؤ۔

(۱۹۹۸۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَمَى دُبْسِيًّا بِحَجَرٍ فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ يُعَالِجُهُ بِقَدُومٍ مَعَهُ لِيَذْبَحَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهُ فَالْقَاهُ .

(۱۹۹۸۴) حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ایک کبوتر کو پتھر مارا اور اسے گرا دیا، انہوں نے اسے پکڑ کر اپنے پاس موجود ایک تیشہ اس کی گردن پر پھیرا تا کہ اسے ذبح کر دیں لیکن وہ ان کے ذبح کرنے سے پہلے مر گئی تو انہوں نے اسے پھینک دیا۔

(۱۹۹۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي تَخْلِيصِ الصَّيْدِ فَسَبَقَكَ بِنَفْسِهِ فَلَا بُاسَ أَنْ تَأْكُلَهُ ، وَإِنْ تَرَبَّصْتَ بِهِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلَهُ .

(۱۹۹۸۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکار تک پہنچنے کی کوشش کرو اور وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے مرجائے تو اس کھانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر تم اسے پکڑ لو اور تمہیں ذبح کرنے کا موقع بھی ملے لیکن تم اس کو ذبح نہ کرو تو اب اسے مت کھاؤ۔

(۱۹۹۸۶) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَيَدْعُ الْكَلْبَ حَتَّى يَقْتُلَهُ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ .

(۱۹۹۸۶) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی شکار کو پہنچے اور اس میں زندگی کی

رتم موجود ہو لیکن اس کا کتا اسے مار ڈالے تو اس شکار کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے مت کھائے۔

(۱۹۹۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ ، فَأَذْرَكَ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَصَاتَ فِي يَدَيْهِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْكَلْبُ مُكَلَّبًا فَلْيَأْكُلْ .

(۱۹۹۸۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنے کتے کو شکار پر چھوڑا، جب آدمی شکار تک پہنچا تو اس میں زندگی کی رتم باقی تھی لیکن وہ اس کے ہاتھ میں مر گیا اب اگر اس کا کتا سدھایا ہوا تھا تو وہ آدمی اسے کھا سکتا ہے۔

(۱۰) الرَّجُلُ يُرْسِلُ الْكَلْبَ وَيَسْمِيْهِ وَلَمْ يَرِ صَيْدًا

اگر کوئی شکار کو دیکھے بغیر کتے کو روانہ کر دے اور بسم اللہ بھی پڑھ لے

(۱۹۹۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيَسْمِيْهِ ، وَلَا يَرِي صَيْدًا فَإِذَا صَادَ أَكَلَهُ .

(۱۹۹۸۸) حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شکار کو دیکھے بغیر اپنے کتے کو روانہ کر دے اور کتا شکار کر لے تو اس شکار کو کھالے۔

(۱۹۹۸۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنِ الْكِلَابِ تَنَفَّلَتْ مِنْ مَرَابِطِهَا فَتَقْتُلُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
(۱۹۹۸۹) حضرت حجاج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے ان کتوں کے قتل کے بارے میں سوال کیا جو اپنے باندھے جانے کی جگہ سے بھاگ جائیں اور شکار کر لیں تو اس کا شکار کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں۔

(۱۱) مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ؟

کتوں کو شکار پر چھوڑتے وقت کیا کہا جائے؟

(۱۹۹۹۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا بِكِلَابٍ فَلَقِينَا ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِذَا أَرْسَلْتُمُوهُ فَسَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا وَقُولُوا : اللَّهُمَّ اهْدِ صُدُورَهَا .

(۱۹۹۹۰) حضرت معروف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کو لے کر نکلے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہماری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتوں کو روانہ کرو تو بسم اللہ پڑھو اور یہ کہو: (ترجمہ) اے اللہ ان کے دلوں کو درست راستہ دکھا۔

(۱۹۹۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا أَرْسَلَ كِلَابَهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ صُدُورَهَا .

(۱۹۹۹۱) حضرت عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد جب اپنے کتوں کو شکار کے لیے روانہ کرتے تو یہ دعا وہ کرتے

تھے (ترجمہ) اے اللہ! ان کے دلوں کو سیدھا راستہ دکھا۔

(۱۲) الْكَلْبُ يَشْرَبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ

اگر کتا شکار کا خون پی لے تو کیا حکم ہے؟

(۱۹۹۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مَا عَلَّمْتَهُ .

(۱۹۹۹۲) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار کا خون پی لے تو اس کا شکار مت کھاؤ کیونکہ جو تم نے اسے سکھایا ہے وہ اس نے نہیں سیکھا۔

(۱۹۹۹۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَكُلْ .

(۱۹۹۹۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتا اگر شکار کا گوشت کھائے تو اسے مت کھاؤ لیکن اگر وہ خون پیئے تو کھا سکتے ہو۔

(۱۹۹۹۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَلَا تَأْكُلُ .

(۱۹۹۹۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتا اگر شکار کا گوشت کھائے تو تم اسے نہ کھاؤ اور اگر وہ اس کا خون پیئے تو اسے کھا لو۔

(۱۹۹۹۵) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَكُلْ وَإِنْ شَرِبَ فَكُلْ .

(۱۹۹۹۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتا اگر شکار کا گوشت کھائے تو اسے پھر بھی کھا لو اور اگر وہ اس کا خون پی لے تو پھر بھی کھا لو۔

(۱۳) فِي صَيْدِ الْبَاذِي ، مَنْ لَمْ يَرَبِهِ بِأَسَا

جن حضرات کے نزدیک باز کا شکار بھی جائز ہے

(۱۹۹۹۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِي الطَّيْرِ وَالْبَرَاةِ وَالصَّفُورِ وَغَيْرِهَا ، وَمَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَهُوَ لَكَ ، وَمَا لَمْ تَدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ .

(۱۹۹۹۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پرندوں، بازوں یا شکاریوں کے ذریعے کئے گئے شکار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس شکار کو ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو کھا لو اور اگر ذبح نہ کر سکو تو پھر نہ کھاؤ۔

(۱۹۹۹۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْكَلْبُ وَالْبَاذِي شَيْءٌ وَاحِدٌ ، كُلُّ صَبُودٍ .

(۱۹۹۹۷) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتا، ہویا یا باز سب کا ایک حکم ہے یہ سب شکاری ہیں۔

(۱۹۹۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ ، قَالَ : قَالَ خَيْمَةُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ: هَذَا مَا قَدْ أَثَبْتُ لَكَ، إِنَّ الصَّقُورَ وَالْبَازِيَّ مِنَ الْجَوَارِحِ.

(۱۹۹۹۸) حضرت خثیمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شکار اور باز سب شکاری ہیں۔

(۱۹۹۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ وَهَيْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَرِ بِأَسَا بَصِيدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ.

(۱۹۹۹۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہما باز اور شکرے کے شکار میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۰۰۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّقْرِ وَالْبَازِي هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ.

(۲۰۰۰۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ باز اور شکار کتے کی طرح ہیں۔

(۲۰۰۰۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ مُجَاهِدٍ: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ قَالَ: مِنَ الطَّيْرِ وَالْكَلابِ.

الطَّيْرِ وَالْكَلابِ.

(۲۰۰۰۱) حضرت مجاہد نے آیت قرآنی ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ کی تفسیر میں پرندوں اور کتوں کا ذکر کیا ہے۔

(۱۴) الْبَازِي يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ

اگر باز اپنے شکار میں سے کھالے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۰۰۲) حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ بَنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَيْدِ الْبَازِي، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ. (ابوداؤد ۲۸۳۵ - احمد ۳/ ۲۵۷)

(۲۰۰۰۲) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے باز کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ

نے فرمایا: کہ باز تمہارے لیے جو شکار کرے اسے کھاو۔

(۲۰۰۰۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: إِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ.

(۲۰۰۰۳) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ باز اگر شکار میں سے کھائے تو تم مت کھاؤ۔

(۲۰۰۰۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ مَنْ صَدَّ

الْبَازِي، وَإِنْ أَكَلَ.

(۲۰۰۰۴) حضرت جابر اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ باز کا شکار کھاؤ خواہ اس نے خود اس میں سے کھایا ہو۔

(۲۰۰۰۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الصَّقْرِ وَالْكَلابِ: إِنْ أَصَابَ مِنْهُ، أَوْ أَكَلَ مِنْهُ

فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ.

(۲۰۰۰۵) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ اگر باز اپنے شکار میں سے کھائے پھر بھی تم اس کو کھاو۔

(۲۰۰۰۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنِ الصَّخَاكِ فِي الْكَلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا، أَوْ

البازی فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۶) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ سدھایا ہوا کتا یا باز شکار میں سے کچھ کھالے تو تم نہ کھاؤ۔

(۲۰۰۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الشَّيْكَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا نَتَفَ الطَّيْرَ ، أَوْ أَكَلَ فَكُلْ ، فَإِنَّمَا تَعْلِمُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ .

(۲۰۰۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر شکاری پرندہ شکار کو نوچے یا کھائے تو تم بھی اس میں سے کھا لو کیونکہ اس کی تعلیم بس اتنی ہے کہ وہ تمہارے پاس واپس آئے۔

(۲۰۰۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ صَقْرَكَ ، أَوْ بَازِيكَ ، ثُمَّ دَعَوْتَهُ فَأَتَاكَ فَذَكَ عِلْمُهُ ، فَإِذَا أُرْسِلَتْ عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلَ فَكُلْ .

(۲۰۰۸) حضرت عامر اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے شکرے یا باز کو شکار پر چھوڑو، پھر تم اسے بلاؤ اور وہ تمہارے پاس آ جائے تو اس کی تعلیم یہی ہے، ایسے پرندے کو جب تم شکار پر چھوڑو اور وہ اس میں سے کھالے تو تم بھی اسے کھا سکتے ہو۔

(۲۰۰۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ أَوْ بَازِيكَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ ثَلَاثَةً .

(۲۰۰۹) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کتے یا باز کو شکار پر چھوڑو تو اس کا شکار کھاؤ خواہ اس کا دو تہائی کھالیا ہو۔

(۲۰۱۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْبُازُ ، أَوْ الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلُ .

(۲۰۱۰) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اگر باز یا شکار میں سے کھائے تو اسے نہ کھاؤ۔

(۲۰۱۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءِ بْنِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ : يَا كَلْبُ ، قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ : كُلْ .

(۲۰۱۱) حضرت حسن اور حضرت عطاء سے باز اور شکار کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر وہ شکار میں سے کھالیں تو کیا حکم ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا کہ ایسی صورت میں مت کھاؤ۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ کھاؤ۔

(۲۰۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَصِيدَ الْفُهَيْدِ بَأْسًا .

(۲۰۱۲) حضرت طاووس چیتے کے شکار کو جانتے سمجھتے تھے۔

(۲۰۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَارٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْفُهَيْدُ مِنَ الْجَوَارِحِ .

(۲۰۱۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چیتا شکاری جانور ہے۔

(۲۰۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفُهَيْدِ .

(۲۰۱۴) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ چیتے کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۵) حَدَّثَنَا رَوَادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفُهْدِ .

(۲۰۱۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ چیتے کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۶) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْفُهْدُ وَالشَّاهِينُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ .

(۲۰۱۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چیتا اور شاہین کتے کی طرح ہیں۔

(۲۰۱۷) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ وَالْفُهْدِ إِذَا

أَكَلَ مِنْهُ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَاذِي إِذَا أَكَلَ لِأَنَّ الْكَلْبَ وَالْفُهْدَ يَضْرِبَانِ وَالْبَاذِي لَا يَضْرِي .

(۲۰۱۷) حضرت ابراہیم اس شکار کو مکروہ قرار دیتے تھے جس میں سے کتیا چیتا کھالے، لیکن اگر باذی کھائے تو اس میں کوئی حرج

نہیں سمجھتے تھے کیونکہ کتا اور چیتا شکار کھانے کے شوقین ہیں جبکہ باذی نہیں۔

(۱۵) فِي صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكِ

مجوسی کی شکار کردہ مچھلی کا حکم

(۲۰۱۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكِ .

(۲۰۱۸) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجوسی کی شکار کردہ مچھلی میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلُّ السَّمَكِ ، لَا يَضْرُكُ مَنْ صَادَهُ .

(۲۰۱۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مچھلی کھا لو اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ اسے کس نے شکار کیا ہے۔

(۲۰۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْجِحْتَانُ .

(۲۰۲۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مجوسی کے شکار میں سے سوائے مچھلی کے اور کچھ نہ کھایا جائے گا۔

(۲۰۲۱) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زَيَْادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلُّ صَيْدِ الْبُحْرِ مَا صَادَهُ الْيَهُودِيُّ

وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ .

(۲۰۲۱) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ سمندر کی چیزوں میں یہودی، عیسائی اور مجوسی کا شکار کھالو۔

(۲۰۲۲) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكِ .

(۲۰۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجوسی کی شکار کردہ مچھلی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۲۳) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُلُّ مَنْ

صَيْدَ الْمَجُوسِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ لِلسَّمَكِ .

(۲۰۲۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مجوسی، عیسائی اور یہودی کی شکار کردہ مچھلی کھالو۔

(۲۰۰۲۴) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرِيَا بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ .

(۲۰۰۲۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین مجوسی کی شکار کردہ مچھلی میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۰۰۲۵) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ السَّمَكَ ، قَالَ : صَيْدُهُ ذَرِكِيُّ .

(۲۰۰۲۵) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے مجوسی کی شکار کردہ مچھلی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا شکار زبح کرنے کی طرح ہے۔

(۲۰۰۲۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَادٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ يَعْنِي لِلسَّمَكِ .

(۲۰۰۲۶) حضرت حماد مجوسی کی شکار کردہ مچھلی کو جائز قرار دیتے تھے۔

(۲۰۰۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ .

(۲۰۰۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مجوسی کے شکار میں سے مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ۔

(۲۰۰۲۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ .

(۲۰۰۲۸) حضرت عطاء اور حضرت نخعی مجوسی کی شکار کردہ مچھلی میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۰۰۲۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُؤْكَلُ صَيْدُهُمْ فِي الْبَحْرِ ، وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُمْ فِي الْبَرِّ .

(۲۰۰۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجوسی کا سمندر کا شکار کھایا جائے گا خشکی کا شکار نہ کھایا جائے گا۔

(۱۶) مَنْ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيِّ

جن حضرات نے مجوسی کے شکار کو مکروہ قرار دیا ہے

(۲۰۰۳۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ .

(۲۰۰۳۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجوسی کی شکار کردہ مچھلی کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۰۳۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ فَكَرِهَهُ .

(۲۰۰۳۱) مالک بن معول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے مجوسی کی شکار کردہ مچھلی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

اسے کمزور قرار دیا۔

(۲۰۰۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ سَمَى ،
أَوْ لَمْ يَسْمَ .

(۲۰۰۲۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مجوسی کا شکار نہ کھاؤ خواہ وہ لہم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔

(۱۷) الرَّجُلُ يَرْمِي الصَّيْدَ وَيَغِيبُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِدُ سَهْمَهُ فِيهِ

اگر کوئی شکار کی طرف تیر مارے لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، بعد میں اسے اپنا تیر

جانور کو لگا ہوا ملے کیا حکم ہے؟

(۲۰۰۲۳) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْتَبٍ ، فَقَالَ : إِنِّي رَمَيْتُ ارْتَبًا فَأَعْجَزَنِي طَلَبُهَا حَتَّى أَدْرَكَنِي اللَّيْلُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَوَجَدْتُهَا وَفِيهَا سَهْمِي ، فَقَالَ : أَصْمَيْتَ ، أَوْ أَنْمَيْتَ ؟ قَالَ : لَا بَلْ أَنْمَيْتَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّيْلَ خَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَظِيمٍ ، لَا يَقْدَرُ قَدْرَهُ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ لَعَلَّهُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهَا شَيْءٌ أَنْبَدَهَا . (ابو داؤد ۳۸۳)

(۲۰۰۲۳) حضرت ابو رزین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس ایک خرگوش لایا اس نے کہا کہ میں نے ایک خرگوش کو تیر مارا، میں اسے تلاش نہ کر سکا یہاں تک کہ رات ہو گئی، صبح وہ خرگوش مجھے مل گیا اور اس میں میرا تیر تھا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اسے اسی وقت مار دیا تھا یا وہ بعد میں کسی اور عارض سے مرا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، وہ بعد میں مرا تھا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ رات اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اس کی حقیقت سوائے اس کے خالق کے کوئی نہیں جان سکتا، شاید اس خرگوش کو کسی اور چیز نے مارا ہو اس لیے اسے پھینک دو۔

(۲۰۰۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْهُ . (بيهقي ۲۴۱)

(۲۰۰۲۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۰۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي ، ثُمَّ أَجِدُ سَهْمِي فِيهِ مِنَ الْغَدِ أَعْرِفُهُ ، قَالَ : أَمَا أَنَا فَكُنْتُ أَكَلُهُ .

(۲۰۰۲۵) زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک جانور کو تیر ماروں اور وہ مجھ سے غائب ہو جائے، اگلے دن وہ مجھے ملے اور اس میں میرا تیر ہو تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو

الدرداء جڑیوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ہو تو میں کھا لوں گا۔

(۲۰۰۳۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُدَيْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ عَبْدُ أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصِمِّي وَأُنْمِي ، فَقَالَ : مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ .

(۲۰۰۳۶) ایک حبشی غلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اگر میں کسی جانور پر تیر چلاؤں اور میں اسے اپنے تیر سے ہلاک کر دوں یا تیر لگنے کے بعد وہ کسی اور جگہ سے ہلاک ہو تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارا تیر لگنے سے ہلاک ہو تو کھا لو اور اگر بعد میں ہلاک ہو تو اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ . (۲۰۰۳۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۰۳۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا رَمَى ، ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ مِنَ الْعِدِّ فَلْيَاكُلْ .

(۲۰۰۳۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ اگر آدمی شکار کو تیر مارے اور اگلے دن اپنا تیر اس میں لگا دیکھے تو اسے نہ کھائے۔

(۲۰۰۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : فَإِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَعً فَاكُلْ .

(۲۰۰۳۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شکار کو تیر مارے اور وہ غائب ہو جائے تو اب اگر وہ اسے پانی میں، یا پہاڑ سے گرا ہوا یا کسی درندے کا روند ا ہوا نہ پائے تو کھالے۔

(۲۰۰۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ مِنَ الْعِدِّ فَعَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ .

(۲۰۰۴۰) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر تم اگلے دن شکار میں اپنا تیر لگا پاؤ تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۰۴۱) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا غَابَ عَنْكَ لَيْلَةً ، وَإِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ مِنَ الْعِدِّ فَعَرَفْتَهُ ، فَلَا تَأْكُلْ .

(۲۰۰۴۱) حضرت مکحول فرمایا کرتے تھے کہ شکار اگر رات کو تم سے غائب ہو جائے اور اگلے دن تم اپنا تیر اس میں لگا دیکھو اور اسے پہچان لو تو اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۴۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَغَابَ عَنْكَ لَيْلَةً فَمَاتَ فَوَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ .

(۲۰۰۴۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم شکار کو تیر مارو اور وہ تم سے غائب ہو کر مر جائے تو تم اس میں اپنا تیر بھی دیکھو تو اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۴۳) حَدَّثَنَا عَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي ، ثُمَّ أَحِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : سَعِيدٌ : إِنْ وَجَدْتَهُ وَكَيْسَ فِيهِ إِلَّا سَهْمَكَ فَكُلْ ، وَإِنْ لَا فَلَا تَأْكُلْ .

(۲۰۰۴۳) حضرت حبیب بن ابی عمرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ میں اگر شکار کو تیر ماروں اور وہ مجھ سے غائب ہو جائے اور پھر بعد میں مل جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر اس میں صرف تمہارے تیر کا نشان ہو تو کھا لو اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو مت کھاؤ۔

(۲۰۰۴۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَدْنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَضِي آثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيْتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَّا كَلُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ ، أَوْ قَالَ : يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ . (بخاری ۵۳۸۳۔ مسلم ۱۵۳۱)

(۲۰۰۴۴) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شکار پر تیر چلاتا ہے اور دو تین دن تک اسے تلاش کرتا ہے، وہ شکار اسے مردہ حالت میں ملتا ہے اور تیر اس میں پیوست ہوتا ہے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر چاہے تو اسے کھا سکتا ہے۔

(۲۰۰۴۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ أَرْمِيهِ فَأَطْلُبُ الْآثَرَ بَعْدَ لَيْلَةٍ؟ قَالَ : إِذَا وَجَدْتَهُ سَهْمَكَ فِيهِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبْعَ فُكُلٍ . (ترمذی ۱۳۶۸۔ احمد ۳۷۷۷/۳)

(۲۰۰۴۵) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اگر میں شکار پر تیر چلاؤں اور وہ اگلے دن ملے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ اگر تمہارا تیر اس میں پیوست ہو اور اس کو کسی درندے نے نہ کھایا ہو تو تم کھا سکتے ہو۔

(۱۸) إِذَا رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ

اگر شکار کو تیر لگے اور وہ پانی میں گر جائے

(۲۰۰۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا رَمَيْتَ طَيْرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنِّي أَخَافُ ، أَنَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَتَرَدَّى فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنِّي أَخَافُ ، أَنَّ التَّرَدَّى الَّذِي أَهْلَكَهُ .

(۲۰۰۴۶) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم شکار کو تیر مارو اور وہ پانی میں گر جائے تو اسے مت کھاؤ، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے پانی نے نہ مار ڈالا ہو اور اگر تم شکار کو تیر مارو اور وہ پہاڑ سے گر جائے تو اسے مت کھاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع نہ ہوئی ہو۔

(۲۰۰۴۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : مِثْلَهُ .

(۲۰۰۴۷) حضرت حسن سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۰۰۴۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي الْمَاءِ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبْعَ فُكُلٍ .

(۲۰۰۴۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شکار کو تیر مارے اور وہ اس سے غائب ہو جائے اگر وہ اسے پانی میں گرا ہوا، یا پہاڑ سے گرا ہوا یا درندے سے محفوظ حالت میں پائے تو کھالے۔

(۲۰۰۴۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي ذِجَاجَةٍ ذُبِحَتْ فَوَقَعَتْ فِي مَاءٍ فَكَّرَهُ أَكْلَهَا .

(۲۰۰۴۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر مرغی کو ذبح کیا جائے اور وہ پانی میں گر جائے تو اس کا کھانا مکروہ ہے۔

(۲۰۰۵۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْتَهُ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلَهُ ، وَإِذَا رَمَيْتَهُ فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَلَا تَأْكُلَهُ .

(۲۰۰۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تم جانور کو پکڑو اور وہ پانی میں گر جائے تو اسے مت کھاؤ اور اگر تم اسے تیر مارو اور وہ پہاڑ سے گر جائے تو بھی اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۵۱) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلَهُ .

(۲۰۰۵۱) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جب شکار پانی میں گر جائے تو اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَارُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ ، وَإِنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَلَا تَأْكُلْ .

(۲۰۰۵۲) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جب شکار پانی میں گر جائے تو اسے مت کھاؤ اور جب پہاڑ سے گر جائے تو بھی اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۵۳) حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ ، عَنِ الصَّخَّانِكِ ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَتَرَدَّ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَاءً فَلَا تَأْكُلَهُ .

(۲۰۰۵۳) حضرت سخاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اسے اس حال میں پاؤ کہ وہ پہاڑ سے نہ گرا ہو اور وہ پانی میں نہ ڈوبا ہو تو اسے کھا

سکتے ہو۔

(۲۰۰۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَسَمَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقٍ فَتَرَدَّى حَتَّى وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ مَيِّتٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ رَمِيهِ أَكَلٌ ، وَإِنْ كَانَ شَكَّ أَنَّهُ مَاتَ مِنَ التَّرَدُّو لَمْ يَأْكُلْ .

(۲۰۰۵۴) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شکاری نے بلندی پر بیٹھے شکار کو تیر مارا اور وہ نیچے آگیا تو اگر وہ جانتا ہو کہ وہ اس کے تیر لگنے سے مرا ہے تو کھالے اور اگر اس کو شک ہو کہ وہ نیچے گرنے سے مرا ہے تو اسے نہ کھالے۔

(۱۹) فِي الرَّجْلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ فَيَبِينُ مِنْهُ الْعَضْو

اگر کوئی بھی آدمی شکار کو تیر مارے اور اس کا عضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۰۵۵) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا حِمَارًا وَحَشَّ فَقَطَعَهَا ، فَقَالَ : دَعُوا مَا سَقَطَ وَذَكُّوا مَا بَقِيَ فَكُلُوهُ .

(۲۰۰۵۵) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شکار حمار وحشی کے پاؤں پر دار کر کے اس کا پاؤں کاٹ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حصہ کٹ گیا ہے اسے پھینک دو اور باقی جانور کو ذبح کر کے کھالو۔

(۲۰۰۵۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَبَانَ عَضْوٌ لَمْ يَأْكُلْ مَا أَبَانَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ .

(۲۰۰۵۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شکار پر دار کرے اور اس کا کوئی عضو کٹ جائے تو کٹے ہوئے عضو کو نہ کھالے باقی کو کھالے۔

(۲۰۰۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَبَانَ عَضْوٌ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ .

(۲۰۰۵۷) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شکار پر دار کرے اور اس کا کوئی عضو الگ ہو جائے تو وہ گرنے ہوئے عضو کو چھوڑ دے اور باقی ماندہ کو کھالے۔

(۲۰۰۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَدْعُ مَا أَبَانَ وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ جَزَلَهُ جَزَلًا فَلْيَأْكُلْهُ .

(۲۰۰۵۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے عضو کو چھوڑ دے اور باقی کو کھالے اگر اسے بری طرح پھاڑ کے رکھ دے پھر بھی کھالو۔

۲۰۰۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
(۲۰۰۵۹) حضرت عطاء سے بھی یہی منقول ہے۔

۲۰۰۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَبَانَ مِنْهُ عَضْوًا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَى مَا بَقِيَ ، وَإِنْ جَزَلَهُ بِأَثْنَيْنِ أَكَلَهُ .

(۲۰۰۶۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر شکار سے کوئی عضو الگ ہو جائے تو اسے چھوڑ دے اور باقی کو ذبح کر کے کھالے، اگر وار نے اسے دو ٹکڑے کر دیا ہو تو پھر بھی کھالے۔

۱۲۰۶۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا ، أَوْ رِجْلًا وَهُوَ حَيٌّ ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : يَأْكُلُهُ ، وَلَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهُ فَيَقْطَعَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلْهُ كُلَّهُ .

(۲۰۰۶۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی شکار کو تیر مارا اور اس کا ہاتھ یا پاؤں توڑ دیا جبکہ جانور زندہ تھا، پھر وہ مر گیا تو اسے کھالے اور اس کے کٹے ہوئے حصے کو نہ کھائے۔ البتہ اگر اس نے اتنا شدید وار کیا کہ اس عضو کے کٹنے ہی مر گیا تو اس صورت میں سارا ہی کھالے۔

۱۲۰۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيْءَ وَيَتَحَامَلُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّأْسُ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَكَلَهُ .

(۲۰۰۶۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شکاری شکار کو کوئی چیز مارے جس سے اس کا عضو ہی الگ ہو جائے تو یہ اس سر سے کھالے اور باقی حصے کو نہ کھائے، اگر اس کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا تو پھر اسے کھالے۔

۱۲۰۶۳) حَدَّثَنَا وَرَيْعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عَضْوٌ فَلَا يَأْكُلُهُ بَعْضُ الْعَضْوِ .

(۲۰۰۶۳) حضرت حسن اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر شکار پروار کیا اور اس کا کوئی عضو کاٹ دیا تو اس عضو کو نہ کھائے۔

(۲۰) المناجل تنصب فتقطع

اگر درانتیاں شکار کے لیے لگائی جائیں اور ان کی زد میں کوئی شکار آجائے تو کیا حکم ہے؟

۲۰۰۶۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقِ سُلَيْلٍ عَنْ صَيْدِ الْمَنَاجِلِ ، قَالَ : إِنَّهَا تَقْطَعُ مِنَ الطَّبَاةِ وَالْحُمْرِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيْءُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو : مَا أَبَانَ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ قَدَعَهُ وَكُلَّ مَا سِوَى ذَلِكَ .

(۲۰۰۶۳) حضرت مسروق نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ درائتوں کے ذریعے شکار کا کیا حکم ہے یہ خفیہ جگہوں میں لگائی جاتی ہیں اور بعض اوقات ہرنوں اور حمار وحشی کے عضو کو کاٹ دیتی ہیں جبکہ جانور زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کے کئے ہوئے عضو کو چھوڑ دو اور باقی حصے کو کھا لو۔

(۲۰۰۶۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنَاجِلِ الَّتِي تُوَضَّعُ فَتَمْرٌ بِهَا فَتَقَطَّعُ مِنْهَا ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ .

(۲۰۰۶۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر درائتیاں لگائی جائیں اور ان سے جانور کا کوئی عضو کاٹ جائے تو اسے کھانا جائز نہیں۔

(۲۰۰۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْحِبَالَةِ ، فَكَانَ فِيهَا حَدِيدَةٌ فَأَصَابَ الصَّيْدُ الْحَدِيدَةَ فَكُلُّهُ ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ ، فَإِنْ لَمْ تَذُرْكَ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُ .

(۲۰۰۶۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر جانور کسی جال میں گرا اور اس میں لوہے کے آلات لگے اور وہ لوہا اس کو چھو گیا تو کھا لو اور اگر لوہا اس کو نہیں چھوا اور تمہیں وہ جانور ذبح کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تو اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۶۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَنَاجِلِ ، وَقَالَ سَلِمٌ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۰۶۷) حضرت عامر نے درائتوں سے شکار کو کمرہ قرار دیا اور حضرت سالم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱) فِي الْمِعْرَاضِ

معراض ۱ کے ذریعے شکار کا بیان

(۲۰۰۶۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَفِيدٌ .

(بخاری ۵۳۷۵ - مسلم ۱۵۲۹)

(۲۰۰۶۸) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے معراض کے ذریعے شکار کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر جانور کو اس کی نوک لگے تو کھا لو اور اگر اس کا عرض لگے تو یہ مردار ہے۔

(۲۰۰۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ . (احمد ۲۵۷ - طبرانی ۱۶۲)

۱ معراض اس تیر کو کہتے ہیں جس کے پر نہ ہوں، یہ برف کو عرض کے اعتبار سے لگتا ہے نوک کی جانب سے نہیں لگتا۔

(۲۰۰۶۹) حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم معراض سے شکار کریں تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ معراض سے شکار کیا گیا صرف وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے جسے تم ذبح کرو۔

(۲۰۰۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مَا قَتَلَ الْمُعْرَاضُ .

(۲۰۰۷۰) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ معراض سے کیا گیا شکار کھا لیتے تھے۔

(۲۰۰۷۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانَ : مَا حَزَقَ الْمُعْرَاضُ فُكْلُ .

(۲۰۰۷۱) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اگر معراض شکار کے اندر گھس جائے تو اسے کھالو۔

(۲۰۰۷۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مَا أَصَابَ الْمُعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَحْزُقَ .

(۲۰۰۷۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ معراض کا شکار اس وقت تک حلال نہیں اس کے جسم کو کاٹ نہ ڈالے۔

(۲۰۰۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْهُ .

(۲۰۰۷۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۰۷۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ فَيْرٍ صَادَهُنَّ بِمِعْرَاضٍ فَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي مِخْلَابِهِ وَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي خَيْطٍ ، فَقَالَ : هَذَا مَا صَدَتْ بِمِعْرَاضٍ ، وَمِنْهَا مَا أَدْرَكَتْ ذَكَاتَهُ ، وَمِنْهَا مَا لَمْ أَدْرِكْ ذَكَاتَهُ ، فَقَالَ : مَا أَدْرَكَتْ ذَكَاتَهُ فُكْلٌ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُهُ .

(۲۰۰۷۴) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحابی رسول حضرت فضالہ بن عبید کے پاس کچھ پرندے لے کر آیا جنہیں اس نے معراض سے شکار کیا تھا۔ ان میں سے بعض اس نے تھیلے میں رکھے تھے اور کچھ دھاگے سے باندھ رکھے تھے۔ اس نے کہا کہ ان میں سے کچھ کو میں نے ذبح کیا ہے اور کچھ ذبح کرنے سے پہلے مر گئے۔ حضرت فضالہ نے فرمایا کہ جنہیں تم نے ذبح کیا ہے انہیں کھالو اور جنہیں تم نے ذبح نہیں کیا انہیں مت کھاؤ۔

(۲۰۰۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَأَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ كَانَا يَأْكُلَانِ مَا قَتَلَ الْمُعْرَاضُ .

(۲۰۰۷۵) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت ابو مسلم خولانی معراض سے کئے گئے شکار کو کھا لیتے تھے۔

(۲۰۰۷۶) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا

رَمَىٰ أَرْبَابًا بَعْضًا فَكَسَرَ قَوَائِمَهَا ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا .

(۲۰۰۷۶) عبید بن سعد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے لاشی سے خرگوش اس طرح شکار کیا کہ اس کے پاؤں بھی توڑ دیئے پھر اسے ذبح کیا تو اسے کھا سکتا ہے۔

(۲۰۰۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنْ نَبَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدْ خَزِقَ .

(۲۰۰۷۷) حضرت خصیف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے معراض کے ذریعے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے تیروں میں سے نہ تھا، اس کا شکار نہ کھاؤ البتہ اگر وہ جانور کی کھال کو چیر دے تو کاٹ سکتے ہیں۔

(۲۰۰۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : إِذَا كُنْتَ أَصَبْتَ بِحَدْوِهِ فَخَزِقَ كَمَا يَخَزِقُ السَّهْمُ فَكُلْ ، فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْرُضِهِ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ .

(۲۰۰۷۸) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے معراض کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تیر کی طرح اس کا نوکیلا حصہ شکار کو لگے تو اسے کھا لو اور اگر یہ عرض کے اعتبار سے لگے اور ذبح نہ کر سکو تو نہ کھاؤ۔

(۲۰۰۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ يُحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَسَا بِنَمَا أُصِيبَ بِالْمِعْرَاضِ .

(۲۰۰۷۹) حضرت سعید معراض کے ذریعے کئے شکار میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۰۰۸۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخَزِقَ .

(۲۰۰۸۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تم معراض کا شکار اس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک وہ اس کی کھال کو کاٹ نہ دے۔

(۲۰۰۸۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخَزِقَ .

(۲۰۰۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معراض اگر جانور کی کھال کو نہ کاٹے تو اس کا شکار مت کھاؤ۔

(۲۰۰۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا مَا خَزِقَ .

(۲۰۰۸۲) حضرت ابراہیم جانور کی کھال نہ کٹنے کی صورت میں معراض کے شکار کو ممنوع قرار دیتے تھے۔

(۲۰۰۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ الْمِعْرَاضَ إِلَّا مَا أَدْرَكَتْ ذَكَاتَهُ .

(۲۰۰۸۳) حضرت قاسم اور حضرت سالم معراض کے شکار کو مکروہ قرار دیتے تھے، البتہ اگر ذبح کا موقع مل جائے تو پھر کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۰۰۸۴) حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ أَبِي يُوَيْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَمَّا الْمِعْرَاضُ فَقَدْ كَانَ نَاسٌ يَكْرَهُونَهُ .

قَالَ: هُوَ مَوْفُودَةٌ وَلَكِنْ إِذَا خَزَقَ.

(۲۰۰۸۴) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ اسلاف معراض سے کئے گئے شکار کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ حضرت کھول فرماتے ہیں کہ معراض اگر جانور کی کھال کو نہ کالے تو یہ جانور مردار ہے۔

(۲۰۰۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتْ الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ وَالْمِعْرَاضُ.

(۲۰۰۸۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا شکار نہ کھاتے تھے۔

(۲۲) فِي الْبُنْدُقَةِ وَالْحَجَرِ يرمى بِهِ فَيَقْتُلُ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ؟

اگر مٹی کی گولی یا پتھر کو شکار پر پھینکا جائے اور شکار مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۲۰۰۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ، أَوْ الْبُنْدُقَةِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ.

(۲۰۰۸۶) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا نام لے کر مٹی کی گولی یا پتھر شکار کی طرف پھینکو تو اس شکار کو کھاؤ خواہ وہ اس کو مار ڈالے۔

(۲۰۰۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتْ الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ.

(۲۰۰۸۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے شکار کردہ جانور نہیں کھاتے تھے۔

(۲۰۰۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا تَنَاكَرَا بِكُرْهَانِ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا أُدْرِكْتَ ذَكَاتُهُ.

(۲۰۰۸۸) حضرت قاسم اور حضرت سالم مٹی کی گولی سے شکار کردہ جانور کو مکروہ قرار دیتے تھے البتہ جسے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۰۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَمِيْسَى بْنِ الْمُغِيْرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمِعْرَاضِ وَالْبُنْدُقَةِ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَا يُفْتِي بِهِ أَهْلُ الشَّامِ، وَإِذَا هُوَ لَا يَرَاهُ.

(۲۰۰۸۹) حضرت عیسیٰ بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے معراض اور مٹی کی گولی سے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اہل شام اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں حالانکہ انہوں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔

(۲۰۰۹۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبَتْ بِالْبُنْدُقَةِ، إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَ.

(۲۰۰۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مٹی کی گولی سے شکار کردہ جانور کو بغیر ذبح کے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۹۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا اصْبَتَ بِالْبِنْدَقَةِ أَوْ بِالْحَجَرِ فَلَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ تَذَكِّيَ .

(۲۰۰۹۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مٹی کی گولی سے شکار کردہ جانور کو بغیر ذبح کے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْكَ حَجْرُكَ فَكُلْ ، وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُهُ وَيَقُولُ : هُوَ مَوْقُودَةٌ .

(۲۰۰۹۲) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ پتھر سے جو شکار کروا سے کھا لو، حضرت عکرمہ اسے مکروہ قرار دیتے اور مردہ کہا کرتے تھے۔

(۲۰۰۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مَجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۰۰۹۳) حضرت مجاہد نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۰۹۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : كُلُّ وَحْشِيَّةٍ أَصَبَتْهَا بَعْضًا ، أَوْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبِنْدَقَةٍ وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلِمًا .

(۲۰۰۹۴) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ہر وہ جنگلی جانور جسے تم لاشی، پتھر یا پانی کی گولی سے شکار کرو اور اس پر اللہ کا نام لو تو اسے کھاؤ۔

(۲۰۰۹۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْحَجْرُ فَلَا تَأْكُلُ .

(۲۰۰۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب پتھر جانور کو مار ڈالے تو اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۹۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْبِنْدَقَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ .

(۲۰۰۹۶) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مٹی کی گولی سے کیا گیا شکار اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک تم اسے ذبح نہ کرو۔

(۲۰۰۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ ، وَبِالْجُلَاهِقَةِ فَلَا تَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ تُذْرِكَ ذَكَاتُهُ .

(۲۰۰۹۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آدمی شکار کو پتھر یا مٹی کی گولی مارے تو اسے اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک اسے ذبح کرنے کا موقع نہ پالے۔

(۲۳) فِي صَيْدِ الْجُرَادِ وَالْحَوْتِ ، وَمَا ذَكَاتُهُ ؟

ٹڈی اور مچھلی کا شکار اور ان کی حلت کی صورت

(۲۰۰۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَزِيدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَرَادُ وَالنُّونُ ذِكْرِي كُلَّهُ فَكُلُوهُ.

(۲۰۰۹۸) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مٹھی اور مچھلی ہر حال میں حلال ہیں اس لیے انہیں کھاؤ۔
(۲۰۰۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
الْحَيْتَانُ ذِكْرِي كُلُّهُمَا وَالْجَرَادُ ذِكْرِي كُلَّهُ.

(۲۰۰۹۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلیاں ساری کی ساری پاک ہیں اور مٹھی ساری کی ساری حلال ہے۔
(۲۰۱۰۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : الْجَرَادُ وَالْحَيْتَانُ ذِكْرِي كُلَّهُ ، إِلَّا مَا
مَاتَ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ.

(۲۰۱۰۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی اور مٹھی ساری کی ساری حلال ہیں البتہ اگر وہ سمندر میں مرجائے تو مردار ہے۔
(۲۰۱۰۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ذِكَاةُ الْحُوتِ
فَلَنْ لَحِيئِهِ.

(۲۰۱۰۱) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کی حلت اس کے جڑوں کو کھولنا ہے۔

(۲۰۱۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذِكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ.

(۲۰۱۰۲) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ مچھلی کی حلت اسے پکڑنا ہے۔

(۲۰۱۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : ذِكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ وَالْجَرَادُ ذِكْرِي.

(۲۰۱۰۳) حضرت ابن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کی حلت اسے پکڑنا ہے اور مٹھی ساری حلال ہے۔

(۴۴) فِي الطَّافِي

وہ مچھلی جو سمندر میں مرجائے اور خراب ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟

(۲۰۱۰۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مَاتَ فِيهِ فَطْفًا فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۱۰۴) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جو مچھلی سمندر میں مرجائے اور خراب ہو جائے اسے مت کھاؤ۔

(۲۰۱۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا

كَرِهَا الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ.

(۲۰۱۰۵) حضرت قتادہ اور حضرت سعید بن مسیب نے سمندر میں مرکز خراب ہونے والی مچھلی کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۱۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَكْرَهُ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا إِلَّا الطَّافِي مِنْهُ.

(۲۰۱۰۶) حضرت خالد بن محمد صرف اس مچھلی کو مکروہ قرار دیتے تھے جو سمندر میں مرکز خراب ہو جائے۔

(۲۰۱۰۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عمرو ، عن أبي الشعثاء قَالَ : يكره الطافي منه ، وكل ما جزره .

(۲۰۱۰۷) حضرت ابوالشعثاء سمندر میں مرکز ہلاک ہونے والی مچھلی کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو تازہ مری ہو اسے کھالو۔

(۲۰۱۰۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَدَيْلِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي آتَى الْبَحْرَ فَأَجِدُهُ قَدْ جَفَلَ سَمَكًا كَثِيرًا ، فَقَالَ : كُلْ مَا لَمْ تَرَ سَمَكًا طَافِيًا .

(۲۰۱۰۸) حضرت عبداللہ بن ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ میں سمندر کے کنارے پر بہت سی مچھلیوں کو گرا ہوا دیکھتا ہوں ، ان کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو مچھلی خراب نہ ہو اسے کھالو۔

(۲۰۱۰۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ .

(۲۰۱۰۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جانور سمندر میں مر جائے وہ مردار ہے۔

(۲۰۱۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتَ فَلَمْ يَرِ بِأَكْلِهِ بَأْسًا .

(۲۰۱۱۰) حضرت ابراہیم نے سمندر میں مرنے والی مچھلی کو مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی مچھلی آدمی کے جال میں پھنس کر مرے تو وہ جائز ہے۔

(۲۰۱۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَوْتِ يُوجَدُ فِي الْبَحْرِ مَيْتًا فَهِيَ عَنْهُ .

(۲۰۱۱۱) حضرت طاووس نے اس مچھلی کے کھانے سے منع کیا جو مردار حالت میں سمندر میں پائی جائے۔

(۲۰۱۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيَّ مِنْهُ .

(۲۰۱۱۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ سمندر میں مرکز خراب ہونے والی مچھلی کھانا مکروہ ہے۔

(۲۰۱۱۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيَّ .

(۲۰۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سمندر میں مرکز خراب ہونے والی مچھلی کھانا مکروہ ہے۔

(۲۵) مَنْ رَخَّصَ فِي الطَّافِيِّ مِنَ السَّمَكِ

جن حضرات نے سمندر میں مرکز خراب ہو جانے والی مچھلی کو کھانے کی اجازت دی ہے

(۲۰۱۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ وَجَدَ سَمَكًا طَافِيًا فَأَكَلَهَا .

(۲۰۱۱۴) حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابویوب نے سمندر میں ایک مچھلی دیکھی جو مرکز خراب ہو چکی تھی انہوں نے

اسے کھالیا۔

(۲۰۱۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بِشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ حَلَالٌ .

(۲۰۱۱۵) حضرت ابن عباس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تم کھا کر نقل کیا کہ پانی کی سطح پر تیرتی مچھلی حلال ہے۔

(۲۰۱۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّمَكِ الطَّافِيِ بَأْسًا .

(۲۰۱۱۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سمندر کے اوپر تیرتی مچھلی کو حلال قرار دیتے تھے۔

(۲۶) مَا قَدَفَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ

اگر سمندر مچھلی کو باہر پھینک دے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۲۰۱۱۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْتُ بِحَوْتٍ قَدْ قَدَفَهُ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، ثُمَّ قَالَ : نَحْنُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُوا فَأَكَلْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيَّ .

(بخاری ۲۴۸۳ - مسلم ۱۷)

(۲۰۱۱۷) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے ہمیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لشکر میں روانہ کیا اس سفر میں ہمارا تو شہ سفر ختم ہو گیا۔ اس اثناء میں ہم نے ایک (بہت بڑی) مچھلی دیکھی جسے سمندر نے باہر پھینک دیا تھا۔ ہم نے اسے کھانے کا ارادہ کیا تو پہلے تو حضرت ابو عبیدہ نے ہمیں منع کر دیا پھر فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس مچھلی کو کھالو۔ چنانچہ ہم نے اسے کھالیا۔ پھر جب ہم واپس آئے تو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس مچھلی کا کچھ حصہ تمہارے پاس ہو تو مجھے بھی دو۔

(۲۰۱۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي السَّمَكِ يَجْزُرُ عَنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ : كُلُّ .

(۲۰۱۱۸) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کو سمندر باہر پھینکے اسے کھالو۔

(۲۰۱۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عمرو ، عن أبي الشعثاء قَالَ : كل ما جزر عنه .

(۲۰۱۱۹) حضرت ابو الشعثاء فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کو سمندر باہر پھینکے اسے کھالو۔

(۲۰۱۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا جَزَرَ عَنْهُ صَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلُّ .

(۲۰۱۲۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کو سمندر باہر پھینکے اسے کھا لو۔

(۲۰۱۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : مَا قَذَفَ الْبَحْرُ فَهُوَ حَلَالٌ .

(۲۰۱۲۱) حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کو سمندر باہر پھینکے وہ حلال ہے۔

(۲۰۱۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِمَا قَذَفَ الْبَحْرُ .

(۲۰۱۲۲) حضرت زید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کو سمندر باہر پھینکے اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَا يَرِيَانِ بِأَكْلِهِ بَأْسًا .

(۲۰۱۲۳) حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کو سمندر باہر پھینکے پھر وہ مرجائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۲۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ قَالَ : مَا لَفَظَ الْبَحْرُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا .

(۲۰۱۲۴) حضرت ابویوب قرآن مجید کی آیت ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں سمندر باہر پھینک دے خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہوں۔

(۲۷) قَوْلُهُ تَعَالَى (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)

(۲۰۱۲۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ مَا لَفَى الْبَحْرُ عَلَى طَهْرِهِ مَيْتًا .

(۲۰۱۲۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی آیت ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مچھلی ہے جسے سمندر مردہ حالت میں باہر پھینک دے۔

(۲۰۱۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا لَفَظَ عَلَى طَهْرِهِ مَيْتًا فَهُوَ طَعَامُهُ .

(۲۰۱۲۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی میں و طعامہ سے مراد وہ مچھلی ہے جسے سمندر باہر پھینک دے۔

(۲۰۱۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : مَا لَفَظَ الْبَحْرُ فَهُوَ طَعَامُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا .

(۲۰۱۲۷) حضرت ابویوب فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی میں (و طعامہ) سے مراد وہ مچھلی ہے جسے سمندر باہر پھینک دے خواہ وہ مردار ہی کیوں نہ ہو۔

(۲۰۱۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَا لِحِهِ .

(۲۰۱۲۸) حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ آیت میں (و طعامہ) سے مراد نمکین مچھلی ہے۔

(۲۰۱۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَعَامُهُ مَا قَدَفَ .

(۲۰۱۲۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت میں (و طعامہ) سے مراد وہ مچھلی ہے جسے سمندر باہر پھینک دے۔

(۲۰۱۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا قَدَفَ .

(۲۰۱۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیت میں (و طعامہ) سے مراد وہ مچھلی ہے جسے سمندر باہر پھینک دے۔

(۲۰۱۳۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَأَلَ عَنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَطَعَامِهِ ، قَالَ : طَعَامُهُ مَا لَفَظَ وَهُوَ حَيٌّ .

(۲۰۱۳۱) حضرت سعید بن مسیب سے سمندر کے شکار اور اس کے طعام کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ زندہ جاندار ہیں جنہیں سمندر باہر پھینک دے۔

(۲۸) الْحَيْتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا

اس مچھلی کا حکم جسے دوسری مچھلی مار ڈالے

(۲۰۱۳۲) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدِ الْجَارِي ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَيْتَانِ تَمُوتُ صَرْدًا ، أَوْ يَقْتُلُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا ، قَالَا : حَلَالٌ .

(۲۰۱۳۲) حضرت سعد جامدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہم سے ان مچھلیوں کے بارے میں سوال کیا جو مردی سے مرجائیں یا دوسری مچھلیوں نے انہیں مار ڈالا ہو۔ دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ حلال ہیں۔

(۲۰۱۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحَوْتَ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْحَوْتُ .

(۲۰۱۳۳) حضرت طاووس اس مچھلی کو مکروہ قرار دیتے ہیں جسے دوسری مچھلی نے مار دیا ہو۔

(۲۰۱۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدِ الْجَارِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا .

(۲۰۱۳۴) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسی مچھلی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۳۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ

رَجُلٍ رَمَى بِشَيْئِهِ فَأَخَذَ سَمَكَةً ، فَجَانَتْ سَمَكَةً أُخْرَى فَضَرَبَتْهَا ، فَذَهَبَتْ بِنِصْفِهَا ، قَالَ : يَا كُلُّ مَا بَقِيَ .

(۲۰۱۳۵) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا پانی میں ڈالے۔ اس میں ایک مچھلی پھنس جائے لیکن دوسری مچھلی آکر اس پر حملہ کرے اور اس کا آدھا حصہ لے جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ باقی حصے کو کھا سکتا ہے۔

(۲۹) بَابُ الرَّجُلِ يَطْعَنُ الصَّيْدَ طَعْنًا

اگر کوئی آدمی شکار کو نیزہ مار کر شکار کرے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۱۳۶) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِبُرَيْدٍ : الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَطْعَنُ الْجِمَارَ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ، أَوْ يَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَذَكَرَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حِينَ يَضْرِبُ ، أَوْ يَطْعَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

(۲۰۱۳۶) حضرت معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت برد سے ذکر کیا اگر ایک آدمی سوار ہو اور کسی جمار کو نیزہ مار دے اور اللہ کا نام بھی لے یا تلوار مارے تو کیا حکم ہے؟ حضرت برد نے حضرت مکحول کا قول سنایا کہ اگر تلوار یا نیزہ مارتے ہوئے اس نے اللہ کا نام لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۳۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَعَنَ صَيْدًا بِرُمُوحِهِ وَسَمَّى ، قَالَ : يَا كَلْبُ .

(۲۰۱۳۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے شکار کو نیزہ مارتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تو اسے کھالے۔

(۲۰۱۳۸) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، قَالَ : لَا يَا كُلُّ مَا يَطْعَنُ بِهِ فِي الْحَلْقِ ، ثُمَّ يَطْعَمُ الْعُرُوقَ ، قَالَ : ذَلِكَ لَيْسَ بِذَبْحٍ وَلَكِنَّهُ الْقَتْلُ .

(۲۰۱۳۸) حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ نیزہ مارنے سے جانور اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک اس کے حلق میں نیزہ مار کر اس کی رگیں نہ کاٹے۔ کیونکہ یہ ذبح نہیں بلکہ قتل ہے۔

(۲۰۱۳۹) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَمَاكِ ، قَالَ : كَانَ الطَّبِيُّ يَمُرُّ بِهِمْ فَيَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ فَيَقْطَعُ هَذَا الْيَدَ وَهَذَا الرَّجْلَ فَسَمِعْتُ مُصْعَبًا بْنِ الزَّبِيرِ يَخْطُبُ وَيُنْهَى عَنْ ذَلِكَ .

(۲۰۱۳۹) حضرت سماک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ہرن لوگوں کے پاس سے گزرتی تو وہ اپنی تلواروں سے اس پر اس طرح وار کرتے کہ اس کا بازو وہاں جاگرتا اور پاؤں ادھر جا پڑتا جب حضرت مصعب بن زبیر کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔

(۳۰) فِي صَيْدِ الْكَلْبِ الْبَهِيمِ

کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کا حکم

(۲۰۱۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ .

(۲۰۱۳۰) حضرت حسن نے کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۱۶۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَشَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۰۱۳۱) حضرت ابراہیم نے کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۱۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَيَقُولُ : أَمْرٌ بِقَتْلِهِ فَكَيْفَ يُؤْكَلُ صَيْدُهُ .

(۲۰۱۳۲) حضرت قتادہ کالے کتے کے شکار کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے تو قتل کا حکم دیا گیا ہے اس کے شکار کو کیے کھایا جاسکتا ہے۔

(۲۰۱۶۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ .

(۲۰۱۳۳) حضرت عروہ نے کالے کتے کے ذریعے شکار کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۳۱) مَا قَالُوا فِي الْإِنْسِيَّةِ تَوْحَشِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ

اگر پالتو جانور جیسے اونٹ گائے وغیرہ وحشی ہو جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟

(۲۰۱۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدِكَ فَهَوَّ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ .

(۲۰۱۳۴) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو جانور تمہارے قابو میں نہ آئیں وہ شکار کی طرح ہیں۔

(۲۰۱۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا نَدَّ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِالْوَحْشِ .

(۲۰۱۳۵) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے وغیرہ تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو جنگلی جانوروں کے ساتھ کرتے ہو۔

(۲۰۱۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الصَّحَّاحِ فِي بَقَرَةٍ شَرَدَتْ ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ .

(۲۰۱۳۶) حضرت صحاح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گائے وحشی ہو جائے تو وہ شکار کی طرح ہے۔

(۲۰۱۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَطَعَنَهُ رَجُلٌ بِالرَّمْحِ فَسَبَّلَ عَلِيُّ عَنْهُ ، فَقَالَ : كُلُّهُ

وَأَهْدِي عَجْزَهُ.

(۲۰۱۳۷) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ وحشی ہو گیا تو ایک آدمی نے اسے نیزہ مار دیا۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھا لو اور (پھر ازراہ مزاح فرمایا کہ) اس کے پچھلے حصہ کا گوشت مجھے بھی بدیہ کرو۔

(۲۰۱۴۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا تَوَخَّشَ الْبُيُورُ أَوْ الْبُقْرَةَ صُنِعَ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِالْوَحْشِيَّةِ .
(۲۰۱۴۸) حضرت ابراہیم اور حضرت شععی فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے وحشی ہو جائیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو وحشی جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(۲۰۱۴۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ .

(۲۰۱۴۹) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایسا جانور شکار کی طرح ہے۔

(۲۰۱۵۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ حِمَارًا وَحْشِيًّا اسْتَعَصَى عَلَى أَهْلِهِ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَنِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : تِلْكَ أَسْرَعُ الذِّكَاةِ .

(۲۰۱۵۰) حضرت زیاد بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ ایک حمار وحشی اپنے عیال کے قابو سے باہر ہو گیا، انہوں نے اس کی گردن پر تلوار مار دی۔ پھر اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جلدی ذبح ہونے والا ہے۔

(۲۰۱۵۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : صَيْدٌ فَكُلُوهُ .

(۲۰۱۵۱) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک حمار وحشی ہو گیا۔ ایک آدمی نے اس کی گردن پر بسم اللہ پڑھ کر تلوار ماری تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شکار ہے اسے کھا لو۔

(۲۰۱۵۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ .
(۲۰۱۵۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۱۵۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ حِمَارًا لِأَهْلِ عَبْدِ اللَّهِ ضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ فَسَنِلَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ : كُلُّوهُ ، إِنَّمَا هُوَ صَيْدٌ .

(۲۰۱۵۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ کے گھر میں ایک حمار کو وحشی ہونے پر ایک آدمی نے اس کی گردن میں تلوار ماری۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھا لو یہ شکار ہے۔

(۲۰۱۵۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ثَوْرًا حَرَبَ فِي بَعْضِ دُورِ الْمَدِينَةِ ، فَضْرَبَهُ رَجُلٌ بِالسَّيْفِ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ : ذِكَاةٌ وَحَيَّةٌ ، وَأَمْرَهُمْ بِأَكْلِهِ .

(۲۰۱۵۳) حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ایک گھر میں ایک نیل وحشی ہو گیا ایک آدمی نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو تلوار ماری۔ اس بارے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہے اور اسے کھالو۔

(۲۰۱۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَدَّ بَعِيرٌ فَضْرَبَهُ رَجُلٌ بِالسَّيْفِ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْبُهَائِمَ لَهَا أَوَابِدٌ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلِبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا .

(بخاری ۲۳۸۸ - مسلم ۲۰)

(۲۰۱۵۵) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ مرکش ہو گیا۔ ایک آدمی نے اسے تلوار ماری۔ اس بات کا آپ ﷺ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پالتو جانور وحشی جانوروں کی طرح بعض اوقات سرکش اور بے قابو ہو جاتے ہیں جو جانور تمہارے بس سے باہر ہو جائیں ان کے ساتھ یونہی کرو۔

(۲۲) السَّمَكُ يَحْظَرُ لَهُ الْحَظِيرَةَ

جال میں پھنس کر مرنے والی مچھلی کا حکم

(۲۰۱۵۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا لَمْ يَرِيَا بَأْسًا بِمَا مَاتَ مِنَ السَّمَكِ فِي الْحَظِيرَةِ .

(۲۰۱۵۶) حضرت ابراہیم اور حضرت حسن اس مچھلی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جو جال میں مر جائے۔

(۲۰۱۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتَ لَمْ يَرَّ بِأَكْلِهِ بَأْسًا .

(۲۰۱۵۷) حضرت ابراہیم پانی میں مرنے والی مچھلی کو مکروہ قرار دیتے تھے، البتہ وہ مچھلی جو آدمی کے جال میں پھنس کر مرے اسے کھالو۔

(۲۰۱۵۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا حَظَرْتُ فِي الْمَاءِ حَظِيرَةً فَمَا مَاتَ فِيهَا فَكُلْ .

(۲۰۱۵۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جو مچھلی تمہارے جال میں پھنس کر مرے اسے کھالو۔

(۲۳) مَنْ قَالَ إِذَا أَنَهَرَ الدَّمَ فَكَلَّ مَا خَلَا سِنًّا، أَوْ عَظْمًا

جو حضرات فرماتے ہیں کہ ناخن اور ہڈی کے علاوہ ہر وہ چیز جو خون بہائے اس سے ذبح

کرنا جائز ہے

(۲۰۱۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّا نَلْقَى الْعُدُوَّ عَدًّا وَكَيْسَ مَعَنَا مَدَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرِنُ ، أَعْجَلُ مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلُّوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا ، أَوْ ظِفْرًا وَسَأَحَدُنْكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ . (بخاری ۵۵۴۳۔ ابو داؤد ۲۸۱۳)

(۲۰۱۵۹) حضرت عبید بن رفاعہ کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کل دشمن سے ہمارا سامنا ہوگا ہمارے پاس کوئی چھری وغیرہ نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے ذبح کرو اور جلدی سے اس کی جان نکالو۔ ہر وہ چیز جو خون بہائے اور خون بہاتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھا لو البتہ دانت اور ناخن کا استعمال نہ کرو۔ میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں ہوں کہ دانت بڑی ہے اور ناخن حبشہ والوں کی چھری ہے۔

(۲۰۱۶۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أُنْسًا أَتَى بِعَصَافِيرٍ فَذَعَا يَلِيْبًا فَذَبَّحَهُنَّ بِهَا .

(۲۰۱۶۰) حضرت ابودریس فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ پرندے لائے گئے انہوں نے بانس کے چھلکے سے انہیں ذبح کیا۔

(۲۰۱۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سُئِلَ عُلْقَمَةَ عَنِ اللَّيْطَةِ يَذُّ بِهَا وَالْمُرْوَةَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا وَقَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ .

(۲۰۱۶۱) حضرت مسیب بن رافع سے نوکیلے پتھر اور بانس کے چھلکے سے ذبح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کوئی حرج نہیں، ہڈی اور ناخن کے علاوہ ہر وہ چیز جو رگیں کاٹ دے اس سے ذبح کیا ہو جانور کھالو۔

(۲۰۱۶۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِذَبْحِ اللَّيْطَةِ ، أَوْ قَالَ : الْقَصَبَةِ . حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ بانس کی چھال یا بانس کے ساتھ ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۶۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : تَدَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الشَّعْنَاءِ مَا يُدْعَى بِـ فَقَالَ : مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ، وَمَا أَفْرَى مَا حَزَّ .

(۲۰۱۶۳) حضرت ابوشعناء کے سامنے جانور کو ذبح کرنے کے آلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز

س کاٹ دے اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔

(۲۰۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجِ وَأَهْرَاقَ الدَّمَ فَكُلَ مَا خَلَا النَّابَ وَالظَّفْرَ وَالْعُظْمَ .

(۲۰۱۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دانت ، ناخن اور ہڈی کے علاوہ ہر وہ چیز جو خون بہائے اسے ذبح کردہ جانور کھالو۔

(۲۰۱۷) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حِيَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى اللَّحْمَ وَقَطَعَ الْأَوْدَاجَ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُمَا مَدَى الْحَبْسَةِ .

(۲۰۱۷) حضرت جعفر بن میمون فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خون بہائے اور رگیں کاٹ دے اس سے ذبح کردہ جانور حلال ہے۔

تہ اسلاف دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کو مکروہ سمجھتے اور انہیں حبشہ والوں کی چھری قرار دیتے تھے۔

(۲۰۱۸) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا ذُكَاةَ إِلَّا بِالْأَسْلِ وَالظُّرِّ ، وَمَا قَطَعَ الْأَوْدَاجَ وَفَرَى اللَّحْمَ فَكُلْ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظَّفْرَ .

(۲۰۱۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ذبح کسی دھاری دار تیز لوہے ، یا دھاری دار تیز پتھر سے کرنا جائز ہے۔ ہر وہ چیز جو رگیں

کاٹ دے یا خون بہائے تو ناخن اور دانت کے علاوہ ہر اس چیز سے ذبح کردہ جانور کھالو۔

(۲۰۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : أَصْعَدْنَا فِي الْحَاجِّ فَأَصَابَ صَاحِبٌ لَنَا أَرَبًا فَلَمْ يَجِدْ مَا يُذَكِّيهِهَا بِهِ فَذَبَحَهَا بِظْفَرِهِ فَمَلَّوْهَا فَأَكَلُوهَا ، وَأَبَيْتُ أَنْ أَكُلَ ، قَالَ : فَلَقِيَتْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ حِينَ لَمْ تَأْكُلْ ، فَنَلَّهَا حَنَقًا .

(۲۰۱۹) حضرت ابو رجاء فرماتے ہیں کہ ہم کانٹوں والی ایک سرزمین میں لباس سفر کر رہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے ایک

کوش پکڑا ، اسے ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اس نے اسے اپنے ناخن سے ذبح کر دیا ، پھر گرم ریت میں بھون کر اسے کھا

۔ میں نے وہ خرگوش کھانے سے انکار کیا ، پھر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے نہ کھا کر

ت اچھا کیا کیونکہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔

(۲۰۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مِغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُذْبَحُ بِسِنَّ ، وَلَا عَظْمٍ ، وَلَا ظْفَرٍ ، وَلَا قَرْنٍ .

(۲۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دانت ، ہڈی ، ناخن اور سینگ سے ذبح نہ کیا جائے۔

(۲۰۲۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَمَائِكَ ، عَنْ مَرْثَى بْنِ قَطِرِيٍّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدَّبِيحَةِ بِالْمُرْوَةِ وَشِقَةِ الْعَصَا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَرَخِصَ فِيهِ

(ابوداؤد ۲۸۱۷۔ ابن ماجہ ۳۱۷۷)

(۲۰۲۱) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نوکیلے پتھر یا لانچی کی دھار سے ذبح کیے جانے

والے جانور کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کی رخصت دے دی۔

(۲۰۱۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الذَّبِيحَةِ اللَّيْطَةِ ، فَقَالَ : كُلُّ مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ إِلَّا سِنًا ، أَوْ طُفْرًا .

(مسلم ۲۲- نسائی ۳۳۹۲)

(۲۰۱۷۰) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بانس کی دھار سے ذبح شدہ جانور کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ دانت اور ناخن کے علاوہ ہر وہ چیز جو رگیں کاٹ دے اس کا ذبح جائز ہے۔

(۲۰۱۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ سِنْدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ذَبِيحَةِ الْقُصَبَةِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ سِغْنًا ، فَقَالَ : إِذَا فُرْتُ فَقَطَّعَتِ الْأَوْدَاجَ كَقَطْعِ السُّكَيْنِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُّ وَإِذَا نُلِغَتْ نُلُغًا فَلَا تَأْكُلُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْوَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِغْنًا ، فَقَالَ : إِذَا بَرَّتْ فَقَطَّعَتِ الْأَوْدَاجَ فَكُلُّ ، وَإِذَا نُلِغَتْ نُلُغًا فَلَا تَأْكُلُ .

(۲۰۱۷۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کو چھری نہ ملے اور وہ بانس کی دھار سے ذبح کر دے تو ایسا کر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ چھری کی طرح رگیں کاٹ دے اور اس پر ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھ اور اگر اس سے رگیں نہ نکلیں اور جانور مر جائے تو مت کھاؤ۔ میں نے ان سے چھری نہ ملنے کی صورت میں نوکیلے پتھر سے ذبح شدہ جانور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ رگوں کو کاٹ دے تو کھا لو اور اگر رگوں کو نہ کاٹ سکے اور جانور مر جا۔ تو مت کھاؤ۔

(۲۰۱۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ قَدْ ذَبَحْتُهُمَا بِمُرْوَةٍ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا . (ابن ماجہ ۳۱۷۵)

(۲۰۱۷۲) حضرت محمد بن صفیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں دو خرگوش لے کر حاضر ہوا جنہیں میں نے نوکیلے پتھر سے ذبح کیا تھا آپ نے مجھے وہ خرگوش کھانے کا حکم دیا۔

(۲۰۱۷۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . (احمد ۳- دارمی ۲۰۱۳)

(۲۰۱۷۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۱۷۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : اذْبَحْ بِحَجَرٍ وَحَدِيدَتِكَ وَعُودِكَ وَعَظْمِكَ .

(۲۰۱۷۴) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ جانور کو اپنے پتھر، اپنے لوہے، اپنی لکڑی اور اپنی ہڈی سے ذبح کر سکتے ہیں۔

(۲۰۱۷۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، قَالَ : كُلُّ مَا يُجْرَحُ ، وَلَا تَأْكُلُ مَا يُفْدَعُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَفْرِي الْأَوْذَاحَ فَكُلُّ وَلَوْ بِلَيْطَةٍ ، أَوْ بِشَطِيَّةِ حَجْرٍ .

(۲۰۱۷۵) حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ جو چیز زخم لگائے اس سے ذبح کیا ہوا کھالوار جو چیز ہلکا سا پھاڑے اس کا ذبح کیا ہوا نہ کھاؤ۔ ہر وہ چیز جو لوگوں کو کائے اس سے ذبح کیا ہوا کھالوار خواہ ہو بانس کی دھار ہو یا پتھر کی نوک۔

(۲۰۱۷۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَاللَّيْطَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الشُّفْرَةِ مَا لَمْ يُجْرَحْ ، أَوْ يُفْدَعُ .

(۲۰۱۷۶) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ پتھر، بانس کی دھار اور ہر تیز دھار آلے سے ایسا ذبح کرو کہ کٹ جائے۔

(۲۰۱۷۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الْأَسْوَدِ ، فَقَالَ لَهُ : اذْبَحْ بِالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ : لَا فَلَئِمَّا قَفَى الْأَعْرَابِيُّ قُلْتُ : أَلَيْسَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ بِالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَقْصِدَ بَعِيرَهُ فَإِذَا مَاتَ ، قَالَ : ذَكَّيْتَهُ .

(۲۰۱۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضرت اسود کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں نوکیلے پتھر سے ذبح کر سکتا ہوں؟ حضرت اسود نے فرمایا نہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا کہ کیا نوکیلے پتھر سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے اونٹ کو داغنا چاہتا تھا جب وہ مر جاتا تو یہ کہتا کہ میں نے اسے ذبح کیا ہے۔

(۲۰۱۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ذَبَحْتَ بِالْعُودِ وَالْمَرْوَةِ فَقَطَعْتَ الْأَوْذَاحَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

(۲۰۱۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم لکڑی یا نوکیلے پتھر سے ذبح کرو اور رگیں کاٹ دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۱۷۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتْ حَدِيدَةً لَا تَرُدُّ الْأَوْذَاحَ فَكُلُّ .

(۲۰۱۷۹) حضرت سلمہ بن بشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ سے سوال کیا کہ کیا نوکیلے پتھر سے ذبح کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ تیز دھار ہو اور رگوں کو کاٹ دے تو کھالو۔

(۲۰۱۸۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : كُلُّ ذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ .

(۲۰۱۸۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ نوکیلے پتھر کا ذبیحہ کھالو۔

(۲۰۱۸۱) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السَّيِّدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ عَلِيُّ : إِذَا لَمْ تَجِدْ إِلَّا الْمَرْوَةَ فَادْبَحْ بِهَا .

(۲۰۱۸۱) حضرت علی بن دُکین فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نوکیلے پتھر کے علاوہ کچھ نہ ملے تو اسی سے ذبح کر لو۔

(۲۰۱۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ مَا ذُبِحَ بِالشَّفْوَةِ وَالْمَرْوَةِ وَالْقَصْبَةِ وَالْعُودِ وَمَا أَقْرَى الْأَوْذَاجَ ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ ، وَكَانَ يُكْرَهُ السِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالظَّفْرُ .

(۲۰۱۸۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ تیز دھارا لے، نوکیلے پتھر، بانس کی دھار، لکڑی اور ہر اس چیز سے ذبح کردہ جانور کو کھالو جو رگوں کو کاٹ دے اور خون بہائے۔ البتہ دانت بڑی اور ناخن سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔

(۲۰۱۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ غَلَامًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُدْرِكُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدَا فَنَحَرَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا .

(۲۰۱۸۳) حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ جو حارثہ کا ایک غلام اپنی حاملہ اونٹنی کو احد پہاڑ کے پاس چرا رہا تھا، وہ اونٹنی اچانک مرنے لگی، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اسے ذبح کرتا، اس نے باندھنے کی کھوٹی اٹھائی اور اسے نحر کر دیا، پھر اس بارے میں حضور ﷺ سے سوال کیا تو آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا۔

(۲۰۱۸۴) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنِ الرَّكِيِّ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : كُنْتُ فِي غَنَمٍ فَفَعَلَا الذَّنْبُ فَبَقِيَ النَّعْجَةُ مِنْ غَنَمِي فَفَنَرَّ قَصْبَهَا فِي الْأَرْضِ ، فَأَخَذْتُ ظِرَارًا مِنَ الْأُظْرَةِ فَصَرَبْتُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ حَتَّى صَارَ لِي مِنْهُ كَهَيْئَةِ السَّكِينِ فَدَبَحْتُ بِهِ الشَّاةَ وَأَهْرَقْتُ بِهِ الدَّمَ وَقَطَعْتُ الْعُرُوقَ ، فَقَالَ : انْظُرْ مَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْهَا فَاقْطَعُهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَكُلْ سَائِرَهَا .

(۲۰۱۸۴) حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بکریوں کے ریوڑ کو چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بھیڑ پر حملہ کر دیا۔ اس نے بھیڑ کو بالکل نڈھال کر دیا اور اس کی انتڑی باہر نکال دی۔ میں نے ایک پتھر کو توڑ کر چھری کی طرح بنایا اور اس سے بکری کو ذبح کر دیا۔ اس کا خون بھی بہا اور اس کی رگیں بھی کٹ گئیں۔ اب فرمائیں کہ اس بکری کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو حصہ زمین پر گر گیا تھا اسے پھینک دو اور باقی کو کھالو۔

(۲۰۱۸۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لِيُذَكِّبَنَّ لَكُمْ الْأَسْلُ : الرِّمَاحُ وَالنَّبْلُ .

(۲۰۱۸۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بات کی بھرپور پوشش کرو کہ نیزے یا تیرے ذبح کرو۔

(۲۰۱۸۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ لَهُمْ سَوْدَاءٌ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا . (بخاری ۲۳۰۳ - مسندہ ۵۰۰)

(۲۰۱۸۶) حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری ایک سیاہ فام باندی نے نوکیلے پتھر سے ایک بکری ذبح کی، اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔

(۲۰۱۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْذَاجِ إِلَّا يَسْنُ ، أَوْ ظَفْرٌ .

(۲۰۱۸۷) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دانت اور ناخن کے علاوہ ہر وہ چیز جو رگیں کاٹ دے اس کو کھالو۔

(۲۰۱۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سِئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الدَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ، فَقَالَ : كُلُّ مَا لَمْ يَفْدَعْ .

(۲۰۱۸۸) حضرت محمد سے لکڑی کے ذریعے ذبح کردہ جانور کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو رگوں کو کاٹ دے اسے کھالو۔

(۲۰۱۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الدَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبْيَةِ .

(۲۰۱۸۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذبح حلق اور شرگ کا ٹائپ ہے۔

(۲۰۱۹۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي مَنْهَلٍ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاهِلِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَنْحَرُوهُ فَسَأَلُوا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ، فَقَالَ : لَا مَنْحَرَ إِلَّا مَنْحَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

(۲۰۱۹۰) حضرت داؤد بن ابی عاصم فرماتے ہیں کہ پانی کے گھاٹ پر ایک اونٹ سرکش ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت سعید بن مسیب سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منحر کے سوا کوئی منحر نہیں ہے۔

(۲۰۱۹۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا نَحْرَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ .

(۲۰۱۹۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ منحر اور مذبح کے علاوہ کہیں منحر نہیں ہے۔

(۲۰۱۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَعْرُورِ ، عَنِ ابْنِ الْفَرَاغِصَةِ : أَنَّ الْفَرَاغِصَةَ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ ، إِنَّ النَّحْرَ فِي اللَّبْيَةِ ، وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدَرَ وَأَقْرَبُوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ . (عبدالرزاق ۸۶۱۳)

(۲۰۱۹۲) حضرت ابن فرافصہ کہتے ہیں کہ حضرت فرافصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ نحر شرگ اور حلق میں اس کے لیے ہے جو اس کی طاقت رکھے۔ جانور کے جسم کو روج نکلنے تک چھوڑے رکھو۔

(۲۰۱۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً مِنْ قَفَاهَا فَكَّرَهَا أَكْلَهَا . (۲۰۱۹۳) حضرت ابن ابی نجیح فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بکری کو گدگی کی جانب سے ذبح کیا تو حضرت عطاء نے اس کے کھانے کو مکروہ قرار دیا۔

(۳۴) مَنْ قَالَ تَكُونُ الذِّكَاةُ فِي غَيْرِ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ ذبح حلق اور شرہ رگ کے علاوہ ہے

(۲۰۱۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي عَيْنِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : اطْعَمُوهُ وَكُلُّوهُ . (طبرانی ۳۳۸۰)

(۲۰۱۹۳) بنو حارثہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک چشمہ میں ایک اونٹ پھنس گیا، لوگوں نے اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے نیزہ مار کر کھالو۔

(۲۰۱۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَيِّاحٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي بِنْتِ قَصَارٍ أَعْلَاهُ أَسْفَلُهُ ، فَقَالَ عَلِيُّ : قَطَعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُّوهُ .

(۲۰۱۹۵) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کنویں میں اس طرح گرا کہ اس کا نچلا حصہ اوپر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اعضا کو کاٹو اور اسے کھالو۔

(۲۰۱۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْبَعِيرِ يَتَرَدَّى فِي الْبَيْرِ ، فَقَالَ : يُطَعَنُ حَيْثُ قَدِرٌ ، وَيَذَكَّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

(۲۰۱۹۶) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ کنویں میں گر جائے تو جیسے ممکن ہو بسم اللہ پڑھ کر اسے نیزہ مار دیا جائے۔

(۲۰۱۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَيْرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَكُونُ الذِّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَيْحِهَا لَأَجْرَأَكَ . (ترمذی ۱۳۸۱۔ ابن اجہ ۳۱۸۳)

(۲۰۱۹۷) حضرت ابوالعشراء کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ذبح کے لیے حلق اور شرہ رگ کا نثر ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی ران میں نیزہ مار دو تو تو بھی کافی ہے۔

(۲۰۱۹۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبَّادَةَ ، قَالَ : تَرَدَّى بَعِيرٌ فِي رَكْبَتَيْهِ ، وَابْنُ عُمَرَ حَاضِرٌ فَتَنَزَلَ رَجُلٌ لِيَسْحَرَهُ ، فَقَالَ : لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْحَرَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، اذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَجْهَرْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ شَاكِلِيهِ فَفَعَلَ ، فَأَخْرَجَ مُقَطَّعًا فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشْرًا بَدِرَ هَمَّيْنِ ، أَوْ بَارَبَعَةَ .

(۲۰۱۹۸) حضرت عبید بن جراح فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں ایک اونٹ سرکش ہو گیا۔ ایک آدمی نے اسے نثر کرنا چاہا، لیکن اس کے لیے ایسا ممکن نہ ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اس کے پہلو میں نیزہ مار دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا گیا جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دو یا چار درہم میں خرید لیا۔

(۲۰۱۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قِرْمَلٍ تَرَدَّى فِي

بِئْرٍ ، فَقَالَ : فَطَعْمُوهُ وَكُلُوهُ .

(۲۰۱۹۹) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا اونٹ کنویں میں گر کر پھنس جائے تو اس کے ٹکڑے کاٹ کر کھا لو۔

(۲۰۲۰۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَيَّاهٍ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ السَّلْمَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أُرْعَى مَنَاخَ لَأَهْلِي بِظَهْرِ الْكُوْفَةِ يَعْنِي الْعِشَارَ ، قَالَ : فَتَرَدَّى مِنْهَا بَعِيرٌ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقَنِي بِذَكَاةٍ فَأَخَذْتُ حَدِيدَةً فَوَجَّاتُ بِهَا فِي جَنْبِهِ ، أَوْ سَنَامِهِ ، ثُمَّ قَطَعْتُهُ أَعْضَاءً وَفَرَّقْتُهُ عَلَى سَائِرِ أَهْلِي ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَهْلِي فَأَبَوُا أَنْ يَأْكُلُوا حَيْثُ أَخْبَرْتَهُمْ خَبْرَهُ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَقُمْتُ عَلَى بَابِ قَصْرِهِ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : لَبَّيْكَاهُ لَبَّيْكَاهُ ، فَأَخْبَرْتَهُ خَبْرَهُ ، فَقَالَ : كُلْ وَأَطْعِمْنِي عَجْرَهُ .

(۲۰۲۰۰) حضرت ابوراشد سلمانی فرماتے ہیں کہ میں اپنی حاملہ اونٹنیوں کو کوفہ کے پاس چرا رہا تھا کہ ایک اونٹ پانی میں بری طرح پھنس گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ذبح کرنے سے پہلے اس کی جان نکل جائے گی، چنانچہ میں نے ایک لوبا پکڑا اور اس کی کمریا اس کے کوبان میں مار دیا۔ پھر میں نے اس کے ٹکڑے کر دیئے اور اپنے گھر والوں کو دے دیئے۔ لیکن انہوں نے ساری تفصیل سن کر اسے ہانے سے انکار کر دیا۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور ان کے محل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے آواز لگائی: اے امیر المؤمنین! اے امیر المؤمنین! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میں نے انہیں پوری بات سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ اسے کھا لو اور اس کے پچھلے حصے کا گوشت مجھے دے دو۔

(۲۰۲۰۱) حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ يَقُولَانِ : أَيُّمَا بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بَيْرٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَنَحْرَهُ فَلْيَجُوهُ بِالسَّكِينِ فَهُوَ ذَكَاتُهُ .

(۲۰۲۰۱) حضرت شریح اور حضرت مسروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر اونٹ کنویں میں گر جائے اور اس کو نخر کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو چھری مار دیں، یہی اس کو ذبح کرنا ہے۔

(۲۵) فِي الذَّكَاءِ إِذَا تَحَرَّكَ مِنْهَا شَيْءٌ فَكُلْ

ذبح شدہ جانور اگر حرکت کرے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۲۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةٍ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَلِبٍ ، قَالَ : رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَاةٌ فَإِذَا هِيَ مَيْتَةٌ فَذَبَحْتُهَا فَتَحَرَّكَتْ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا ، قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَيْتَ يَتَحَرَّكُ .

(۲۰۲۰۲) ابوہریرہ مولیٰ عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا تو ان کے پاس ایک بکری تھی جو مری ہوئی محسوس ہو

یہی تھی میں نے اسے ذبح کیا، تو اس نے حرکت کی، میں نے یہ ساری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کی تو انہوں نے مجھے وہ کبری کھانے کا حکم دیا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مردہ جانور بھی حرکت کرتا ہے۔

(۲۰۲۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي الدَّبِيحَةِ ، قَالَ : إِذَا مَضَعَتْ بِدَنَبِهَا ، أَوْ طَرَفَتْ ، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقَدْ حَلَّتْ .

(۲۰۲۳) حضرت عبید بن عمیر زوجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی دم ہلائے یا آنکھ حرکت کرے تو وہ حلال ہے۔

(۲۰۲۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرِ بِهَا بَأْسًا .

(۲۰۲۴) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۲۵) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ذُكِّتْ فَحَرَّكَتْ ذَنْبًا ، أَوْ طَرَفًا ، أَوْ رِجْلًا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ .

(۲۰۲۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ذبیحہ نے ذبح کے بعد دم، آنکھ یا پاؤں ہلایا ہو تو وہ حلال ہے۔

(۲۰۲۶) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الدَّبِيحَةِ : إِذَا ذُكِّتْ فَحَرَّكَتْ طَرَفًا ، أَوْ رِجْلًا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ .

(۲۰۲۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ذبیحہ نے اپنی آنکھ یا پاؤں ہلایا تو وہ حلال ہے۔

(۲۰۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِةَ ، عَنْ بَطْءِ وَقَعَتْ فِي بَيْتٍ فَأَخْرَجُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ ، فَقَالَ : إِذْ بَحُوهَا وَكُلُّوهَا .

(۲۰۲۷) حضرت صباح بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر بن عبدہ سے سوال کیا کہ ایک بطن کنویں میں گر گئی تھی، لوگوں نے اسے نکالا تو اس میں زندگی کی رتق موجود تھی، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے ذبح کر کے کھا لو۔

(۲۰۲۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ مَضَعَتْ بِدَنَبِهَا ، أَوْ رَكَصَتْ بِرِجْلِهَا فَكُلُّ .

(۲۰۲۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ذبیحہ نے اپنی آنکھ، یا دم یا پاؤں ہلایا تو اسے کھا لو۔

(۲۰۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ ، قَالَ : مَا أَدْرَسْتُ مِنْ ذَلِكَ يَطْرِفُ بِعَيْنِهِ ، أَوْ يَحْرُكُ ذَنْبَهُ فَذَبِحَ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا ذُبِحَ فَلَمْ تَطْرِفْ لَهُ عَيْنٌ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لَهُ ذَنْبٌ فَهُوَ حَرَامٌ مَيْتَةٌ .

(۲۰۲۹) حضرت صحاح فرماتے ہیں کہ کسی جانور کو اگر تم اس حال میں ذبح کرو اور اس نے اپنی آنکھ یا دم ہلائی تھی تو وہ حلال ہے۔

اگر اس کو ذبح کیا گیا لیکن اس نے نہ اپنی آنکھ ہلائی نہ دم تو وہ مردار ہے اور حرام ہے۔

(۲۰۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي شَهَابٍ مَوْسَى بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَرَّ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ عَلَى

نَعَامَةٌ مُلْقَاةٌ عَلَى الْكُنَاسَةِ تَحْرُكُ ، فَقَالَ : مَا هَدِيهِ ؟ فَقَالُوا : نَخَافُ أَنْ تَكُونَ مَوْقُودَةً ؟ فَقَالَ : كِدْتُمْ تَدْعُونَهَا لِلشَّيْطَانِ ، إِنَّمَا الْوَقِيدُ مَا مَاتَ فِي وَقِيدِهِ .

(۲۰۲۱۰) حضرت نعمان بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ایک شتر مرغ کے پاس سے گزرے جسے کوڑے میں پھینکا گیا اور وہ حرکت کر رہا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے مردار سمجھ کر ڈال دیا۔ حضرت سعید نے فرمایا کہ اسے شیطان کے لیے کیوں چھوڑتے ہو۔ مردار تو وہ ہوتا ہے جو ساکن ہو جائے۔

(۲۰۲۱۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ ، قَالَ : كَانُوا يَرِجُونَ فِي الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُودَةِ وَالْمَتْرَدِيَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا مَا ذُكِّيَ .

(۲۰۲۱۱) حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ اسلاف قرآن مجید کی آیت (آلا ما ذکیتم) کو گلا گھونٹنے ہوئے، مردار اور گر کر ہلاک ہونے والے جانور سے استثناء مانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذبح کردہ کے علاوہ ہر ایک چیز کو حرام قرار دے دیا۔

(۳۶) فِي الْمَجْتَمَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا

مَجْتَمَةٍ كِي مَمَانَعَتِ كَابِيَان

(۲۰۲۱۲) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْمَجْتَمَةَ . (ترمذی ۱۷۹۵۔ احمد ۳۶۶/۲)

(۲۰۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن مجتمہ کو حرام قرار دیا۔

(۲۰۲۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَجْتَمَةِ .

(۲۰۲۱۳) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجتمہ سے منع فرمایا۔

(۲۰۲۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى عَنِ الْمَجْتَمَةِ .

(۲۰۲۱۴) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مجتمہ سے منع کیا گیا ہے۔

(۲۰۲۱۵) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجْتَمَةَ وَالْجِلْسَةَ وَالنَّهْبَةَ .

(ترمذی ۱۳۷۸۔ احمد ۳۲۳/۳)

(۲۰۲۱۵) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور ﷺ نے تین چیزوں کو حرام قرار دیا ① وہ جانور جنہیں باندھ کر شکار کیا گیا ہو۔ ② وہ جانور جنہیں کسی درندے سے چھڑایا جائے اور وہ ذبح کرنے سے پہلے مر جائیں۔ ③ وہ جانور جنہیں کسی سے چھینا گیا ہو۔

(۲۰۲۱۶) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمُحْتَمَةِ . (بخاری ۵۶۲۹- ترمذی ۱۸۲۵)

(۲۰۲۱۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے بچھڑے سے منع فرمایا۔

(۲۷) مَا قَالُوا فِي الطَّيْرِ وَالشَّاةِ تَرْمِي حَتَّى يَمُوتَ

اگر مرغی یا بکری وغیرہ کو تیر مارا جائے اور وہ مر جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۲۱۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ رَمَيْتَ دَيْكًا ، أَوْ كَبْشًا بِالنَّبْلِ كُنْتَ تَأْكُلُهُ؟ قَالَ : لَا هُوَ مَيْتَةٌ .

(۲۰۲۱۷) حضرت ابو جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر میں کسی مرغ یا بھیر کو تیر ماروں تو کیا آپ اسے کھائیں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں وہ تو مردار ہے۔

(۲۰۲۱۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ .

(۲۰۲۱۸) حضرت طاووس اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔

(۲۰۲۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو مَرَّ عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَوْمُونَهَا ، فَقَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَلَ بِالْبَهَائِمِ .

(بخاری ۵۵۱۵- مسلم ۱۵۳۹)

(۲۰۲۱۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے جو مرغی کو باندھ کر نشانہ بنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو جانوروں پر نشانہ بازی کریں۔

(۲۰۲۲۰) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمَثَلَ بِالْبَهَائِمِ . (ابن ماجہ ۳۱۸۵)

(۲۰۲۲۰) حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جانوروں پر نشانہ بازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۲۲۱) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَسْمَكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ أَنَسُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ وَضَعُوا حَمَامَةً يَوْمُونَهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ الرُّوحَ عَرَضًا .

(مسلم ۱۵۳۹- ترمذی ۱۱۳۷۵)

(۲۰۲۲۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے جنہوں نے ایک کبوتری رکھی ہوئی تھی اور اسے تیر مار رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے ذی روح کو نشانہ بازی کے لیے ہدف بنانے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۲۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ دَارَ الْإِمَارَةِ وَقَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبُهَائِمُ .

(بخاری ۵۵۱۳۔ مسلم ۱۵۳۹)

(۲۰۲۲۳) حضرت ہشام بن زید بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ دارالامارۃ میں داخل ہوا، وہاں کچھ لوگوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا اور اسے نشانہ بنا رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بنا کر مار دیا جائے۔

(۲۰۲۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَرِّعِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبُهَائِمِ صَبْرًا . (مسلم ۱۵۵۰۔ ابن ماجہ ۳۱۸۸)

(۲۰۲۲۳) حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانور کو باندھ کر نشانہ بنا کر قتل کیا جائے۔

(۲۰۲۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبُهَيْمَةِ وَمَا أُحِبُّ أَنْي صَبْرَتْ دَجَاجَةٌ ، وَلَا أَنْ لِي كَذَا وَكَذَا . (طبرانی ۳۰۰۳۔ احمد ۵/۳۴۲)

(۲۰۲۲۳) حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا کہ آپ نے جانور کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع فرمایا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں ایک مرغی کو بھی اس طرح باندھ کر ہلاک کروں اور مجھے اس کے بدلے فلاں فلاں چیز مل جائے۔

(۲۸) مَا يَنْهَى عَنْ أَكْلِهِ مِنَ الطَّيْرِ وَالسَّبَاعِ ؟

کون سے پرندوں اور جانوروں کا کھانا منع ہے؟

(۲۰۲۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ . (بخاری ۵۷۸۰۔ مسلم ۱۵۳۳)

(۲۰۲۲۵) حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے کچل والے ہر جانور کو کھانے سے منع فرمایا۔

(۲۰۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ .

(۲۰۲۲۶) حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غزوہ خیبر میں کچل والے جانور کو کھانے سے منع فرمایا۔

(۲۰۲۲۷) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ . (ابوداؤد ۳۷۹۹۔ ترمذی ۱۳۷۹)

(۲۰۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غزوہ خیبر میں کچلی والے ہر جانور کو کھانے سے منع فرمایا۔

(۲۰۲۲۸) حَدَّثَنَا هُثَيْمُ بْنُ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

(۲۰۲۲۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہر کچلی والے جانور اور پنچے سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔

(۲۰۲۲۹) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

(۲۰۲۲۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم خیبر میں ہر کچلی والے جانور اور پنچے سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔

(۲۰۲۳۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

(۲۰۲۳۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم خیبر میں کچلی والے جانور اور پنچے سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔

(۲۰۲۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُكْرَهُونَ كُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ سَبْعٍ ذِي نَابٍ .

(۲۰۲۳۱) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلاف پنچے سے شکار کرنے والے پرندے اور کچلی والے جانور کو ناجائز قرار دیتے تھے۔

(۲۰۲۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُكْرَهُونَ مِنَ الطَّيْرِ مَا أَكَلَ الْجِيفَ .

(۲۰۲۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مردار کھانے والے پرندے کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۲۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لَقَطٌ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ نَهَشَ بِمِنْقَارِهِ ، أَوْ أَخَذَ بِمَخْلَبِهِ ، فَكَانَ يَكْرَهُ لَحْمَهُ ، وَكَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الصُّرَدِ .

(۲۰۲۳۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چمک کر کھانے والا پرندہ بالکل حلال ہے۔ چونچ اور پنچوں سے شکار کرنے والا مکروہ ہے۔ لٹورے کے گوشت کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

(۲۰۲۳۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّ الْيَهُودَ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا لَقَطَ ، قَالَ : فَأَعْجَبَ ذَلِكَ مُجَاهِدًا .

(۲۰۲۳۴) حضرت ابن ابی نَجِيح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے کہا کہ یہودی صرف وہ پرندے کھاتے ہیں جو چمکتے ہیں۔

حضرت مجاہد نے اس بات کو پسند فرمایا۔

(۲۰۲۳۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، قَالَتْ : ﴿لَا أُجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ ، ثُمَّ تَقُولُ : إِنَّ الْبُرْمَةَ لَيَكُونُ فِيهَا الصَّفْرَةُ .

(۲۰۲۳۵) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب کچھ والے جانوروں اور نوکیلے پنجے والے پرندوں کے

بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ یہ آیت پڑھتیں ﴿لَا أُجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾

(۲۰۲۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ سَبَاعِ الطَّيْرِ وَسَبَاعِ الْوَحْشِ .

(۲۰۲۳۶) حضرت ابو جعفر نے خوخورا شکاری اور درندوں کے کھانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۹) مَا قَالُوا فِي لَحْمِ الْغُرَابِ ؟

کوئے کے گوشت کا بیان

(۲۰۲۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ يَأْكُلِ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا ؟ . (ابن ماجہ ۳۲۳۸ - بیہقی ۳۱۷)

(۲۰۲۳۷) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئے کا گوشت کھائے رسول اللہ ﷺ نے اسے فاسق قرار دیا ہے۔

(۲۰۲۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسَيْلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحَدِيثِ ، فَقَالَ : دَجَاجَةٌ سَمِينَةٌ .

(۲۰۲۳۸) حضرت عکرمہ سے کوئے کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ موٹی مرغی ہے۔

(۲۰۲۳۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحَدِيثِ ، فَقَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْهُ .

(۲۰۲۳۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کوئے اور چیل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور حلال چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی ہے جن کے بارے میں خاموشی ہے ان کے بارے میں معافی ہے۔

(۲۰۲۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۲۴۰) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۲۴۱) حَدَّثَنَا عَبَادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَقْدَرَ مِنْهُ شَيْبَةٌ .

(۲۰۲۳۱) حضرت حجاج تمام پرندوں کو جائز قرار دیتے تھے سوائے ان کے جو گندگی کھائیں۔

(۲۰۲۴۲) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلَهُ .

(۲۰۲۳۲) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۰۲۴۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي مَيْكِيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَا لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ .

(۲۰۲۳۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی حرمت قرآن میں نہیں آئی وہ حلال ہیں۔

(۴۰) مَا قَالُوا فِي اَكْلِ الْيَرْبُوعِ ؟

یربوع (چوہے کی مانند ایک جانور) کے کھانے کا بیان

(۲۰۲۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُوكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِاَكْلِ الْيَرْبُوعِ .

(۲۰۲۳۴) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یربوع کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۲۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۲۳۵) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یربوع کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۲۴۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ .

(۲۰۲۳۶) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یربوع کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۲۴۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الذَّنْبِ

لَا يُؤْكَلُ وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكَلُ .

(۲۰۲۳۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بھڑیے کو نہیں کھایا جائے گا، یربوع کو کھایا جائے گا۔

(۲۰۲۴۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۲۳۸) حضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۲۴۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَيْسِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْيَرْبُوعِ ، قَالَ :

قَالَ الْبَرِيَّةُ .

(۲۰۲۳۹) حضرت ابو ویسیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن حسین بن علی سے یربوع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے

مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۲۵۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ اَكْلِ الْيَرْبُوعِ فَكَرِهَاهُ .

(۲۰۲۵۰) حضرت حکم اور حضرت حماد نے یربوع کے کھانے کو مکروہ قرار دیا۔

(۴۱) مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْأَوْزَاعِ؟

چھپکیوں کو مارنے کا بیان

(۲۰۲۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ . (بخاری ۳۳۰۷ - مسلم ۱۱۴)

(۲۰۲۵۱) حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے چھپکیوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔

(۲۰۲۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، يَعْنِي الْوَزَّعَ .

(۲۰۲۵۲) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چھپکیوں کو مارنے کا حکم دیا۔

(۲۰۲۵۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطِيمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّي عُقْبَةَ بْنِ فَاكِهٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ نِصْفَ النَّهَارِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ مُتَرِّراً ، بِيَدِهِ عَصَى فَقُلْتُ : أَيْنَ كُنْتَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ : كُنْتُ أَتْبَعُ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، يَكْتُبُ اللَّهُ بِقَتْلِهَا الْحَسَنَةَ وَيَمْحُو بِهِ السَّيِّئَةَ فَاقْتُلْهَا ، وَهِيَ الْوَزَّعُ . (ابن ماجہ ۱۳۱۶ - احمد ۷۸ / ۳)

(۲۰۲۵۳) حضرت عقبہ بن فاکہ کہتے ہیں کہ میں نصف نہار کے وقت حضرت زید بن ثابت کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو وہ ازار پہنے ہوئے ہاتھ میں لاشمی پکڑے باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس جانور کو تلاش کر رہا ہوں جس کو مارنے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اس کو مارو اور وہ جانور چھپکی ہے۔

(۲۰۲۵۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الْأَوْزَاعَ . (۲۰۲۵۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھپکیوں کو مارا کرتی تھیں۔

(۲۰۲۵۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ . (۲۰۲۵۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھپکیوں کو مارا کرتی تھیں۔

(۲۰۲۵۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَّعَةً كَانَتْ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ .

(۲۰۲۵۶) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس نے ایک چھپکی کو مارا اسے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔

(۲۰۲۵۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَّعَةً كُفِّرَ عَنْهُ سَبْعُ حَاطِنَاتٍ .

(۲۰۲۵۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس نے ایک چھپکلی کو مارا اس کے سات گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

(۲۰۲۵۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةٍ لِفَارِكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَهَا دَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا ؟ قَالَتْ : نَقُلُ بِهَا هَذِهِ الْأَوْزَاعَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةً فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزْغِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ . (ابن ماجہ ۳۲۳۱ - احمد ۱۰۹/۶)

(۲۰۲۵۸) حضرت فاکہ بن مغیرہ کی مولا حضرت سائبہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ان کے پاس حاضر ہوئی تو وہاں ایک نیزہ پڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے ام المؤمنین! آپ اس نیزے کا کیا کریں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس سے چھپکیوں کو قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پر موجود ہر جانور آگ کو بجھا رہا تھا جبکہ چھپکلی آپ پر پھونکیں مار کر اسے اور زیادہ بھڑکا رہی تھی اس پر رسول اللہ ﷺ نے اسے مارنے کا حکم دیا۔

(۲۰۲۵۹) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ : قَالَتْ : كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزْغِ .

(۲۰۲۵۹) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چھپکیوں کو مارنے کا حکم دیتی تھیں۔

(۲۰۲۶۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اقْتُلُوا الْوَزْغَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ .

(۲۰۲۶۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چھپکلی کو حل اور حرم دونوں جگہ مار ڈالو۔

(۲۰۲۶۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي الْعَمِيسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ لِعَائِشَةَ قَنَاةٌ تَقْتُلُ بِهَا الْوَزْغَ .

(۲۰۲۶۱) حضرت ابوعمیس کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نیزہ تھا جس سے وہ چھپکیوں کو مارتی تھیں۔

(۲۰۲۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزْغِ .

(۲۰۲۶۲) حضرت مجاہد چھپکیوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔

(۴۲) مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْحَيَاتِ وَالرَّخْصَةِ فِيهِ

سایوں کو مارنے کا بیان

(۲۰۲۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ وَقَدْ أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ قَالَ : فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً

إِذْ دَخَلْتَ عَلَيْنَا حَيَّةً ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتُلُوهَا ، فَاَبْتَدَرْنَا لَهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا بِنَفْسِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاهَاكُمْ شَرَّهَا .

(بخاری ۱۸۳۰ - مسلم ۱۱۳۷)

(۲۰۲۶۳) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ ایک غار میں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ اس آیت کے نازل ہوتے ہی ہم نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے حاصل کر لیا۔ اتنے میں ایک سانپ غار میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مار ڈالو۔ ہم سانپ کو مارنے کے لیے بڑھے ہی تھے کہ وہ بھاگ گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے تمہارے شر سے اور تمہیں اس کے شر سے بچالیا۔

(۲۰۲۶۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(۲۰۲۶۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سانپوں کو ہر حال میں مار ڈالو۔

(۲۰۲۶۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ذِي الطَّفَيْتِينَ .

(۲۰۲۶۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ شیش ناگ کو مارنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

(۲۰۲۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ عُمَرُ : أَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِيفُوا الْهُوَامَ قَبْلَ أَنْ تُخَيِّفَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ .

(۲۰۲۶۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو، حشرات کو ان میں پیدائے ہونے دو، انہیں ڈراؤ تو قبل اس کے کہ وہ تمہیں ڈرائیں کیونکہ مسلمان (جن) تمہارے سامنے ان کی شکل میں ظاہر نہ ہوگا۔

(۲۰۲۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا .

(۲۰۲۶۷) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو قتل کیا گویا اس نے کافر کو قتل کیا۔

(۲۰۲۶۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَلْمُومًا ، فَإِنَّهَا جِنَّهَا .

(۲۰۲۶۸) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سانپوں کو قتل کرو صرف اس سانپ کو قتل نہ کرو جو سری دانی کی سلائی کی طرح ہے کیونکہ یہ جن ہے۔

(۲۰۲۶۹) حَدَّثَنَا الطَّفَيْفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْجَانَّ ، وَيَأْمُرُ بِقَتْلِهَا وَيَقُولُ : الْجَانُّ مِسْخُ الْجِنِّ كَمَا مَسَّحَتْ الْفِرْدَاةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

(۲۰۲۶۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اڑھا کو مارتے تھے اور اسے مارنے کا حکم دیتے اور فرماتے تھے کہ اڑھا جنوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس طرح بندر بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔

(۲۰۲۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَاتِ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَنْدِهِنَّ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سانپوں کو مار کر پھینکنے کا حکم دیتے تھے۔

(۲۰۲۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْثَدَةَ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَاتِ إِلَّا الْجَانَّ الَّذِي كَانَ قَصَبَةً فِضَّةً.

(۲۰۲۷۱) حضرت حسن اور حضرت محمد چاندی کی مانند اڑدھے کے علاوہ سب سانپوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔

(۲۰۲۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ مَعْبُورَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الْحَيَاتِ إِلَّا الْجَانَّ الَّذِي كَانَ قَصَبَةً فِضَّةً.

(۲۰۲۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف سب سانپوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے سوائے اس اڑدھے کے جو چاندی کے مانند ہو۔

(۲۰۲۷۳) حَدَّثَنَا خَلْفُ ابْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتَهُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَاتِ؟ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ مَنْ يَتَّبِعُهُنَّ فَيَقْتُلُهُنَّ، وَنُعْطِيهِ عَنْ ذَلِكَ أَجْرًا.

(۲۰۲۷۳) حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر سے سانپوں کو مارنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو انہیں تلاش کر کے مارے اور ہم اسے اس کا عوض دیں۔

(۲۰۲۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: مَا يُضْرُّ أَحَدَكُمْ قَتْلَ حَيَّةٍ، أَوْ قَتْلَ كَافِرٍ إِلَّا الَّذِي كَانَ كَأَنَّهُ مَيْلٌ، فَإِنَّهُ جَنَّتْهَا.

(۲۰۲۷۴) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ سانپ اور کافر کو مارنا ایک جیسا ہے البتہ وہ سانپ جو سرمہ دانی کی سلائی کی طرح ہو اسے مارنا درست نہیں وہ جن ہے۔

(۲۰۲۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطَّفِيِّينَ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ، وَيُصِيبُ الْحَمْلَ يَعْنِي حَيَّةَ خَبِيثَةً. (بخاری ۳۳۰۸ - مسلم ۱۲۷)

(۲۰۲۷۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے شیش ناگ کو مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ آنکھ کو تلاش کرتا ہے اور حمل کو نشانہ بناتا ہے۔

(۲۰۲۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ النَّبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: قَالَ أَبُو لَيْلَى: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَيَاتِ فِي الْبُيُوتِ؟ فَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي

مَسَاكِينُكُمْ ، فَقُولُوا لَهُنَّ : نَشُدُّكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ ، نَشُدُّكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، أَنْ لَا تَوَدُّوْنَا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَاقْتُلُوهُنَّ . (ترمذی ۱۳۸۵۔ ابو داؤد ۵۳۱۸)

(۲۰۲۷۶) حضرت ابولہیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور ﷺ سے گھروں میں سانپوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں اپنے گھروں میں دیکھو تو ان سے کہو کہ ہم تمہیں حضرت نوح سے کیا ہوا تمہارا وعدہ یاد دلاتے ہیں، ہم تمہیں حضرت سلیمان بن داؤد سے کیا ہوا تمہارا وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ تم ہمیں تکلیف نہ دو۔ پھر بھی اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اسے مار ڈالو۔

(۲۰۲۷۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا .

(احمد ۳۹۳۔ بزار ۱۸۳۷)

(۲۰۲۷۷) حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا اس نے کافر کو مارا۔

(۲۰۲۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَمْرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا .

(۲۰۲۷۸) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو مارا اس نے کافر کو مارا۔

(۲۰۲۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا .

(۲۰۲۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو مارا اس نے دشمن کافر کو مارا۔

(۴۳) مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

کتوں کو مارنے کا بیان

(۲۰۲۸۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ . (ابن ماجہ ۳۶۵۱۔ احمد ۱۱۳۳/۶)

(۲۰۲۸۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں جس کتے کو دیکھوں اسے مار دوں۔

(۲۰۲۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ ، فَلَمْ أَدَعْ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتَهُ .

(طحاوی ۵۳۔ احمد ۳۹۱/۶)

(۲۰۲۸۱) حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں جس کتے کو دیکھوں اسے مار دوں۔

(۲۰۲۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ بِهِ مِنَ الْبَادِيَةِ. (بخاری ۳۳۲۳- مسلم ۱۴۰۰)

(۲۰۲۸۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، ہم نے کتے مارنے شروع کیے، یہاں تک ایک عورت جو گاؤں سے کتالائی تھی، ہم نے اس کے کتے کو بھی مار دیا۔

(۲۰۲۸۳) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلِلْكِالِبِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ.

(مسلم ۹۳- ابوداؤد ۷۵)

(۲۰۲۸۳) حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کتے لوگوں کے کس کام کے؟ پھر آپ نے شکار کے کتے رکھنے کی اجازت دے دی۔

(۲۰۲۸۴) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيهِ الْكُتَابَةُ فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي فَلَمْ يَأْتِيَنِي مُنْذُ ثَلَاثٍ ، قَالَ : فَاجازَ كَلْبٌ ، قَالَ أُسَامَةُ : فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي وَصَحْتُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا لَكَ يَا أُسَامَةُ ؟ فَقُلْتُ : اجازَ كَلْبٌ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ. (مسلم ۸۲- طبرانی ۳۸۷)

(۲۰۲۸۳) حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ تین دن سے میرے پاس نہیں آئے۔ اتنے میں ایک کتا وہاں سے گذرا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور میں چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اسامہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک کتا گذرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا اور اسے مار دیا گیا۔

(۲۰۲۸۵) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَدَبْحِ الْحَمَامِ.

(۲۰۲۸۵) حضرت عثمان نے کتوں کو مارنے اور کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔

(۲۰۲۸۶) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَدْخُلُ بِالْكَلْبِ فَيُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بِهِمِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ نَقَطَتَانِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

(مسلم ۳۷- ابوداؤد ۸۳۰)

(۲۰۲۸۶) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اس حکم اس پابندی سے عمل کیا کہ اگر کوئی عورت شہر میں کتلے کر آتی تو اس کے نکلنے سے پہلے کتے کو مار دیا جاتا تھا پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی جماعت نہ ہوتے تو میں سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا، لہذا تم صرف اس تیز کالے کتے کو قتل کرو جس کی آنکھوں کے درمیان دو نقطے ہوں کیونکہ یہ کتا شیطان ہے۔

(۲۰۲۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ . (مسلم ۳۳ - احمد ۲ / ۱۱۳)

(۲۰۲۸۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔

(۴۴) فِي وَسْمِ الدَّابَّةِ وَمَا ذَكَرُوا فِيهِ

جانور کے چہرے پر گدائی کرنے اور نشان لگانے کی ممانعت

(۲۰۲۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى حِمَارٍ يُوسَمُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنَّهُ عَنْ هَذَا ؟ لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا . (مسلم ۱۰۶ - ابو داؤد ۲۵۵۷)

(۲۰۲۸۸) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک حمار کے پاس سے گزرے، اس کے چہرے پر نشان لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے ایسا کرنے سے منع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

(۲۰۲۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضْرَبَ وَجْهُ الدَّابَّةِ .

(۲۰۲۸۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جانور کے چہرے پر نشان لگانے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۲۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعَلَّمَ الصُّورَةَ .

(۲۰۲۹۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چہرے پر نشان لگانا مکروہ ہے۔

(۲۰۲۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ . (بخاری ۵۵۳۱ - احمد ۲ / ۱۱۸)

(۲۰۲۹۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چہرے پر نشان لگانے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۲۹۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ حِمَارٍ مُوسَمٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَكَرِهَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا .

(۲۰۲۹۲) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے ایک ایسے حمار پر سوار دیکھا، جس کی آنکھوں کے درمیان نشان

لگا ہوا تھا، آپ نے اس عمل کو ناپسند فرما دیا اور اس بارے میں سخت بات فرمائی۔

(۲۰۲۹۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ . (مسلم ۱۰۶)

(۲۰۲۹۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر نشان لگانے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۲۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ ، وَلَا يُوسَمُ .

(۲۰۲۹۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چہرے پر نہ تومارا جائے گا اور نہ ہی نشان لگایا جائے گا۔

(۲۰۲۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى عَنْ وَسْمِهَا فِي وَجْهِهَا .

(۲۰۲۹۵) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ چہرے پر نشان لگانے سے منع کیا گیا ہے۔

(۲۰۲۹۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَكْرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجَمَاءُ عَلَى خَدَّهَا ، أَوْ تُلْطَمَ ، أَوْ تُجَرَّ بِرِجْلِهَا إِلَى مَذْبِحِهَا .

(۲۰۲۹۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جانور کے چہرے پر نشان لگانا، یا چہرے پر مارنا یا اسے پاؤں سے گھسیٹ کر ذبح خانے کی طرف لے جانا مکروہ ہے۔

(۲۰۲۹۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةٌ ، وَحُرْمَةُ الْبُهَائِمِ وَجُوهُهَا .

(۲۰۲۹۷) حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کی ایک لائق احترام چیز ہوتی ہے، جانوروں کی لائق احترام چیز ان کا چہرہ ہے۔

(۳۵) من رخص في السمّة

جن حضرات نے جانور پر نشان لگانے کی اجازت دی ہے

(۲۰۲۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : هَبْ لِي ، أَوْ قَالَ بَعْنِيْهُ يَعْنِي جَمَلًا ، قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَوَسَمَهُ سَمَةَ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ . (احمد ۱۷۳ / ۳ - طبرانی ۶۹۳)

(۲۰۲۹۸) حضرت یعلیٰ بن مرہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ اپنا اونٹ مجھے ہدیہ کر دو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول! یہ اونٹ آپ کا ہوا، آپ نے اس اونٹ پر صدقہ کا نشان لگا کر اسے روانہ کر دیا۔

(۲۰۲۹۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِي السَّمَةِ فِي مُؤَخَّرِ الْأُذُنِ .

(۲۰۲۹۹) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ کان کے پیچھے نشان لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيبِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّمَةِ فِي الْأُذُنِ.

(۲۰۳۰۰) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ کان پر نشان لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي وَهُوَ يَسِمُ وَاسْمَ قُدَّامَةَ بْنِ مَطْعُونٍ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: لَا تُلْحِمُ لَا تُلْحِمُ.

(۲۰۳۰۱) حضرت محمد ابن زیاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما میرے والد کے پاس سے گزرے وہ جانور پر حضرت قدامہ بن مطعون کا نشان لگا رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اتنی زور سے نشان نہ لگا کہ گوشت تک پہنچ جائے۔ اتنی زور سے نشان نہ لگاؤ کہ گوشت تک پہنچ جائے۔

(۲۰۳۰۲) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمِرْيَدِ يَسِمُ غَنَمًا لَهُ، أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

(بخاری ۵۵۳۲۔ مسلم ۱۰۹)

(۲۰۳۰۲) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ مقام مرید میں اپنی بکریوں پر نشان لگا رہے تھے۔

(۲۰۳۰۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَلِيمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ وَاسِمِ الْعَنَمِ فِي آذَانِهَا، فَلَمْ يَرَهُ بِأَسَا.

(۲۰۳۰۳) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے بکریوں کے کانوں پر نشان لگانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے جائز قرار دیا۔

(۴۶) فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ وَمَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

کتابا لنے کی مذمت اور اس کی وجہ سے ثواب کا نقصان

(۲۰۳۰۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ فَنَبَحْتُ عَلَيْنَا كِلَابًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ ضَارِيَةً، أَوْ مَاشِيَةً نَقَّصَ

مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيَرِاطَانِ. (بخاری ۵۳۸۰۔ مسلم ۵۲)

(۲۰۳۰۴) حضرت عبد اللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بنو معاویہ کی طرف گیا۔ وہاں کچھ کتے ہم پر بھونکے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے شکار یا مریض کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتے

پالا تو اس کے ثواب سے روزانہ دو قیراط کی کمی کی جائے گی۔

(۲۰۳۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (مسلم ۵۱- احمد ۸)

(۲۰۳۰۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے شکار یا پہرے داری کے علاوہ کسی اور غرض سے کتابالا تو اس کے ثواب سے روزانہ دو قیراط کی کمی کی جائے گی۔

(۲۰۳۰۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ، قَالَ: وَقَالَ سَالِمٌ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ. (بخاری ۵۳۸۱- مسلم ۵۳)

(۲۰۳۰۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے شکار یا پہرے داری کے علاوہ کسی اور غرض سے کتابالا تو اس کے ثواب سے روزانہ دو قیراط کی کمی کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ”کلب حرت“ کے الفاظ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

(۲۰۳۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ زَادَ فِيهِ: أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ. (۲۰۳۰۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ”کلب مخافۃ“ کا اضافہ ہے۔

(۲۰۳۰۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ قَنْصٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (ابو یعلیٰ ۵۰۲۵)

(۲۰۳۰۸) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکار، جانوروں کی نگرانی یا پہرے داری کے علاوہ کسی اور غرض سے کتابالا اس کے ثواب سے ہر روز دو قیراط کی کمی کی جائے گی۔

(۲۰۳۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشُّشَنِ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: إِلَّا كَلْبَ زُرْعٍ، أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ.

(۲۰۳۰۹) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکار یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتابالا اس کے گھر والوں کے ثواب سے ہر روز ایک قیراط کی کمی کی جائے گی۔

(۲۰۳۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بَرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ؛ نَقَصَ مِنْ أَجْرِ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

(۲۰۳۱۰) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکار یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتابالا اس کے گھر والوں کے ثواب سے ہر روز ایک قیراط کی کمی کی جائے گی۔

(۲۰۳۱۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ الزَّرْعِ ، وَلَا صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا . (بخاری ۲۳۲۲ - مسلم ۵۸)

(۲۰۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے زراعت، شکاریا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتاپالا، اس کے ثواب سے ہر روز ایک قیراط کی کمی کی جائے گی۔

(۲۰۳۱۲) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ، وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا . (بخاری ۳۲۲۵ - مسلم ۶۱)

(۲۰۳۱۲) حضرت سفیان بن ابی زہیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے کتاپالا تو اس کے ثواب سے ہر روز ایک قیراط کی کمی کی جائے گی۔

(۲۰۳۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا . (مسلم ۵۰ - ترمذی ۱۳۸۷)

(۲۰۳۱۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاپالا اس کے ثواب سے روزانہ کی بنیاد پر ایک قیراط کی کمی کی جائے گی۔

(۴۷) الرَّخْصَةُ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ

کتاپالنے کی رخصت

(۲۰۳۱۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رُخِّصَ فِي الْكِلَابِ فِي بَيْتِ الْمُعَوَّرِ .

(۲۰۳۱۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسے گھر میں کتاپالنے کی اجازت ہے جس میں فساد کا اندیشہ ہو۔

(۲۰۳۱۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْفَضِيلِ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ يَحْرُسُنَا .

(۲۰۳۱۵) حضرت ابو فضیل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک کتا تھا، ہم نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری پہرے داری کرتا ہے۔

(۲۰۳۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَّخِذُ كَلْبًا يَحْرُسُ دَارَهُ ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ .

(۲۰۳۱۶) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر کتا گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا جائے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں البتہ اگر شکار کے لیے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔

(۴۸) الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ

فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو

(۲۰۳۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلَا كَلْبٌ . (بخاری ۳۳۲۲ - مسلم ۱۶۶۵)

(۲۰۳۱۷) حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔

(۲۰۳۱۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ . (احمد ۵ / ۳۵۳)

(۲۰۳۱۸) حضرت ابن بریدہ کے والد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔

(۲۰۳۱۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْحَجِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ . (بخاری ۵۹۵۸ - مسلم ۸۵)

(۲۰۳۱۹) حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔

(۲۰۳۲۰) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ . (ابوداؤد ۲۲۹ - احمد ۱ / ۸۳)

(۲۰۳۲۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔

(۴۹) فِي رَمِي حَمَامِ الْأَمْصَارِ

شہری کبوتروں کے مارنے کا بیان

(۲۰۳۲۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ طَيْرَ جَارِهِ ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ .
(۲۰۳۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے پرندے کو تیر مارنا مکروہ ہے، ایسی صورت میں مارنے والے پر پرندے کی قیمت لازم ہوگی۔

(۲۰۳۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ فَكَرِهَهَا .
(۲۰۳۲۲) حضرت نافع سے شہری کبوتر کا شکار کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اسے مکروہ قرار دیا۔
(۲۰۳۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَوْ حَدَّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْمَدِينَةِ وَالْأَمْصَارِ .

(۲۰۳۲۳) حضرت حسن نے شہری کبوتروں کا شکار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۳۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ يَعْنِي : بِأَذْنِ هَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ .

(۲۰۳۲۴) حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اور دوسرا آدمی پہلے آدمی کو اپنے کبوتر کا شکار کرنے کی اجازت دے دے۔

(۲۰۳۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْأَمْصَارِ .

(۲۰۳۲۵) حضرت نافع نے شہری کبوتروں کے شکار کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۳۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : يُحَكَّمُ عَلَيْهِ .

(۲۰۳۲۶) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی لیلیٰ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص شہر میں کسی جانور کا شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے سزا دی جائے گی۔

كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأُقْضِيَةِ

(۱) فی الشریکین مَنْ قَالَ الرَّبْحَ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
ان حضرات کے اقوال کا تذکرہ جو فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں دو شریک ہوں تو نفع ان کی طے
کردہ مقدار کے بقدر تقسیم ہوگا اور نقصان راس المال میں سے پورا کیا جائے گا

حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال :

(۲۰۳۲۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي الشَّرِيكَيْنِ، قَالَا: الشَّرِيكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۲۷) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے دو شریکوں کو ان کی طے کردہ مقدار کے بقدر ملے گا اور
نقصان راس المال میں سے پورا کیا جائے گا۔

(۲۰۳۲۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرَّبْحُ
عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۲۸) حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز خریدی پھر اس میں کسی دوسرے کو شریک بنایا تو نفع طے کردہ
مقدار کے برابر ہوگا اور نقصان مال میں سے پورا کیا جائے گا۔

(۲۰۳۲۹) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ أَبِي
كَلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرَجُ هَذَا مِنْهُ وَهَذَا مِنْتَيْنِ، قَالَا: الرَّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ

وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۲۹) حضرت جابر بن زید اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر دو شریک ایسے ہوں جن میں سے ایک نے سوا دوسرے نے دوسو لگائے ہوں تو نفع طے کردہ شرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

(۲۰۳۳۰) حَدَّثَنَا يَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

(۲۰۳۳۰) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ شرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

(۲۰۳۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ .

(۲۰۳۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ مقدار کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

(۲۰۳۳۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مِغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۲۰۳۳۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۳۳۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ .

(۲۰۳۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ مقدار کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

(۲۰۳۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَادًا وَقَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِالْقَيْنِ ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِالْفِ فَاشْتَرَا وَاشْتَرَا ، أَنْ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرَّبْحُ نِصْفَيْنِ ، فَقَالَ : الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ .

(۲۰۳۳۴) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم، حضرت حماد اور حضرت قتادہ سے سوال کیا کہ اگر دو آدمیوں نے باہم

تراکت پر کام کیا، ایک دو ہزار اور دوسرا ایک ہزار لایا۔ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ نقصان دونوں کے درمیان ہوگا اور نفع بھی دونوں کو

اُدھا آدھا ملے گا۔ اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نفع طے کردہ شرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے پورا کیا

جائے گا۔

(۲۰۳۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ

بِنِسْبَتِهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ

نَقْدًا ، فَإِنْ كَانَ نَقْدًا فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ ، وَالرَّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ .

(۲۰۳۳۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ادھار پر کوئی معاملہ کیا، پھر اس میں کسی دوسرے آدمی کو شریک کر لیا تو

ضمان معاملہ کرنے والے پر ہوگا اگر دوسرے کی طرف سے کوئی نقدی نہ ہو تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا اور اگر نقدی ہو تو نقصان نقدی والے کو ہوگا اور نفع طے شدہ حصہ کے بقدر تقسیم ہوگا۔

(۲۰۳۳۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبِ ، أَوْ الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لَا أُدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ ، الرُّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ .
(۲۰۳۳۶) حضرت علی رضی اللہ عنہم نے فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ حصے کے بقدر اور نقصان اصل مال میں سے ہوگا۔

(۲۰۳۳۷) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَيْلَ طَاوُوسَ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَا كَأَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ : طَاوُوسٌ : لَا يُغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ .
(۲۰۳۳۷) حضرت طاووس سے سوال کیا گیا کہ دو آدمیوں نے اس طرح شراکت داری کی کہ ایک کا مال دوسرے سے زیادہ تھا اور اس کو نقصان میں بھی زیادہ کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر تاوان نہیں ہوگا اس پر صرف اس مال ہی لازم ہوگا۔

(۲) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ إِنْ شَاءَ

أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

اگر کسی آدمی نے کوئی چیز دیکھے بغیر خریدی تو جن حضرات کے نزدیک اسے رکھنے

یا چھوڑنے کا اختیار ہوگا

(۲۰۳۳۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ كَأَنَّا مَا كَانَ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

(۲۰۳۳۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز دیکھے بغیر خریدی تو اسے دیکھنے کے بعد اختیار ہے خواہ رکھے یا چھوڑ دے۔

(۲۰۳۳۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .

(۲۰۳۳۹) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۰۳۴۰) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شَرَطَ لَهُ .
(۲۰۳۴۰) حضرت ابراہیم سے مذکورہ مضمون میں یہ اضافہ منقول ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر طے شدہ شرط کے مطابق ہو پھر بھی

اختیار ہے۔

(۲۰۳۴۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفَ، فَهُوَ جَائِزٌ.

(۲۰۳۴۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دیکھے بغیر خرید لی تو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اختیار ہے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیان کردہ وصف کے مطابق تھی تو اب واپس نہیں کر سکتا۔

(۲۰۳۴۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وَصِفَ لَهُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَا خِيَارَ لَهُ.

(۲۰۳۴۲) ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز طے شدہ وصف کے مطابق نکلی تو واپس نہیں کر سکتا۔

(۲۰۳۴۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مَحْمُولٍ، مَوْلَى آلِ عُمَارَةَ، قَالَ: بَعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ: إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرِضْهُ، فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَحَاصِمَتُهُ إِلَيَّ شُرَيْحٌ فَقَالَ: لَكَ الرِّضَى، وَلَيْسَ لَهُ، إِنَّمَا الْبَيْعُ، عَنْ تَرَاضٍ.

(۲۰۳۴۳) حضرت محمول مولی آل عمارہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دو چادریں فروخت کیں اور شرط لگائی کہ اگر تم نے ایک چادر کو کھولا تو دونوں کی بیع لازم ہوگی۔ اس نے ایک چادر کو کھولا، پھر وہ اس بیع سے راضی نہ ہوا اور مجھے واپس کرنے کے لیے آگیا۔ میں نے واپس کرنے سے انکار کیا اور یہ مقدمہ لے کر قاضی شریح کے پاس گیا انہوں نے فرمایا کہ تیری رضا ہے اس کی نہیں ہے جبکہ بیع تو باہمی رضامندی کا نام ہے۔

(۲۰۳۴۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَرَفَعَهُ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (دارقطنی ۸ - بیہقی ۳۶۸)

(۲۰۳۴۴) حضرت مکحول سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو اس طرح خریدے کہ اس کو دیکھنا نہ ہو اور وہ چیز اس سے غائب ہو تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔

(۲۰۳۴۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُعِينَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعُدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَظَنَرَ بَعْضَ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرِ عَوَارًا فِيمَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ.

(۲۰۳۴۵) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے گندم کی ایک مخصوص مقدار خریدی اور پھر تاجروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اس کے باوجود وہ بیع قائم رہے گی۔ ہاں البتہ اگر ظاہر میں کوئی عیب نظر آئے تو ختم کر سکتا ہے۔

(۲۰۳۴۶) حَدَّثَنَا عُندَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ رَأَى عَبْدًا أَمْسَ فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ، قَالَ: لَا حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ.

(۲۰۳۴۶) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا اگر کوئی کسی سے ایک غلام گذشتہ کل خرید چکا

ہو اور اسے دیکھے بغیر آج فروخت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن اسے خریدا ہے اسی دن دیکھے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔

(۲) فِی مِشَارِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

یہودی یا عیسائی کو شریک بنانے کا بیان

(۲۰۳۴۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَبِي رَجُلٌ جَلَبًا يَجْلِبُ الْغَنَمَ ، وَيَشَارِكُ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : لَا يُشَارِكُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ قَالَ : لِأَنَّهُمْ يَرُوبُونَ وَالرَّبَّاءُ لَا يَجِلُّ .

(۲۰۳۴۷) ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ میرے والد بکریوں کے تاجر ہیں وہ بعض اوقات کہ یہودی یا عیسائی کو اپنا شریک بناتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کسی یہودی، عیسائی یا مجوسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ سود کا لین دین کرتے ہیں حالانکہ سود حرام ہے۔

(۲۰۳۴۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ بِصَلَاتِكَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكَلْبِ .

(۲۰۳۴۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کسی یہودی یا عیسائی سے مشارکت نہ کرو، انہیں نماز میں اپنے آگے سے نہ گزرنے دو، اگر گذر جائیں تو یہ کہتے کی طرح ہیں (یعنی نماز ٹوٹ جائے گی)۔

(۲۰۳۴۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَلِي الشَّرَاءَ وَالْبَيْعَ .

(۲۰۳۴۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر خرید و فروخت مسلمان خود کرتا، تو یہودی یا عیسائی کو شریک بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۵۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تُعْطِ الذَّمِّيَّ مَالًا مُضَارًا ، وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَّرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَاعْلَمَهُمْ أَنَّهُ مَالٌ ذَمِّيٌّ .

(۲۰۳۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کسی ذمی کو مضاربت کے لیے مال نہ دو البتہ بطور مضاربت کے اس سے مال لے سکتے ہو۔ جب تم اس مال کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے پاس سے گزرو تو انہیں بتادو کہ یہ ذمی کا مال ہے۔

(۲۰۳۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يَلِي الشَّرَاءَ وَالْبَيْعَ .

(۲۰۳۵۱) حضرت عطاء، طاووس، مجاہد یہودی یا عیسائی سے مشارکت کو کروہ قرار دیتے تھے الا یہ کہ خرید و فروخت مسلمان کرے۔

(۲۰۲۵۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْبٍ ، وَلَا بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَجِلُّ فِي دِينِهِ الرَّبَا ، وَتَمَنَّ الْخِنْزِيرِ .

(۲۰۳۵۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ مشرک سے مشارکت بھتی باڑی اور ایسے امور میں درست نہیں جن میں وہ غائب ہو کیونکہ شرک کے دین میں سود اور خنزیر کی قیمت حلال ہے۔

(۲۰۲۵۳) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشِرْكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتَ تَعْمَلُ بِالْمَالِ .

(۲۰۳۵۳) حضرت ایسا بن معاویہ فرماتے ہیں کہ اگر مال خود خرچ کرو تو یہودی یا عیسائی سے مشارکت کر سکتے ہو۔

(۲۰۲۵۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَذُوا مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَا تَدْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ .

(۲۰۳۵۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ذمیوں سے مضاربت کا مال لے سکتے ہو پر انہیں دے نہیں سکتے۔

۴) فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ وَأَخَذَ بَعْضَ طَعَامٍ ، وَبَعْضَ رَأْسِ الْمَالِ مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ ؟
ایک آدمی نے کسی سے غلے پر بیع سلم کی اور کچھ غلہ لے لیا اور کچھ اس المال واپس لے لیا۔ جن

حضرات کے نزدیک یہ درست ہے

(۲۰۳۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سَلِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلْفِي طَعَامًا ، فَبِعْتُهُ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ آتَانِي فَقَالَ : خُذْ بَيْعَةَ رَأْسِ مَالِكَ : خُمْسَ مِئَةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ .

(۲۰۳۵۵) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ہزار درہم پر ایک آدمی سے غلے کی وصولی کے لیے بیع سلم کی۔ میں نے اس سے غلہ کا آدھا حصہ لیا اور اسے ایک ہزار درہم کا بیع کیا۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور اس المال کا آدھا یعنی پانچ سو درہم مجھے واپس کر دیئے، یہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ معروف ہے اور اسے دو بدلے لیں گے۔

(۲۰۳۵۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ .

(۲۰۳۵۶) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ معروف ہے۔

(۲۰۲۵۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي مُطَرِّفِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلْمِهِ وَيَعْصَ رَأْسَ مَالِهِ .

(۲۰۳۵۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کچھ راس المال واپس لے لے اور کچھ بیع سلم کا سامان لے لے۔

(۲۰۳۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَرِهِ بِأَسَا .

(۲۰۳۵۸) حضرت ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۳۵۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۳۶۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ ، قَالَ :

أَسْلَفَ مِئَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خُمْسَ مِئَةِ فَرَقٍ ، وَيَكْتَسِبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا .

(۲۰۳۶۱) حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سو دینار کے بدلے ایک ہزار فرق پر بیع سلم کی تو اس بات میں کوئی حرج

نہیں کہ پانچ سو فرق لے لے اور پانچ سو دینار واپس لے لے۔ (فرق ایک پیمانے کا نام ہے)

(۲۰۳۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۳۶۲) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۶۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ :

(۲۰۳۶۳) حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۶۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالِيَّيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ .

(۲۰۳۶۴) حضرت حمید بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دراہم کے عوض کنیز پر بیع سلم کی اور پھر کچھ گندم لے لی

باقی دراہم واپس لے لیے تو یہ معروف ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۵) مِنْ كَرِهٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا

جن حضرات کے نزدیک بیع سلم میں کچھ سامان اور باقی مال لینا مکروہ ہے

(۲۰۳۶۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو كَانَ يُسَلِّفُ

فِي الطَّعَامِ ، فَقَالَ : لِلذِّي كَانَ يُسَلِّفُ لَهُ : لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَا

کُلَّهُ ، أَوْ الطَّعَامَ وَافِيًا .

(۲۰۳۶۵) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو غلے میں بیعِ سلم کیا کرتے تھے لیکن وہ اس آدمی سے کہتے کہ کچھ غلہ اور کچھ مال نہ لینا۔ یا تو سارا مال لے لو یا سارا غلہ لے لو۔

(۲۰۳۶۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ السَّلْمَ فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلْمِهِمْ دَرَاهِمَ وَبَعْضَ سَلْمِهِمْ طَعَامًا ، فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ .

(۲۰۳۶۶) شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سوال کیا کہ اگر بیعِ سلم میں کوئی کچھ مال اور کچھ سلم کا سامان لے لے تو کیسا ہے؟ ہوں نے فرمایا کہ یا تو سارا سامان لے لو یا سارا غلہ لے لو۔

(۲۰۳۶۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ حَمَّادٍ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .

(۲۰۳۶۷) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۰۳۶۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَذَا فَايِسٌ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ .

(۲۰۳۶۸) حضرت ابو عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فاسد ہے، یا تو سارا مال لے لو یا سارا سامان لے لو۔

(۲۰۳۶۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنْهُ دَرَاهِمٌ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ نِصْفَ سَلْمِهِمْ طَعَامًا وَعَسَّرَ عَلَيْهِ النِّصْفَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ سَلْمَكَ ، رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا .

(۲۰۳۶۹) حضرت عبداللہ بن معقل فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے سو درہم کے عوض غلے پر بیعِ سلم کی اور ادھا غلہ لے لیا اور ادھا ل تو یہ درست نہیں، وہ اس المال پورا لے لے۔

(۲۰۳۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلْمِهِمْ وَبَعْضًا دَرَاهِمٍ فَكِرْهُهُ .

(۲۰۳۷۰) حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آدمی بیعِ سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۲۰۳۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلْمِهِمْ وَبَعْضًا طَعَامًا .

(۲۰۳۷۱) حضرت طاووس نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آدمی بیعِ سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۲۰۳۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ يَذْكَرُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلْمِهِمْ وَبَعْضًا حِنْطَةً .

(۲۰۳۷۲) حضرت ابو سلمہ نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آدمی بیع سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۲۰۳۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : خُذْ رَأْسَ سَلْمِكَ ، رَأْسَ مَالِكَ .

(۲۰۳۷۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یا تو سامان لے لو یا مال واپس لے لو۔

(۲۰۳۷۴) أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ ، وَأَنَّ عَطَاءَ يَرِيهِ بِأَسَا .

(۲۰۳۷۴) حضرت مجاہد سے مکروہ اور حضرت عطاء سے مباح سمجھتے تھے۔

(۲۰۳۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُ سَلْمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا .

(۲۰۳۷۵) حضرت جابر بن زید نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بیع سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۲۰۳۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي السُّودَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۰۳۷۶) حضرت شریح نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بیع سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۲۰۳۷۷) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۰۳۷۷) حضرت سعید بن جبیر نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بیع سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۲۰۳۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُ

سَلْمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا .

(۲۰۳۷۸) حضرت سالم اور حضرت قاسم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بیع سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۲۰۳۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُ سَلْمِهِ وَبَعْضًا

طَعَامًا .

(۲۰۳۷۹) حضرت ابن سیرین نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بیع سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۲۰۳۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّبٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

وَسُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

الْمُصْطَلِقِ وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلْمٍ

وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ .

(۲۰۳۸۰) بہت سے علماء نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بیع سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

(۶) فِي الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ

بیع سلم میں گروی رکھوانے کا بیان

(۲۰۳۸۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ فَضِيلٍ : إِلَى أَجَلٍ . (بخاری ۲۴۰۰ - مسلم ۱۲۲۶)

(۲۰۳۸۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی سے کچھ عرصہ کی بیع پر غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی زرہ رہن رکھوائی۔ (ابن فضیل کی روایت میں الی اجل کے الفاظ نہیں)

(۲۰۳۸۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلْمِ . حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلم میں گروی رکھوانا جائز ہے۔

(۲۰۳۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلْمِ . حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلم میں گروی رکھوانا جائز ہے۔

(۲۰۳۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ . حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلم میں گروی رکھوانا جائز ہے۔

(۲۰۳۸۵) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، وَابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلْمِ بَأْسًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ يَقُولُ : ذَلِكَ الرَّبِيعُ الْمَضْمُونُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَدْ يَأْخُذُ الرَّهْنُ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ السَّعْرُ . حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ سلم میں گروی رکھوانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے تھے کہ یہ مٹا ہوا ہوا نفع ہے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بعض اوقات رہن رکھنے کے بعد بھاڑ بڑھ بھی تو جاتا ہے۔

(۲۰۳۸۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أُعْطِيتُ شَيْئًا إِلَّا بِرَهْنٍ .

(۲۰۳۸۶) شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں گروی کے بغیر کوئی چیز نہ دوں۔

(۲۰۳۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلْمِ بَأْسًا .

(۲۰۳۸۷) حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عطاء سلم میں گروی رکھوانے کو ٹھیک سمجھتے تھے۔

(۲۰۳۸۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشِبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ . (ابن ماجہ ۲۳۳۸)

(۲۰۳۸۸) حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس غنے کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی۔

(۲۰۳۸۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ دِرْعُهُ لَمَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ . (احمد ۲۳۶۶۔ دارمی ۲۵۸۲)

(۲۰۳۸۹) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو کے بدلے میں گروی رکھوائی ہوئی تھی یہ جو آپ نے اپنے ایک سال کی خوراک کے لیے حاصل کیے تھے۔

(۲۰۳۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَرَأَ (فِرْهَانَ مَقْبُوضَةً)

كَأَنَّهُ لَمْ يَرِ بِهِ بَأْسًا .

(۲۰۳۹۰) حضرت خالد بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سلم میں رہن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی (فرہان مقبوضہ) گویا ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔

(۲۰۳۹۱) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ السَّلْمِ أَخَذَ فِيهِ

الرَّهْنُ ، أَوِ الْقَبِيلَ ؟ فَقَالَ : اسْتَوْثِقُوا مِنَ الَّذِي لَكَ خَيْرٌ .

(۲۰۳۹۱) حضرت زبیر بن سراج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن معقل سے سوال کیا کہ بیع سلم میں رہن اور قبیل رکھنا کیا

ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو تمہارے لیے محفوظ ہو وہ معاہدہ کرو۔

(۲۰۳۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ ، وَالْقَبِيلَ فِي السَّلْمِ .

(۲۰۳۹۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو سلم میں گروی یا قبیل کو مکروہ سمجھتے ہیں۔

(۲۰۳۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً

بِمَالِكَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ : إِنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ الْقَبِيلَ ، وَلَا يَرَوْنَ بِالْكَفِيلِ بَأْسًا .

(۲۰۳۹۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت کا معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک قوم

کے لوگ سلم میں مطلق کفیل کو ناپسند سمجھتے ہیں اور نفوس کے کفیل میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

(۲۰۳۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا .

(۲۰۳۹۴) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ کے شاگرد اس کو ٹھیک سمجھتے تھے۔

(۲۰۳۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ .

(۲۰۳۹۵) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۳۹۶) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلْمِ .

(۲۰۳۹۶) حضرت ابو جعفر، سالم اور قاسم فرماتے ہیں کہ سلم میں گروی رکھوانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۹۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَوْلَاهُ حَلَالًا ، فَالرَّهْنُ مِمَّا أَمْرٌ بِهِ .

(۲۰۳۹۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر بنیاد حلال ہو تو رہن مامور بہ چیزوں میں سے ہے۔

(۲۰۳۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ : اسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِكَ .

(۲۰۳۹۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیع سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کا معاہدہ کرو۔

(۲۰۳۹۹) حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَائِمٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ ، قَالَ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رَبًّا مَضْمُونٌ . (عبدالرزاق ۱۳۰۹۲)

(۲۰۳۹۹) حضرت عامر سے سلم میں رہن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس میں وہ بات کہوں گا جو سعید بن جبیر نے کی کہ یہ ملایا ہوا سود ہے۔

(۲۰۴۰۰) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلْمِ .

(۲۰۴۰۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلم میں رہن اور کفیل میں کوئی حرج نہیں۔

(۷) من كره الرهن في السلم

جن حضرات کے نزدیک سلم میں گروی رکھوانا مکروہ ہے

(۲۰۴۰۱) حَدَّثَنَا وَرَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلْمِ .

(۲۰۴۰۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ سلم میں گروی اور قبیل کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

(۲۰۴۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ السَّلْمَ وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : ذَلِكَ الشَّفْتُ الْمَضْمُونُ يَعْنِي الرَّبْحَ .

(۲۰۴۰۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ملایا ہوا نفع ہے۔

(۲۰۴۰۳) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيدَ وَ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرِّهْنَ فِي السَّلْمِ .

(۲۰۴۰۳) حضرت ابن عباس سلم میں گروی کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۴۰۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : كُلُّ بَيْعٍ نَسَاءٍ فَإِنَّهُ يَكْرَهُ الْقَيْلُ وَالرِّهْنُ فِيهِ .

(۲۰۴۰۴) حضرت طاوس ادھار والی بیع میں رہن اور کفیل کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۴۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَخَذَ الرَّهْنَ فِي السَّلْمِ ؟ فَقَالَ :

ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ ، قَالَ : قُلْتُ : أَخَذَ الْكَفِيلَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ .

(۲۰۴۰۵) حضرت بکیر بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ کپاس سلم میں گروی رکھوا سکتا ہوں؟ انہوں نے

فرمایا کہ یہ ملایا ہوا نفع ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں کفیل بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ملایا ہوا نفع ہے۔

(۲۰۴۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرِّهْنَ فِي السَّلْفِ .

(۲۰۴۰۶) حضرت شرح سلم میں رہن کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

(۲۰۴۰۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرِّهْنَ وَالْقَيْلَ فِي السَّلْمِ .

(۲۰۴۰۷) حضرت سعید بن جبیر سلم میں رہن اور کفیل کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

(۸) مَنْ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا

جن حضرات کے نزدیک آقا اور اس کے غلام کے درمیان سود نہیں ہوتا

(۲۰۴۰۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ

سَيِّدِهِ رِبًا ، وَكَانَ يَبِيعُ ثَمْرَةَ مِنْ غُلَامَانِهِ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ .

(۲۰۴۰۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ آقا اور اس کے غلام کے درمیان سود نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے غلاموں

کے پھل پکنے سے پہلے خرید لیتے تھے۔

(۲۰۴۰۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ؛ يُعْطِيهِ دِرْهَمًا

وَيَأْخُذُ مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ .

(۲۰۴۰۹) شعبی فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقا کے درمیان سود نہیں ہوتا۔ وہ غلام کو ایک درہم دے کر اس سے دو درہم بھی لے

سکتا ہے۔

(۲۰۴۱۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنِ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا .

(۲۰۴۱۰) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقا کے درمیان سوئیں ہوتا۔

(۲۰۴۱۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رَبًّا .

(۲۰۴۱۱) حضرت جابر اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقا کے درمیان سوئیں ہوتا۔

(۲۰۴۱۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّي خُمْسَةَ دَرَاهِمٍ كُلَّ شَهْرٍ فَقَالَ : أُعْطِيَ مِنْتَى دَرَاهِمٍ كُلَّ شَهْرٍ وَأُعْطِيكَ كُلَّ شَهْرٍ تِسْعَةَ دَرَاهِمٍ ، قَالَ : فَلَمْ يَرِهِ بِأَسَا .

(۲۰۴۱۲) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی سے سوال کیا کہ ایک آقا اپنے غلام کو ہر مہینے پانچ درہم دیتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ تو مجھے ہر مہینے دو سو درہم دے اور میں تجھے ہر مہینے نو درہم دوں گا۔ ان حضرات نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۴۱۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْعَلَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُعْطِيهِ بَدَنَةً ، أَوْ دَابَّةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَاحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ .

(۲۰۴۱۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ آدمی اپنے غلام کو اس بنا پر درہم دے کہ وہ غلے میں اضافہ کرے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کو جانور یا سواری دے یا کوئی چیز دے میرا پھر جتنا چاہے اضافہ کرے۔

(۲۰۴۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رَبًّا .

(۲۰۴۱۴) حضرت جابر بن زید اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقا میں سوئیں ہوتا۔

(۲۰۴۱۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رَبًّا .

(۲۰۴۱۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقا میں سوئیں ہوتا۔

(۹) فِي شِرَاءِ الْبَقُولِ وَالرُّطَابِ

سبز یوں اور بانس نما چیزوں کی فروخت کا بیان

(۲۰۴۱۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرُّطَابِ جَزْءَةً بَعْدَ جَزْءَةٍ .

(۲۰۴۱۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بانس وغیرہ کو ٹکڑے کر کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۴۱۷) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرُّطَابِ الْجُزْءَةَ بَعْدَ الْجُزْءَةِ ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ .

(۲۰۴۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بانس وغیرہ کو ٹکڑے کر کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۴۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ بَيْعِ الرُّطْبَةِ جَزَائِنِ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا جَزْأَةً .

(۲۰۴۱۸) حضرت برید بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بانس وغیرہ کو کھلے کر کے بیچنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے ایک ہی کھلے میں بیچنا چاہیے۔

(۲۰۴۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقُضْبِ وَالْحِنَاءِ ، وَكَرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ ، وَالْخُرْبِزِ ، إِلَّا جَنْبَةً .

(۲۰۴۱۹) حضرت مجاہد بانس اور مہندی کی بیچ کو مکروہ قرار دیتے تھے اور خربوزے وغیرہ کی بیچ کو حنبیہ کے علاوہ مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۴۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْقُصْبِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ تَسْنَبُ ، فَكَرِهَهُ .

(۲۰۴۲۰) حضرت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ سے ایسی فصل کے بارے میں سوال کیا جو ہبز ہونے کی حالت میں کاٹی جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس کے خوشے آگئے ہوں تو انہوں نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا۔

(۲۰۴۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُسَلِّمُوا لِي فِرَاحٍ حَتَّى تَبْلُغَ .

(۲۰۴۲۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیچ سے نکلے ہوئے پودے میں بیچ سلم نہ کرو جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے۔

(۲۰۴۲۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يُشْتَرَى السَّنْبَلُ حَتَّى يَبْيَضَّ .

(۲۰۴۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خوشوں والے پودے کو سفید ہونے سے پہلے نہیں بیچ سکتے۔

(۲۰۴۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرُّطَابِ إِلَّا جَزْأَةً .

(۲۰۴۲۳) حضرت ابن اشوع اور حضرت قاسم نے بانسوں وغیرہ کو کھلے کر کے بیچنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۴۲۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ السَّلْمُ فِي الْعَنْبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطْبِ

وَالْتَفَاحِ وَالْكُمَثْرَى وَالْبَطِيخِ وَالْقَنَاءِ وَالسَّنْبَلِ وَالرُّطْبِ وَأَشْبَاهِهِ .

(۲۰۴۲۴) حضرت ابراہیم انگوروں، خشک کھجوروں، تر کھجوروں، سیب، امرود، خربوزے، تر بوز، خوشوں اور بانسوں وغیرہ میں بیچ سلم

کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۱۰) الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْخِيَّاطِ الثُّوبَ فَيَقْطَعُهُ

ایک آدمی درزی کو کپڑے دے اور درزی انہیں کاٹ دے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۴۲۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَ الْخِيَّاطُ الثِّيَابَ بِأَجْرٍ

مَعْلُومٌ ، يَمْلِكُهَا بِدُونِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهَا بِشَيْءٍ ، أَوْ يَقْطَعُ ، أَوْ يُعْطِيَهُ سُلُوكًا وَإِبْرًا ، وَيَخِيْطُ فِيهَا شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا بِهَذَا ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، فَلَا يَأْخُذْنَ فَضْلًا .

(۲۰۳۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ درزی کپڑے معلوم اجرت کے بدلے قبول کرے۔ وہ اجرت معلوم کیے بغیر اس صورت میں قبول کر سکتا ہے اگر کسی طرح دس کی علامت لگائی ہو یا اسے کاٹ دیا ہو یا اسے اس کا کچھ حصہ سوئی سے سی دیا ہو، اگر کوئی علامت نہ لگائی تو زائد کو وصول نہیں کر سکتا۔

(۲۰۳۲۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ بِأَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْتَمَتَيْنِ ، وَالنَّصْفِ إِذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ .

(۲۰۳۲۶) حضرت حماد اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ درزی کپڑا لے اور دیتے ہوئے دو ٹکٹ اور یا نصف کم کر دے اگر اس نے اس کو کاٹا ہو یا اس میں کچھ کام کیا ہو۔

(۲۰۳۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَآبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ خِيَّاطٌ أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأُزَاجِرُهُ بِأَقْلٍ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ؟ قَالَ : تَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَقْطَعُهُ وَأَضْمُهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۲۰۳۲۷) حضرت ابو نصرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ اور حضرت ابو العالیہ سے سوال کیا کہ میں درزی ہوں اور کپڑے سیتا ہوں میں جتنا اس میں سے لیتا ہوں اس سے کم اجرت ملے کرتا ہوں، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا تم اس میں کوئی کام کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں کاٹ کر اسے سیتا ہوں، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۳۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُزَاجِرُهُ بِأَقْلٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ ، قَالَ : يَسْتَأْذِنُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ .

(۲۰۳۲۸) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کپڑا دے اور اس کی اجرت کپڑے کی قیمت سے کم ہو تو اگر اس نے اس میں کام کیا اور کپڑا کا ناتو اس میں کوئی حرج نہیں البتہ اجازت لینا بہتر ہے۔

(۲۰۳۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ فِي النَّخِيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنَّصْفِ ، أَوْ الثَّلْثِ ، أَوْ الرَّبْعِ ، قَالَ : إِذَا أَعَانَهُ بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ .

(۲۰۳۲۹) حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درزی کو کپڑے کا نصف، ثلث یا ربع دے اور کسی چیز سے اس کی مدد کرے تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۱) الرَّجُلُ يَشْهَدُ الطَّعَامَ يَكَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ

اگر کسی آدمی کے سامنے غلے کو تولا جائے تو کیا خریدتے وقت دوبارہ تلوانا ہوگا؟

(۲۰۳۳۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي

الطَّعَامَ قَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ .

(۲۰۴۳۰) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی نے غلے کا وزن ہوتے دیکھا ہو تو کیا خریدنے سے پہلے دوبارہ اس کو ماپنا ضروری ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ خریدنے سے پہلے دوبارہ اس کا ماپنا ضروری ہے۔

(۲۰۴۳۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطْرِفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَلَا أكونُ شَاهِدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُكَالُ أَشْتَرِيهِ أَخْذَهُ بِكَيْلِهِ ؟ فَقَالَ : مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ .

(۲۰۴۳۱) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا میں ایک غلے کے ماپے جانے کے وقت موجود تھا، کیا میں اسے ماپے بغیر خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر سودے کے لیے الگ طور پر ماپنا ضروری ہے۔

(۲۰۴۳۲) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادِ مَوْلَى آلِ سَعْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَأَكْتَالَهُ ، أَيُصْلِحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْكَ .

(۲۰۴۳۲) حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی غلے کو ماپ کر خریدے تو کیا دوسرے آدمی کے لیے اس کے ماپنے پر اکتفاء کرتے ہوئے خریدنا ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ اپنے سامنے ماپ کرانا ضروری ہے۔

(۲۰۴۳۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَيْمُونِ الْقَنَادِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَاشِيَةَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَزْنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزْنِهَا ؟ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ذَلِكَ الرَّبَا ، خَالَطَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ .

(۲۰۴۳۳) حضرت ميمون قناد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ ایک آدمی ایک جانور بیچتا ہے میں اس کو وزن کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کیا اسی وزن سے خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہ سود ہے جو کیل اور وزن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

(۲۰۴۳۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ بِجِلَالٍ فَأَشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَكَالَ مِنْهُ جُلَّةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِكَيْلِهَا فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ .

(۲۰۴۳۴) حضرت خالد بن عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کچھ برتن بیچنے کے لیے پیش کیے۔ ایک آدمی نے انہیں خرید لیا۔ پھر اسے اسی کیل کے ساتھ بیچنے کا ارادہ کیا تو حضرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۴۳۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى كَيْلِهِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَكَيْلَهُ .

(۲۰۴۳۵) حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی چیز کو کیل ہوتے دیکھا اور اگر اسے خریدنا چاہے تو دوبارہ کیل کرنا ہوگا۔

(۲۰۴۳۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسَيْئَلَ عَنْ رَجُلَيْنِ

اَشْتَرَىٰ أَحَدَهُمَا طَعَامًا وَالْآخَرَ مَعَهُ فَقَالَ: قَدْ شَهِدْتُ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ ، فَقَالَ: خُذْ مِنِّي رِبْحًا وَأَعْطِينِيهِ ؟ قَالَ : لَا حَتَّىٰ يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لَكَ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نَقْصَانُهُ .

(۲۰۳۳۶) حضرت محمد بن سیرین سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے کھانا خریدا، دوسرا اس کے ساتھ تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے بیع اور قبضہ کو دیکھا ہے پھر وہ نفع کے ساتھ اس چیز کو خریدا چاہتا ہے تو کیا اسی کیل میں خریدے۔ انہوں نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ بیچنے سے پہلے دوبارہ مانپنا ضروری ہے تاکہ اضافے اور کمی کا علم ہو جائے۔

(۱۲) فِي الرَّجْلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا

ایک درہم کم ایک دینار میں کپڑا خریدنے کا حکم

(۲۰۳۳۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا بِنِسْبَتِهِ .

(۲۰۳۳۷) حضرت ایوب اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آدمی ایک درہم کم ایک دینار میں ادھار کے ساتھ کپڑا خریدے۔

(۲۰۳۳۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا .

(۲۰۳۳۸) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آدمی ایک درہم کم ایک دینار میں ادھار کے ساتھ کپڑا خریدے۔

(۲۰۳۳۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا .

(۲۰۳۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک درہم کم ایک دینار کے بدلے کپڑا بیچنا مکروہ ہے۔

(۲۰۳۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُوكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ صَاحِبِ بْنِ أَبِي غَلِيظٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا .

(۲۰۳۴۰) حضرت صحیح بن ابی غلیظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن کو دیکھا کہ وہ ایک درہم کم ایک دینار کے

بدلے کپڑا خرید رہے تھے۔

(۲۰۳۴۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: أَيْبَعُكَ بِدِينَارٍ وَتَزِيدُنِي دِرْهَمَيْنِ .

(۲۰۳۴۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز ایک دینار کے بدلے

فروخت کی اور تم میرے لیے دو درہم اضافہ کرو۔

(۲۰۳۴۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ،

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَيْبَعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا .

(۲۰۳۴۲) حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے کہ میں تمہیں یہ

کپڑا ایک درہم کم ایک دینار میں دیتا ہوں۔

(۱۳) فِی الرَّجُلِ یَمْلِكُ الْمَحْرَمِ مِنْهُ یَعْتَقُ أَمْرًا لَا؟

اگر کوئی شخص محرم رشتہ دار کا مالک ہو تو وہ آزاد ہوگا یا نہیں؟

(۲۰۴۴۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَهُوَ حُرٌّ .

(۲۰۴۴۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کا مالک ہو تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۰۴۴۴) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَهٗ أَوْ خَالَتَهُ ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ .

(۲۰۴۴۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے چچا، پھوپھی، ماموں یا خالہ کا مالک ہو تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ اس کے لیے والدین کی طرح ہیں۔

(۲۰۴۴۵) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهٗ ، أَوْ خَالَتَهُ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ .

(۲۰۴۴۵) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے چچا، پھوپھی، ماموں یا خالہ کا مالک ہو تو وہ آزاد ہو جائیں گے یہ اس کے لیے والدین کی طرح ہیں۔

(۲۰۴۴۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ .

(۲۰۴۴۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۰۴۴۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . (ترمذی ۱۳۶۵۔ ابوداؤد ۳۹۳۵)

(۲۰۴۴۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۴۴۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ . (۲۰۴۴۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۰۴۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنْ حَنَاحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ . يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالَاتٍ لَهُ فَأَعْتَقَنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ .

(۲۰۴۴۹) حضرت زبیر طائف کی لڑائی میں اپنی کچھ خالوں کے مالک ہوئے تو وہ آزاد ہو گئیں۔

(۲۰۴۵۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ

إلى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوْجِي وَلِيدَتُهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرْقَ وَلَدِي، قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۰۳۵۰) حضرت مستورد بن احنف فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے چچا نے اپنی باندی کی بیٹی سے میری شادی کرا دی، اس کے ذریعے وہ میرے بچوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔

(۲۰۴۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: مَنْ مَلَكَ ذَا رَجِمٍ، فَهُوَ حُرٌّ.

(۲۰۳۵۱) حضرت جابر بن زید اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو قرہبی رشتہ دار کا مالک ہو اور رشتہ دار آزاد ہو جائے گا۔

(۲۰۴۵۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يَعْتِقُ كُلُّ رَجِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَجِمٍ.

(۲۰۳۵۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی رشتہ دار کا مالک ہو اور وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۰۴۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكِيمِ وَحَمَّادٍ، قَالَا: إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَئَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي

مَحْرَمٍ عَتَقَ.

(۲۰۳۵۳) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی پھوپھی، خالہ یا چچا کی بیٹی یا کسی رشتہ دار کا مالک ہو تو وہ

آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۰۴۵۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يَمْلِكُ وَاكِدُ الْوَالِدَةِ، وَلَا وَالِدُ الْوَالِدَةِ، قَالَ: وَالْعَمَّةُ

وَالْخَالَئَةُ يَتْلِكُ الْمَنْزِلَةَ.

(۲۰۳۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی اور ماں باپ اولاد کے مالک نہیں بن سکتے۔ پھوپھی اور خالہ کا بھی یہی

رتبہ ہے۔

(۲۰۴۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَجِمٍ، فَهُوَ عَتِقٌ، أَوْ هُوَ عَتِيقٌ.

(۲۰۳۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی رشتہ دار کا مالک ہو تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۰۴۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا مَلَكَ

الْعَمَّةُ أَوْ الْخَالَئَةُ؛ فَيَتْلِكُ الْمَنْزِلَةَ.

(۲۰۳۵۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو شخص پھوپھی یا خالہ کا مالک بنے تو وہ ماں کے رتبہ میں ہیں۔

(۲۰۴۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَجِمٍ، فَقَدْ عَتَقَ، أَوْ هُوَ عَتِيقٌ.

(۲۰۳۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی رشتہ دار کا مالک بنے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۰۴۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا مَلَكَ

الْعَمَّةُ وَالْخَالَئَةُ عَتَقَا.

(۲۰۳۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو شخص پھوپھی یا خالہ کا مالک بنے وہ آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۰۵۹) أَخْبَرَنَا عُثْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَالِدَ وَالْوَالِدَةَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .

(۲۰۳۵۹) حضرت شریح اولاد کو ماں باپ اور ماں باپ کو اولاد کے مملوک بننے کی صورت میں آزاد کر دیتے تھے۔

(۲۰۴۶۰) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَبَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا فَهُوَ حُرٌّ ، بِمِلْكِهِ عَتِيقٌ ، قَالَ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقُرَابَةِ رَجِمَ أَمْرَ اللَّهِ بِصَلَاتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْعُقُوقِ شَيْئًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا .

(۲۰۳۶۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ سنت یہ جاری رہی کہ جو شخص اپنے محرم کا مالک بنا اس کا محرم آزاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور قطع رحمی سے منع کیا ہے۔ اس سے بڑی قطع رحمی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی رشتہ دار کو مملوک بنا لے۔

(۲۰۴۶۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَخُ فَلَا يُعْتِقُ عَلَيْهِ .

(۲۰۳۶۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کا مالک بنے تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔

(۱۴) فِي الرَّجْلِ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ وَالذِّين

اگر کسی شخص کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس امانت بھی ہو اور اس پر قرض بھی

ہو تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۴۶۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ .

(۲۰۳۶۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی سے ابتداء کی جائے گی۔

(۲۰۴۶۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْأَمَانَةِ .

(۲۰۳۶۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی سے ابتداء کی جائے گی۔

(۲۰۴۶۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالذِّينُ كُلُّ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ .

(۲۰۳۶۴) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ امانت، مضاربت اور قرض کی ادائیگی حصوں کے اعتبار سے ہوگی۔

(۲۰۴۶۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصِيلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَطَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا : يَا خُدُونَ

بِالْحِصَصِ .

(۲۰۳۶۵) حضرت ابراہیم، حضرت طاووس اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔

(۲۰۴۶۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُضَارَبَةُ وَالذِّينُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ شَيْئًا بَعَيْنِهِ .

(۲۰۳۶۶) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا بعینہ علم نہ ہو تو مضاربت اور قرض برابر ہیں۔

(۲۰۶۶۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا : إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مَضَارِبَةٌ ، أَوْ وَدِيعةٌ فَهَمُّ فِيهِ عَلَى الْيَحْصِصِ .

(۲۰۶۶۷) حضرت شعبی، حضرت ابو جعفر، حضرت عطاء اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا انتقال ہو اور اس پر قرض تھا اور اس کے پاس مضاربت یا امانت تھی تو حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔

(۲۰۶۶۸) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ فِي الدَّيْنِ الْوُدِيعةِ : بِالْيَحْصِصِ ، قَالَ عَامِرٌ : إِذَا لَمْ تَوْجَدْ بَعِيْنَهَا .

(۲۰۶۶۸) حضرت مسروق اور حضرت شریح قرض اور ودیعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حصوں کے اعتبار سے ہوں گے، اور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب بعینہ علم نہ ہو۔

(۲۰۶۶۹) حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُحَاصُّ الْغُرْمَاءُ .

(۲۰۶۶۹) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ قرض خواہوں کو حصوں کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔

(۲۰۶۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوُدِيعةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ .

(۲۰۶۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امانت قرض کی طرح ہے۔

(۱۵) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ أَوْ يَفْلِسُ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا

اگر کوئی آدمی مر جائے یا مفلس ہو جائے اور اس کے پاس سامان ہو تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۶۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ،

فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرْمَاءِ . (مسلم ۱۱۹۳ - احمد ۳۳۷)

(۲۰۶۷۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مفلس ہو جائے اور اس کا

سامان بعینہ موجود ہو تو وہ قرض خواہوں سے زیادہ مستحق ہے۔

(۲۰۶۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرْمَانِهِ .

(بخاری ۲۳۰۲ - ابو داؤد ۳۵۱۳)

(۲۰۶۷۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مال کسی ایسے آدمی کے پاس

یعنی موجود ہو جو مفلس ہو چکا ہے تو وہ غراء سے زیادہ مستحق ہے۔

(۲۰۴۷۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : قَرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيَّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أَسْوَأُ الْغُرَمَاءِ فَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۲۰۴۷۳) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط پڑھا گیا۔ جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص مفلس ہو جائے اور اس کے پاس کسی شخص کا سامان بعینہ موجود ہو تو وہ باقی غراء سے زیادہ مستحق ہوگا۔ البتہ اگر اس نے اس کے مال میں کچھ کمالیا تو وہ قرض خواہوں کے حصے میں آئے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔

(۲۰۴۷۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أَسْوَأُ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ لَّهُ .

(۲۰۴۷۴) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ اگر کسی مفلس ہو جانے والے شخص کے پاس کسی شخص کا مال بعینہ موجود ہو تو وہ اسی کا ہے البتہ اگر اس کی شے حاصل ہوئی ہو تو وہ قرض خواہوں کے حصے میں آئے گی۔

(۲۰۴۷۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أَسْوَأُ الْغُرَمَاءِ .

(۲۰۴۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ بھی قرض خواہوں کا حصہ ہے۔

(۲۰۴۷۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أَسْوَأُ الْغُرَمَاءِ .

(۲۰۴۷۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ بھی غراء کا حصہ ہے۔

(۲۰۴۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ حُلُوَانَ مَاتَ ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُ كَيْسِي بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَيْسَ لَكَ دُونَ الْغُرَمَاءِ .

(۲۰۴۷۷) حضرت شعبی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں نے ایک آدمی کو مضاربت کے لیے کچھ مال دیا تھا، سفر تجارت کے لیے نکلا اور حلوان میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں پیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ میری دی ہوئی تھیل بعینہ موجود ہے حضرت عامر نے فرمایا کہ قرض خواہوں کو چھوڑ کر تو نہیں لے سکتا۔

(۲۰۴۷۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ .

(۲۰۴۷۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص کا مال کسی مفلس ہو جانے والے کے پاس بعینہ موجود ہو تو وہ اسی کا ہے۔

(۲۰۴۷۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ

وَسَلَعَتْهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَهِيَ أَسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ .

(۲۰۴۷۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا مال مفلس ہو جانے والے شخص کے پاس بچینہ موجود ہو تو وہ اس کا ہے۔

(۲۰۴۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أَسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ .

(۲۰۴۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کا ہے۔

(۲۰۴۸۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أَسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ .

(۲۰۴۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کا ہے۔

(۲۰۴۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أَسْوَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ .

(۲۰۴۸۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر سلطان نردو کے تو پھر غرماء کا ہے۔

(۱۶) الرَّجُلُ يَسْكِنُ الرَّجُلَ السَّكْنَى

ایک آدمی دوسرے کو کسی مکان میں ٹھہرا لے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۴۸۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتُهَا ، فَلَمَّا تَوَقَّيْتُ حَفْصَةَ قَبَضَ ابْنُ عُمَرَ الْحُجْرَةَ .

(۲۰۴۸۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ نے اسماء بنت زید کو ان کی پوری زندگی کے لیے اپنے کمرے میں ٹھہرایا۔ جب حضرت حفصہ کا انتقال ہو گیا تو وہ کمرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حاصل کر لیا۔

(۲۰۴۸۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ السَّكْنَى عَارِيَةٌ فَإِذَا قَالَ : هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مَا بَقِيَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا رَجَعَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ .

(۲۰۴۸۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں لکھا کہ رہائش عاریہ کی چیز ہے۔ اگر رہائش دینے والا کہے کہ یہ اس کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے ہے تو یہ اس کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے ہوگی۔ جب تک ان میں سے ایک عورت

بھی باقی رہے۔ اگر ایک عورت بھی باقی نہ رہے تو ورثاء کی طرف لوٹ جائے گی۔

(۲۰۴۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : لَا تَسْتَطِيعُ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَلَا عَقِبُهُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ .

(۲۰۴۸۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی آدمی کو اور اس کے بعد والوں کو اپنے کسی مکان میں ٹھہرایا پھر وہ مر گیا تو ورثاء اسے اور اس کے بعد والوں کو نکال نہیں سکتے جب تک ان میں سے ایک فرد بھی باقی ہو۔

(۲۰۴۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَسْكَنْتُ قَالَتْ :

أَسْكَنْتُكَ مَا بَدَأَ لِي.

(۲۰۳۸۶) حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کسی کو اپنے کسی مکان میں ٹھہراتیں تو فرماتیں کہ میں تمہیں اس وقت تک کے لیے ٹھہراتی ہوں جب تک مناسب سمجھوں۔

(۲۰۴۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحِيٍّ شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : السُّكْنَى عَلَى مَنْ اشْتَرَطَ صَاحِبَهَا .

(۲۰۳۸۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ کسی کو رہائش دینے کا معاملہ صاحب مکان کی صوابدید پر ہے۔

(۲۰۴۸۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ بِنَحْوِهِ .

(۲۰۳۸۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۴۸۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : السُّكْنَى عَارِيَةٌ .

(۲۰۳۸۹) حضرت حسن اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ رہائش عاریہ کی چیز ہے۔

(۲۰۴۹۰) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ أُسْكِنَ رَجُلًا دَارَهُ فَمَاتَ الْمُسْكِنُ وَالْمُسْكِنُ ، قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عُمَرَ ، أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتِهِ فَهُوَ لِرِوَرْتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ لِي الْعُمَرَى ، فَأَمَّا السُّكْنَى وَالْعَارِيَةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهَا .

(۲۰۳۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرائے، پھر ٹھہرانے والا اور ٹھہرا ہوا انتقال کر جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مکان وراثت کے پاس آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا: ابو عمران! کیا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جو شخص کسی کو تاحیات کسی چیز کا مالک بنائے تو وہ اس کے بعد اس کے وراثت کی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آبادی جانے والی زمینوں میں ہوتا ہے۔ رہائش، غلہ اور عاریہ وراثت کی طرف لوٹتے ہیں۔

(۲۰۴۹۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْئًا فَقَالَ : هُوَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِرِوَرْتِهِ وَإِذَا ، قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ .

(۲۰۳۹۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو کوئی چیز سپرد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے، تو وہ اس کے لیے اور اس کے وراثت کے لیے ہوگی اور اگر یہ کہا کہ یہ تیری زندگی میں تیرے لیے ہے تو یہ ہدیہ کر کے والے کے وراثت کی طرف لوٹے گی۔

(۲۰۴۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَتِيْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : السُّكْنَى عَارِيَةٌ .

(۲۰۳۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رہائش عاریہ ہے۔

(۲۰۴۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِخْوَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : زَوَّجْنِي

وَأَسْكِنْتَنِي وَأَنَا بَنِي ، فَقَالَ : أَرَزَوْجَهُ وَأَسْكَنَهُ ؟ فَقَالُوا : زَوْجَهُ وَأَسْكَنَهُ فَقَالَ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَيَّ أَنَّهُ أَتَرَكَ بِهَا عَلَيَّ نَفْسِي فِي حَيَاتِهِ .

(۲۰۴۹۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت شریح کی عدالت میں کچھ بھائیوں کا جھگڑا ہوا۔ ایک کہتا تھا کہ اس نے میرے شادی کرائی، مجھے رہائش دی اور مجھے ٹھکانہ دیا، حضرت شریح نے سوال کیا کہ کیا اس نے اس کی شادی کرائی اور رہائش دی۔ لوگوں نے تصدیق کی تو قاضی شریح نے فرمایا کہ دو عادل گواہ یہ گواہی دیں کہ اس نے تجھے اپنے زندگی میں خود پر ترجیح دی۔

(۱۸) مَنْ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَقْبُضَ

جن حضرات کے نزدیک قبضے سے پہلے صدقہ و زکوٰۃ معتبر نہیں

(۲۰۴۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِئَةِ دِينَارٍ عَلَيَّ ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيَّ ابْنِهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحْوِزَهَا ، فَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْزُ فَلَا شَيْءَ لَهُ .

(۲۰۴۹۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو ایک سو دینار صدقہ میں دیے۔ وہ دونوں شریک تھے اور مال بیٹے کے سامنے تھا۔ تو یہ صدقہ اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ قبضہ نہ کر لے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا فیصلہ ہے کہ اگر اس نے قبضہ نہ کیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔

(۲۰۴۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نَحْلًا ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدَيَّ ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحْلَتُهُ وَكَأَنِّي ، لَا نَحْلَةَ إِلَّا أَنْحَلُهُ يَحْوِزُهَا الْوَالِدُ أَوْ الْوَالِدُ .

(۲۰۴۹۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ اپنی خوشی سے اولاد کو مال دیتے ہیں لیکن جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ کہ جب وہ مر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خوشی سے دیا تھا۔ خوشی سے دیا ہوا مال وہی ہوتا ہے جس پر اولاد یا باپ قبضہ کر لیں۔

(۲۰۴۹۶) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سُكِّي ذَلِكَ إِلَى عُمَانَ ، أَنَّ الْوَالِدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحْوِزُ ، فَرَأَى ، أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَارًا .

(۲۰۴۹۶) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان سے شکایت کی گئی کہ چھوٹا بچہ مال پر قبضہ نہیں کر سکتا تو ان کی رائے یہ تھی کہ باپ جب بہہ کر دے اور گواہی دے تو وہ قبضہ کر لے۔

(۲۰۴۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمَسَيْبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ

حَتَّى تَقْبُضَ إِلَّا لَصِيْبِي بَيْنَ أَبِييْهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ .

(۲۰۳۹۷) حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا سوائے اس بچے کے جو ماں باپ کے ساتھ ہو، ماں باپ کا قبضہ اس کا قبضہ ہے۔

(۲۰۴۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَارٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَقْبُضَ .
(۲۰۳۹۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا۔

(۲۰۴۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ .
(۲۰۳۹۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۵۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَقْبُضَ .
(۲۰۵۰۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا۔

(۲۰۵۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَقْبُضَ إِلَّا لَصِيْبِي بَيْنَ أَبِييْهِ .

(۲۰۵۰۱) حضرت معاذ اور حضرت شریح فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا سوائے اس بچے کے جو ماں باپ کے ساتھ ہو۔

(۲۰۵۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلْنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَرْدَةَ : إِنَّ سَرَّكَ أَنْ تَجُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ : مَا قُبِضَ مِنْهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يَقْبُضْ مِنْهُ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ .

(۲۰۵۰۲) حضرت نظر بن انس فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے اپنا گھر اپنی خوشی سے دے دیا۔ ابو بردہ نے مجھ سے فرمایا کہ صدقہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ تم اس پر قبضہ کر لو۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا فیصلہ ہے کہ خوشی سے دیئے گئے ہدیہ میں قبضہ ہوتا وہ جاری ہوتا ہے وگرنہ وہ میراث میں جاتا ہے۔

(۲۰۵۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَادًا فَقَالَا : لَا تَجُوزُ حَتَّى يَقْبُضَ .

(۲۰۵۰۳) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا۔

(۲۰۵۰۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا عَلِمْتَ الصَّدَقَةَ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَقْبُضْ ، فَإِذَا قَالَ : دَارِي إِلَيَّ فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ غَلَامِي ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبُضْ .

(۲۰۵۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کا علم ہو تو وہ نافذ ہوتا ہے خواہ اس پر قبضہ نہ ہو، اگر وصول کرنے والے نے کہا کہ فلاں جگہ میرا گھر ہے یا فلاں میرا غلام ہے تو یہ اس کا ہو گیا خواہ قبضہ نہ کرے۔

(۲۰۵۰۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : إِذَا عَلِمْتَ الصَّدَقَةَ فَهِيَ جَائِزَةٌ .

وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ.

(۲۰۵۰۵) حضرت علی اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کا علم ہو تو یہ جائز ہے خواہ قبضہ نہ ہو۔

(۲۰۵۰۶) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَاذَ عِشْرِينَ وَسُقًا، فَلَمَّا حَضَرَ، قَالَ لَهَا: وَرَدَدْتُ أَلَّا كُنْتُ حَزَنِيهِ، أَوْ جَدَدْتِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ.

(۲۰۵۰۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے میں و سق کی مقدار ایک ہدیہ دیا۔ جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ بہتر تھا کہ تم اس پر قبضہ کر لیتیں کیونکہ اب وہ ورثاء کا مال بن گیا۔

(۲۰۵۰۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُسَيْبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الصَّدَقَةُ إِذَا عَلِمْتَ قَبِضْتُ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ.

(۲۰۵۰۷) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کا علم ہو جائے تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے خواہ قبضہ ہو یا نہ ہو۔

(۲۰۵۰۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضْ.

(۲۰۵۰۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبضہ تک صدقہ ثابت نہیں ہوتا۔

(۲۰۵۰۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فَضِيلٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ.

(۲۰۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قبضہ کے بغیر بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔

(۲۰۵۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضْ.

(۲۰۵۱۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبضے کے بغیر صدقہ نہیں ہوتا۔

(۱۸) فِي الْكِتَابَةِ عَلَى الْوَصْفَاءِ

خدمت کے غلام کے عوض مکاتب بنانے کا بیان

(۲۰۵۱۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوَصْفَاءِ.

(۲۰۵۱۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خدمت کے غلام کے عوض مکاتب بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۵۱۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وَصْفَاءِ.

(۲۰۵۱۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک غلام کو خدمت کے عوض مکاتب بنایا۔

(۲۰۵۱۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بِشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَتْنَةَ لِي يَقُولُ لَهَا سَارَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي بَرَزَةَ أَنَّ أَبَا بَرَزَةَ كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِكِهِ عَلَى رَقِيقٍ.

(۲۰۵۱۳) حضرت ابو بزرہ نے اپنے ایک غلام کو خدمت کے غلام کے عوض مکاتب بنایا۔

(۲۰۵۱۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصْفَاءِ . زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ : وَالْوُصَائِفُ .

(۲۰۵۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ غلام کو خدمت کے غلاموں کے عوض مکاتب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۱۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصْفَاءِ .

(۲۰۵۱۵) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ غلام کو خدمت کے غلاموں کے عوض مکاتب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُكَاتَبَ الْمَكَاتِبُ عَلَى الْوُصْفَاءِ .

(۲۰۵۱۶) حضرت حسن و ابن سیرین دونوں حضرات خدمت کے غلاموں کے عوض غلام کو مکاتب بنانے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۰۵۱۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدُهُ عَلَى الْوُصْفَاءِ .

(۲۰۵۱۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ غلام کو خدمت کے غلاموں کے عوض مکاتب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ عَلَى الْوُصْفَاءِ .

(۲۰۵۱۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خدمت کے غلاموں کے غلام کو مکاتب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۱۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمُخَزُومِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى غُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَجْنِكِ بَغْلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَرُدَّهُ إِلَى الرَّقِ .

(۲۰۵۱۹) حضرت عکرمہ بن خالد مخزومی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو دو غلاموں کی خدمت پر مکاتب مقرر کیا وہ دونوں اسی کا پیشہ کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر وہ تیرے پاس ایسے غلام نہ لائے جو اس کا پیشہ جانتے ہوں تو اسے دوبارہ غلام بنالے۔

(۲۰۵۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدُهُ عَلَى رَقِيقٍ إِلَى أَجْلِ مُسْمَى .

(۲۰۵۲۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک مقررہ مدت تک غلام کے عوض اپنے غلام کو مکاتب بنانا ہے۔

(۲۰۵۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصْفَاءِ ، يَدًا بِيَدٍ وَبُكْرَةً ذَلِكَ نَيْسِنَةً ، وَذَلِكَ رَأَى قَتَادَةَ .

(۲۰۵۲۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بغیر ادھار کے برابر برابر خدمت والے غلاموں کے عوض مکاتب کو درست خیال کرتے تھے۔

حضرت قتادہ کی بھی یہی رائے تھی۔

(۲۰۵۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : هَذِهِ مَكَاتِبُهُ سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ ، كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْفِئ ، وَعَلَى غُلَامَيْنِ لَهُ يِعْمَلَانِ مِثْلَ عَمَلِهِ .

(۲۰۵۲۲) حضرت عبید اللہ بن ابی بکر بن انس فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک سیرین کی مکاتبت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی ایک مکاتبت فرمائی۔ انہوں نے اپنے غلام کو ایک خاص مقدار مال اور دو ایسے غلاموں کے عوض مکاتبت بنایا جو اس کا کام کرتے تھے۔

(۱۹) من کرہ العینۃ

جن حضرات کے نزدیک بیع عینہ ناجائز ہے یعنی ایسی بیع جس میں ایک آدمی دوسرے کو معلوم مدت کے ادھار اور معلوم شمن کے عوض ایک چیز بیچے پھر بیچنے والا خود نقد قیمت جو پہلے سے کم ہو ادا کر کے وہ چیز اس سے خرید لے

(۲۰۵۲۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى ، عَنِ الْعَيْنَةِ .

(بخاری ۲۱۲۶۔ مسلم ۱۱۶۰)

(۲۰۵۲۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیع عینہ سے منع کیا گیا ہے۔

(۲۰۵۲۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْعَيْنَةُ حَرَامٌ .

(۲۰۵۲۴) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ عینہ حرام ہے۔

(۲۰۵۲۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّورِقَ يَعْنِي الْعَيْنَةَ .

(۲۰۵۲۵) حضرت ایسا بن معاویہ بیع تورق کے قائل تھے۔ (تورق ایسی بیع ہے جس میں ایک ادھار پر کوئی چیز خریدے پھر کوئی تیسرا آدمی اس چیز کو کم قیمت پر نقد خریدے)۔

(۲۰۵۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعَيْنَةَ .

(۲۰۵۲۶) حضرت ابن سیرین عینہ کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔

(۲۰۵۲۷) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَيْنَةِ فَقَالَ : بَسْتُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : دَرَاهِمٌ بَدْرَهُمْ وَبَيْنَهُمَا حَبْرَةٌ .

(۲۰۵۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت محمد کے پاس عینہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ایک درہم کے بدلے ایک درہم ہے۔

(۲۰۵۲۸) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ وَيَزِيدُ بْنُ مَرْذَانَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : جَاءَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : إِنَّهُ مَنْ قَبَلَكَ عَنِ الْعَيْنَةِ ، فَإِنَّهَا أُخْتُ الرَّبَا .

(۲۰۵۲۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک خط میں لکھا کہ بیع عینہ سے منع کر دینا سود کی بہن ہے۔

(۲۰۵۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعَيْنَةَ وَمَا أَدْخَلَ النَّاسُ فِيهِ بَيْنَهَا .

(۲۰۵۲۹) حضرت حسن اور ابن سیرین نے عینہ کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۳۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْعَيْنَةَ وَالْحَرِيرَ .

(۲۰۵۳۰) حضرت مسروق نے عینہ اور ریشم کی بیع کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰) الرَّجُلُ يَكْرِى الدَّابَّةَ فِي جَاوِزِ بَهَا

ایک آدمی کرائے پر کوئی سواری لے پھر طے شدہ مقام سے آگے لے جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۵۳۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ الْكُتْرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ .

(۲۰۵۳۱) حضرت ابو عطاء فرماتے ہیں کہ میں قاضی شریح کے پاس حاضر تھا، ان کے پاس دو آدمی مقدمہ کے کر آئے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے ایک سواری پر ایک خاص مقام تک کے لیے لی تھی، وہ اس سے آگے لے گیا، حضرت شریح نے سواری کے مالک کو ضمان دلوایا۔

(۲۰۵۳۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ .

(۲۰۵۳۲) حضرت حسن بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی کوئی سواری کرائے پر لے اور مقررہ مقام سے آگے لے جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ضامن ہوگا اور مخالف معاملہ کی صورت میں اس پر کرایہ نہیں۔

(۲۰۵۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا سَلِمَتِ الدَّابَّةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ .

(۲۰۵۳۳) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر سواری محفوظ رہے تو اس پر دو کرائے جمع ہو جائیں گے۔

(۲۰۵۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقْفِيُّ ، عَنْ شُرَيْحِ

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ذَابَّةً إِلَى الْبَرْدِ ، فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ فَعَطِبَتْ فَمَاتَتْ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الْأَجْرَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي سَمَى ، وَضَمَّنَهُ الذَّابَّةَ حِينَ خَالَفَ .

(۲۰۵۳۳) حضرت محمد بن عبید اللہ ثقفی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے برد منامی مقام تک کے لیے ایک جانور کرائے پر لیا لیکن وہ اسے مقرر شدہ جگہ سے آگے لے گیا وہاں وہ جانور حادثے کا شکار ہو کر مر گیا۔ اس مقدمہ کا قاضی شریح نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مقرر شدہ جگہ کا تو کرایہ دلویا اور آگے بڑھنے پر جانور کا ضمان دلویا۔

(۲۰۵۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَكَرَّرَى الرَّجُلُ الذَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا ، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَتَفَقَّتْ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا .

(۲۰۵۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی سواری کو ایک خاص علاقے تک کے لیے کرائے پر لیا تو اگر اس مقام سے تجاوز کیا اور اس کو نقصان پہنچا تو اس پر پہلا کرایہ ہوگا اور ضمان بھی ہوگا۔

(۲۰۵۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ذَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ ، قَالَ : يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ .

(۲۰۵۳۶) قاضی شریح فرماتے ہیں کہ اگر کرائے کے جانور مقرر مقام سے آگے لے جایا گیا تو کرایہ اور ضمان دونوں لازم ہوں گے۔

(۲۱) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فِيهِلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمَبْتَاةَ

اگر گاہک کوئی چیز خرید لے اور وہ قبضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۵۲۷) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَهُ : خُدُّ مَتَاعَكَ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ ، قَالَ : لَا أَذْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالْمَنْ ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ .

(۲۰۵۳۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور وہ قبضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہو گئی۔ اس صورت میں اگر بائع نے کہا تھا کہ اپنا سامان لے تو یہ نقصان گاہک کا ہوگا اور اگر بائع نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اس کی قیمت نہ لا دو تو یہ نقصان بائع کا ہوگا۔

(۲۰۵۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرٍو : رَجُلٌ اشْتَرَى بَرًّا إِلَى أَجْلِ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ، قَالَ : مِنْ مَالِ الْبَائِعِ .

(۲۰۵۳۸) حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور اسے تیار کر

کے بائع کے مکان میں ہی چھوڑ دیا اور اسے مال کا رہن تصور نہ کیا تو کیا حکم ہے اگر وہ مال جل جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بائع کا نقصان ہوا۔

(۲۰۵۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ : الْمُسْتَرَى : اِنْقَا اِلَيَّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَا حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، اِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَاِنْ قَارَ الْبَائِعُ لِلْمُسْتَرَى : اِنْقَلُهُ ، فَقَالَ : دَعُهُ حَتَّى آتِيَكَ بِالثَّمَنِ ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيْعَةِ ، اِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُسْتَرَى ، وَيَبِيْعُ هَذَا ، وَلَا يَبِيْعُ ذَاكَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَذَكَرْتَهُ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ : صَدَقَ اَطْنُّ .

(۲۰۵۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز خریدی اور مشتری نے کہا کہ اسے میرے حوالے کر دو، بائع نے کہا کہ جب تک تم ثمن نہ لے آؤ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ معاملہ رہن کے درجہ میں ہوگا۔ اگر وہ ہلاک ہوا تو بائع کے مال میں نہ ہوگا۔ اور اگر بائع نے مشتری سے کہا کہ اسے اپنے قبضے میں لے لو اور مشتری نے کہا کہ میں جب تک قیمت نہ لے آؤں اس وقت تک قبضہ نہ کروں گا تو یہ ودیعت کے حکم میں ہوگا۔ اگر ہلاک ہوا تو مشتری کے مال سے ہلاک ہوگا۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت محمد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں انہوں نے سچ کہا۔

(۲۰۵۴۰) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ ، اَنْ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا اِلَى اَجَلٍ وَحَسَبَهُ ، فَبَيَّتَهُمْ حَرِيْقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَاحْتَرَقَ بَعْضُهُ ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ .

(۲۰۵۴۰) حضرت داؤد بن ابی ہند کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے مقررہ مدت تک ادائیگی کی شرط پر کچھ مال خریدا، اسے بائع کے پاس چھوڑ دیا۔ رات کو گھر میں آگ لگ گئی اور کچھ سامان جل گیا۔ اس بارے میں میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جس کے قبضے میں تھا اسی کا نقصان ہوا۔

(۲۲) فِي الْمَكَاتِبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاةُ الْاَلَا يَخْرُجُ وَلَا يَتَزَوَّجُ

اس مکاتب کا بیان جس کا مولیٰ یہ شرط لگا دے کہ وہ نہ تو اس شہر سے نکلے گا نہ شادی کرے گا

(۲۰۵۴۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، اَنْهُ كَانَ يَقُولُ : اِذَا اشْتَرَطَ عَلَيَّ مُكَاتِبِي اَلَّا يَخْرُجَ ، وَ اَلَّا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ ، يَسِيرُ حَيْثُ يَشَاءُ وَيَتَزَوَّجُ .

(۲۰۵۴۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مکاتب پر یہ شرط لگالی کہ وہ نہ تو اس شہر سے نکلے گا اور نہ ہی شادی کرے گا یہ شرط باطل ہے۔ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے اور شادی بھی کر سکتا ہے۔

(۲۰۵۴۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : اِنْ كُنْتُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَيَّ الْمَكَاتِبِ شَرْوْطًا لَا تَحِلُّ تَشْتَرِطُونَ عَلَيْهِ اَلَّا يَخْرُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : يَخْرُجُ وَيَتَزَوَّجُ .

(۲۰۵۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تم مکاتب پر ایسی شرطیں لگاتے ہو جو تمہارے لیے درست نہیں، تم شرط لگاتے ہو کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے اور شادی نہ کرے۔ وہ شہر سے باہر جا سکتا ہے اور شادی بھی کر سکتا ہے۔

(۲۰۵۲۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمِثْلَهُ .

(۲۰۵۲۳) ایک اور سند سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۰۵۲۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لِأَهْلِ الْمَكَاتِبِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ .

(۲۰۵۲۴) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کاتب غلام کے مالکوں کو وہ ملے گا جس کی انہوں نے شرط لگائی اور جو انہوں نے لیا وہ ان کا ہو گیا۔

(۲۰۵۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ .

(۲۰۵۲۵) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو جا سکتا ہے۔

(۲۰۵۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مَكَاتِبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، قَالَ : يَخْرُجُ ، قَالَ وَكِيعٌ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .

(۲۰۵۲۶) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے شرط لگائی کہ مکاتب شہر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ شرط درست نہیں وہ نکل سکتا ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ وہ مولیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔

(۲۰۵۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبُكْرَاوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرْتَنِي أُمِّي ، أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مَكَاتِبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْأَسْلَمِيِّ ، فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ فَاتَى عُثْمَانَ فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ ، فَخَلَى عَنْهُ .

(۲۰۵۲۷) حضرت محمد بن ابی یحییٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ ان کے دادا عبداللہ بن قیس اسلمی کے مکاتب تھے۔ انہوں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن قیس نے منع کر دیا۔ میرے دادا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اسے منع نہیں کر سکتے۔ لہذا انہیں جانے دیا گیا۔

(۲۰۵۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي عَلَى مَكَاتِبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ وَيَخْرُجُ .

(۲۰۵۲۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مکاتب پر شرط لگائی کہ وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتا اور شادی نہیں کر سکتا تو یہ شرط قابل قبول نہیں۔

(۲۰۵۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرُوا عَلَى الْمَكَاتِبِ مَا يُضْرَبُ بِهِ : أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ .

(۲۰۵۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرُوا عَلَى الْمَكَاتِبِ مَا يُضْرَبُ بِهِ : أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ .

(۲۰۵۴۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مکاتب پر ایسی شرطوں کے لگانے کو مکروہ قرار دیتے تھے جس سے اس کا نقصان ہو کہ وہ شہر سے باہر نہیں جاسکتا اور شادی نہیں کر سکتا۔

(۲۳) فِي السَّيْفِ الْمَحَلِّيِّ وَالْمِنْطَقَةِ الْمَحَلَّةِ وَالْمُصْحَفِ

زیور چڑھی تلوار، زیور چڑھے سامان اور مصحف وغیرہ کی بیع کا بیان

(۲۰۵۵۰) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ خَبَابٌ قَيْنًا وَكَانَ رَبَّمَا اشْتَرَى السَّيْفَ الْمَحَلِّيَّ بِالْوَرِقِ وَرَبَّمَا ذَكَرَ الْمُصْحَفِ.

(۲۰۵۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت خباب لوہار تھے وہ بعض اوقات چاندی چڑھی تلواریں خریدتے تھے۔ اور کبھی مصحف کا ذکر بھی کیا۔

(۲۰۵۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمَحَلِّيَّ بِالْدِرَاهِمِ.

(۲۰۵۵۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ درہم کے بدلے زیور سے آراستہ تلوار خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۵۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُقَضَّصَ بِالتَّأخِيرِ.

(۲۰۵۵۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چاندی چڑھی تلوار تاخیری ادائیگی کے ساتھ خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۵۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۵۵۳) حضرت ابن سیرین نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۵۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: آتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بَارِضٌ

فَارِسَ أَنْ لَا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْفَةٌ فِضَّةً بِالذَّرْهِمِ.

(۲۰۵۵۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ارض فارس میں تھے۔ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا جس میں

لکھا تھا کہ جس تلوار کا حلقہ چاندی کا ہو اسے درہم کے بدلے مت بیچو۔

(۲۰۵۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مَعْلُوقَةٌ بِدَهَبٍ ابْتِغَاءَهَا

رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ بِسَبْعَةِ فَنَاتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا حَتَّى تُمَيِّزَ مَا

بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْجِحَارَةَ، قَالَ: لَا حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا.

(مسلم ۱۲۱۴۔ ابوداؤد ۳۳۳۳)

(۲۰۵۵۵) حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور ﷺ کے پاس ایک بار لایا گیا جس میں پتھروں کے ساتھ سونا

لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے اسے نو یا سات دینار کا خریدا۔ جب وہ حضور ﷺ کے آپس آیا اور ساری بات عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اسے خریدنا اس وقت تک درست نہیں جب تک فرق نہ کر لو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو پتھروں کا ارادہ کیا تھا۔ حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ یہ بیع اس وقت تک درست نہیں جب تک دونوں کے درمیان فرق نہ کر لو۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ واپس کیا اور تیز کرنے کے بعد خریدا۔

(۲۰۵۵۶) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سِئِلَ شُرَيْحٌ ، عَنْ فَوْسٍ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تُنَزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُ الذَّهَبَ وَزَنًا بوزن .

(۲۰۵۵۶) حضرت شریح سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک سونے کی کمان بچی جائے جس میں تھینے لگے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تھینے اتار کر سونے کو وزن کے برابر بیچا جائے گا۔

(۲۰۵۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَبَاعُ الْمُنْطَقَةُ الْمُحَلَّلَةُ وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بِنَيْسِنَةٍ .

(۲۰۵۵۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سونا چڑھی کسی چیز یا تلوار کو ادھار کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔

(۲۰۵۵۸) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرِيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضِّضِ ، وَالْخِوَانِ الْمُفَضِّضِ ، وَالْقَدْحِ الْمُفَضِّضِ بِالذَّرْهِمِ .

(۲۰۵۵۸) حضرت ابن سیرین اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ چاندی چڑھی تلوار، چاندی چڑھی پٹھری اور چاندی چڑھے پیالے کو دراہم کے بدلے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ وَيَقُولُ : اشْتَرَاهُ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ .

(۲۰۵۵۹) حضرت زہری زیور چڑھی تلوار کی بیع کو چاندی کے بدلے مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ سونے کو برابر سہرا خریدو۔

(۲۰۵۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَلِيمَانَ بْنَ مُوسَى ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ مَكْحُولٌ : الْجَارِيَةُ تَبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ .

(۲۰۵۶۰) حضرت سعید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن موسیٰ سے زیور چڑھی تلوار کی بیع کو چاندی کے بدلے کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور حضرت مکحول نے فرمایا کہ باندی کو بھی تو زیور کے ساتھ ہی فروخت کیا جاتا ہے۔

(۲۰۵۶۱) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى يَبَاعُ بِالذَّرْهِمِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا كَانَتْ الذَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْحُلِيِّ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۵۶۱) حضرت شُعْبَةُ نے کہا: میں نے حَمَّادًا سے سوال کیا کہ سونے کی تلوار کی بیع کو چاندی کے بدلے کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ذراہم حلیوں سے زیادہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۰۵۶۱) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے زیور چڑھی تلوار کی بیع چاندی کے بدلے کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور حضرت حکم نے فرمایا کہ اگر درراہم زیور سے زیادہ ہوں تو کچھ حرج نہیں۔

(۲۰۵۶۲) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ حُنَيْنٍ ، قَالَ : سئل عَلِيًّا عَرَّجَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ ، مَخْلُوطَاتٍ بِفِضَّةٍ أَتْبَاعُ بِالْفِضَّةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : هَكَذَا بَرَأَيْهِ ، أَيْ لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۵۶۳) حضرت مغیرہ بن حنین فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ سے سوال کیا گیا کہ ایسی چیز جس میں سونا اور چاندی ہو کیا اسے صرف چاندی کے بدلے فروخت کیا جاسکتا ہے انہوں نے سر کے اشارے سے اس کی اجازت دی۔

(۲۰۵۶۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السِّيفِ الْمُحَلِّيِ إِلَّا بَعْرَضٍ .

(۲۰۵۶۳) حضرت عمر نے زیور چڑھی تلوار کی بیع کو صرف عرض (نقدین کے علاوہ پر چیز) کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۶۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحَلِيَّةِ ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِنَ الْحَلِيَّةِ .

(۲۰۵۶۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ثمن زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور اگر کم ہو تو مکروہ ہے۔

(۲۰۵۶۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَعَظِيمِهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَاءِ السِّيفِ الْمُحَلِّيِّ وَالْحَاتِمِ بِالذَّرَاهِمِ .

(۲۰۵۶۵) حضرت حسن زیور چڑھی تلوار اور انگوٹھی کی بیع درراہم کے بدلے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۵۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَائِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ ، قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ السِّيفَ الْمُحَلِّيَّ بِالْفِضَّةِ وَنَشْتَرِيهِ .

(۲۰۵۶۶) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ہم زیور چڑھی تلوار کو چاندی کے بدلے خرید اور بیچا کرتے تھے۔

(۲۰۵۶۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السِّيفِ الْمُحَلِّيِّ بِالذَّرَاهِمِ .

(۲۰۵۶۷) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ زیور چڑھی تلوار کو درراہم کے بدلے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۴) فِي بَيْعِ مِنْ يَزِيدَ

نیلامی کی بیع کا بیان

(۲۰۵۶۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ كَذَلِكَ كَانَتْ تَبَاعُ الْأَحْمَاسُ .

(۲۰۵۶۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نیلامی کی بیع میں کوئی حرج نہیں۔ انہما کو اس طرح بیجا جاتا تھا۔

(۲۰۵۶۹) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يُزِيدُ إِلَّا الشَّرْكَاءَ بَيْنَهُمْ.

(۲۰۵۶۹) حضرت مکحول نے نیلامی کی بیع کو مکروہ قرار دیا ہے البتہ شرکاء آپس میں کر سکتے ہیں۔

(۲۰۵۷۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ

الْفَلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: عُمَرُ: كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ

كَاسِدًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَأَنْفَقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كُنْتُ تَزِيدُهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُزِيدُ

أَنْ تَشْتَرِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ هَذَا النَّجْشُ لَا يَحِلُّ، أُبَعْتُ يَا عَمِيرَةَ مُنَادِيًا يَنَادِي أَلَا إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ

إِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ.

(۲۰۵۷۰) حضرت عمرو بن مہاجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے عمیرہ بن یزید فلسطینی کو بھیجا تا کہ وہ قیدیوں کو نیلام کر

یں۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آج کی بیع کسی رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ اے امیر

المؤمنین! اگر میں خود بیچ میں جا کر بھاؤ نہ بڑھاتا تو آج مندا ہو جاتا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا تم محض بھاؤ بڑھانے کے

لیے خریدنے کے ارادے کے بغیر بولی لگاتے رہے؟ انہوں نے اقرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نجش ہے یہ حلال نہیں،

عے عمیرہ! اعلان کر دو کہ بیع مردود ہے اور نجش حلال نہیں ہے۔

(۲۰۵۷۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إِبِلًا مِنْ

إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(۲۰۵۷۱) حضرت ہشام خزاعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے اونٹوں کو نیلام کر کے فروخت کیا۔

(۲۰۵۷۲) حَدَّثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَنْفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ

رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدْحًا فِيمَنْ يَزِيدُ.

(نسائی ۶۰۹۹ - ترمذی ۳۷۷۹)

(۲۰۵۷۲) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک ٹاٹ اور ایک بیالہ نیلامی

کے ذریعے فروخت فرمایا۔

(۲۰۵۷۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَعِينَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، إِنْ تَزِيدُ فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ.

(۲۰۵۷۳) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر خریدنے کا ارادہ ہو تو بولی لگا کر قیمت بڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۷۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سَبْرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ

الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.

(۲۰۵۷۴) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین نے مواریث اور غنیموں کے علاوہ بولی کی بیع کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۷۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ .

(۲۰۵۷۵) حضرت مجاہد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بولی کی بیع میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۷۶) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ بَاعَ الْمَعَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ .

(۲۰۵۷۶) حضرت ابو جعفر خطمی فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے غنائم کو بولی کی بیع کے ساتھ بیچا۔

(۲۵) من کره شراء المصاحف

جن حضرات کے نزدیک مصاحف کی خرید و فروخت مکروہ ہے

(۲۰۵۷۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : خَطَرَ عَلَيَّ رَجُلًا مِنَ الْبُصْرَةِ وَمَعَهُ مَصَاحِفٌ يَبِيعُهَا فَاتَيْتُ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَشَرِيحًا فَسَأَلْتَهُمْ فَقَالُوا : مَا نَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا .

(۲۰۵۷۷) حضرت مسلم بن مسیح فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے ایک بصری شخص گذرا جو مصاحف بیچ رہا تھا میں مسروق بن ائوخ، حضرت عبداللہ بن یزید انصاری اور حضرت شریح کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو یہ پسند نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے بدلے قیمت وصول کریں۔

(۲۰۵۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَإِتْيَاعَهَا .

(۲۰۵۷۸) حضرت عبیدہ نے مصاحف کی خرید و فروخت کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۷۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَرَدَّتْ أُنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَيْدِيَ تَقَطُّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ .

(۲۰۵۷۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ مصاحف بیچنے والے کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔

(۲۰۵۸۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لِلْمَحْسُ الدُّبُرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيَّ عَرْضُهَا أَجْرًا .

(۲۰۵۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شہد کی کھپوں کا مجھے ڈنا مجھے مصاحف بیچنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم مصاحف کی اجرت کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۵۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ : هِيَ لِمَنْ يَقْرَأُ بِهَا .

أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَكَرَّةَ الْكِتَابِ لِيَهَا بِالْأَجْرَةِ .

(۲۰۵۸۱) حضرت ابراہیم نے مصاحف کی بیع کو مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ وہ مصاحف گھروالوں میں سے جو چاہے پڑھ لے اور اجرت کے بدلے انہیں لکھنا مکروہ ہے۔

(۲۰۵۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : بِنَسِ التَّجَارَةِ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ .

(۲۰۵۸۳) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ بدترین تجارت مصاحف کو بیچنا ہے۔

(۲۰۵۸۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا .

(۲۰۵۸۳) حضرت عبد اللہ سے مصاحف کے خریدنے اور بیچنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ الْأَيْدِيَ تَقَطُّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ .

(۲۰۵۸۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ مصاحف بیچنے والے کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔

(۲۰۵۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ .

(۲۰۵۸۵) حضرت علقمہ نے مصاحف کے بیچنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهَا وَشِرَائِهَا .

(۲۰۵۸۶) حضرت ابن سیرین مصاحف کے بیچنے اور خریدنے کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۵۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : سَأَلْتُ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَقَالُوا : لَا تَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا .

(۲۰۵۸۷) حضرت ابو صحنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح، حضرت مسروق اور حضرت عبد اللہ بن یزید سے مصاحف کی بیع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی قیمت نہ لو۔

(۲۰۵۸۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَيْبِعُ مُصْحَفًا ؟ قَالَ : لَا .

(۲۰۵۸۸) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے پوچھا کہ کیا میں مصحف بیچ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا: نہیں۔

(۲۶) مَنْ رَخَّصَ فِي اشْتِرَائِهَا

جن حضرات نے مصحف خریدنے کی اجازت دی ہے

(۲۰۵۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَيْهَا ، وَلَا تَبِعَهَا .

(۲۰۵۸۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصحف کو خرید لو لیکن اسے فروخت نہ کرو۔

(۲۰۵۹۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابِرَاهِيمَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اشْتِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرَاهَ بَيْعَهَا .

(۲۰۵۹۱) حضرت ابن عباس نے مصحف کے خریدنے کو جائز اور بیچنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ .

(۲۰۵۹۱) حضرت سعید بن جبیر سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۰۵۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اشْتَرَاهَا ، وَلَا تَبِعَهَا .

(۲۰۵۹۲) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مصاحف کو خرید لو لیکن مت بیچو۔

(۲۰۵۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا .

(۲۰۵۹۳) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ ان کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۹۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ ، وَأَنْ يُعْطَى

عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا .

(۲۰۵۹۴) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ مصحف کے خریدنے میں اور اس کے لکھنے پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۹۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : اشْتَرِ ، وَلَا تَبِعْ .

(۲۰۵۹۵) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مصاحف کو خرید لو لیکن بیچو نہیں۔

(۲۰۵۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أُبِيعَ .

(۲۰۵۹۶) حضرت عیسیٰ بن ابی عزہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی نے مجھے خریدنے کا حکم دیا ہے۔

(۲۰۵۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ،

فَقَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعَهَا .

(۲۰۵۹۷) حضرت یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ سے مصاحف کی بیع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

فرمایا کہ انہیں خرید لو لیکن بیچو نہیں۔

(۲۷) مَنْ رَخَّصَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ

جن حضرات نے مصاحف کو بیچنے کی اجازت دی ہے

(۲۰۵۹۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرَخِّصَانِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ .

(۲۰۵۹۸) حضرت ابو عالیہ اور حضرت شعبی نے مصاحف کے بیچنے کو درست قرار دیا ہے۔

(۲۰۵۹۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا لَيَسُوَانِ يَبْعُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، إِنَّمَا يَبْعُونَ الْوَرِقَ وَعَمَلُ أَيْدِيهِمْ .

(۲۰۵۹۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی کتاب نہیں بیچتے دراصل کاغذ اور اپنا کام بیچتے ہیں۔

(۲۰۶۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْعَهَا وَشِرَائِهَا بِأَسَا .

(۲۰۶۰۰) حضرت حسن مصاحف کی خرید و فروخت کو درست سمجھتے تھے۔

(۲۰۶۰۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بِأَسَا بَيْعِ الْمَصَاحِفِ .

(۲۰۶۰۱) حضرت حسن اور حضرت شعبی کے نزدیک مصاحف کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۶۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَيْعَهَا وَشِرَائِهَا بِأَسَا .

(۲۰۶۰۲) حضرت حسن کے نزدیک مصاحف کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۸) فِي أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى كِتَابِهَا

مصاحف کی کتابت پر اجرت لینا

(۲۰۶۰۳) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُرَبِّي ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ فَقَالَ : أَمَا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلُهُ .

(۲۰۶۰۳) حضرت ایوب بن عائذ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبہ سے سوال کیا کہ کچھ لوگ مصاحف کی کتابت پر اجرت لیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرنا۔

(۲۰۶۰۴) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَا .

(۲۰۶۰۴) حضرت محمد نے مصحف کی کتابت کا مالی معاہدہ کرنے کو مکروہ کہا ہے۔

(۲۰۶۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُخْيَةَ عَيْسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مُصْحَفًا مِنْ أَهْلِ الْحَبِيرَةِ يَتَسَوِّعِينَ دِرْهَمًا .

(۲۰۶۰۵) حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی کے ایک بیٹے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن نے جرہ کے ایک عیسائی سے نوے درہم کے بدلے مصحف لکھوایا تھا۔

(۲۰۶۰۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ وَتَأْوَلَ هَذِهِ

الآیة ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾.

(۲۰۶۰۶) حضرت ابراہیم نے مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کو مکروہ قرار دیا اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی: ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾۔

(۲۰۶۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مِصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكُتِبَ.

(۲۰۶۰۷) حضرت علقمہ نے ایک مصحف لکھنے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھیوں سے مدد لی اور انہوں نے لکھا۔

(۲۰۶۰۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى عَلَى كِتَابِهِ ، يَعْنِي أَجْرًا .

(۲۰۶۰۸) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ مصحف کی کتابت پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۶۰۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطَى عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا .

(۲۰۶۰۹) حضرت ابراہیم کے نزدیک مصحف کی کتابت پر اجرت لینا مکروہ ہے۔

(۲۹) الرَّجُلُ يَرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ فِيمَسُهَا

اگر کوئی شخص باندی خریدنا چاہے تو کیا اسے چھوس سکتا ہے؟

(۲۰۶۱۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَمْسَيْ فِي السُّوقِ فَإِذَا نَحْنُ بِنَاسٍ مِنَ النَّخَاعِيِّينَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يَقْلُبُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَنَحَّوْا وَقَالُوا : ابْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ ، فَذَنَّا مِنْهَا ابْنُ عُمَرَ فَلَمَسَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا ، وَقَالَ : أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ ، فَإِنَّمَا هِيَ سِلْعَةٌ .

(۲۰۶۱۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ غلام فروشوں کے ایک بازار سے گزرا۔ وہاں کچھ لوگ ایک باندی کے پاس کھڑے اس کا بوسہ لے رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ابن عمر آگئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس باندی کے پاس گئے اور اسے چھوا پھر فرمایا کہ اس باندی کے مالک کہاں ہیں یہ تو ایک سامان ہے۔

(۲۰۶۱۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَلْيَتِهَا ، أَوْ بَيْنَ فَخْذَيْهَا وَرَبَّمَا كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهَا .

(۲۰۶۱۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کوئی باندی خریدنے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر رکھتے اور بعض اوقات اس کی پنڈلی سے کپڑا اٹھاتے۔

(۲۰۶۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمُكْتَبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ

قَالَ: مَا أَبَالِي مَسْتَهَا، أَوْ مَسْتَتْ هَذَا الْحَاظِطُ.

(۲۰۶۱۲) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسے چھوٹا اور اس دیوار کو چھوٹا ایک جیسا ہے۔

(۲۰۶۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ بَجَارِيَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَدْيِهَا وَصَدْرَهَا.

(۲۰۶۱۳) حضرت ابو جعفر نے ایک باندی کا معاملہ کیا پھر اس کے سینے اور پستان کو ہاتھ لگا یا۔

(۲۰۶۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ وَسُئِلَ عَنِ الْجَوَارِي اللَّائِي بَعْنَ بِمَكَّةَ، فَكِرَةٌ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ.

(۲۰۶۱۴) حضرت عطاء سے مکہ میں فروخت کی جانے والی باندیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں دیکھنا

صرف ان کے لیے جائز ہے جو خریدنا چاہتے ہوں۔

(۲۰۶۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو زَهْرٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا بَعْتُ إِلَيْهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا كَشَفَ بَيْنَ سَاقَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا.

(۲۰۶۱۵) حضرت محمد کو جب کوئی باندی دیکھنے کے لیے بھیجی جاتی تھی تو وہ صرف اس کی پنڈلیاں اور بازو دیکھتے تھے۔

(۲۰۶۱۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغْبِرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ صَدِيقًا لَهُ أَسْوَدَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً، فَفَعَلَ،

فَعَابَ شَيْئًا مِنْ سَاقِ الْجَارِيَةِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ مِنْ قَوْلِهِ، فَقَالَ: مَا أَحَبُّ أُنَى نَظَرْتُ إِلَيْ سَاقَيْهَا،

وَلَا أُنَى كَذَا وَكَذَا.

(۲۰۶۱۶) حضرت ابراہیم کا ایک سیاہ فام دوست تھا۔ انہوں نے اسے لکھا کہ ان کے لیے ایک باندی خریدے اس نے باندی

خریدی لیکن اس کی پنڈلی انہیں پسند نہ آئی۔ یہ بات اس دوست کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کی پنڈلی دیکھنا مجھے پسند نہ ہوا۔

(۲۰۶۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ خَطَبَهُمْ

فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَةِ وَإِلَى مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ إِلَّا عَاقِبَتَهُ.

(۲۰۶۱۷) حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کسی شخص نے باندی خریدتے ہوئے اسے

سینے سے نیچے یا گھٹنوں سے اوپر سے دیکھا ہے تو میں اسے سزا دوں گا۔

(۳۰) فِي الشَّرَاءِ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ مِنْ كَرِهِهِ

جن حضرات کے نزدیک کھیتی کے کٹنے اور سالانہ وظیفہ ملنے کی مالیت کی بدلے بیع کرنا مکروہ ہے

(۲۰۶۱۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَلَكِنْ

يُسَمِّي شَهْرًا.

(۲۰۶۱۸) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ سالانہ وظیفہ یا فصل کی کٹائی کے بدلے بیع کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہینہ مقرر کرنا ضروری ہے۔

(۲۰۶۱۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، او عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُسَلِّمُ إِلَى عَصِيْرٍ ، وَلَا إِلَى عَطَاءٍ ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ .

(۲۰۶۱۹) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عصیر تک کے لیے، سالانہ وظیفے تک کے لیے اور کھجور کی اترائی تک کے لیے بیع نہ کرو۔

(۲۰۶۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مِنْهُ .

(۲۰۶۲۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۶۲۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَبِيعُ إِلَى الْحَصَادِ ، وَلَا إِلَى الْجِدَادِ ، وَلَا إِلَى الدَّرَاسِ ، وَلَكِنْ سَمَّ شَهْرًا .

(۲۰۶۲۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کھیتی کے کٹنے کے لیے، کھجوروں کے اترنے تک کے لیے اور سالانہ وظیفے تک کے لیے بیع نہ کرو بلکہ مہینہ مقرر کرو۔

(۲۰۶۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُنِّلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هُوَ .

(۲۰۶۲۲) حضرت محمد سے سالانہ وظیفے تک کے لیے بیع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے۔

(۲۰۶۲۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : كَرِهَهُ .

(۲۰۶۲۳) حضرت عطاء نے سالانہ وظیفے تک کی بیع کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۶۲۴) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ .

(۲۰۶۲۴) حضرت حکم نے سالانہ وظیفے تک کی بیع کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۶۲۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضَابِيٌّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ السَّلْفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ فَقَالَ : لَا إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

(۲۰۶۲۵) حضرت ضابی بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے پھلوں کے پک جانے تک کے لیے بیع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ درست نہیں۔ معلوم مدت تک کے لیے بیع کرو۔

(۲۰۶۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيْقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدَّرَاسِ

؟ قَالَ: اشْتَرِي كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(۲۰۶۲۶) حضرت کبیر بن عقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ کیا میں کھیتی کے کتنے یا پھلوں کے اترنے تک کے لیے بیع کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا: نہیں معلوم پیانے اور معلوم مدت تک کے لیے بیع کرو۔

(۲۱) من رخص فی الشراء إلى العطاء

جن حضرات کے نزدیک سالانہ وظیفے تک کے لیے بیع جائز ہے

(۲۰۶۲۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَشْتَرِينَ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰۶۲۷) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ امہات المؤمنین سالانہ وظیفے کے بدلے میں بیع کیا کرتی تھیں۔

(۲۰۶۲۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰۶۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سالانہ وظیفے کے بدلے خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔

(۲۰۶۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَادُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ دَهَقَانًا بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ يَتَوَّجُ دِيبَاجٍ مَسْسُوجٍ بِذَهَبٍ ، وَقَالَ حَفْصٌ: مَرَّسُومٌ بِذَهَبٍ فَاَبْتَاغَهُ مِنْهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰۶۲۹) حضرت جعفر بن عمرو بن حریش بیان کرتے ہیں کہ ایک دہقان نے حضرت علی رضی اللہ عنہما کو سونے کی کڑھائی والا ریشم کا کپڑا بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے عمرو بن حریش سے چار ہزار درہم کے بدلے خرید لیا جن کی ادائیگی سالانہ وظیفہ میں سے ہونا طے پائی۔

(۲۰۶۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ ، قَالَ: اشْتَرَى مِنِّي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى عَطَائِهِ طَعَامًا.

(۲۰۶۳۰) حضرت نوح بن بلال کہتے ہیں کہ علی بن قیس نے مجھ سے سالانہ وظیفے کے بدلے خرید لیا۔

(۲۰۶۳۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰۶۳۱) حضرت عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سالانہ وظیفے تک کے ادھار کے بدلے چیز خریدنا درست ہے۔

(۲۲) فِي السَّوِيقِ بِالْحِنِطَةِ وَأَشْبَاهِهِ مِنْ أَجَازِهِ

جو کے بدلے گندم اور اس طرح کی دوسری بیعات کا بیان

(۲۰۶۳۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ رَزِيقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فِي الْبُرِّ بِالذَّقِيقِ ، قَالَ: هُوَ رِبَاٌ.

(۲۰۶۳۲) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ گندم کو آنے کے بدلے لینا سود ہے۔

(۲۰۶۳۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهَهَا .

(۲۰۶۳۳) حضرت ابراہیم ستوکی بیع گندم وغیرہ کے بدلے مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۶۳۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالسَّوِيقِ ، وَالدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْحَبْزُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْفُلْسُ بِالْفُلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ .

(۲۰۶۳۴) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ گندم کی بیع آنے کے بدلے، گندم کی بیع ستو کے بدلے، آنے کی بیع گندم کے بدلے، روٹی کی بیع گندم کے بدلے اور ایک سکے کی بیع دو سکوں کے ذریعے کرنے میں اگر دست بدست ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۶۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْخُبْزِ بِالْبُرِّ ، قَالَ : الْخُبْزُ مِنَ الْبُرِّ .

(۲۰۶۳۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے گندم کے بدلے روٹی کی بیع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ روٹی گندم سے ہی بنتی ہے۔

(۲۰۶۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقٍ فَكَّرَهَا .

(۲۰۶۳۶) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے گندم کے بارے میں آنے کی بیع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ایسے ناپسند قرار دیا۔

(۲۰۶۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ .

(۲۰۶۳۷) حضرت حکم گندم کے بدلے ستو کی بیع کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۶۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ، قَالَ : قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ رَبًّا قَرِيبَةً .

(۲۰۶۳۸) حضرت عامر سے گندم کے بدلے ستو کی بیع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس میں سود نہ ہو تو سود کا ہی شائبہ تو ہے۔

(۲۰۶۳۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ قَفِيزٍ حِنْطَةٍ بِقَفِيزِي دَقِيقٍ فَكَّرَهَا .

(۲۰۶۳۹) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے دو قفیز آنے کے بدلے ایک قفیز گندم کی بیع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۶۴۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنَا بَوَازِنٍ .

(۲۰۶۴۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ برابر سرازریوں تو مکروہ نہیں۔

(۲۰۶۴۱) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنَا بَوَازِنٍ .

(۲۰۶۳۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ برابر سرابروں تو مکروہ نہیں۔

(۲۰۶۴۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزَنًا يَوْزُنُ .

(۲۰۶۳۲) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ برابر سرابروں تو مکروہ نہیں۔

(۳۳) فِي الْخِلاَصِ فِي الْبَيْعِ

بیع میں خلاص کا بیان

(۲۰۶۴۳) حَدَّثَنَا هُثَيْبٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخِلاَصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فَاسْتَوْحَقَّ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الضَّمْنُ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .

(۲۰۶۳۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ خلاص کوئی چیز نہیں، جس نے کوئی چیز بیچی اور پھر اس میں کوئی شریک نکل آیا تو بائع سے صرف وہ ٹھن لی جائے گی جو اسے وصول کی تھی، زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

(۲۰۶۴۴) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْخِلاَصَ إِلَّا أَحْمَقٌ ، سَلَّمَ كَمَا بَعْتُ ، أَوْ أَرَدْتَهُ كَمَا أَخَذْتُ .

(۲۰۶۳۴) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ خلاص کی شرط تو کوئی احمق ہی لگائے گا، یا تو بیع کو اسی طرح واپس کر دو جس طرح بھی تھی یا رکھ لو۔

(۲۰۶۴۵) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخِلاَصَ شَيْئًا .

(۲۰۶۳۵) حضرت عطاء کے نزدیک بھی خلاص کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

(۲۰۶۴۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبُنِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَدِيًّا كَانَ يُحْسِنُ فِي الْخِلاَصِ .

(۲۰۶۳۶) حضرت عثمان بنی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلاص کے لیے خیر کیا کرتے تھے۔

(۲۰۶۴۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّمِيمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ

وَجَارِيَتَهُ ، فَبَاعَتْ امْرَأَتَهُ وَابْنَهُ الْجَارِيَةَ ، فَوَطَّنَهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَتَعَلَّقَ بِهَا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : عَلِيُّ : بَاعَتْ امْرَأَتَكَ وَابْنَكَ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ ، سَلَّمَ الْبَيْعَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ لَمَا قَضَيْتَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ : خُذْ جَارِيَتَكَ وَوَلَدَهَا ، وَقَالَ لِلاَّخِرِ : خُذِ امْرَأَةَ وَالْإِبْنَ بِالْخِلاَصِ ، فَلَمَّا أَخَذَ سَلَّمَ الْآخَرَ الْبَيْعَ .

☆ حدیث نمبر ۲۰۶۳۷ سے خلاص کا معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو بیچ دے اور خریدنے والا اس کو استعمال کرنے لگے۔ پھر اس چیز میں کوئی حقدار نکل آئے تو بائع سے اس چیز کی اصل قیمت بھی لی جائے گی اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اضافی تاوان بھی وصول کیا جائے گا۔

(۲۰۶۳۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک باندی چھوڑی، اس کی بیوی اور بیٹے نے اس باندی کو فروخت کر دیا، خریدار نے اس باندی کے ساتھ جماع کیا اور اس کی اولاد بھی ہوئی، اس کے بعد باندی کا مالک آ گیا اور اس نے باندی کو حاصل کرنا چاہا، یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تیری باندی کو تیری بیوی اور تیرے بیٹے نے فروخت کر دیا ہے، اور خریدار کا اس سے بچہ بھی ہو گیا ہے تم بیع کو باقی رکھو، اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ اپنی باندی اور اس کے بچے کو لے جاؤ، پھر آپ نے دوسرے آدمی سے فرمایا کہ عورت اور اس کے بیٹے سے خلاص لے لو، جب ان سے خلاص لے لیا گیا تو دوسرے آدمی نے بیع کو سپرد کر دیا۔

(۲۰۶۳۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَتْ الْقَصَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى.

(۲۰۶۳۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ جو شخص کسی چیز کو فروخت کرے تو اس پر خلاص لازم نہیں، وہ اس کے صاحب کے لیے ہوگا جب وہ طلب کرے اور اسے مثل ہی لیا جائے گا۔

(۲۰۶۳۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ دَارًا لِرَوْجِهَا وَهُوَ عَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبِي أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فَخَاصَمَهُ فِيهَا ابْنُ إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَجَعَلَ الْمُشْتَرِي يَقُولُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، أَنْفَقْتُ فِيهَا الْفُلْهُ دِرْهَمًا، فَقَالَ: الْفَاكُ عَلَى الْفَاكِ عَلَيَّ، قَالَ: فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِدَارِهِ وَأَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى السُّجْنِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جَوَّزَ الْبَيْعَ.

(۲۰۶۳۹) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کا گھر بیچ دیا، جب وہ واپس آیا تو اس نے بیع کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ مقدمہ حضرت ایاس بن معاویہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو مشتری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے کہ میں نے تو اس پر دو ہزار درہم خرچ کر دیئے ہیں، اس نے کہا کہ تیرے دو ہزار مجھ پر لازم ہیں، حضرت ایاس نے مکان کا فیصلہ اس آدمی کے حق میں کر دیا اور عورت کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو بیع کو جائز قرار دے دیا۔

(۲۰۶۴۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلَاصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ.

(۲۰۶۴۰) حضرت محمد خلاص کو ایک قوی شرط خیال کرتے تھے اور اس میں سختی برتتے تھے۔

(۲۰۶۴۱) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا.

(۲۰۶۴۱) حضرت حسن کے نزدیک خلاص کی کوئی شرعی حیثیت نہ تھی۔

(۲۴) مَنْ كَانَ يَجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ

جو حضرات غلام کی گواہی کو بہتر مانتے تھے

(۲۰۶۵۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ : جَائِزَةٌ .
(۲۰۶۵۲) حضرت مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے غلام کی گواہی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے
مایا یہ درست ہے۔

(۲۰۶۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ .
(۲۰۶۵۳) حضرت شریح نے سے غلام کی گواہی کو درست قرار دیا۔

(۲۰۶۵۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ .
(۲۰۶۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف معمولی چیزوں میں غلام کی گواہی کو درست قرار دیتے تھے۔

(۲۰۶۵۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ، فَقَالَ : كُنَّا عَبِيدًا وَأَمْنَا حَوَاءً .
(۲۰۶۵۵) حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت شریح نے کسی گھر کے بارے میں
گواہی دی تو انہوں نے اس کی گواہی کو درست قرار دی، کسی نے کہا کہ یہ تو غلام ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سب غلام ہیں اور ہم
سب کی ماں حوا ہیں۔

(۲۰۶۵۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ : لَا ، كُنَّا نُجِيزُهَا ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدَ مُجِيزِهَا إِلَّا لِسَيِّدِهِ .
(۲۰۶۵۶) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شریح نے کہا کہ ہم تو غلام کی گواہی کو درست نہیں سمجھتے حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کہ ہم تو غلام کی گواہی کو درست سمجھتے تھے، اس کے بعد سے حضرت شریح غلام کی گواہی اس کے آقا کے علاوہ ہر ایک کے
ت میں مانتے تھے۔

(۲۵) مَنْ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ

جن حضرات کے نزدیک غلام کی گواہی معتبر نہیں

(۲۰۶۵۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَسَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ .
(۲۰۶۵۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں۔

(۲۰۶۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ .
(۲۰۶۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں۔

(۲۰۶۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ .
(۲۰۶۵۹) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں۔

(۲۰۶۶۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، وَكَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ .
(۲۰۶۶۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں، خواہ کسی معمولی چیز میں ہو۔

(۲۰۶۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ رِجَالِكُمْ ﴾ قَالَ : مِنَ الْأَحْرَارِ .
(۲۰۶۶۱) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آزاد مرد ہیں۔

(۲۰۶۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ .
(۲۰۶۶۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں۔

(۲۰۶۶۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ .
(۲۰۶۶۳) حضرت شعبی نے غلام کی گواہی کو رد کر دیا تھا۔

(۲۰۶۶۴) سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهُوَ قَوْلٌ وَكِيعٍ .
(۲۰۶۶۴) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں۔

(۲۰۶۶۵) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ لَا يُجْزَوْنَ عَلَى دِرْهَمٍ .
(۲۰۶۶۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرات اہل مکہ ایک درہم پر بھی غلام کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔

(۳۶) فِي الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ يَخْتَلِفَانِ

اگر راہن اور مرتہن میں اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۶۶۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ : عَشْرَةٌ ، وَقَالَ هَذَا : عَشْرُونَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ .
(۲۰۶۶۶) حضرت حفص بن غیاث فرماتے ہیں کہ اگر راہن اور مرتہن میں اختلاف ہو جائے اور راہن نے کہا: عَشْرَةٌ (۱۰) اور مرتہن نے کہا: عَشْرُونَ (۲۰) تو قول راہن صحیح ہے۔

(۲۰۶۶۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر راہن اور مرتہن کا اختلاف ہو جائے، ایک دس کہے اور دوسرا بیس تو راہن کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۰۶۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ .

(۲۰۶۶۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں مرتہن کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۰۶۶۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ .

(۲۰۶۶۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس کے قبضے میں رہن ہو اس کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۰۶۶۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيْتَةُ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ .

(۲۰۶۶۹) حضرت ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں مرتہن کا قول معتبر ہوگا، البتہ اگر اس کے خلاف دلیل قائم

ہو جائے تو پھر اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، اور ہر وہ شخص جس کے قبضے میں چیز ہو اس کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۰۶۷۰) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ

الْمُرْتَهِنِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ .

(۲۰۶۷۰) حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ جب راہن اور مرتہن کا اختلاف ہو جائے تو پھر مرتہن کا قول معتبر ہوگا، اگر قیمت والی چیز میں

اضافے کا اختلاف ہو تو راہن کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۰۶۷۱) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْتَةَ .

(۲۰۶۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب راہن اور مرتہن کا اختلاف ہو جائے تو راہن کا قول معتبر ہوگا البتہ اگر مرتہن دلیل قائم

کردے تو اس کی بات مانی جائے گی۔

(۲۰۶۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ

فَالْبَيْتَةُ عَلَى الَّذِي يَدْعِي الرَّهْنَ .

(۲۰۶۷۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر رہن کی حیثیت میں راہن اور مرتہن کا اختلاف ہو جائے تو راہن کا دعویٰ کرنے والے پر

لواہی لازم ہوگی۔

(۲۰۶۷۳) حَدَّثَنَا عَرَعَرَةُ بْنُ الْبُرَيْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَزْرَقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ .

(۲۰۶۷۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں مرتہن کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۰۶۷۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سُنِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهْنٌ

فَقَالَ: هُوَ بَعْشَرَةٌ، وَقَالَ صَاحِبُهُ: هُوَ بَدْرُهُمْ، فَقَالَ: الْبَيْئَةُ عَلَيَّ مَنِ ادَّعَى الْفُضْلَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: ذُو رَهْنٍ، وَقَالَ صَاحِبُهُ: هُوَ وَدِيْعَةٌ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ.

(۲۰۶۷۳) حضرت حماد سے سوال کیا گیا کہ جس شخص کے قبضے میں رہن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دس درہم کا ہے اور اس کا مالک کہتا ہے کہ یہ ایک درہم کا ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زیادتی کا دعویٰ کرنے والے پر گواہی لازم ہے جیسا کہ اگر ایک رہن کا دعویٰ کرنے اور دوسرا امانت کا اور مالک کا قول معتبر ہوگا۔

(۲۰۶۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ.

(۲۰۶۷۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مرتہن کا قول معتبر ہوگا۔

(۳۷) من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

باغ کے پاس سے گزرنے والا اس کا پھل کھا سکتا ہے

(۲۰۶۷۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمْرًا عَلِيًّا يَبْلُغُ الْحِيطَانَ.

(۲۰۶۷۶) حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی باغ کے پاس سے گزرتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دیواروں کے کنارے توڑنے کا حکم دیتے تاکہ پھل کھانے والا اندر جا سکے۔

(۲۰۶۷۷) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَكَمٍ الْبُقَيْرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ عَمِّ أَبِي رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْبُقَيْرِيَّ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أُرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَرْمِي نَخْلَنَا، فَأَتَى بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا غُلَامُ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ قُلْتَ: أَكُلُّ، قَالَ: فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْبِعْ بَطْنَهُ.

(ترمذی ۱۴۸۸ - ابوداؤد ۱۱۵)

(۲۰۶۷۷) حضرت رافع بن عمرو وغفاری کہتے ہیں کہ میں چھوٹا لڑکا تھا اور انصار کے درختوں پر پھل اتارنے کے لیے پتھر مارتا تھا حضور ﷺ سے ذکر کیا گیا کہ ایک لڑکا ہمارے درختوں پر پتھر مارتا ہے، پھر مجھے آپ ﷺ کے پاس لایا گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے! تم درختوں پر پتھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کھجوریں کھانا چاہتا ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا درختوں پر پتھر نہ مارو، جو نیچے گریں وہ کھا لو، پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔

(۲۰۶۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مَرْبِئَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الشَّمَارِ مَا كَانَتْ فِي أَكْمَامِهَا فَقَالَ: م.

أَكَلِ فِيهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ حُبَّةَ فُلَيْسَ عَلَيْهِ سَيِّءٌ. (ترمذی ۱۲۸۹۔ احمد ۲۰۷)

(۲۰۶۷۸) قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ خوشوں پر لگے ہوئے پھلوں کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وہی کھالے اور تھیلے میں نہ بھرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۶۷۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِثَابٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي أُغْلِمَةَ نَلْقَطُ الْبَلَّحَ ، فَفَجَنَّا عُمَرَ ، فَسَمِعَ الْعُلَمَانَ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِمَّا أَلْقَى الرِّيحُ ، فَقَالَ : أَرِنِيهِ ، فَلَمَّا أَرَيْتُهُ ، قَالَ : انْطَلِقْ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَى هَؤُلَاءِ الْعُلَمَانَ السَّاعَةَ ، فَإِنَّكَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِّي انْتَرَعُوا مَا مَعِيَ ، قَالَ : فَمَشَى مَعِيَ حَتَّى بَلَغْتُ مَا مَعِيَ .

(۲۰۶۷۹) حضرت سنان بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ لڑکوں کے ساتھ کچی کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک حضرت عمرؓ وہاں شریف لے آئے، لڑکے بھاگ گئے اور میں وہاں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اے امیر المؤمنین! میں ان کھجوروں کو اٹھا رہا تھا جو ہوا سے گر گئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ میں نے دکھایا تو آپ نے مجھے جانے کا حکم دیا، میں نے عرض کیا کہ جو لڑکے آپ نے ابھی کیے تھے وہ مجھ سے یہ کھجوریں چھین لیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، حضرت عمرؓ میرے گھر تک میرے ساتھ شریف لے گئے۔

(۲۰۶۸۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَادًا ، عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا .

(۲۰۶۸۰) حضرت علاء بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے درختوں سے گری ہوئی کھجوروں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مہاجرین ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۶۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ ، وَلَا تَتَّخِذْ حُبَّةً .

(۲۰۶۸۱) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی باغ کے پاس سے گزرو تم باغ کا پھل کھا سکتے ہو لیکن ساتھ اٹھا کر لے جا نہیں سکتے۔

(۲۰۶۸۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَإِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثَّمَارِ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

(۲۰۶۸۲) حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی غزوہ میں جاتے اور ہمیں پھل ملنے تو ہم ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۶۸۳) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ ، قُلْتُ : إِنِّي رُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَى الْأُبَلَّةِ ، فَنَمَرُ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّجَرِ ، فَيَكْلَاهُمَا رَخَّصَ لِي فِيهِ وَقَالَ : مَا لَمْ تَحْمِلْ ، أَوْ تَفْسِدَ .

(۲۰۶۸۳) حضرت سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ ہم بعض اوقات کھجور کے درختوں کے پاس سے گزرے تو ان میں کھانا کیسا ہے؟ ان دونوں حضرات نے اس کی رخصت دی اور فرمایا کہ اگر ساتھ لے کر نہ جاؤ اور خراب نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۶۸۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إِذَا مَرَدَّتْ بِيُسْتَانَ فَنَادِ صَاحِبَهُ ، فَإِنْ أَجَابَكَ فَاسْتَطِعْمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكَ فَكُلْ ، وَلَا تُفْسِدْ .

(۲۰۶۸۴) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ جب کسی باغ کے پاس سے گزرو تو اس کے مالک کو آواز دو، اگر وہ جواب دے تو اس سے مانگ کر کھاؤ اور اگر جواب نہ آئے تو کھاؤ لیکن خراب نہ کرو۔

(۲۰۶۸۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبٍ ، قَالَ : سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ ، وَأَبِي بَرزَةَ ، وَعَبِيدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثَّمَارِ .

(۲۰۶۸۵) حضرت ابو زینب فرماتے ہیں کہ میں ایک لشکر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن سرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ہم پھلوں کو کھایا کرتے تھے۔

(۲۰۶۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَارِ .

(۲۰۶۸۶) حضرت ذر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا وہ پھلوں کو کھایا کرتے تھے۔

(۲۰۶۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ، وَلَا يَحْمِلْ . (احمد ۲۲۲)

(۲۰۶۸۷) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھجور کے باغ کے پاس سے گزرے تو اس کو کھا سکتا ہے لیکن ساتھ لے جائیں سکتا۔

(۲۰۶۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَارِ أَهْلِ الدَّمَةِ .

(۲۰۶۸۸) حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ذمیوں کا پھل کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۰۶۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَقَالَ : يَأْكُلْ ، وَلَا يُفْسِدْ .

(۲۰۶۸۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے سوال کیا اگر مسافر پھلوں کے باغ کے پاس سے گزرے تو کیا اس میں سے کھا سکتا ہے انہوں نے فرمایا کہ کھا سکتا ہے لیکن خراب نہ کرے۔

(۲۰۶۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ فَذَكَرَ ، مِثْلَهُ .

(۲۰۶۹) حضرت محمد سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۰۶۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ الْحَوَّارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبَ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَأَخَذُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَأَخَذُ الْعُلْجَ لِبِدْلَانَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارَ كَهْمُ فِي بِيوتِهِمْ .

(۲۰۶۹) حضرت جندب بجلی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب فرما کر کے ساتھ جہاد کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے وہ ہم کیا کرتے تھے، ہم پھل کھاتے تھے اور راستہ کے لیے غلام کرایہ پر لیتے تھے جو ہمیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہنچاتا ہے ہم ان کے ساتھ ان کے گھروں میں شریک نہیں ہوتے۔

(۲۰۶۹) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَادًا ، عَنِ الْمَسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : إِذَا طَلَمُوهُمْ الْأَمْرَاءُ فَاحْبَبْ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ : كُلْ .

(۲۰۶۹) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کیا مسافر باغ کے پھل کھا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امراء کا پر ظلم کریں تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ نہ کھائے اور میں نے حضرت حکم سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھالے۔

(۲۰۶۹) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ شُرْحَبِيلَ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَصَابَتْنا سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَخَذْتُ سُبُلًا فَفَرَّقْتُهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ كِسَانِي ، فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ، أَوْ سَاعِيًا ، وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ . (ابوداؤد ۲۶۱۳۔ ابن ماجہ ۲۴۹۸)

(۲۰۶۹) بنو نمیر کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے دنوں میں میں ایک باغ میں داخل ہوا اور میں نے ایک توڑ لیا، اتنے میں باغ کا مالک آ گیا اور اس نے مجھے مارا اور میری چادر چھین لی، ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جب وہ بھوکا تھا تو تو نے اس کو کیوں نہ کھلایا اور جب وہ نہیں جانتا تھا تو تو نے اس کو کیوں نہیں بتایا، پھر آپ پڑا مجھے واپس دلوادیا۔

(۲۸) من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها

جن حضرات کے نزدیک مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا

(۲۰۶۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدٍ ، قَالَ : نَزَلْنَا إِلَى جَانِبِ حَائِطٍ دِهْقَانَ فَقَالَ لِي سَعْدٌ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تُصَيِّنْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِي دِرْهَمًا ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِبَعْضِهِ ثَمْرًا ، أَوْ غَدَاءً وَبِبَعْضِهِ عَلْفًا .

(۲۰۶۹۳) حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک باغ کی دیوار کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تو حضرت سعد نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم حقیقی مسلمان بن جاؤ تو اس میں سے کچھ نہ لینا، پھر انہوں نے مجھے ایک درہم دیا اور فرمایا کہ اس کے پکے حصے سے پھل اور کھانا اور دوسرے سے چارہ خرید لو۔

(۲۰۶۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا مَرَرْتَ بِبَيْتِ حَائِطٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلُهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَكُلْ ، وَلَا تَحْمِلْ .

(۲۰۶۹۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تم کھجوروں وغیرہ کے پاس سے گزر دو جس کے ارد گرد باڑ ہو تو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس میں داخل مت ہو، اور جب کھلے باغ کے پاس سے گزر دو اس میں سے کھا لو اور ساتھ مت لے جاؤ۔

(۲۰۶۹۶) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، قَالَ : تَلَقَيْتُ عَائِشَةَ وَ- مَقْبَلَةَ مِنْ مَكَّةَ أَنَا وَابْنُ لَطْلُحَةَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا ، وَقَدْ كُنَّا وَقَعْنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَأَقْبَلَتْ عَلَيَّ ابْنِ أُخْتِهَا تَلُمُوهُ وَتَعَدَلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ فَوَعظتني موعظةً بليغةً .

(۲۰۶۹۶) حضرت یزید بن عاصم کہتے ہیں کہ میں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کا بیٹا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملے، جب وہ سے واپس آ رہی تھیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ ہم نے ایک باغ کی دیوار کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور اس باغ کے پھل کھائے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے بھانجے کو ڈانٹا اور پھر مجھے بھی خوب نصیحت فرمائی۔

(۲۰۶۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِالْإِذْنِ .

(۲۰۶۹۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ تم پھل قیت دے کر ہی کھا سکتے ہو۔

(۲۰۶۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا .

(۲۰۶۹۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پھل مالک کی اجازت سے کھاؤ۔

(۲۰۶۹۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عُنُقْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَحْتَمِي الثَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا .

(۲۰۶۹۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کھجوروں کے گرد باڑ نہ ہو تو انہیں ممنوع نہیں سمجھا جائے گا اور اگر باڑ ہو تو مالک کی اجازت سے ہی کھایا جا سکتا ہے۔

(۲۰۷۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ،

يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ فَقَالَ: دَعُهُ لِلسَّبَاعِ وَرَللَطَّيْرِ.

(۲۰۷۰۰) حضرت عبدالرحمن بن حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے گر جانے والے پھلوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے درندوں اور پرندوں کے لیے چھوڑ دو۔

(۲۰۷۰۱) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَرِهَ اللِّقَاطَ.

(۲۰۷۰۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے گرے پڑے پھلوں کے کھانے کے مکروہ قرار دیا۔

(۳۹) من رخص في جوائز الأمراء والعمال

امراء اور گورنروں کے تحائف قبول کرنے کا بیان

(۲۰۷۰۲) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ.

(۲۰۷۰۲) حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرات حسین رضی اللہ عنہما، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آنے والے پھلوں کو قبول کر لیتے تھے۔

(۲۰۷۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَأْبِهَهُمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ فَيَقْبَلَانَهَا.

(۲۰۷۰۳) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس مختار ثقفی کے ہدایا آتے تھے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔

(۲۰۷۰۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِصْمَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاتَاهَا رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ مُعَاوِيَةَ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَتْهَا.

(۲۰۷۰۴) حضرت عبدالرحمن بن عاصم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا کہ ان کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قاصد ہدیہ لے کر آیا، انہوں نے اس ہدیہ کو قبول فرمایا۔

(۲۰۷۰۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ بَعَثَتْ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةَ قِلَادَةً قَوْمٌ بِمِئَةِ أَلْفٍ فَقَبِلَتْهَا، وَقَسَمَتْهَا بَيْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۲۰۷۰۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک ایسا ہار بھیجا جس کی قیمت مریبا ایک لاکھ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس ہار کو قبول فرمایا اور اسے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں تقسیم کر دیا۔

(۲۰۷۰۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ، قَالَ: أُرْسِلَ مَعِيَ بِشَرِّ بْنِ مَرْوَانَ بِحَمْسِمِئَةٍ إِلَى

خَمْسَةَ اَنَاسٍ : اِلَى اَبِي جُحَيْفَةَ وَ اِلَى اَبِي رَزِيْنٍ وَعَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ وَ مَرَّةً ، وَ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَ رَدَّهَا اَبُو رَزِيْنٍ ، وَ اَبُو جُحَيْفَةَ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ وَ قَبِلَهَا الْاَخْرَانِ .

(۲۰۷۰۶) حضرت عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ بشر بن مروان نے مجھے پانچ سو درہم دیئے کہ میں انہیں حضرت ابو جحیفہ حضرت ابو رزین، حضرت عمرو بن میمون، حضرت مرہ اور حضرت ابو عبد الرحمن میں تقسیم کروں، حضرت ابو رزین، حضرت ابو جحیفہ اور حضرت عمرو بن میمون نے یہ پیسے واپس کر دیئے اور باقی حضرات نے قبول فرما لیے۔

(۲۰۷۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَوَيْدٍ . (۲۰۷۰۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۷۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : اَتَى الْعَامِلَ فَيُعْطِيهِ وَيُجِيزِيهِ ؟ فَقَالَ : خُذْهَا لَا اَبَا لَكَ وَ اَنْطَلِقُ .

(۲۰۷۰۸) حضرت حسن سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں عامل کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے کیا میں اسے قبول کر لوں؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا ناس ہو رو پے لو اور چلے جاؤ۔

(۲۰۷۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ اَبِي عَلِيٍّ اَبِي بَكْرٍ ، نَعُوذُهُ وَ مَرِيضٌ ، فَحَمَلْنَا عَلَيَّ قَرَسِيْنَ ، وَ رَأَيْتُ اَسْمَاءَ مَوْشُوْمَةَ الْيَدِيْنَ ، تَذُبُّ عَنْهُ .

(۲۰۷۰۹) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا انہوں نے ہمیں واپسی پر دو گھوڑوں پر سوار کیا، میں حضرت اسماءؓ کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر سوسہ لگا ہوا تھا اور وہ اسے ہٹا رہی تھیں۔

(۲۰۷۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَهَاجِرٍ ، أَنَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ تَمِيْمَ بْنَ سَلَمَةَ خَرَجَا اِلَى عَامِلٍ فَفَضَّلَ تَمِيْمًا عَلَيَّ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْجَائِزَةِ ، فَغَضِبَ اِبْرَاهِيْمُ .

(۲۰۷۱۰) حضرت ابراہیم اور حضرت تمیم بن سلمہ ایک عامل کے پاس گئے، اس عامل نے حضرت تمیم کو حضرت ابراہیم سے زیادہ دیئے جس پر حضرت ابراہیم کو غصہ آیا۔

(۲۰۷۱۱) حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ اَبِيهِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ اَسِيْدٍ بَعَثَ اِلَيَّ مَسْرُوقِي بِنَاكِلِيْنَ الْفَا ، فَ رَدَّهَا فَقَالَ لَهُ : لَوْ اَخَذْتَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَ وَاَصَلْتَ بِهَا ، فَاَبَى اَنْ يَأْخُذَهَا .

(۲۰۷۱۱) خالد بن سیف نے مسروق کی طرف تیس ہزار درہم بھیجے، انہوں نے وہ واپس کر دیئے ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ قبول کر کے انہیں صدقہ کر دیں، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ درہم لینے سے انکار کر دیا۔

(۲۰۷۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ ابْنِ اَبِي عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، اَنَّهٗ كَانَ لَا يَرَى بِجَوَازِ الْعَمَالِ بِاَسَا . (۲۰۷۱۲) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ گورنروں کے تحفے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَامِلٍ فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَقَبِلَهَا .
(۲۰۷۱۳) حضرت امش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک عامل کے پاس گئے ، اس عامل نے انہیں انعام دیئے اور ایک سواری پر سوار کیا ، حضرت ابراہیم نے سب کچھ قبول کر لیا۔

(۲۰۷۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ يُونُسَ ، عَنِ مَحْوِلٍ ، عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ .
(۲۰۷۱۴) حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ عمال کے ہدیے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ .
(۲۰۷۱۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ عمال کے ہدایا قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ أَجَازَ الْحَسَنَ وَبَكَرًا فَقَبِلَا ، وَأَجَازَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ .
(۲۰۷۱۶) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ ابن مہیرہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت بکر کو تحائف بھجوائے۔ ان دونوں حضرات نے قبول کر لیے لیکن جب حضرت محمد کو بھجوائے تو انہوں نے قبول نہیں کیے۔

(۲۰۷۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى ذُرِّبِجَانِزَةَ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : أَكُلُّ مُسْلِمٍ يُعِثُ بِهِذَا ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ : رُدُّهُ ، وَقَالَ : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَطَى نَزَاعَةَ لِلشَّوَى ﴾ .
(۲۰۷۱۷) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ذر کو ایک تحفہ بھجوا یا ، انہوں نے قاصد سے پوچھا کہ کیا اس نے ہر مسلمان کو یہ ہدیہ بھیجا ہے ، اس آدمی نے نفی میں جواب دیا اور حضرت ذر نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ آیت پڑھی:

﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَطَى نَزَاعَةَ لِلشَّوَى ﴾ .
(۲۰۷۱۸) حضرت ابن میناء فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن مردان نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک ہدیہ بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا اور حضرت عبداللہ بن عیاش کی طرف بھی ہدیہ بھیجا انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔

(۲۰۷۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ .
(۲۰۷۱۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمال کے ہدیہ میں کوئی حرج نہیں ، اس کی تجارت اور کام ہے وہ تمہیں اپنے پاکیزہ مال میں سے دیتا ہے۔

(۲۰۷۲۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ آتَيْتُ عَامِلًا فَأَجَازَنِي لَقَبِلْتُ مِنْهُ ، إِنَّمَا

هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْتِ الْمَالِ يَدْخُلُهُ النِّحْبُ وَالطَّيْبُ ، وَقَالَ : إِذَا أَتَاكَ الْبُرَيْدُ فِي أَمْرِ مَعْصِيَةٍ فَلَا خَيْرَ لِي بِجَائِزَتِهِ وَإِذَا أَتَاكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِجَائِزَتِهِ .

(۲۰۷۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی عامل کے پاس جاؤں اور وہ مجھے کچھ تحائف دے تو میں اسے قبول کر لوں گا، وہ بیت المال کے درجے میں ہے جس میں اچھا برا ہر طرح کا مال آتا ہے، جب قاصد تمہارے پاس کسی معصیت والے کام کے لیے تحفہ لے کر آئے تو اس تحفے میں کوئی خیر نہیں لیکن اگر کسی جائز کام کے لیے تحفہ لائے تو اس تحفے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۲۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسْمَعْ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ حَازِمٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَجَازَهُ بِالْفِ دِينَارٍ .

(۲۰۷۲۱) حضرت عامر بن حذیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے انہیں ایک ہزار دینار کا ہدیہ دیا۔

(۲۰۷۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا ثَلَاثِينَ رَاكِبًا عَلَيْنَا الْأَسْوَدُ ، أَمْرَهُ بَشْرُ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأَجَازَهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَقَبِلَهَا .

(۲۰۷۲۲) حضرت اشعث بن ابی الشعثاء فرماتے ہیں کہ ہم تیس آدمیوں کی جماعت ایک سفر پر نکلی، ہمارے امیر حضرت اسود تھے جنہیں بشر بن مروان نے امیر بنایا تھا، بشر نے انہیں پچاس دینار دیے جو انہوں نے قبول کر لیے۔

(۴۰) من رخص في بيع الأخر من الرضاة

جن حضرات کے نزدیک رضاعی بھائی (جو کہ غلام ہو) کو بیچنا درست ہے

(۲۰۷۲۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرِ بِأَسَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ .

(۲۰۷۲۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ رضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۲۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَنَادَةَ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ .

(۲۰۷۲۴) حضرت محمد بن سیرین اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۷۲۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ رضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۲۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

(۲۰۷۲۶) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ رضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْآخِ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۷۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے رضاعی بھائی کی بیع کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۴۱) من کرہ ان یبیع أخاه من الرضاۃ

جن حضرات کے نزدیک رضاعی بھائی کو بیچنا مکروہ ہے

(۲۰۷۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ .

(۲۰۷۲۸) حضرت جابر بن زید رضاعی بھائی کے بیچنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔

(۲۰۷۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُخْتِهِ وَجَدَّتِيهِ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَكْرَهُ بَيْعَهُمَا .

(۲۰۷۲۹) حضرت حسن نے رضاعی بہن اور رضاعی دادی بیچنے کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۷۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْقَطَّانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنْهُ فَكْرَهُهُ ، فَذَكَرْتَهُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَقُولُهُ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ .

(۲۰۷۳۰) حضرت حسن سے رضاعی بھائی کو بیچنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت قتادہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت جابر بن زید کی رائے بھی یہی تھی اور حضرت ابراہیم نخعی فرماتے تھے کہ اگر چاہے تو بیچ سکتا ہے۔

(۲۰۷۳۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ أَخَاهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ .

(۲۰۷۳۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رضاعی بھائی کو بیچنا مکروہ ہے۔

(۲۰۷۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَتِي أَرْضَعَتِ ابْنِي أَمَا أبيعُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ دِدْتُ أَنَّهُ أُخْرَجَتْهَا إِلَى السُّوقِ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَوَلَدِي كَأَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۰۷۳۲) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبد اللہ سے سوال کیا کہ میری باندی نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، کیا میں اس باندی کو بیچ سکتا ہوں؟ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات کتنی عجیب ہوگی کہ تم اسے بازار لے جاؤ اور آواز لگاؤ کہ مجھ سے میرے بچے کی ماں کون خریدے گا؟

(۴۲) فِی الْإِشْهَادِ عَلَى الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ

خرید و فروخت پر گواہ بنانے کا بیان

(۲۰۷۳۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ فَقَالَ : أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ .

(۲۰۷۳۳) حضرت سلیمان تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس آیت کو نہیں دیکھتے: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ گویا حضرت حسن گواہ بنانے کے لزوم والی آیت کو منسوخ خیال کرتے تھے۔

(۲۰۷۳۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ ، لَا بَدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ .

(۲۰۷۳۴) حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز خریدے تو کیا اس پر گواہ بنانا لازمی اور ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں، کیا تم قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں دیکھتے: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ اگر تم ایک دوسرے سے مامون ہو تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ قَالَ : نَسَخْتَهَا ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ .

(۲۰۷۳۵) حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ کو ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ نے منسوخ کر دیا ہے۔

(۲۰۷۳۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحَرَّرٍ وَآتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ فَقَالَ : مَنْ يَبِيعُنِي عَبْنًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يَشْهَدْ

(۲۰۷۳۶) حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن محرز کو دیکھا کہ ایک دن وہ بازار گئے۔ ان کے پاس ایک درہم تھا، انہوں نے فرمایا کہ اس ایک کھوٹے درہم کے بدلے مجھے عمدہ انگوڑ کون بیچے گا۔ انہوں نے انگوڑ خریدے اور کسی کو گواہ نہیں بنایا۔

(۲۰۷۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الشُّهُودَ .

(۲۰۷۳۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ نے گواہ بنانے کو منسوخ کر دیا ہے۔

(۲۰۷۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْبَيْوعُ ثَلَاثَةٌ : بَيْعُ شُهُودٍ وَكِتَابٍ وَبَيْعُ بَرَهَانٍ مَقْبُوضَةٍ ، وَبَيْعٌ بِالْأَمَانَةِ ، ثُمَّ قَرَأَ آيَةَ الَّذِينَ .

(۲۰۷۳۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ بیعات تین قسم کی ہیں ایک وہ بیع جو گواہوں اور تحریر کے ساتھ ہو، ایک وہ بیع جو رہن متبوضہ کے ساتھ ہو اور ایک وہ بیع جو امانت کے ساتھ ہو پھر انہوں نے آیت دین کی تلاوت کی۔

(۲۰۷۳۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ أَتَى سَفِيهَا مَالَهُ ، وَقَالَ اللَّهُ : ﴿وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يَفَارِقْهَا وَلَمْ يَطْلُقْهَا ، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يَشْهَدْ .

(۲۰۷۳۹) حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ایک وہ جو کسی بے وقوف کو اپنا مال دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو، دوسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی بد اخلاق بیوی ہو وہ نہ اسے طلاق دے اور نہ اس سے جدا ہو اور تیسرا وہ آدمی جو کوئی چیز خریدے تو گواہ نہ بنائے۔

(۲۰۷۴۰) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَعَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَرَجُلٌ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، وَلَا يَشْهَدُ .

(۲۰۷۴۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک وہ جو اپنی بیوی کے لیے بد دعا کرے دوسرا وہ جو اپنے غلام کے لیے بد دعا کرے اور تیسرا وہ آدمی جو خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ نہ بنائے۔

(۲۰۷۴۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَشْهَدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى .

(۲۰۷۴۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے آدمی گواہ بنائے گا۔

(۲۰۷۴۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْرِ بْنِ عَبْدِ مَلِكٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَشْهَدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى .

(۲۰۷۴۲) حضرت صحاح فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے آدمی گواہ بنائے گا۔

(۴۳) فِيَمَا يَسْتَحْلِفُ بِهِ أَهْلَ الْكِتَابِ

اہل کتاب سے کس کی قسم لی جائے گی؟

(۲۰۷۴۳) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي الْهَيَّاجِ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عَلَى عَلِيٍّ السَّوَادِ وَأَمَرَنِي أَنْ اسْتَحْلِفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِاللَّهِ .

(۲۰۷۴۳) حضرت ابو الہیاج فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک علاقے کا گورنر بنایا اور مجھے حکم دیا کہ میں اہل کتاب سے اللہ کی قسم لوں۔

(۲۰۷۴۴) حَدَّثَنَا أَبُو معاوية ، عن حجاج ، عن مروان بن معاوية ، عن يحيى بن ميسرة ، عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة أنه استخلف المشرك بالله .

(۲۰۷۴۳) حضرت ابو عبیدہ نے مشرک سے اللہ کی قسم لی۔

(۲۰۷۴۵) حَدَّثَنَا أَبُو معاوية ، عن حجاج ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن مسروق ، أنه كان يستخلف المشركين بالله .

(۲۰۷۴۵) حضرت مسروق نے مشرکین سے اللہ کی قسم لی۔

(۲۰۷۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن عياش ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : لا يستخلف المشرك إلا بالله ولكن يغلد عليه في دينه .

(۲۰۷۴۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مشرک سے بھی اللہ کی قسم لی جائے گی لیکن اس سے اس کے دین میں سختی برتی جائے گی۔

(۲۰۷۴۷) حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أن كعب بن سور أذخله الكيسية ووضأ التوراة على رأسه واستخلفه بالله .

(۲۰۷۴۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کعب بن سور نے ایک غیر مسلم کو کینہ میں داخل کیا، اس کے سر پر تورات رکھی اور اس سے اللہ کی قسم لی۔

(۲۰۷۴۸) حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنه كان يستخلف المشركين بالله حيث يكرهون .

(۲۰۷۴۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں حضرت شریح مشرکین سے اللہ کی قسم لیا کرتے تھے جبکہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۰۷۴۹) حَدَّثَنَا ابن نمير ، عن أبي الغضن ، قال : سمعت الشعبي وأراد أن يحلف نصرانياً فقال : أحلف بالله فقال الشعبي : قد ترككم الله وأنتم تبصرون ، اذهبوا به إلى البيعة فاستخلفوه بما يستخلف به أهل دينهم .

(۲۰۷۴۹) حضرت ابو الغضن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شعبی کے سامنے ایک نصرانی اللہ کی قسم کھانے لگا تو حضرت شعبی فرمایا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور دیکھتے بھی ہو پھر آپ نے حکم دیا کہ اسے گرجا کی طرف لے جاؤ اور اس سے قسم لوجو اس کے دل کے لوگ کھاتے ہیں۔

(۲۰۷۵۰) حَدَّثَنَا أسباط بن محمد ، عن عبد الحميد ، عن عطاء ، قال : سئل عن اليهودي والنصراني : استخلف بالتوراة والإنجيل ؟ قال : استخلفوه بالله ، فإن التوراة والإنجيل من كتاب الله .

(۲۰۷۵۰) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا یہودی اور نصرانی سے تورات اور انجیل کی قسم لی جائے گی، انہوں نے فرمایا کہ وہ کی قسم کھائیں گے کیونکہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں۔

(۲۰۷۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحْلِفُ الْمُشْرِكِينَ بِدِينِهِمْ .
(۲۰۷۵۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مشرکین اپنے دین کی قسم کھایا کرتے تھے۔

(۴۴) فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

(۲۰۷۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَطَاوُوسًا عَنْ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَاهَا ، وَقَالَ سَالِمٌ : هَلْ بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِلَّا كَأَكْلِ لَحْمِهَا .

(۲۰۷۵۲) حضرت خالد بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت طاووس سے مردار کی کھالوں کی بیع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا، حضرت سالم نے فرمایا کہ مردار کی کھالوں کی بیع ان کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔

(۲۰۷۵۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأَضْحِيَّةِ .
(۲۰۷۵۳) حضرت عکرمہ نے قربانی اور مردار کی کھالوں کی بیع کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۷۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ . (ابو داؤد ۳۳۸۲۔ ابن حبان ۴۹۳۸)

(۲۰۷۵۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کو حرام فرماتے ہیں تو اس کی قیمت کو بھی اس پر حرام کر دیتے ہیں۔

(۲۰۷۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ جُلُودِ جَوَامِيسَ مَيْتَةٍ فَكَرِهَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ .

(۲۰۷۵۵) حضرت شعبی نے مردہ بھینسوں کی کھالوں کی بیع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے دباغت سے پہلے اس بیع کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۷۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا ، يَعْنِي جُلُودَ الْمَيْتَةِ .

(۲۰۷۵۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مردہ کی کھالوں کی بیع کو مکروہ قرار دیتے تھے لیکن ان کی قیمت کو استعمال میں لے آتے تھے۔

(۲۰۷۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَلَبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ .

(۲۰۷۵۷) حضرت ابراہیم نے مردہ کی کھال کی فروخت اور اس کے پہننے کو بغیر دباغت کے مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۷۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ حَتَّى تُدْبَغَ .

(۲۰۷۵۸) حضرت حسن نے دباغت سے پہلے مردار کی کھالوں کی بیع کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۷۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَمِيَّةِ .

(بخاری ۲۳۳۶۔ مسلم ۱۴۰۷)

(۲۰۷۵۹) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فتح مکہ والے سال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مردار کی بیع کو حرام کر دیا ہے۔

(۴۵) فِي احْتِكَارِ الطَّعَامِ

غلے کو ذخیرہ کرنے کا بیان

(۲۰۷۶۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ . (حاکم ۲/۱۱۔ طبرانی ۷۷۷۶)

(۲۰۷۶۰) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھانے کا ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا۔

(۲۰۷۶۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ .

(۲۰۷۶۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا۔

(۲۰۷۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ نَضَلَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءٌ .

(مسلم ۱۴۲۷۔ ابوداؤد ۳۳۳۰)

(۲۰۷۶۲) حضرت معمر بن نھلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کوئی گناہ گار ہی کر سکتا ہے۔

(۲۰۷۶۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْحُكْرَةُ خَطِيئَةٌ .

(۲۰۷۶۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی گناہ ہے۔

(۲۰۷۶۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِرَأْسِ مَالِهِ وَالرِّيحُ لَمْ يَكْفُرْ عَنْهُ .

(۲۰۷۶۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کھانا ذخیرہ کیا پھر اصل مال اور نفع کو صدقہ کر دیا تو اس سے کفارہ نہیں

اجائے۔

(۲۰۷۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَحْبَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَحْرَقَ. حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے ایک لاکھ کاغذ ذخیرہ کر رکھا ہے انہوں نے اسے لانے کا حکم دے دیا۔

(۲۰۷۷) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ حَبِيشُ: قَدْ أَحْرَقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالسَّوَادِ كُنْتَ احْتَكِرْتَهَا لَوْ تَرَ كَهَا لَرَبِحْتَهَا مِثْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ. (۲۰۷۸) حَبِيشُ كَتَبَ هِيَ كَ حَضْرَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَے مِيرے اس غلے کو جلانے کا حکم دیا جو میں نے ذخیرہ کیا تھا، اگر وہ اسے چھوڑ دیتے میں اس میں سے پورے کوفہ کے غلے کے برابر نفع حاصل کر لیتا۔

(۲۰۷۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ سُفْيَانَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءٌ، أَوْ بَاغٍ. حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کوئی گناہ گار یا پسرش ہی کر سکتا ہے۔

(۲۰۷۸) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ عَلِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحَكْرَةِ بِالْبَلَدِ. (حارث ۳۲۷) حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۷۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَصْبَعِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْوَرَّاقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ، عَنِ أَبِي الزَّاهِرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرَّءَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَّءَ اللَّهُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةِ ظَلَّ فِيهِمْ أَمْرٌ وَجَائِعٌ، فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ. (احمد ۳۳- ابو يعلى ۵۷۲۰)

(۲۰۷۶) حضرت ابن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے چالیس دن تک کھانا ذخیرہ کیا تو وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، وہ صاحب حیثیت لوگ جن میں کوئی بھوکا زندگی گزار رہا ہو اللہ پر ان کی ذمہ داری ہے۔

(۶۶) فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثُّوبَ فَيَقُولُ بَعَهُ بَكْذَا فَمَا ازددت فلك

اگر ایک آدمی دوسرے کو کپڑا دے اور اس سے کہا کہ اسے اتنے کا بیچ دے جو زیادہ ہو اور تیرا ہے حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِي بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:

(۲۰۷۷۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يُعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : بَعُهُ بَغْذَاً وَكَذَا ، فَمَا اِزْدَدْتُ فَلَكَ .

(۲۰۷۷۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو کپڑا دے اور اس سے کہے کہ میری طرف سے اتنے سے بیچ دو اور جو زیادہ کمادوہ تمہارے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۷۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا .

(۲۰۷۷۱) حضرت ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۷۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَى الثَّوْبَ فَيَقُولُ : بَعُ هَذَا الثَّوْبَ بَغْذَاً وَكَذَا ، فَمَا اِزْدَدْتُ فَلَكَ .

(۲۰۷۷۲) حضرت شریح بن انس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو کپڑا دے اور اس سے کہے کہ اس کپڑے کو اتنے روپے کا میری طرف سے بیچ دو اور جو زیادہ ہو وہ تمہارا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

(۲۰۷۷۳) حضرت عامر اس معاملہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۷۷۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَنَاعًا فَقَالَ : اسْتَفْضَلْتُ ، فَهُوَ لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۷۷۴) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو کچھ سامان دے اور اس سے کہے کہ جو تم زیادہ کھا لو وہ تمہارا ہے یا ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔

(۲۰۷۷۵) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعَى الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : بَعُهُ بَغْذَاً وَكَذَا ، فَمَا زَادَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۷۷۵) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو ایک کپڑا دے اور اس سے کہے کہ اسے اتنے میں بیچ دو اور اس سے زیادہ بیچو تو وہ ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۷۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مِغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ .

(۲۰۷۷۶) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم نے اس معاملہ کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۰۷۷۷) حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّازِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ طَاوُؤُ يَكْرَهُهُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ .

(۲۰۷۷۷) حضرت عطاء اس معاملے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جبکہ حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ جب تک اجر معلوم نہ ہو

۲۵۰۔

(۲۰۷۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثُّوبَ فَيَقُولُ : بَعُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا اسْتَفْضَلْتُ ، فَلَكَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَنْقُدُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِينَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ . (۲۰۷۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو کپڑا دے اور اس سے کہے کہ اسے اتنے اتنے کا بیچ دو جو زیادہ ہو وہ راہے اگر یہ نقد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر ادھار کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی خیر نہیں۔

(۴۷) فِي النِّفْقَةِ تَضَمُّ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ

خرچ کو رأس المال کے ساتھ ملا یا جائے گا

(۲۰۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ ، عَنْ أَبِي مُعَشَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ الْعَشْرَةَ أَثْنَى عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنِّفْقَةِ رِبْحًا . (۲۰۷۴) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو درست قرار دیتے تھے کہ آدمی دس کی چیز کو بارہ میں بیچے جب تک کہ خرچ پر نفع لے۔

(۲۰۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مَرَابِحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنِّفْقَةِ رِبْحًا .

(۲۰۷۶) حضرت سعید بن مسیب نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ آدمی بیچ کر اسے بچھرتے ہوئے خرچ پر بھی نفع لے۔

(۲۰۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ ، عَنْ ابْنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

(۲۰۷۸) حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّعْفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنِّفْقَةِ رِبْحًا .

(۲۰۸۰) حضرت محمد رضی اللہ عنہ خرچ پر نفع لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۰۸۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النِّفْقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ .

(۲۰۸۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خرچ کو سامان میں شمار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقَصَارَةَ وَالْكَرَاءَ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ بِه مَرَابِحَةً ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۸۴) حضرت عبد الرحمن بن عجلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ہم لوگ سامان خریدتے ہیں اور پھر پر بار برداری اور کرایہ وغیرہ ڈال کر اسے نفع کے ساتھ بیچتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۰۷۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبُرَّ فَيَتَكَرَّرِي لَهُ ، أَيَأْخُذُ رِبْحًا؟ قَالَ : إِذَا بَيَّنَّ .

(۲۰۷۸۵) حضرت طاوس سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کندم خریدتا ہے اور پھر اس کا کرایہ بھی ادا کرتا ہے، کیا اس پر نفع لے انہوں نے فرمایا کہ جب اس کو بیان کر دے تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۸۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكَرِّ قَالَ : يَأْخُذُ رِبْحَ مَا نَقَدَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ ، وَمَا نَقَدَ فِي الْبَلَدِ الَّتِي بَاعَ فِيهِ فَلَا يَأْخُذُ رِبْحَهُ .

(۲۰۷۸۶) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کسی چیز کو نفع کے ساتھ بیچتا ہے اور کرائے پر بھی منافع لیتا ہے تو کیا یہ در ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ اس نے اس زمین پر خرچ کیا ہے جس سے وہ نکلا ہے اس کا نفع تو لے گا اور جو کچھ اس نے اس شہر خرچ کیا جہاں بیچا ہے اس کا نفع نہیں لے گا۔

(۴۸) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَسْتَعْلِيهِ فِيرُدُّهُ وَيُرَدُّ مَعَهُ دَرَاهِمٌ

اگر آدمی کسی چیز کو خرید کر واپس کرے اور ساتھ اضافی دراہم دے تو یہ کیسا ہے؟

(۲۰۷۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَلِكَ الْبَاطِلُ .

(۲۰۷۸۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔

(۲۰۷۸۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذُ سِلْعَتَكَ وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلًا .

(۲۰۷۸۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اپنے سامان کے ساتھ اضافی معاوضہ واپس نہ لو۔

(۲۰۷۸۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ مِنْ قَبْلِ يَأْخُذَهَا فَقَالَ : أَقْلَبِي ، فَأَبَى ، وَقَالَ : أَعْطِنِي دَرَاهِمًا وَأَقْبِلْكَ فَكَبَّرَهَا .

(۲۰۷۸۹) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ اگر ایک آدمی دوسرے سے ایک بکری خریدے اور بکری پر قبضہ سے پہلے اس کی رائے بدل جائے اور وہ اس بیع کو ختم کرنا چاہے، بائع بیع کو ختم کرنے سے اسے کچھ دے اور کہے کہ تم مجھے ایک درہم دو پھر میں اتالہ کروں گا، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۷۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُلْقَمَةَ بَاعَ دَابَّةً ، فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدَّهَا وَيُرَدَّ مَعَهَا دَرَاهِمٌ فَقَالَ عُلْقَمَةُ : هَذِهِ ذَابَّتُنَا فَمَا حَقُّنَا فِي دَرَاهِمِكَ ؟

(۲۰۷۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آدمی کو ایک سواری بیچی، خریدار نے ارادہ کیا کہ وہ یہ سواری واپس دے اور ساتھ کچھ دراہم بھی دے، حضرت علقمہ نے اس سے فرمایا کہ یہ سواری تو ہماری ہے اور تیرے دراہم پر ہمارا کیا حق ہے۔

(۲۰۷۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا.
(۲۰۷۹۱) حضرت اسود نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ سامان واپس کرے اور اس کے ساتھ درہم بھی دے۔

(۲۰۷۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سِئَلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ فَأَبَى فَبَدَّلَهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا فَقَالَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(۲۰۷۹۲) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے دکان یا زمین کو خریدا، پھر وہ اقالہ کرنا چاہتا ہے لیکن بائع راضی نہیں ہوتا، پھر وہ بائع کے لیے دس یا بیس درہم چھوڑ دیتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۷۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا.
(۲۰۷۹۳) حضرت شعبی نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ چیز واپس کرے اور ساتھ درہم بھی دے۔

(۲۰۷۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَسِئَلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا قَدِيمَ الْمُبْتَاعِ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يَكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ.

(۲۰۷۹۴) حضرت سعید بن مسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے اونٹ خریدا پھر اسے اس معاملے پر افسوس ہوا، وہ اونٹ واپس کرتا ہے ساتھ آٹھ درہم بھی دیتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، سودان چیزوں میں ہوتا ہے جن کا کھل یا وزن کیا جاتا ہے یا جب کھائی اور پی جاتی ہیں۔

(۲۰۷۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ فَقَامَا عِنْدَ شُرَيْحٍ، ثُمَّ تَحَاوَرَا، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا: أَشْهَدُوا أَنِّي قَدْ قَبِلْتُ جَمَلِي وَتَلَايَيْنَ دِرْهَمًا، فَسَكَتَ شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَرَاهُ لَوْ كَرِهَهُ لَأَنْكَرَهُ.

(۲۰۷۹۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دو آدمی حضرت شریح کے پاس آئے اور گفتگو شروع کی، ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ گواہی دیں کہ میں نے اپنا اونٹ اور تیس درہم قبول کر لیے، حضرت شریح خاموش رہے، میرے خیال میں اگر وہ اس معاملے کو ناپسند کرتے تو انکار فرمادیتے۔

(۲۰۷۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا اسْتَعْلَى الرَّجُلُ الْبَيْعَ.

(۲۰۷۹۶) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، جبکہ آدمی بیع کے بھاؤ بڑھائے۔

(۲۰۷۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُعَيْبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۷۹۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی ایک اونٹ خریدے اور پھر اسے کچھ دراہم کے ساتھ واپس کر دے۔

(۲۰۷۹۸) حَدَّثَنَا وَرِكَعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ ، ثُمَّ يَسْتَفْلِيهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيُرَدَّ مَعَهَا دِرَاهِمٌ .

(۲۰۷۹۸) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کسی چیز کو دراہم کے ساتھ واپس کرے۔

(۲۰۷۹۹) حَدَّثَنَا وَرِكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلَا بَأْسَ .

(۲۰۷۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس کی حالت بدل گئی تو ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔

(۴۹) فِي الْعَبْدِ بِالْعَبْدِينَ وَالْبُعِيرِ بِالْبُعِيرِينَ

ایک غلام کے بدلے دو غلام اور ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ

(۲۰۸۰۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ جَدِّهِ رِيَّاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْبُعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الْبُعِيرَيْنِ ، وَالتَّوْبُ خَيْرٌ مِنَ التَّوْبَيْنِ ، لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا يَبِيدُ إِنَّمَا الرَّبَا فِي النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا كَيْلَ وَوُزْنَ .

(۲۰۸۰۰) حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک غلام دو غلاموں سے بہتر ہے، ایک اونٹ دو اونٹوں سے بہتر ہے، ایک کپڑا دو کپڑوں سے بہتر ہے، فوری ادائیگی کے ساتھ ہونے میں کوئی حرج نہیں، سودا ادھار میں ہوتا ہے، کیلی اور وزنی چیزوں کے علاوہ میں۔

(۲۰۸۰۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أْبِعْرَةٍ بِالرَّوْبَدَةِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : إِذْهَبْ فَاَنْظُرْ ، فَإِنْ رَضِيتَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

(۲۰۸۰۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مقام ربذہ میں چار اونٹوں کے بدلے چار اونٹیاں خریدیں، پھر آپ نے اپنے بائع سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور دیکھو اگر تم راضی ہو جاؤ تو بیع لازم ہوگی۔

(۲۰۸۰۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَلِيٍّ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيْبِعُ بَعِيرًا بَبُعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : لَا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا يَبِيدُ .

(۲۰۸۰۲) حضرت عبد العزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن علی ابن حنفیہ سے کہا کہ کیا میں ایک اونٹ کو دو اونٹنیوں کے بدلے میں ایک مخصوص مدت تک کے لیے بیچ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں البتہ اگر فوری ادائیگی ہو تو ٹھیک ہے۔

(۲۰۸۰۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِائْتِنٍ لَا يَصْلُحُ، يَعْنِي نَسِينَةً. (ترمذی ۱۳۳۸۔ ابن ماجہ ۲۲۷۱)

(۲۰۸۰۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک حیوان کو دو کے بدلے بیچنا اکٹھا (ادھار کے ساتھ) درست نہیں۔

(۲۰۸۰۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٌ بِائْتِنٍ، يَعْنِي نَسِينَةً.

(۲۰۸۰۳) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جانور کو دو کے بدلے (ادھار کے ساتھ) بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۸۰۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: بَاعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَعِيرٍ بَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ: سَلِّمْ لِي بَعِيرِي حَتَّى آتِيكَ بِبَعِيرَيْكَ، فَقَالَ عَلِيُّ: لَا تَفَارِقُ يَدَيَّ خَطَامَهُ حَتَّى تَأْتِيَ بَعِيرِي.

(۲۰۸۰۵) حضرت یزید بن عبد اللہ بن قسیط فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے بدلے فروخت کیا۔ خریدنے والے نے کہا کہ آپ میرا اونٹ میرے حوالے کر دیں اور میں آپ کو آپ کے دو اونٹ لادیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ اس کی لگام کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تم میرے پاس میرے اونٹ نہیں لے آتے۔

(۲۰۸۰۶) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ.

(۲۰۸۰۶) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸۰۷) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ.

(۲۰۸۰۷) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸۰۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعْبِرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانَ بِطَيْلَسَانِينَ وَفِي مُسْتَقَّةٍ بِمُسْتَقَّتَيْنِ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ.

(۲۰۸۰۸) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی سے سوال کیا کہ ایک چادر کے بدلے دو چادریں اور ایک دست کی چیز کے بدلے دو دست والی چیز دینے کا کیا حکم ہے؟ حضرت شعبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، حضرت ابراہیم نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۸۰۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبْطِيَّةِ بِالْقُبْطِيَّتَيْنِ.

(۲۰۸۰۹) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک قبلی کپڑے کے بدلے دو قبلی کپڑے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحَلَّةِ بِالْحُلْتَيْنِ .

(۲۰۸۱۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جوڑے کے بدلے دو جوڑے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸۱۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ مَا لَا يُكْأَلُ ، وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا بِاِثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، أَوْ أَقْلًا ، أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ .

(۲۰۸۱۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا کیل اور وزن نہیں ہوتا اسے ایک کے بدلے دو یا تین، یا کم یا زیادہ فوری ادائیگی کے ساتھ لینے دینے میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۰۸۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسَاءً .

(۲۰۸۱۲) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کے بدلے ایک جانور فوری ادائیگی کے ساتھ لین دین کرنے میں کچھ حرج نہیں اور ادھار کے ساتھ کرنے میں کوئی خیر نہیں۔

(۲۰۸۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْبُعِيرُ بِالْبُعَيْرَيْنِ ؟ فَقَالَ : يَدًا بِيَدٍ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَكْرِهَهُ .

(۲۰۸۱۳) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ کیا ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے بدلے دینا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فوری ادائیگی کے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۸۱۴) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبُعِيرِ بِالْبُعَيْرَيْنِ نَسِينَةً .

(۲۰۸۱۴) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے بدلے ادھار کے ساتھ دینے میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۰۸۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ : مَا هَذِهِ النَّاقَةُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبُعَيْرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ ، قَالَ : فَتَعَمُّ إِذَنْ .

(۲۰۸۱۵) حضرت صنّاحِ احمسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک خوبصورت اونٹنی دیکھی اور فرمایا کہ یہ اونٹنی کیسے حاصل کی؟ اونٹنی کے مالک نے عرض کیا کہ میں نے دو اونٹوں کے بدلے حاصل کی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک ہے۔

(۲۰۸۱۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْبَحْسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً . (احمد ۱۲ - دارمی ۲۵۶۳)

(۲۰۸۱۶) حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کے بدلے جانور ادھار کے ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۸۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبُرَادِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِينَ ، وَلَا الشَّاةُ بِالشَّاتِينَ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ .

(۲۰۸۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور دوسرے جانوروں کے بدلے اور ایک کبری دوسرے کبریوں کے بدلے صرف نقد ادائیگی کے ساتھ ہی دینا درست ہے۔

(۲۰۸۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتِينَ إِلَى الْحَيَا ، يُعْنَى الْخِصْبَ ، فَكَّرَهُ ذَلِكَ .

(۲۰۸۱۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک کبری کے بدلے دو کبریاں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۸۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْفَرَسِ بِالْفَرَسِينَ وَالذَّائِيَةَ بِالذَّائِيَتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ .

(۲۰۸۱۹) حضرت سويد بن غفله رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑے کے بدلے دو گھوڑے اور ایک سواری کے بدلے دو سواریاں فوری ادائیگی کے ساتھ دینے میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۰۸۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنِ النَّوْبِ بِالنَّوْبِينَ نَيْسِنَةً ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ .

(۲۰۸۲۰) حضرت ابن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا ایک کپڑے کے بدلے دو کپڑے ادھار کے ساتھ دینا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد اسے مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۸۲۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ . (مسلم ۱۰۳۵- ابو داؤد ۲۹۹۰)

(۲۰۸۲۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو چار غلاموں کے بدلے خریدا۔

(۲۰۸۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ يَبْعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، مَنْ يَبْعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ .

(۲۰۸۲۲) حضرت ابو وازع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو آواز لگاتے سنا کہ مجھے کون ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ بیچے گا؟ مجھے کون دو اونٹیوں کے بدلے ایک اونٹی بیچے گا؟

(۲۰۸۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ .

(۲۰۸۲۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک انڈے کے بدلے دو انڈے اور ایک اخروٹ کے بدلے دو اخروٹ دینے میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۰۸۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ

بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۲۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک انڈے کے بدلے دو انڈے ایک اخروٹ کے بدلے دو اخروٹ دینے میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۰۸۲۵) حَدَّثَنَا مَلَاذِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زُفَرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فَنَهَانِي ، وَقَالَ : لَا ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۲۵) حضرت زفر بن یزید کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ایک مدت تک کے لئے ایک بکری کے بدلے دو بکریاں خریدنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا کہ یہ درست نہیں، البتہ اگر نقد ادائیگی کے ساتھ ہو تو درست ہے۔

(۵۰) الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَبِيعِ فَيَقُولُ إِنْ كَانَ بِنَسِينَةٍ فَبِكَذَا وَإِنْ كَانَ تَقْدًا فَبِكَذَا
ایک آدمی دوسرے آدمی سے کوئی چیز خریدے اور کہے: اگر ادھار کے ساتھ ہو تو اتنے کی اور اگر نقد

ہو تو اتنے کی، اس صورت کا کیا حکم ہے؟

(۲۰۸۲۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسَّلْعَةِ : هِيَ بِنَقْدٍ بَكَذَا ، وَبِنَسِينَةٍ بَكَذَا ، وَلَكِنْ لَا يَقْتَرِفَ إِلَّا عَنْ رِضَا.

(۲۰۸۲۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر بیچنے والا سامان کے بارے میں یوں کہے کہ یہ نقد اتنے کا اور ادھار اتنے کا ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں، البتہ جدائی کے وقت رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔

(۲۰۸۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : صَفَقْتَانِ فِي صَفَقَةٍ رِبَاً ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِينَةٍ فَبِكَذَا.

(۲۰۸۲۷) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک معاملے میں دو معاملے سود میں، البتہ اگر آدمی یوں کہے کہ نقد اتنے کی اور ادھار اتنے کی تو یہ درست ہے۔

(۲۰۸۲۸) قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ.

(۲۰۸۲۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۸۲۹) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَمَ الرَّجُلُ بِالسَّلْعَةِ يَقُولُ : هِيَ بِنَقْدٍ بَكَذَا ، وَبِنَسِينَةٍ بَكَذَا.

(۲۰۸۲۹) حضرت محمد اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آدمی سامان کے بارے میں یوں کہے کہ نقد اتنے کا اور ادھار اتنے کا۔

(۲۰۸۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحْرِيهُمَا الصَّفَقَةَ .

(۲۰۸۳۰) حضرت سعید بن مسیب نے ایسی دو بیعات کرنے سے منع کیا ہے جو ایک معاملے پر مشتمل ہوں۔

(۲۰۸۳۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ .

(۲۰۸۳۱) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر دو قسموں میں سے ایک کو لے تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸۳۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الثُّوبُ بِالنَّقْدِ بَكْدًا ، وَبِالنِّسْيَةِ بَكْدًا ، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا .

(۲۰۸۳۲) حضرت طاوس اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کچھ حرج نہیں کہ آدمی یوں کہے کہ یہ کپڑا نقد اتنے کا اور ادھار اتنے کا ہے اور ان دونوں میں سے ایک معاملے کو قائم رکھے۔

(۲۰۸۳۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي هَذَا ، اشْتَرِيهِ بِالنِّسْيَةِ ، قَالَ : إِذَا تَنَارَكَ الْبَيْعُ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ .

(۲۰۸۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدے اور پھر کہے کہ میرے پاس اس کی قیمت نقد نہیں، میں اس کو ادھار پر خریدتا ہوں پھر اگر وہ دونوں پہلی بیع کو ختم کر دیں تو وہ چاہے تو ادھار کے ساتھ خرید سکتا ہے۔

(۲۰۸۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا ، أَوْ الرِّبَا . (ترمذی ۱۲۳۱۔ ابو داؤد ۳۴۵۵)

(۲۰۸۳۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بیع میں دو بیعات کیں اس کے لئے ان دونوں میں سے کم مالیت والی ہے وگرنہ وہ سود ہوگا۔

(۲۰۸۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ بَجَارَةَ نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ .

(۲۰۸۳۵) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب تجارتی قافلہ بھیجتے تو انہیں ایک بیع میں دو شرطیں لگانے سے منع فرماتے تھے۔

(۲۰۸۳۶) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ يَنْقُدُ فَبَكْدًا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبَكْدًا ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا قَالَ : شُعْبَةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُعِيرَةَ فَقَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا .

(۲۰۸۳۶) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص چیز خریدتے ہوئے کہے کہ

نقد اتنے کی اور ادھار اتنے کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے بایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جب اس نے جدائی سے پہلے ایک معاملے کو اختیار کر لیا، حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت مغیرہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ دونوں میں سے ایک بات پر راضی ہو کر جدا ہوں تو حضرت ابراہیم بھی اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۵۱) فِی بَیْعِ الْوَلَاءِ وَهَيْتِهِ

ولاء کی بیع اور اس کو ہبہ کرنے کا بیان

(۲۰۸۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هَيْتِهِ. (بخاری ۲۵۳۵۔ مسلم ۱۱۳۵)

(۲۰۸۳۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ولاء کی بیع اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۸۳۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْوَلَاءُ لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۳۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ولاء کو نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲۰۸۳۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ ابِرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَفَبِيعِ الرَّجُلُ نَسَبَهُ.

(۲۰۸۳۹) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولاء نسب کی طرح ہے، کیا آدمی اپنے نسب کو بیچ سکتا ہے؟

(۲۰۸۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، أَفَرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ.

(۲۰۸۴۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولاء حلف کی طرح ہے، اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے، اسے وہیں رکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا ہے۔

(۲۰۸۴۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْغَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۴۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولاء رحم کی طرح ہے، اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲۰۸۴۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۴۲) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ولاء نسب کی طرح ہے، اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲۰۸۴۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مُسْكِينٍ، عَنْ ابِرَاهِيمَ، قَالَ: الْوَلَاءُ لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولاء نسب کی طرح ہے، اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲۰۸۴۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: لَا يَبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوْهَبُ، وَلَا يَتَّصَدَّقُ بِهِ. (۲۰۸۴۳) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ ولاء کو نہ بیچا جاسکتا ہے، نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے صدقہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲۰۸۴۵) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِحُمَةِ النَّسَبِ لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ.

(۲۰۸۴۵) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ولاء نسب کی ایک قسم ہے، اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲۰۸۴۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مَّكَاتِهِ وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِنْفًا. (۲۰۸۴۶) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب ولاء مکاتبت کی وجہ سے ہو تو اسے بیچنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر حقیق کی وجہ سے ہو تو مکروہ ہے۔

(۲۰۸۴۷) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: الْوَلَاءُ لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ. (۲۰۸۴۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ولاء کو نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲۰۸۴۸) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ. (۲۰۸۴۸) حضرت سويد بن غفلة فرماتے ہیں کہ ولاء نسب کی طرح ہے، اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۵۲) من رخص في هبة الولاء

جن حضرات کے نزدیک ولاء کو ہبہ کرنے کی اجازت ہے

(۲۰۸۴۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرُو، قَالَ: وَهَبْتُ مَيْمُونَةَ وَوَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ لَابْنِ عَبَّاسٍ. (۲۰۸۴۹) حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت ميمونہ بنی ہاشم نے حضرت سليمان بن يسار کی ولاء حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہبہ کر دی تھی۔

(۲۰۸۵۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَأَنْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالِيَ غَيْرَهُ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتَقُ.

(۲۰۸۵۰) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو آزاد کرے تو وہ کسی اور سے ولاء کا تعلق قائم کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا، البتہ اگر آزاد کرنے والا اس ولاء کو ہبہ کر دے تو ٹھیک ہے۔

(۲۰۸۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَاضِرِ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتْ وَخَاصَمَ الْمُوَالِي إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا عُثْمَانُ بِالْبَيْتَةِ عَلَى مَا قَالَ : فَاتَاهُ بِالْبَيْتَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ، فَوَالِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ .

(۲۰۸۵۱) حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کی ولاء اسی کو بہہ کر دی اور اسے آزاد کر دیا تو غلام نے خود کو آزاد کر دیا اور خود کو عبد الرحمن بن عمرو بن حزم کے لئے بہہ کر دیا، پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے موالی اس مقدمہ کو لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی بات پر گواہی طلب کی وہ گواہی لے آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم جاؤ اور جس سے چاہو رشتہ ولاء قائم کر لو، پھر اس نے عبد الرحمن بن عمرو بن حزم سے رشتہ ولاء قائم کر لیا۔

(۲۰۸۵۲) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِيَ . (۲۰۸۵۲) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ولاء سائبہ (ایسی ولاء جس میں آقا اپنے غلام سے کہے جاتے تھے پر کسی کی ولاء نہیں) اور اس کے بہہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِرِزْوَجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِرِزْوَجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ . (۲۰۸۵۳) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلاموں کی ولاء اپنے خاوند کے لئے بہہ کر دی، حضرت ہشام بن ہبیرہ کہتے ہیں کہ میں اس ولاء کو اس وقت تک اس کے خاوند کے لئے درست سمجھتا ہوں جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مر جائے تو یہ ولاء عورت کے ورثہ کی طرف لوٹ آئے گی۔

(۵۲) فِي السَّلْفِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ فِي أَيْدِي النَّاسِ

اس چیز کے اندر بیع سلف کا بیان جو لوگوں کے پاس نہ ہو

(۲۰۸۵۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَكْرَهُ السَّلْفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ . (۲۰۸۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس چیز میں بیع سلف کو مکروہ قرار دیتے تھے جس کی اصل لوگوں کے پاس

موجود نہ ہو۔

(۲۰۸۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَمْرٍو إِذَا سِيلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، قَالَ يَحْيَى : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُهُ .

۲۰۸۵۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا جاتا کہ ایک آدمی کسی آدمی سے ایک مدت تک کسی بزرگ معاملہ کرتا ہے حالانکہ لوگوں کے پاس اس کی اصل موجود نہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ فرماتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، حضرت نے فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب اس کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۸۵۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلْفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، قَالَ أَيُّوبُ : وَنَبِئْتُ عَنْ طَاوُوسٍ مِثْلَ ذَلِكَ .

۲۰۸۵۶) حضرت عمرؓ صرف اس چیز میں بیع سلف کو جائز قرار دیتے تھے جس کی اصل موجود نہ ہو ورنہ مکروہ سمجھتے تھے، حضرت نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت طاووس کے حوالے سے بھی یہی بتایا گیا ہے۔

(۲۰۸۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلْفِ إِلَّا أَجَلَ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ : وَكَانَ مُحْتَمًّا يَكْرَهُ السَّلْفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ .

۲۰۸۵۷) حضرت حسن معلوم مدت میں بیع سلف کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے خواہ اس کی اصل اس کے پاس نہ ہو، حضرت محمدؓ صرف اس چیز میں بیع سلف کو درست سمجھتے تھے جس کی اصل بائع کے پاس موجود ہو۔

(۲۰۸۵۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُسَلَّمُ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَمِنهُ شَيْءٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ .

۲۰۸۵۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ بیع سلم صرف اس چیز میں کی جاسکتی ہے جس کی نظیر لوگوں کے پاس موجود ہو۔

(۵۴) فِي الْأَجِيرِ يَضْمَنُ أَمْ لَا ؟

اجیر (کرائے پر کام کرنے والا) نقصان کی صورت میں ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟

(۲۰۸۵۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ عَلِيًّا وَشَرِيحًا كَانَا يُضْمَنَانِ الْأَجِيرَ .

۲۰۸۵۹) حضرت علیؓ اور حضرت شریحؓ اجیر کو ضامن قرار دیتے تھے۔

(۲۰۸۶۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا .

۲۰۸۶۰) حضرت علیؓ نے بڑھئی کو ضامن قرار دیا۔

(۲۰۸۶۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،

قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَجْرًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ .

۲۰۸۶۱) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جس نے مزدوری لی وہ ضامن ہے۔

(۲۰۸۶۲) حَدَّثَنَا عَبَادُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ .

(۲۰۸۶۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۸۶۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الْأَجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتَوْدَعَ .

(۲۰۸۶۳) حضرت عبداللہ بن عقبہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اجیر کو اس کی اجرت کی ضمانت دی جائے گی اور وہ اپنے پاس موجود چیز کا بھی ضامن ہوگا۔

(۲۰۸۶۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ .

(۲۰۸۶۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اجیر مشترک نے کوئی چیز لی تو وہ ضامن ہوگا۔

(۲۰۸۶۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ اسْتَأْجَرَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ ، قَالَ الْحَكَمُ : يَضْمَنُ .

(۲۰۸۶۵) حضرت عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ جب اس نے کوئی چیز خریدی تو وہ اس سے اجر لے گا جس نے کام کرایا ہے اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا۔

(۲۰۸۶۶) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ وَكَيْعٍ .

(۲۰۸۶۶) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۰۸۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ السَّامِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُضْمَنُ الْأَجِيرَ إِلَّا مِنْ تَضْيِيعٍ .

(۲۰۸۶۷) حضرت محمد صرف نقصان کی صورت میں اجیر کو ضامن قرار دیتے تھے۔

(۲۰۸۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجْرًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ عَدْوٍ مُكَايِبٍ ، أَوْ أَجِيرٍ يَدُهُ مَعَ يَدِكَ .

(۲۰۸۶۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہر وہ اجیر جو اجرت لے وہ ضامن ہے، البتہ دشمن اور وہ اجیر ضامن نہیں جس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ہے۔

(۲۰۸۶۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمَشَاهِرَةِ ضَمَانٌ .

(۲۰۸۶۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مشاہرہ والے اجیر پر ضمان لازم نہیں۔

(۲۰۸۷۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُضْمَنُ الْمَلَّاحَ غَرَقًا ، وَلَا حَرَقًا .

(۲۰۸۷۰) حضرت شریح کو کشتی کے ڈوب جانے یا چل جانے کی صورت میں ضامن قرار نہیں دیتے تھے۔

(۲۰۸۷۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ

بِضْمَنِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرِكِ.

(۲۰۸۷) حضرت علی رضی اللہ عنہما اجیر مشترک کو ضامن قرار دیتے تھے۔

(۲۰۸۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارِ ، قَالَ : اسْتَأْجَرْتُ حَمَلًا لِأَحْمَدَ لِي شَيْئًا فَكَسَرَهُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَأْجَرْتُكَ لِتُبَلِّغَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتَكْسِرَهُ .

(۲۰۸۷) حضرت ابو ہیشم عطاری کہتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کو کرائے پر لیا کہ وہ میرا بوجھ اٹھائے، اس نے میرا سامان توڑ دیا، اس کا مقدمہ لے کر حضرت شریح کی عدالت میں گیا تو انہوں نے اسے ضامن قرار دیا اور فرمایا کہ انہوں نے تمہیں اس لئے پر لیا تھا تا کہ تم سامان پہنچاؤ اس لئے نہیں لیا تھا کہ تم اسے توڑ دو۔

(۲۰۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ زُهَيْرِ الْعَنْسِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَأْجَرْتُكَ لِتُصَلِّحَ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتُفْسِدَ .

(۲۰۸۷) حضرت زہیر غسانی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اونٹ پر کام کرنے کے لئے کرائے پر لیا، اس نے اونٹ کو مارا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دی، وہ آدمی اس کا مقدمہ لے کر حضرت شریح کی عدالت میں گیا تو حضرت شریح نے اسے ضامن قرار دیا فرمایا کہ تمہیں کام سنوارنے کے لئے اس نے مزدوری پر رکھا تھا کام بگاڑنے کے لئے نہیں رکھا تھا!

(۵۵) فِي الرَّجُلِ يَسَاوِمِ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ

ایسی چیز کا معاملہ کرنا جو آدمی کے پاس موجود نہ ہو

(۲۰۸۸) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أْبِيعُهُ مِنْهُ ، أَيْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا ، لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . (ترمذی ۱۲۳۳۔ ابوداؤد ۳۲۹۷)

(۲۰۸۷) حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور سے اس چیز کی بیع کا سوال کرتا ہے جو میرے پاس موجود نہیں ہے، کیا میں اس سے معاملہ کر کے وہ چیز بازار سے لے کر اسے بیچوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، اس چیز کو نہ بیچو جو تمہارے پاس نہ ہو۔

(۲۰۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ حَنَافٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَسْرُوقٍ : يَا تَبْنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مَنِي السَّمْنِ وَلَيْسَ عِنْدِي اشْتَرِيهِ ، ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ اشْتَرِهِ فَضَعُهُ عِنْدَكَ ، فَإِذَا جَاءَكَ فَبِعَهُ مِنْهُ .

(۲۰۸۷) حضرت ابو رزین کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے گھی اور تیل چاہئے، یہ چیزیں

میرے پاس نہیں ہوتیں، کیا میں اس سے معاملہ کر کے منگوا سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ان چیزوں کو خرید کر اپنے پاس رکھو، پھر جب وہ آئے تو اسے بیچ دو۔

(۲۰۸۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَّاس ، أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُكْرَهُ ذَلِكَ وَقَالَ عَامِرٌ : لَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ .

(۲۰۸۷۶) حضرت عبدالملک بن ایاس فرماتے ہیں کہ حضرت عامر اور حضرت ابراہیم ایک جگہ جمع ہوئے، ان دونوں سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے سامان کا مطالبہ کرے، وہ سامان اس کے پاس نہ ہو تو کیا وہ اس سے معاملہ کر کے ان چیزوں کو منگوا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس معاملہ کو مکروہ قرار دیا، جبکہ حضرت عامر نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ بعد میں معاملہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔

(۲۰۸۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَوَاطَا عَلَى الثَّمَنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : لَا يَشْتَرِيهِ إِلَّا عَلَى غِي مَوَاطَاةٍ مِنْ صَاحِبِهِ .

(۲۰۸۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے کوئی ایسی چیز خریدنا چاہے جو اس کے پاس معلوم نہ ہو، وہ دونوں شمن پر اتفاق کر لیں تو کیا وہ اس کو خرید کر دے سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ دوسرے سے معاہدہ مکمل کرنے سے پہلے اسے خرید

(۲۰۸۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمَرَاوِضَةِ : تَوَاصَفَ الرَّجُلُ بِالسُّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ ، وَكَرِهَ : الرَّجُلُ أَنْ يَرَى لِلرَّجُلِ الثَّوْبَ لَيْسَ لَهُ فَيَقُولَ مِنْ حَاجَتِنَا هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ لِيَبْعَهُ مِنْهُ .

(۲۰۸۷۸) حضرت سعید بن مسیب بیع مرواضہ کو مکروہ قرار دیتے تھے، جس کی صورت یہ ہوتی کہ آدمی ایسی چیز کا معاملہ کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، انہوں نے اس بات کو بھی مکروہ قرار دیا کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس کپڑا دیکھے اور اس سے پوچھے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے؟ پھر اس سے اس لئے خریدے تاکہ اسے بیچ دے۔

(۲۰۸۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُ مَنِي بِالْحَبْرِ لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : فَأَتَى السُّوقَ ، ثُمَّ أْبَيْعَهُ ، قَالَ : هَذِهِ الْمَوَاصِفَةُ فَكَّرِهَا .

(۲۰۸۷۹) حضرت حکم بن ابی فضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ایسے ریشم کا معاملہ کرتا ہے جو میرے پاس موجود نہیں، پھر میں بازار سے خرید کر اسے فروخت کرتا ہوں کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مواصفہ ہے اور انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۸۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، بَعْدَ

عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَا : مَا كَانَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۲۰۸۸۰) حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے غلہ خریدا، کچھ بائع کے پاس تھا اور کچھ نہیں تھا، اس نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو اس کے پاس تھا اس میں بیع جائز ہے اور جو اس کے پاس نہیں تھا اس کی بیع جائز نہیں ہے۔

(۵۶) فِي بَيْعِ الْغُرَرِ وَالْعَبِيدِ الْآبِقِ

غیر موجود چیزوں اور بھاگے ہوئے غلام کی بیع کا بیان

(۲۰۸۸۱) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْصَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبِيدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ .

(۲۰۸۸۱) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے پیٹ میں موجود بچوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا جب تک وہ پیدا نہ ہو جائیں، اسی طرح تھنوں میں موجود دودھ کی خرید و فروخت سے منع فرمایا جب تک اسے نکال کر ماپ نہ لیا جائے، بھاگے ہوئے غلام کی بیع سے، اور مال غنیمت کی بیع سے جب تک انہیں تقسیم نہ کر دیا جائے، زکوٰۃ میں آنے والی چیزوں کی خریدنے سے جب تک ان پر قبضہ نہ کر لیا جائے اور سمندر میں غوطہ لگانے والے سے یہ معاملہ کرنے سے بھی منع کیا کہ وہ سمندر میں غوطہ لگائے گا اور جو کچھ ملے گا وہ مشتری کو دے دے گا۔

(۲۰۸۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضَّرُوعِ .

(۲۰۸۸۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اون جب تک جانور کے جسم پر ہو اور دودھ جب تک تھنوں میں ہو بیچنا جائز نہیں۔

(۲۰۸۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَا تَشْتَرِي الْغُرَرَ مِنَ الدَّائِيَةِ الضَّالَّةِ ، وَلَا الْعَبِيدِ الْآبِقِ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ لَا تَجِدُهُمَا أَبَدًا ، وَيُؤْكَلُ رَأْسُ مَالِكٍ بَاطِلًا .

(۲۰۸۸۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ تم گم شدہ سواری اور بھاگے ہوئے غلام کو جب تک مل نہ جائے مت بیچو۔ کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ نہ ملیں اور تمہارا مال ضائع ہو جائے۔

(۲۰۸۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ . (مسلم ۱۱۵۳- ابوداؤد ۳۳۶۹)

(۲۰۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر موجود چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۸۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سنانِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَ عَبْدِ آبِقًا قَرْدًا الْبَيْعِ .

(۲۰۸۸۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے بھاگا ہوا غلام خرید لیا تو حضرت سنان بن سلمہ نے اس بیع کو رد کیا۔

(۲۰۸۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ . (احمد ۱۴۴- ابن حبان ۳۹۷۲)

(۲۰۸۸۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر موجود چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۸۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ .

(۲۰۸۸۷) حضرت شعیبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر موجود چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۸۸۸) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْغُرُورِ . حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف غیر موجود چیز کی بیع کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

(۲۰۸۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمَشْتَرِي مَا يَعْلَمُ الْمَشْتَرِي .

(۲۰۸۸۹) حضرت ابن سیرین اور حضرت شعیبی فرماتے ہیں کہ غیر موجود چیز کی بیع اس وقت تک درست نہیں جب تک بیع ہارے میں بائع اور مشتری کا علم برابر نہ ہو جائے۔

(۲۰۸۹۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ شُرَيْحًا فَقَالَ : إِنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَ يُسَاوِينِي بِهِ فَابَيْعُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَانْتَ بِالْحَيَارِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَجَزْتَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شِئْتَ تَجْزُهُ .

(۲۰۸۹۰) حضرت شعیبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت شریح کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ میرا ایک غلام بھاگا گیا اور ایک آدمی مجھ سے اس کا بھاؤ کر رہا ہے کیا میں اسے بیچ دوں، انہوں نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن جب تم اسے دیکھیں تو یہ اختیار ہے کہ چاہو تو بیچ کو درست قرار دو اور چاہو تو اسے درست قرار نہ دو۔

(۲۰۸۹۱) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَارَ بَيْعِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ. (۲۰۸۹۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جب اس چیز کے بارے میں وہ ایسی سب باتیں جان لے جو تم جانتے ہو تو بیع درست ہے اور اسے اختیار نہ ہوگا۔

(۲۰۸۹۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا أَبَقًا وَجَدَهُ، أَوْ لَمْ يَجِدْهُ، فَكْرِهَهُ، وَقَالَ: هُوَ عَرَّزٌ.

(۲۰۸۹۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی بھگا ہوا غلام خرید لیا کہ اسے ملے یا نہ ملے، یہ بیع کرنا مکروہ ہے اور یہ فر ہے۔

(۲۰۸۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ بَيْعَ الْعَرَرِ بَأْسًا.

(۲۰۸۹۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے غیر موجود چیز کی بیع میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔

(۲۰۸۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ.

(۲۰۸۹۴) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بھگا ہوا اونٹ خریدا تھا۔

(۲۰۸۹۵) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَاهَا وَيَقُولُ: إِنْ كَانَتْ صَاحِبَةً فَهِيَ لِي.

(۲۰۸۹۵) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی غائب سواری کو خریدا اور اسے پہلے دیکھ رکھا تھا اور اس بات پر خریدا کہ اگر وہ ٹھیک ہوئی تو میری ہے تو اس بیع میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا

بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبَيْنَ عُثْمَانَ بَيْعًا، حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ، فَاشْتَرَى عَبْدُ

الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ الصَّفْقَةُ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حَيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ

إِلَى الرَّاعِي لَيْسَتْ بِصَالَةٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، ثُمَّ جَاوَزَ شَيْئًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا صَنَعْتُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ

فَقَالَ: أَرَيْدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ عَلَى إِنْ أَدْرَكَتْهَا الرَّسُولُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَعَلَيْ، فَأَدْرَكَتْهَا الرَّسُولُ وَقَدْ نَفَقْتُ، فَخَرَجَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ الصَّمَانِ بِالشَّرْطِ الْآخِرِ.

(۲۰۸۹۶) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کاش ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن

عثمان رضی اللہ عنہما کے درمیان ہونے والی بیع کو دیکھ لیں تاکہ ہم جان لیں کہ تجارت میں ان دونوں میں سے کون زیادہ محنت کرنے والا

ہے، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے چالیس ہزار درہم کے بدلے کچھ گھوڑے خریدے اور شرط لگائی

کہ جب معاملہ پورا ہو تو سب گھوڑے زندہ ہوں، چرواہے کے پاس جمع ہوں اور گم نہ ہوں، پس جب بیع کا معاملہ طے ہو گیا اور

حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ تھوڑا آگے بڑھے تو دل میں خود سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف واپس گئے اور اسے کہا کہ میں تمہارے لئے چھ ہزار زیادہ کر دوں گا اگر قاصدان کو زندہ ہونے کی حالت میں پہنچادے، پس جب قاصدان کو کرا آیا تو ان میں کچھ مر گئے تھے، اس طرح حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ دوسری شرط کے ساتھ ضمان سے نکل گئے۔

(۲۰۸۹۷) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْغُرُورِ كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءً .

(۲۰۸۹۷) حضرت شریح غیر موجود چیز کی بیع کو درست سمجھتے تھے اگر دونوں کا علم برابر ہو۔

(۲۰۸۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ (عبدالرزاق ۶۰۷)

(۲۰۸۹۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر موجود چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۸۹۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ .

(۲۰۸۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر موجود چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

(۵۷) فِي الرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَطَأَ مَدْبَرَتَهُ

کیا آقا اپنی مدبرہ باندی سے جماع کر سکتا ہے؟

(۲۰۹۰۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : أَلَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مَدْبَرَتَهُ ؟ فَقَالَ : بَلَى ، وَأَبْنُ عَبَّاسٍ .

(۲۰۹۰۰) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی مدبرہ باندی سے جماع کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی کرتے تھے۔

(۲۰۹۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا .

(۲۰۹۰۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنی باندی کو مدبرہ بنا دے تو اس سے وطی کر سکتا ہے۔

(۲۰۹۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَطَأَهَا .

(۲۰۹۰۲) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی مدبرہ باندی سے وطی کر سکتا ہے۔

(۲۰۹۰۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مَدْبَرَتَهُ .

(۲۰۹۰۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی سے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۰۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ : لَمْ يَرِ بِأَسَا أَنْ تُوْطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ ذُبُرٍ .

(۲۰۹۰۳) حضرت عطاء اور حضرت طاوس مدبرہ باندی سے وطی کرنے کو درست سمجھتے تھے۔

(۲۰۹۰۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بِأَسَا أَنْ يُعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ ، عَنْ ذُبُرٍ ، ثُمَّ يَطَّأَهَا .

(۲۰۹۰۵) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین مدبرہ باندی سے وطی کرنے کو درست سمجھتے تھے۔

(۲۰۹۰۶) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ .

(۲۰۹۰۶) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی سے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۰۷) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا .

(۲۰۹۰۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی سے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَشَى الرَّجُلُ أُمَّتَهُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ ذُبُرٍ .

(۲۰۹۰۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی سے وطی کرنا مکروہ ہے۔

(۲۰۹۰۹) حَدَّثَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ؟ فَقَالَ : هِيَ عِنْدِي ، الْآنَ .

(۲۰۹۰۹) حضرت عثمان بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبد اللہ سے سوال کیا کہ کیا آدمی اپنی مدبرہ باندی سے وطی کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت میرے پاس ہے۔

(۵۸) فِي الْمِرَاقَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فِيمَوْتٍ وَعَلَيْهِ دِينَ

اگر ایک عورت کا مہر اس کے خاوند پر لازم ہو اور وہ مر جائے، جبکہ اس پر کچھ قرضہ

بھی ہو تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۹۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا تَوَفَّى الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ ، فَهِيَ أَسْوَأُ الْعُرْمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ ، أَوْ قَمْحٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَاءُ لَيْتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ .

(۲۰۹۱۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس پر اس کی بیوی کا مہر لازم ہو تو وہ عورت بھی قرض

خواہ ہوں میں سے ایک ہوگی، اگر اس آدمی کے گھر میں تیل یا گندم وغیرہ ہوں تو وہ ورثہ کے لئے ہوں گے اور اگر کوئی چیز اس نے حالتِ صحت میں اپنی منکوہ بیوی کے لئے مقرر کر دی ہو تو ٹھیک ہے۔

(۲۰۹۱۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زَيْنَادٍ وَعَمْرٍو بْنِ مَهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوَلَاةِ فِي الَّذِينَ وَمُهَوِّرِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أَسْوَةٌ الْفِرْعَوَاءِ .

(۲۰۹۱۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرض اور بیویوں کے مہر کے بارے میں گورنروں کو خط میں لکھا کہ بیویوں کا مہر بھی قرض کی طرح دیا جائے گا۔

(۵۹) فِي النَّفْرِ يَكْتَبُونَ جَمِيعًا فِيمَا بَعْضُهُمْ

اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکاتب بنایا جائے اور ان میں سے کچھ مرجائیں تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۹۱۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّفْرِ يَكْتَبُونَ جَمِيعًا فِيمَا بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا .

(۲۰۹۱۲) حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکاتب بنایا جائے اور ان میں سے کچھ مرجائیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ باقی غلام مل کر بدل کتابت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔

(۲۰۹۱۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ : مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِكُهُ جَمِيعًا فِيمَا بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ .

(۲۰۹۱۳) حضرت حفص بن غیاث سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ حضرت حسن کی کیا رائے تھی کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکاتب بنایا جائے اور ان میں سے کچھ مرجائیں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سے ان کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔

(۲۰۹۱۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ : يَرْفَعُ عَنْهُ بِالْحِصَّةِ .

(۲۰۹۱۴) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے دو غلاموں کو مکاتب بنایا اور پھر ان میں سے ایک مر گیا تو اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔

(۲۰۹۱۵) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكْتَبُ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فِيمَا بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَرْفَعُ بِالْحِصَّةِ .

(۲۰۹۱۵) حضرت حکم سے سوال کیا گیا کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکاتب بنایا جائے اور ان میں سے کچھ مرجائیں تو کیا حکم

ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔

(۶۰) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيْتَةَ أَتَاهَا

ایک آدمی کوئی باندی خریدے اور اس باندی سے اس کی اولاد بھی ہو اور پھر کوئی آدمی اس بات پر

گواہی قائم کر دے کہ یہ باندی اس کی ہے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۹۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ
أَوْلَادًا ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيْتَةَ أَتَاهَا لَهُ ، قَالَ : تَرُدُّ عَلَيْهِ وَيَقُومُ عَلَيْهِ وَكَدَهَا فَيَعْتَرِمُ الَّذِي بَاعَهَا بِمَا عَزَّ وَهَانَ .

(۲۰۹۱۶) حضرت علیؓ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کوئی باندی خریدے اور اس باندی سے اس کی اولاد بھی ہو اور پھر کوئی آدمی اس بات پر گواہی قائم کر دے کہ یہ باندی اس کی ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ باندی اس کو واپس کی جائے گی، باندی کے بچے کی قیمت لگائی جائے گی اور باندی کو بیچنے والے سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔

(۲۰۹۱۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدْ وُلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ :
يَأْخُذُهَا وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَالِدِ مِنْ أَبِيهِمْ وَيُهْضَمُ عَنْهُمْ مِنَ الْقِيمَةِ شَيْءٌ .

(۲۰۹۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی باندی کو کسی آدمی کے پاس دیکھا کہ اس آدمی نے اس کی باندی کو خرید اور اس سے اس آدمی کی اولاد ہوئی تو وہ باندی کو لے لے گا اور اولاد کے باپ سے اولاد کی قیمت لے گا۔

(۲۰۹۱۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : مَكَانَ كُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةٌ قَدْ
حَلَبًا وَصْرًا .

(۲۰۹۱۸) حضرت ميسره فرماتے ہیں کہ ہر خادم کے بدلے ایک خادم ہے۔

(۲۰۹۱۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَكَانَ كُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ .

(۲۰۹۱۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہر خادم کے بدلے ایک خادم ہے۔

(۲۰۹۲۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَتَى يَقُومُ الْوَالِدُ؟ قَالَ : يَوْمَ وُلِدُوا .

(۲۰۹۲۰) حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا کہ لڑکے کی قیمت کب سے لگائی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن وہ پیدا ہوا۔

(۶۱) فِي الْعَارِيَةِ مَنْ كَانَ لَا يَضْمَنُهَا وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُ

عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضمان

(۲۰۹۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ

ضَمَّنِ الْعَارِيَةَ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا.

(۲۰۹۲۱) حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے ایک خط میں لکھا کہ عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضمان دلو اور اگر چیز کا مالک چاہے۔

(۲۰۹۲۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ حَلِيًّا لِعُرْسٍ فَهَلَّكَ الْحَلِيُّ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْتَهُ غَائِلَةً .

(۲۰۹۲۲) حضرت سوادہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے نام خط لکھا کہ ایک عورت نے شادی کے لئے کسی سے زیور مانگا، پھر وہ زیور ضائع ہو گیا۔ اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر عورت نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی تو ضمان نہیں ہے۔

(۲۰۹۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ يَضْمَنُ الْعَارِيَةَ .

(۲۰۹۲۳) حضرت عمر بن عبد العزیز عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضمان مقرر کرتے تھے۔

(۲۰۹۲۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ حَسَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي الْعَارِيَةِ : هُوَ مُؤْتَمَنٌ .

(۲۰۹۲۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ امانت ہے۔

(۲۰۹۲۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، قَالَ : اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ خَوَاتِيمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَوْضَأَ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا فَضَاعَتْ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى سُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَعَارَتْ لِتَرُدَّهَا فَخَالَفَتْ ، فَضَمَّنَهَا سُرَيْحٌ .

(۲۰۹۲۵) حضرت شباک فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی سے انگوٹھیاں استعمال کے لئے حاصل کیں، ایک دن وہ وضو کرنے لگی تو اس نے انگوٹھیاں اپنی گود میں رکھ دیں، انگوٹھیاں کہیں گر گئیں، یہ مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوا، ان سے کہا گیا کہ یہ انگوٹھیاں اس نے عاریہ کے طور پر لی تھیں تاکہ واپس کرے، اب اس نے معاہدے کی مخالفت کی ہے، حضرت شریح نے اس کا ضمان مقرر کیا۔

(۲۰۹۲۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِىِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالَفَا .

(۲۰۹۲۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کرایہ پر چیز لینے والے اور مانگ کر لینے والے پر ضمان نہیں ہے، لیکن اگر معاملے کی مخالفت کریں تو پھر ہے۔

(۲۰۹۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَضْمَنَانِ الْمُسْتَعِيرَ .

(۲۰۹۲۷) حضرت حکم اور حضرت حماد عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضمان مقرر نہیں کرتے تھے۔

(۲۰۹۲۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَةِ ضَمِنَ .

(۲۰۹۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب صاحبِ عاریہ نے معاہدے کی مخالفت کی تو ضامن ہوگا۔

(۲۰۹۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ .

(۲۰۹۲۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضامن ہوتا ہے۔

(۲۰۹۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضْمَنُ الْعَارِيَةَ ، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إِذَا تَبِعَهَا صَاحِبُهَا .

(۲۰۹۳۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضامن مقرر کرتے تھے اور ابن جریج کے مطابق جب مالک تقاضا کرے۔

(۲۰۹۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْعَارِيَةُ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ ، وَلَا مَضْمُونَةٌ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلَّا أَنْ يُخَالَفَ فَيُضْمَنُ .

(۲۰۹۳۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاریہ نہ تو بیع ہے نہ اس کا ضامن ہوتا ہے، یہ ایک نیکی ہے البتہ اگر استعمال کرنے والا معاہدہ کی مخالفت کرے تو ضامن ہوگا۔

(۲۰۹۳۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَرُكُضُ فَرَسَهُ .

(۲۰۹۳۲) حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے گھوڑا عاریہ پر لیا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا مر گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی گھوڑے کو ایڑ لگایا کرتا ہے۔

(۲۰۹۳۳) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضْمَنُ الْعَارِيَةَ .

(۲۰۹۳۳) حضرت مسروق عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضامن مقرر کرتے تھے۔

(۲۰۹۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مَبَارَكِ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ضَمِنَ .

(۲۰۹۳۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جانور مانگ کر کرایہ پردے دیا تو ضامن ہوگا۔

(۲۰۹۳۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّ صَفْوَانَ هَرَبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَنَهُ وَأَسْلَمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ حُنَيْنًا فَقَالَ : يَا صَفْوَانُ ، هَلْ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَةٌ أَمْ غَضَبًا ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ عَارِيَةٌ ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا ، وَعَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا ، فَلَمَّا هَزَمَ الْمُشْرِكِينَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ ، فَفَقِدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ يَا صَفْوَانَ ، إِنَّا فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَعْرَمُ لَكَ ؟ فَقَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ . (ابوداؤد ۳۵۵۸ - احمد ۳/۳۰۱)

(۲۰۹۳۵) حضرت عبد اللہ بن صفوان کی اولاد کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفوان رسول اللہ ﷺ کے پاس سے بھاگ گئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف آدمی بھیجا، انہیں امان دیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف جارہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے صفوان تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عاریہ کے طور پر چاہئے یا غصب کے طور پر، حضور ﷺ نے فرمایا کہ عاریہ کے طور پر، پس حضرت صفوان نے تیس زرہیں بطور عاریہ کے پیش کر دیں، رسول اللہ ﷺ نے جنین کی لڑائی لڑی، جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو حضرت صفوان کی زرہیں جمع کی گئیں، چند زرہیں کم تھیں، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے صفوان! ہم نے تمہاری کچھ زرہیں کھودی ہیں، کیا ہم آپ کے لئے ان کی متبادل زرہوں کا انتظام کر دیں؟ حضرت صفوان نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے رسول! جو چیز میرے دل میں آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔

(۲۰۹۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا صَمَنَ شُرَيْحٌ عَارِيَةً إِلَّا أَمْرًا اسْتَعَارَتْ خَاتَمًا فَوَضَعَتْهُ فِي مَفْسِلِهَا فَحَدَّثَتْ فَضَمَّنَهَا .

(۲۰۹۳۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضمان کبھی مقرر نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ایک عورت نے ایک انگوٹھی عاریہ پر لی، اسے غسل خانے میں رکھا تو وہ انگوٹھی کھو گئی، حضرت شریح نے اس کا ضمان لازم کیا۔

(۲۰۹۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضْمَنُ الْعَارِيَةَ . (۲۰۹۳۷) حضرت شریح عاریہ (مانگی ہوئی چیز) کا ضمان مقرر کرتے تھے۔

(۲۰۹۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُضْمَنُ الْعَارِيَةَ وَالْوَدِيعَةَ حَتَّى أَمْرَهُ زِيَادٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا زَالَ يُضْمَنُهَا حَتَّى مَاتَ .

(۲۰۹۳۸) حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت شریح عاریہ اور امانت کا ضمان لازم نہیں کرتے تھے، پھر انہیں زیاد نے ایسا کرنے کا حکم دیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت شعبی نے فرمایا کہ پھر وہ موت تک ضمان لازم ہونے کا فیصلہ کرتے رہے۔

(۲۰۹۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَاقْطَبَ الْبَعِيرُ فَسَأَلَ مَرُوانَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : يُضْمَنُ .

(۲۰۹۳۹) حضرت عبد الرحمن بن سائب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے اونٹ عاریہ پر لیا، وہ اونٹ ہلاک ہو گیا تو مروان نے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، انہوں نے اس پر ضمان کو لازم قرار دیا۔

(۲۰۹۴۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالذَّيْنُ مُؤَدَّى، وَالزَّرْعُ غَارِمٌ يَعْنِي الْكُفَيْلَ. (ترمذی ۱۲۶۵۔ ابوداؤد ۳۵۶۰)

(۲۰۹۳۰) حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ عاریہ اس کے مالک کی طرف بغیر ضمان کے لوٹایا جائے گا، قرضہ اس کے مالک کی طرف بغیر ضمان کے لوٹایا جائے گا اور کفیل ضامن ہوگا۔

(۲۰۹۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (ابوداؤد ۳۵۵۶۔ احمد ۸)

(۲۰۹۴۱) حضرت سمیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ نے جو لیا وہ اس پر لازم ہے جب تک واپس نہ کر دے۔

(۶۲) فِي الْمَكَاتِبِ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے

(۲۰۹۴۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. (۲۰۹۴۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۲۰۹۴۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.

(۲۰۹۴۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۲۰۹۴۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(۲۰۹۴۴) حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۲۰۹۴۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَعْبُدِ الْجَهَنِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(۲۰۹۴۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۲۰۹۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(۲۰۹۴۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۲۰۹۴۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتْ : أَذَيْتَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ الَّتِي قَاطَعْتَ أَهْلَكَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : نَعَمْ ، إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ : ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ .

(۲۰۹۴۷) حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی اجازت چاہی، آپ نے سوال کیا سلیمان ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں سلیمان ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ تمہارے مالکوں کا جو بدل کتابت تم پر باقی تھا کیا تم نے ادا کر دیا؟ میں نے کہا جی ہاں، تھوڑا سا باقی ہے، انہوں نے فرمایا کہ پھر تم آ جاؤ کیونکہ جب تک تم پر تھوڑا سا بھی بدل کتابت باقی ہے تم غلام ہی ہو۔

(۲۰۹۴۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتِبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ مَكَاتِبِهِ مِثْقَالٌ ، أَوْ دِينَارٌ .

(۲۰۹۴۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن مکاتب سے پردہ نہیں کرتی تھیں جب تک اس پر بدل کتابت کا ایک مثقال یا ایک دینار بھی باقی ہوتا۔

(۲۰۹۴۹) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتِبٍ لَهَا يُكْنَى أَبُو مَرْيَمَ : ادْخُلْ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ذَرَاهِمَ .

(۲۰۹۴۹) حضرت میمون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو مریم کی کنیت رکھنے والے ایک مکاتب سے کہا کہ تم اندر آ جاؤ خواہ تم پر بدل کتابت کے چار درہم ہی باقی رہتے ہوں۔

(۲۰۹۵۰) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدُّ الْمُكَاتِبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ .

(۲۰۹۵۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مکاتب اور مملوک کی حد ایک ہے۔

(۲۰۹۵۱) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمَّانٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدُّ الْمُكَاتِبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ذَرَاهِمٌ .

(۲۰۹۵۱) حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ مکاتب اور مملوک کی حد ایک ہے، جب تک اس پر ایک درہم بھی بدل کتابت کا باقی رہتا ہو۔

(۲۰۹۵۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ذَرَاهِمٌ .

(۲۰۹۵۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۲۰۹۵۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ذَرَاهِمٌ .

(۲۰۹۵۳) حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۲۰۹۵۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَثْمَانَ قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .

(۲۰۹۵۴) حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۲۰۹۵۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّانِعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَنَافِعٍ قَالُوا : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .

(۲۰۹۵۵) حضرت عبد اللہ بن عبید اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

(۶۳) مَنْ قَالَ إِذَا أَدَى مَكَاتِبَتَهُ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرُّقَى

جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا کچھ حصہ ادا کر دیا تو وہ

غلامی میں واپس نہیں جاسکتا

(۲۰۹۵۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا أَدَى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَّتِهِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرُّقَى .

(۲۰۹۵۶) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا کچھ حصہ ادا کر دیا تو وہ غلامی میں واپس نہیں جاسکتا۔

(۲۰۹۵۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا أَدَى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مَكَاتِبَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ .

(۲۰۹۵۷) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے اپنے بدل کتابت کا ایک ثلث ادا کر دیا تو وہ مقروض ہے۔

(۲۰۹۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدِ بَنِ سَلِيمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا أَدَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ مَكَاتِبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ يَتَّبَعُ .

(۲۰۹۵۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا نصف ادا کر دیا تو وہ مقروض ہے۔

(۲۰۹۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَمْضِي إِذَا أَدَى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مَكَاتِبَتِهِ ، فَهُوَ دَيْنٌ يَتَّبَعُ بِهِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ .

(۲۰۹۵۹) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مروان یہ فیصلہ دیا کرتا تھا کہ جب مکاتب اپنا نصف بدل کتابت ادا کر دے تو باقی قرض ہے، میں نے اس بات کا عبد الملک بن مروان سے تذکرہ کیا تو اس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔

(۲۰۹۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ، قَالَ : قَالَ

عُمَرُ: إِنَّكُمْ تَكَاتِبُونَ مُكَاتِبِينَ ، فَإِذَا أَدَى النِّصْفَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرُّقَى .

(۲۰۹۶۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مکاتب غلاموں کو مکاتب بناتے ہو جب وہ نصف بدل کتابت ادا کر دے تو غلام میں واپس نہیں جاسکتا۔

(۲۰۹۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ .

(۲۰۹۶۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسط کی ادائیگی سے ہی اس میں آزادی آجائے گی۔

(۲۰۹۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتِبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَى بَعْضَ مُكَاتِبِيهِ وَ شَرَطُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ رَدٌّ ؟ قَالَ : إِذَا أَدَى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ .

(۲۰۹۶۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکاتب کچھ بدل کتابت دینے کے بعد عاجز آ گیا اور اس کے مالکوں نے اس پر شرط لگائی تو وہ باطل ہوگی، جب اس نے آدھا بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ مقروض ہوگا۔

(۲۰۹۶۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : إِذَا أَدَى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ .

(۲۰۹۶۳) حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے آدھا بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ مقروض ہوگا۔

(۲۰۹۶۴) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَدَى الثَّلَاثَ ، أَوِ الرَّبْعَ ، أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرْقُوهُ .

(۲۰۹۶۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک تہائی یا ربع یا نصف ادا کر دیا تو اب وہ اسے غلام نہیں بنا سکتے۔

(۲۰۹۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نُبَهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتِبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبِي مِنْهُ . (ترمذی ۱۲۶۱۔ ابوداؤد ۳۹۲۳)

(۲۰۹۶۵) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی مکاتب بنا ہو اور اس کے پاس بدل کتابت کی ادائیگی کے قابل مال ہو تو اس سے پردہ کرو۔

(۲۰۹۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَدَى الثَّلَاثَ ، الرَّبْعَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ .

(۲۰۹۶۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ثلاث یا ربع ادا کر دیا تو وہ مقروض ہے۔

(۲۰۹۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتِبِ بِقَدْرِ مَا أَدَى .

(۲۰۹۶۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قدر بدل کتابت وہ ادا کرتا جائے گا اسی قدر آزاد ہوتا جائے گا۔

(۶۷) مَنْ قَالَ الْقَرْضُ حَالٌ وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ أَجَلٍ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہے خواہ تھوڑی مدت بعد ہی کیوں نہ ہو۔
(۲۰۹۶۸) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ وَأَصْحَابِهِ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَالْقَرْضُ حَالٌ، وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ أَجَلٍ.

(۲۰۹۶۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہے خواہ تھوڑی مدت بعد ہی کیوں نہ ہو۔

(۶۸) فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أُمَّتَهُ وَيَسْتَتِنِي مَا فِي بَطْنِهَا

اگر کوئی شخص اپنی باندی کو بیچے یا آزاد کرے اور اس کے حمل کو مستثنیٰ کر دے تو کیا حکم ہے؟

(۲۰۹۶۹) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ جُلِي، أَوْ اعْتَقَهَا وَاسْتَتِنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ: نُنْيَاهُ فِيمَا قَدْ اسْتَبَانَ خَلْفَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِنِ خَلْفَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(۲۰۹۶۹) حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو بیچے یا آزاد کرے اور اس کے حمل کو مستثنیٰ کر دے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر حمل کی خلقت ظاہر ہو چکی ہو تو استثناء درست ہے اور اگر اس کی خلقت ظاہر نہیں ہوئی تو استثناء درست نہیں۔

(۲۰۹۷۰) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ نُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يُجِيزُ فِي الْوَعْدِ.

(۲۰۹۷۰) حضرت حسن بیع میں استثناء کو درست قرار دیتے تھے لیکن آزادی میں نہیں۔

(۲۰۹۷۱) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأُمَّةَ وَيَسْتَتِنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ: نُنْيَاهُ.

(۲۰۹۷۱) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باندی کو فروخت کرے اور اس کے حمل کو مستثنیٰ کر دے تو درست ہے۔

(۲۰۹۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُمَا حُرَّانِ.

(۲۰۹۷۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ وہ دونوں آزاد ہوں گے۔

(۲۰۹۷۳) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: إِذَا اعْتَقَهَا وَاسْتَتِنِي مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ نُنْيَاهُ.

(۲۰۹۷۳) حضرت عطاء، حضرت شعبی اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر باندی کو آزاد کیا اور اس کے حمل کو مستثنیٰ کر دیا تو استثناء

درست ہے۔

(۲۰۹۷۴) حَدَّثَنَا حَرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَادًا فَقَالَا : ذَلِكَ لَهُ .
(۲۰۹۷۳) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو بیچے یا آز
کرے اور اس کے حمل کو مستثنیٰ کر دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔

(۲۰۹۷۵) حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَّاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَ
وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : لَهُ نُبَاهٌ .

(۲۰۹۷۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باندی کو فروخت کرے اور اس کے حمل کو مستثنیٰ کر دے تو درست ہے۔

(۶۲) فِي الرَّجُلِ يَدْعِي الشَّيْءَ فِيَقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيْئَةَ فَيَسْتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ

اگر ایک آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے، پھر اس کے خلاف گواہی قائم ہو جائے تو اس

سے قسم لی جائے گی کہ اس نے اسے نہیں بیچا

(۲۰۹۷۶) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : صَلَّتْ مِنِّي
قَالَ : لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ : إِنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهَبْ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، صَلَّتْ مِنْهُ ، أُحْلَفُ
بِاللَّهِ : مَا بَاعَ ، وَلَا وَهَبَ .

(۲۰۹۷۶) حضرت عارث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس موجود سواری کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ میر
سواری ہے جو کہ مجھ سے کھوئی تھی تو میں گواہوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ گواہی دیں کہ نہ اس نے بیچی ہے اور نہ ہبہ کی ہے،
جب گواہ اس بات پر گواہی دے دیں گے کہ یہ اس کی سواری ہے جو گم گئی تھی تو میں مدعی سے قسم لوں گا کہ اس نے نہ اسے بیچا
اور نہ ہبہ کیا ہے۔

(۲۰۹۷۷) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَحَا
بِاللَّهِ : مَا أَهْلَكْتُ ، وَلَا أَمَرْتُ مَهْلِكًا .

(۲۰۹۷۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب گواہ گواہی دے دیں گے کہ یہ اس کی ہے تو میں اس سے قسم لوں گا کہ وہ قسم کھائے
نہیں نے اسے ہلاک کیا ہے اور نہ میں نے ہلاک کرنے والے کو حکم دیا ہے۔

(۲۰۹۷۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ نُمَاءَ
أَنَّ حُدَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ فَحَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضٍ مِنْ قَضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتْ عَلَى حُدَيْفَةَ يَمِينٌ فِي
الْقَضَاءِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ : مَا بَاعَ ، وَلَا وَهَبَ .

(۲۰۹۷۸) حضرت حسان بن ثمامہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک اونٹ کو پہچان لیا اور مسلمانوں کے قاضی

اس مقدمہ دائر کیا، فیصلے میں حضرت حدیفہ پر قسم لازم ہوئی تو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ نہ انہوں نے سے بیچا ہے اور نہ بہہ کیا ہے۔

(۶۷) فِي الْحِنِطَةِ بِالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ کیا گندم کے بدلے دو گنی جولی جاسکتی ہے؟

(۲۰۹۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرَّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابُ دَارِ الرَّزْقِ : مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِيَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيَّتَيْنِ حِنِطَةَ الَّتِي لَهُ ، فَسَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ .
(۲۰۹۷) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حججاج لوگوں میں غلہ تقسیم کرنے کو کہتا تھا کہ جو چار جرب جو کے بدلے دو جرب گندم لینا ہے تو اسے دو، میں نے اس بارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفُضْلِ يَدًا بِيَدٍ .
(۲۰۹۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب دو نوعوں میں اختلاف ہو جائے تو ایک ہی وقت میں زیادتی کے ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْوَأْنَةُ .
(۲۰۹۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جب دو چیزوں کا رنگ مختلف ہو تو ایک ہی وقت میں کے بدلے دو کالین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَانِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بَعُ كَيْفَ شِئْتِ .
(۲۰۹۸) حضرت ابوقلابہ فرماتے ہیں کہ جب انواع مختلف ہو جائیں تو جیسے چاہو بیچ سکتے ہو۔
(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِيَعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الْآخَرِ .

(۲۰۹۸) حضرت زہری اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ گندم کوئی الفور ادائیگی کے ساتھ جو کے بدلے بیچا جائے کہ نون چیزوں میں سے ایک کم ہو اور ایک زیادہ۔

(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ

الصَّنْعَانِيَّ ، أَنَّ عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ، وَ يَصْلُحُ نَيْسِنَةً .

(۲۰۹۸۳) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فوری ادائیگی کے ساتھ گندم کو جو کے بدلے دینا جبکہ جو زیادہ ہو دوسرے ہے، البتہ ادھار کے ساتھ درست نہیں ہے۔

(۲۰۹۸۵) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ خَالِدِ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ ائْتِنَا بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۹۸۵) حضرت انس بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے گندم کے بدلے جو کی بیچ کے بارے میں سوال کیا کہ ایک کے بدلے دو دیے جاسکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ فوری ادائیگی کے ساتھ ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَزَنًا بِوَزْنٍ لَا بَأْسَ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتِ الْوَأْنَةُ . (مسلم ۸۳ - احمد ۲ / ۲۳۲)

(۲۰۹۸۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ گندم کو گندم کے بدلے دینا، جو کو جو کے بدلے فوری ادائیگی کے ساتھ، ایک جیسے ماپ کے ساتھ اور ایک جیسے وزن کے ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں، اگر کسی نے زیادہ کی تو اس نے سو دیا، البتہ جن چیزوں کے رنگ مختلف ہو جائیں تو ان کی کمی زیادتی میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

(مسلم ۸۱ - ابو داؤد ۳۳۳)

(۲۰۹۸۷) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے برابر برابر اور فوری ادائیگی کے ساتھ دینا ہوگا، جب ان اصناف میں اختلاف ہو جائے تو جیسے چاہو بیچ سکتے ہو، جبکہ ان کا فوری ادا ہونا ضروری ہے۔

(۶۸) من کرہ ذلک

جن حضرات کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے

(۲۰۹۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ

أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَرَجْرَةٌ إِنْ زَادُوهُ أَنْ يَزْدَادَا .

(۲۰۹۸) حضرت یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو کھجوروں کا ایک صاع دے کر بھیجا کہ اس

کو بدلے ایک صاع جو لے آئے، آپ نے اسے سختی سے منع کیا کہ ایک صاع سے زیادہ بالکل نہ لینا۔

(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فَيْفِزًا مِنْ بَرِّ بَقْفِيزِينَ مِنْ شَعِيرٍ .

(۲۰۹۸) حضرت ابو عبد الرحمن اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ ایک قفیز گندم کے بدلے دو قفیز جو حاصل کیا جائے۔

(۲۰۹۹) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ

الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ آتَاهُ غَلَامُهُ فَأُخْبِرَ بِأَنَّ ذَاتَهُ قَدْ فَنِيَ شَعِيرُهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حِنْطَةٍ أَهْلِيهِ فَيَشْتَرِيَ لَهُ شَعِيرًا ،

وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، قَالَ نَافِعٌ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَّارٍ بِمِثْلِهَا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ .

(۲۰۹۹) حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث کے پاس ان کا غلام آیا اور اس نے بتایا

ان کی سواری کے جو ختم ہو گئے ہیں، آپ نے اسے حکم دیا کہ گندم لے کر جائے اور اس کے بدلے جو خرید لے، اور اس سے فرمایا کہ

بسر برابر لے زیادہ نہ لے، حضرت سلیمان بن یسار نے اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نقل کیا ہے۔

(۶۹) فِي الرَّجْلِ يَخْلُطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ

گندم اور جو کو ملا کر بیچنے کا بیان

(۲۰۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا مَلْفُوثًا فِيهِ شَعِيرٌ ، فَقَالَ : اعْزِلْ هَذَا مِنْ هَذَا ، وَهَذَا مِنْ هَذَا ، ثُمَّ بَعِ هَذَا كَيْفَ

شِئْتَ ، وَبِعْ ذَا كَيْفَ شِئْتَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِنَا عِشٌّ . (ابوداؤد ۱۷۴)

(۲۰۹۹) حضرت سلیمان بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو، جو ملی ہوئی گندم بیچ رہا تھا۔ آپ نے

سے فرمایا کہ اس کو اس سے الگ کر دو اور اس کو اس سے الگ کر دو، پھر اسے جس طرح چاہو بیچو اور اسے جس طرح چاہو بیچو،

شک ہمارے دین میں ملاوٹ نہیں ہے۔

(۲۰۹۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانَ أَبِي حُدَيْفَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سِئِلَ

عَنِ الرَّجُلِ يَخْلُطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۰۹۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی گندم میں جو کو ملا کر بیچتا ہے یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس

کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۹۹۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانَ أَبِي حُدَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ فَكَرِهَهُ .

(۲۰۹۹۳) حضرت شعبی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۰۹۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّادِيَّ

فَيُخْلِطُهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرِيبًا فَلَا بَأْسَ .

(۲۰۹۹۴) حضرت محمد اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آدمی اعلیٰ اور گھٹیا غلے کو ایک دوسرے میں ملا کر فروخت کرے، البتہ

دونوں کا معیار ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۰۹۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَادِ سَيْلٍ عَنِ الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّبْرِ

وَالْبُرُّ يُخْلَطُ بِأَرْدَا مِنْهُ فَكَرِهَهُ .

(۲۰۹۹۵) حضرت حماد سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص گندم کو جو کے ساتھ یا گندم کو اس سے گھٹیا درجے کی گندم کے ساتھ ملا کر

تو کیسا ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۷۰) فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَالِدِ مَنْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهَا

ام ولد باندی کی اولاد کا حکم ان کی ماں کا ہوگا

(۲۰۹۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَزْوِجُ أُمَّ وَوَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ

أَوْلَادًا ، قَالَ : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهِمْ ، يَعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرْقُونَ بِرِقْقِهَا ، فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهُمْ عَتَقُوا .

(۲۰۹۹۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ام ولد کی شادی اپنے غلام سے کر دے، پھر اس سے اس کی اولاد پیدا

تو وہ بچے اپنی ماں کے حکم میں ہوں گے، اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہو جائیں گے اور اس کی غلامی تک وہ غلام رہیں گے، جب

ان کا آقا مر جائے تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۰۹۹۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي وَوَلَدِ أُمِّ الْوَالِدِ : يَعْتَقُونَ بِعِتْقِ

وَيُرْقُونَ بِرِقْقِهَا .

(۲۰۹۹۷) حضرت شعبی ام ولد کی اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہو جائیں گے اور اس

غلامی تک وہ غلام رہیں گے۔

(۲۰۹۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ الْوَالِدِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا .

(۲۰۹۹۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ام ولد کی شادی کرائی گئی اور اس نے بچوں کو جنم دیا تو اس کے بچوں کا حکم ان کی

والا ہوگا۔

(۲۰۹۹۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : وَكَدَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا .

(۲۰۹۹۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ام ولد کے بچوں کو حکم ان کی ماں والا ہوگا۔

(۲۱۰۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْعَمْرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَكَدَّ أُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا .

(۲۱۰۰۰) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ام ولد کے بچوں کا حکم ان کی ماں والا ہوگا۔

(۲۱۰۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ حَوْطِ ، أَنَّ رَجُلًا غَضِبَ رَجُلًا أُمَّمٌ وَكَدَّ لَهُ

فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوْلَادُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، يَسْتَحْدِمُهُمْ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ .

(۲۱۰۰۱) حضرت حوط فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کی ام ولد کو غضب کیا اور اس سے اس کی اولاد ہوئی، حضرت شریح نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں بیچ نہیں سکتا۔

(۷۱) فِي وَلَدِ الْمَدْبَرَةِ ، مَنْ قَالَ هُمْ بِمَنْزِلَتِهَا

مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے

(۲۱۰۰۵) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : وَكَدَّ الْمُدْبِرَةُ بِمَنْزِلَتِهَا .

(۲۱۰۰۵) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

(۲۱۰۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَكَدَّ الْمُعْتَقَةَ ،

عَنْ ذُبُرٍ مِنْهَا يُرْقُونَ بِرِقِّهَا وَيَعْتَقُونَ بِعَيْتِهَا.

(۲۱۰۰۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے، اس کی غلامی تک غلام اور اس کی آزادی پر آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۱۰۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْمُدَبِّرَةَ مِنْهَا .

(۲۱۰۰۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

(۲۱۰۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : وَلَكِنَّ الْمُعْتَقَةَ ، عَنْ ذُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا ، هُوَ وَأُمَّهُمْ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۱۰۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔ وہ اور ان کی ماں ایک ثلث میں سے ہوں گے۔

(۲۱۰۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهُمْ .

(۲۱۰۰۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

(۲۱۰۱۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَلَكِنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا .

(۲۱۰۱۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

(۲۱۰۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ ذُبُرٍ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتَقُونَ بِعَيْتِهَا وَيُرْقُونَ بِرِقِّهَا .

(۲۱۰۱۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جس دن سے وہ مدبرہ بنائی گئی ہے اس کے بعد سے پیدا ہونے والے بچوں کا حکم وہی ہوگا۔ ان کی ماں کا ہے، وہ اس کی آزادی پر آزاد ہو جائیں گے اور اس کی غلامی تک غلام رہیں گے۔

(۲۱۰۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قِيلَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ ذَلِكَ فَقَالَ الْقَاسِمُ : هَذَا رَأْيِي ، وَمَا أَرَى رَأْيَهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْتَدَلًا .

(۲۱۰۱۲) حضرت قاسم بن محمد سے کہا گیا کہ اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رائے یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا رائے ہے اور میں اس معاملے میں ان کی رائے کو معتدل سمجھتا ہوں۔

(۲۱۰۱۳) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْمُدَبِّرَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهُمْ .

(۲۱۰۱۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

(۲۱۰۱۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْمُدَبِّرَةَ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتَقُونَ بِعَيْتِهَا وَيُرْقُونَ بِرِقِّهَا .

(۲۱۰۱۳) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے، اس کی غلامی تک غلام اور اس کی آزادی پر آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۱۰۱۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ بِمِثْلِهِ .

(۲۱۰۱۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے، اس کی غلامی تک غلام اور اس کی آزادی پر آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۱۰۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمَدْبَرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا .

(۲۱۰۱۶) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے، اس کی غلامی تک غلام اور اس کی آزادی پر آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۱۰۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَوَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا .

(۲۱۰۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے، اس کی آزادی پر آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۱۰۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : وَلَدُ الْمَدْبَرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهُمْ .

(۲۱۰۱۸) حضرت عطاء، حضرت طاوس، حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

(۲۱۰۱۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبْرِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادًا : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهُمْ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا .

(۲۱۰۱۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی مدبرہ باندی کو آزاد کیا، اس کے بعد اس کی اولاد ہوئی تو وہ اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہوگی، اس کی آزادی پر آزاد ہو جائے گی۔

(۲۱۰۲۰) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمَدْبَرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمَّهُمْ .

(۲۱۰۲۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں مدبرہ باندی کی اولاد اپنی ماں کے حکم میں ہے۔

(۲۱۰۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمَدْبَرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ .

(۲۱۰۲۱) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کا مالک اسے چاہے تو بیچ سکتا ہے۔

(۲۱۰۲۲) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمَدْبَرَةِ عَيْدٌ .

(۲۱۰۲۲) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کی اولاد غلام ہوگی۔

(۷۲) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ بَعْضَ الشَّيْءِ فَلَا يَقْبِضُهُ

المشترى حتى يذهب عند البائع

اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے کوئی چیز خریدے، بائع کچھ چیز اس کے حوالے کر دے لیکن

مشتري اس پر قبضہ نہ کرے پھر وہ چیز بائع کے پاس ضائع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۰۲۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا ، فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَيْعَةِ ، فَمَكَتْ أَيَّامًا ، ثُمَّ آتَى الْمُشْتَرَى بِشَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ ، فَقَالَ : مَا أَخَذَ الْبَائِعُ قَلَّهُ ، وَأَمَّا الْبَيْعَةُ فَلِلْمُشْتَرَى .

(۲۱۰۲۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ساٹھ دینار کے بدلے ایک باندی خریدی، تیس دینار نقد دیے اور باقی کے بدلے بائع کے پاس اسے رہن رکھوایا، کچھ دن بعد مشتری باقی پیسے لے کر آیا تو دیکھا کہ وہ باندی مر چکی ہے، اس صورت میں حضرت عمرو بن شریح نے فیصلہ فرمایا کہ جن پر بائع نے قبضہ کیا ہے وہ بائع کے ہیں اور جو باقی ہیں وہ مشتری کے ہیں۔

(۲۱۰۲۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّ شَرِيحًا ، قَالَ فِيهَا : لَا يَرُدُّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيُدْفَعُ جِيفَتَهُ .

(۲۱۰۲۴) حضرت شریح اس صورت میں فرماتے ہیں کہ بائع نے جو قیمت لی ہے وہ اس سے واپس نہیں لی جائے گی اور اس کی نعش کو دفن کیا جائے گا۔

(۲۱۰۲۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ .

(۲۱۰۲۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عمرو بن حرث کا قول مجھے زیادہ پسند ہے۔

(۲۱۰۲۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا ، وَأَمْسَكَهَا الْبَائِعُ بِالْبَيْعَةِ فَمَاتَتْ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرَى مَا أَخَذَ ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ .

(۲۱۰۲۶) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی سے ایک باندی خریدی، قیمت کا کچھ حصہ تو نقد ادا کر دیا اور باقی مال کے بدلے وہ بائع کے پاس رکھوادی، پھر اس باندی کا انتقال ہو گیا تو اس بارے میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مشتری سے لی گئی رقم اس کو واپس کی جائے گی اور نقصان بائع کے مال میں سے ہوگا۔

(۲۱۰۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ

بِالْبَيْعَةِ فَهَلْكَ الْمَتَاعُ ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يَكَالُ وَيُوزَنُ فَقَصَانَهُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِي .

(۲۱۰۲۷) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر قیمت کا کچھ حصہ نقد دے دیا تھا اور باقی حصہ کے بدلے سامان رہن کے طور پر رکھو دیا، پھر سامان ہلاک ہو گیا تو وہ اس چیز کے بدلے ہوگا جو مزید بیچی گئی تھی اور بائع جو وصول کر چکا ہے وہ اسی کا ہوگا، اگر کوئی چیز ایسی تھی جسے تولایا یا پاجاتا ہے تو اس کا نقصان بائع کے ذمہ ہوگا یہاں تک کہ مشتری اسے پورا کر لے۔

(۷۳) فِي شَهَادَةِ الْقَاضِيَيْنِ مَنْ قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ إِذَا تَابَ

تہمت لگانے والوں کی گواہی کا بیان، جن حضرات کے نزدیک اگر وہ توبہ کر لیں تو ان

کی گواہی قبول کی جائے گی

(۲۱۰۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : الْقَاضِي إِذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .

(۲۱۰۲۸) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

(۲۱۰۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا تَابَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ .

(۲۱۰۲۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے خیر کا ہی صدور ہوتا ہے تو اس کی گواہی جائز ہے۔

(۲۱۰۳۰) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ .

(۲۱۰۳۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

(۲۱۰۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ .

(۲۱۰۳۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

(۲۱۰۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَظْنُهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تَابَ أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ .

(۲۱۰۳۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کر لو۔

(۲۱۰۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ .

(۲۱۰۳۳) حضرت عبداللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

(۲۱۰۳۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ .

(۲۱۰۳۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

(۲۱۰۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَوَامِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ .

(۲۱۰۳۵) حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

(۲۱۰۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَجُوزُ ، وَقَالَ : يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ .

(۲۱۰۳۶) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی توبہ قبول کر لیں اور میں اس کی گواہی قبول نہ کروں۔

ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی توبہ قبول کر لیں اور میں اس کی گواہی قبول نہ کروں۔

(۷۴) مَنْ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتَهُ إِذَا تَابَ

جن حضرات کے نزدیک تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی

(۲۱۰۳۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .

(۲۱۰۳۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حد قذف جاری ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی توبہ اللہ کا

اور اس کا معاملہ ہے۔

(۲۱۰۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .

(۲۱۰۳۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حد قذف جاری ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی توبہ اللہ کا

اور اس کا معاملہ ہے۔

(۲۱۰۳۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَكَّرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِمَ ؟ فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ ، أَوْ لَمْ يَتَّب .

(۲۱۰۳۹) حضرت ابوہیثم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی تہمت لگانے والے کی گواہی کے بارے میں بات کر رہے تھے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، حضرت شعبی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا

کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے توبہ کی ہے یا نہیں کی۔

(۲۱۰۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .

(۲۱۰۴۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حد قذف جاری ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی توبہ اللہ کا

اور اس کا معاملہ ہے۔

(۲۱۰۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا شَهَادَةَ لَهُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .

(۲۱۰۴۱) حضرت حسن اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حدِ تذف جاری ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی توبہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔

(۲۱۰۴۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ .

(۲۱۰۴۲) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان عدول ہیں (یعنی ان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول کی جائے گی) سوائے ان کے جن پر کسی جرم میں حد جاری ہوئی ہو۔

(۲۱۰۴۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .

(۲۱۰۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حدِ تذف جاری ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی توبہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔

(۷۵) ما تعرف به توبته

توبہ کا اندازہ کن علامات سے ہوگا؟

(۲۱۰۴۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : تَوْبَتُهُ أَنْ يَكْذِبَ نَفْسَهُ .

(۲۱۰۴۴) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکذیب کرے۔

(۲۱۰۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مِثْلَ مَقَامِهِ فَيَكْذِبَ نَفْسَهُ .

(۲۱۰۴۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکذیب کرے۔

(۷۶) في بيع المدبر

مدبر غلام کی بیع کا بیان

(۲۱۰۴۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُدْبَرُ لَا يَبَاعُ .

(۲۱۰۴۶) حضرت زید بن ثابت اور حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کو بیچا نہیں جاسکتا۔

(۲۱۰۴۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : الْمَدْبُرَةُ لَا يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَا يُزَوِّجُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا ، وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا .

(۲۱۰۴۷) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کو نہ تو اس کا آقا بیچ سکتا ہے، نہ اس کی شادی کر سکتا ہے اور نہ اسے ہبہ کر سکتا ہے، اس کا بچا اس کے حکم میں ہوگا۔

(۲۱۰۴۸) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَحِلُّ لِي أَنْ أُبِيعَهَا ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : أَمُهِرُهَا ؟ قَالَ : لَا .

(۲۱۰۴۸) حضرت عثمان بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کہ کیا میرے لئے اسے بیچنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے سوال کیا کہ کیا میں اس کی شادی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۲۱۰۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُعْتَقُ عَنْ ذُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ .

(۲۱۰۴۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مدبر غلام عام غلام کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اسے بیچا نہیں جاسکتا اور نہ ہی اسے ہبہ کر جاسکتا ہے، جب اس کا آقا مر جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۱۰۵۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ ذُبُرٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقَرَّ شَدِيدًا . (۲۱۰۵۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کو بیچنا درست نہیں، البتہ اگر اس کے مالک کو شدید فقر لاحق ہو جائے تو پھر اسے بیچ سکتا ہے۔

(۲۱۰۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ ذُبُرٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ .

(۲۱۰۵۱) حضرت محمد نے مدبر غلام کی بیع کو مکروہ قرار دیا ہے، البتہ اگر وہ خود راضی ہو تو درست ہے۔

(۲۱۰۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَهَشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا يَبَاعُ الْمَدْبُرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ .

(۲۱۰۵۲) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کو نہیں بیچا جاسکتا البتہ اگر وہ خود راضی ہو تو بیچ سکتے ہیں۔

(۲۱۰۵۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا .

(۲۱۰۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس کو بیچ نہیں سکتا البتہ اگر اس کی قیمت کی احتیاج ہو تو بیچ سکتا ہے۔

(۲۱۰۵۴) حَدَّثَنَا شَرِيحُ ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهِيلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَاعَ مَدْبُرًا . (بخاری ۲۱۴۱ - نسائی ۶۲۵۰)

(۲۱۰۵۴) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مدبر غلام کو فروخت فرمایا تھا۔

(۲۱۰۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ النَّحَامِ ، غُلَامًا قَبِيضًا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . (بخاری ۲۲۳۱ - مسلم ۱۲۸۹)

(۲۱۰۵۵) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنایا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے ابن نحام سے خرید لیا۔ وہ ایک قبیلی غلام تھا جس کا انتقال حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی امارت کے ابتدائی دنوں میں ہوا۔

(۲۱۰۵۶) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبِّرِ . (۲۱۰۵۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مدبر کی بیع کو مکروہ قرار دیا۔

(۷۷) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدِّينَ فِيهِدِي لَهُ ، أَيَحْسِبُهُ مِنْ دِينِهِ ؟

ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر قرض ہو، اگر مقروض قرض خواہ کو کوئی ہدیہ دے تو کیا اسے

قرض میں شمار کیا جائے گا؟

(۲۱۰۵۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَمَّانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيْمَةً فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَصْلُحُ .

(۲۱۰۵۷) حضرت یحییٰ بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی مقروض اپنے قرض خواہ کو کوئی چیز ہدیہ میں دے تو کیا وہ اس کے لئے درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر پہلے بھی دیا کرتا تھا تو کوئی حرج نہیں اور اگر پہلے نہیں دیا کرتا تھا تو پھر درست نہیں۔

(۲۱۰۵۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَقْرِضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا ، وَلَا رُكُوبَ ذَابَّةٍ .

(۲۱۰۵۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو کوئی قرض دو تو اس سے ہرگز ہدیہ قبول نہ کرو، حتیٰ کہ بھری کے پائے بھی قبول نہ کرو اور قرض خواہ کی سواری پر سواری بھی مت ہو۔

(۲۱۰۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُنُوزِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ زُرَّابِ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ أَبِي : إِذَا أَقْرِضْتَ قَرْضًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ بِحِمْلِهِ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ ، فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَهُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ .

(۲۱۰۵۹) حضرت ابی حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو قرض دو اور صاحب قرض تمہارے پاس کوئی ہدیہ لے کر آئے تو اس میں سے اپنے قرضے کے برابر لے لو اور باقی اسے واپس کر دو۔

(۲۱۰۶۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدِّينُ

فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُوَخَّرَ عَنْهُ فَلْيَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰۶۰) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا کسی پر قرضہ ہو اور اس کی طرف کوئی چیز بطور ہدیہ کے پیش کی جائے کہ وہ قرض کی وصولی میں کچھ تاخیر کر دے تو اس کو قرض میں سے شمار کرے۔

(۲۱۰۶۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ يَدْعُوهُ وَيَدْعُوهُ الْآخَرَ وَيُكَافِيهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلَا يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰۶۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان قرض سے پہلے دعوتوں اور ہدایا کا سلسلہ تھا تو کچھ حرج نہیں اور اسے قرض میں سے شمار نہ کرے۔

(۲۱۰۶۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا دَيَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ .

(۲۱۰۶۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر قرض سے پہلے بھی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرتے تھے تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۰۶۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الرَّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْبِيَ ، وَيُنْسِيءَ .

(۲۱۰۶۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابی جریج کا کچھ قرض حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر لازم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیجا تو انہوں نے واپس کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سود تو اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ مال کو بڑھا کر واپس کرنا چاہے یا ادائیگی میں تاخیر کرنا چاہے۔

(۲۱۰۶۴) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إِلَيْهِ ، قَالَ : ذَلِكَ الرَّبَا الْعُجْلَانُ

(۲۱۰۶۴) حضرت زید بن ابی انیسہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قرض دے تو پھر اس سے ہدیہ قبول کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔

(۲۱۰۶۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَقَاضُهُ .

(۲۱۰۶۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اس سے اس کا بدلے لے گا۔

(۲۱۰۶۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ .

(۲۱۰۶۶) حضرت حکم اس بات کو بھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ کسی ایسے آدمی کے گھر سے کھائیں جس پر ان کا قرضہ ہو، البتہ اگر قرض میں سے شمار کرے تو کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۰۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمِيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَكَ

عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي فَلَا تَضِيْفُهُ.

(۲۱۰۶۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی نے تمہارا قرض دینا ہو تو اس کی مہمان نوازی قبول نہ کرو۔

(۲۱۰۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ذُكِرَ لَابْنِ مَسْعُودٍ اِنْ رَجُلًا اَقْرَضَ رَجُلًا دِرَاهِمًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ قَرِيْبِهِ، قَالَ: مَا اَصَابَ مِنْ ظَهْرِ قَرِيْبِهِ، فَهُوَ رِبًا.

(۲۱۰۶۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو ایک بجم کا قرض دیا اور اس پر شرط عائد کی کہ اس کے گھوڑے پر سواری کرے گا، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ گھوڑے پر جتنی سواری کرے گا وہ سب سود ہے۔

(۲۱۰۶۹) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيُّ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: اِذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دِرَاهِمٌ اسْتَعِيرَ مِنْهُ دَابَّةً، اَوْ اَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

(۲۱۰۶۹) حضرت عثمان بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے سوال کیا کہ اگر میں نے کسی آدمی کو کچھ دراہم دے رکھے ہوں تو کیا میں اس سے سواری مانگ سکتا ہوں یا کوئی اور خیر طلب کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۰۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَوْا يَقُوْلُوْنَ: قَضَاءُ وَحَمْدُ.

(۲۱۰۷۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہے اور قابل تعریف فیصلہ ہے۔

(۷۸) فِي الشَّرَاءِ مِنَ الْمُضْطَّرِّ

مجبور شخص سے کوئی چیز خریدنے کا بیان

(۲۱۰۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَا تَبْتَغِ مِنْ مُضْطَّرِّ شَيْئًا.

(۲۱۰۷۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجبور شخص سے کوئی چیز مت خریدو۔

(۲۱۰۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ.

(۲۱۰۷۲) حضرت شریح مجبوری کی بیع کو درست قرار نہیں دیتے تھے۔

(۲۱۰۷۳) حَدَّثَنَا وَرِكِيُّ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، قَالَ: بَيْعُ الْمُضْطَّرِّ رِبًا.

(۲۱۰۷۳) حضرت ابن معقل فرماتے ہیں کہ مجبوری کی بیع سود ہے۔

(۲۱۰۷۴) حَدَّثَنَا وَرِكِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ وَعَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَعْذَبُ،

أَشْتَرِي مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.

(۲۱۰۷۴) حضرت ابو ہیثم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک آدمی تکلیف میں مبتلا ہے کیا میں اس سے خرید

سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۲۱۰۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُشْتَرَى مِنْ مُضْطَرِّ شَيْئًا .

(۲۱۰۷۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مجبور شخص سے کوئی چیز نہ خریدو۔

(۲۱۰۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ .

(۲۱۰۷۶) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ مجبور کی بیع سے منع کیا گیا ہے۔

(۷۹) من کرہ کل قرض جر منفعة

ہر وہ قرض جو کسی نفع کا سبب بنے، ناجائز ہے

(۲۱۰۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .

(۲۱۰۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اسلاف فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب بنے، جائز نہیں۔

(۲۱۰۷۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ رِبَاٌ .

(۲۱۰۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب بنے، سود ہے۔

(۲۱۰۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .

(۲۱۰۷۹) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب بنے، جائز نہیں۔

(۲۱۰۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا خَمْسِينَ دِرْهَمًا

وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ ظَهْرَ قَرَيْبِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرٍ قَرَيْبِهِ ، فَهُوَ رِبَاٌ .

(۲۱۰۸۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے کو پانچ سو درہم قرض دیا اور اس کے گھوڑے پر سواری کرنے

شرط لگائی، جب حضرت ابن مسعود نے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی سواری کی وہ سب سود ہے

(۲۱۰۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .

(۲۱۰۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب بنے، جائز نہیں۔

(۸۰) فِي شِرَاءِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ

کچی کھجور کو کچی کھجور کے بدلے خریدنا

(۲۱۰۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطْبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَقَالَ

الرُّطْبُ مُنْتَفِعٌ ، وَالتَّمْرُ يَابِسٌ .

(۲۱۰۸۱) حضرت سعید بن مسیب نے کچی کھجور کے بدلے کچی کھجور کے لینے کو مکروہ قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچی کھجور پھولی تی ہے اور کچی خشک ہوتی ہے۔

(۲۱۰۸۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْمِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الرُّطْبُ بِالتَّمْرِ الْيَابِسِ .

(۲۱۰۸۳) حضرت ابراہیم کچی کھجور کے بدلے کچی خشک کھجور کے خریدنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔

(۲۱۰۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُعْمِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُشْتَرَى الرُّطْبُ بِالْيَابِسِ .

(۲۱۰۸۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کچی کھجور کے بدلے کچی کھجور نہیں خریدی جاسکتی۔

(۲۱۰۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ بِالزَّرْبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا .

(مسلم ۱۱۷۱۔ ابوداؤد ۳۳۵۳)

(۲۱۰۸۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کچی کھجوروں کی بیع کچی کھجور کے بدلے انور کی بیع کشمش کے بدلے اور کھیتی کی بیع گندم کے بدلے ماپ کر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۰۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قَدَامَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطْبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : هُوَ أَقْلُهُمَا فِي الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِي الْقَوْفِيزِ .

(۲۱۰۸۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کچی کھجور کے بدلے کچی کھجور کی بیع کو مکروہ قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ وہ وزن میں ایک رے سے مختلف ہیں۔

(۲۱۰۹۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ أَبِي عِيَّاشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالدَّرَةِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : سِئِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيْنُقْصُ إِذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَكَرِهَهُ . (ترمذی ۱۲۲۵۔ ابن ماجہ ۲۲۶۳)

(۲۱۰۹۱) حضرت زید بن ابی عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد سے سوال کیا کہ بغیر چھلکے والے سفید جو کو کچی کے بدلے لیا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کیا تازہ کھجور کو کچی کھجور کے بدلے بیچا سکتا ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا تازہ کھجور خشک ہو جانے کے بعد کم ہو جائے گی؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے اس رست قرار نہ دیا۔

(۲۱۰۹۲) حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرَ الرُّطْبَ بِالْيَابِسِ مِثْلًا بِمِثْلٍ .

(۲۱۰۹۳) حضرت حکم نے تازہ کھجور کو خشک کھجور کے بدلے برابر خریدنے کو مکروہ قرار دیا۔

(۸۱) فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ

کیا آدمی اپنے غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر سکتا ہے؟

(۲۱۰۸۹) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : مَنْ أَدَّى بَعْضًا لِمَمْلُوكِهِ ، وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ ، أَوْ بَعْضُهُ ، فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ .

(۲۱۰۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنے غلام کے کچھ حصے کو آزاد کیا، اس کا کچھ حصہ تھا یا سارا تھا، وہ غلام سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا۔

(۲۱۰۹۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلَيْتَيْهِ : فَرُجُكِ حُرٌّ قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةٌ .

(۲۱۰۹۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی باندی سے کہا کہ تیری شرمگاہ آزاد ہے، تو وہ آزاد ہو جائے گی، اسی طرح اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے کو آزاد کیا تو وہ ساری کی ساری آزاد ہو جائے گی۔

(۲۱۰۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بَعْرَقَةٌ فَقَالَ : أَعْتَقْتُ ثَلَاثَ عَبْدِي ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكَ .

(۲۱۰۹۱) حضرت خالد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرفہ میں تھے، اس آدمی نے کہا میں نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آزاد کر دیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا آزاد ہو گیا، اللہ کا شریک نہیں ہے۔

(۲۱۰۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ ، فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ .

(۲۱۰۹۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اپنے غلام کا کچھ حصہ آزاد کیا تو وہ سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا۔

(۲۱۰۹۳) حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَ عَبْدِيهِ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُ الثَّلَاثِينَ ، وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ .

(۲۱۰۹۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آزاد کیا تو وہ دوثلث کی آزادی کی کوشش کرے۔ ایک ثلث کا ضامن نہ ہوگا۔

(۲۱۰۹۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثَلَاثَ غُلَامٍ لَهُ ، فَرَأَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكَ . (ابوداؤد ۳۹۲۹ - احمد ۵/۷۵)

(۲۱۰۹۴) حضرت ابولیح فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آزاد کر دیا، یہ معاملہ حضور ﷺ کے سامنے

ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا آزاد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۲۱۰۹۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِغُلَامِيهِ : نِصْفَكَ حُرٌّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقٌّ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَادًا فَقَالَ : يُعْتَقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي .

(۲۱۰۹۵) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ تیرا آدھا حصہ آزاد ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ ضمان حق ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ حضرت حکم کی رائے یہ تھی کہ اسے آزاد کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے نصف کو آزاد کر دے اور باقی کے لیے وہ کوشش کرے گا۔

(۲۱۰۹۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّجُلِ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِيهِ .

(۲۱۰۹۶) حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے غلام کے جتنے حصے کو چاہے آزاد کر سکتا ہے۔

(۲۱۰۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ مِنْ عَبْدِيهِ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنْ أَمْرَاتِيهِ إِصْبَعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ .

(۲۱۰۹۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنے غلام کو تھوڑا یا زیادہ آزاد کیا تو وہ سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا، اور جب اس نے اپنی بیوی کو ایک انگلی یا اس سے زیادہ طلاق دی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔

(۸۲) مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ

عورتوں کی گواہی کس چیز میں قابل قبول ہے؟

(۲۱۰۹۸) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُقُوبَتِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحَدَّهَا فِي الْإِسْتِهْلَالِ ، وَأَمْرَاتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ . (عبدالرزاق ۱۵۳۲۷)

(۲۱۰۹۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے ان میں عورتوں کی گواہی درست ہے، جیسے عورتوں کے یہاں بچے کی پیدائش اور عورتوں کے عیوب وغیرہ، نومولود بچے کے سانس لینے کے بارے میں صرف دائی اور اس کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی درست ہوگی۔

(۲۱۰۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : أَمْرَاتَانِ تَجُزِيَانِ .

(۲۱۰۹۹) حضرت شعی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں مردوں کی گواہی درست نہیں ان میں دو عورتوں کی گواہی کافی ہے۔

(۲۱۱۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْاِسْتِهْلَالِ .

(۲۱۱۰۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نومولود بچے کے سانس لینے کے بارے میں عورتوں کی گواہی درست ہے۔

(۲۱۱۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ غَامِرٍ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتُ نِسَاءٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ .

(۲۱۱۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بعض گواہیاں ایسی ہیں جن میں صرف عورتوں کی گواہی جاری ہو سکتی ہے۔

(۲۱۱۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ .

(۲۱۱۰۲) حضرت ابراہیم، حضرت حسن اور حضرت شعی فرماتے ہیں کہ جن باتوں پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔

(۲۱۱۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ أَقْلٌ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرَّجَالِ .

(۲۱۱۰۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں مردوں کی گواہی درست نہیں ان میں چار عورتوں سے کم کی گواہی درست نہیں۔

(۲۱۱۰۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةَ .

(۲۱۱۰۴) حضرت شریح نے دائی کی گواہی کو جائز قرار دیا۔

(۲۱۱۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةَ .

(۲۱۱۰۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دائی کی گواہی کو جائز قرار دیا۔

(۲۱۱۰۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَابْنِ حَبِيبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةَ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً .

(۲۱۱۰۶) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ایک دائی کی گواہی کافی ہے اور ان میں سے ایک فرماتے ہیں کہ خواہ وہ یہودیہ ہی کیوں نہ ہو۔

(۲۱۱۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَةُ نِسَاءٍ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ .

(۲۱۱۰۷) حضرت شعی فرماتے ہیں کہ بعض گواہیاں ایسی ہیں جن میں صرف عورت کی گواہی جائز ہو سکتی ہے۔

(۸۳۶) فِي الشَّاهِدِينَ يَخْتَلِفَانِ

اگر دو گواہوں کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۱۰۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الشَّاهِدِينَ يَخْتَلِفَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عَشْرِينَ

وَالْآخَرَ عَلَيَّ عَشْرَةَ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَشْرَةِ .

(۲۱۱۰۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر دو گواہوں کا اختلاف ہو جائے، ایک دس کی گواہی دے اور دوسرا بیس کی تو دس کا فیصلہ کیا جائے گا۔

(۲۱۱۰۹) حَدَّثَنَا شَرِيحٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : مِثْلَهُ .

(۲۱۱۰۹) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۲۱۱۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَائِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدَهُمَا بِأَكْثَرِ وَالْآخَرَ بِأَقَلِّ ، فَأَجَّازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ .

(۲۱۱۱۰) حضرت عمر بن عبد اللہ بن وائلہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح کے پاس دو گواہوں نے گواہی دی، ایک نے زیادہ کی اور دوسرے نے کم کی گواہی دی، حضرت شریح نے کم والی گواہی کو قبول کیا۔

(۲۱۱۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَلِيحِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَائِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرَ عَلَى خُمْسِ مِئَةٍ ، فَأَجَّازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْخُمْسِ مِئَةٍ .

(۲۱۱۱۱) حضرت عمر بن عبد اللہ بن وائلہ فرماتے ہیں کہ دو گواہوں نے حضرت شریح کے پاس گواہی دی، ایک نے ہزار پر اور دوسرے نے پانچ سو پر، حضرت شریح نے پانچ سو پر دی گئی گواہی کو قبول فرمایا۔

(۲۱۱۱۲) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهُ أَوْكُسُهُمَا .

(۲۱۱۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کم عدد پر دی گئی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔

(۸۴) فِي الْحَوَالَةِ ، أَلِهَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؟

کیا حوالہ میں رجوع کی جا سکتی ہے؟

(۲۱۱۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَيْبِعْكَ مَا عَلَى فَلَانٍ وَفَلَانٍ بِنَكْذٍ وَنَكْذًا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعُ .

(۲۱۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہر حوالہ میں رجوع کی جا سکتی ہے، البتہ اگر ایک آدمی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تجھ سے اس چیز پر بیچ کرتا ہوں جو فلاں اور فلاں کے پاس ہے اور اتنے اور اتنے میں بیچ کرتا ہوں، اگر وہ بیچ کر لے تو رجوع نہیں کر سکتا۔

(۲۱۱۱۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ ، أَوْ يَمُوتَ ، وَلَا يَدْعُ وَفَاءً ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعِيرُ مَرَّةً .

(۲۱۱۱۳) حضرت حکم بن عتیہ فرماتے ہیں کہ حوالہ میں صاحب حوالہ کی طرف رجوع نہیں کیا جاسکتا یہاں تک کہ وہ نادار ہو جائے یا مرجائے اور معاہدہ پورا کرنے کے لئے کوئی سبب نہ چھوڑے، اس لئے کہ آدمی کبھی مالدار اور کبھی نادار ہو جاتا ہے۔
(۲۱۱۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إِيَّاسٍ ، عَنْ عَثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ : يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى مَا لَمْ يُسَلِّمْ تَوْبَى .

(۲۱۱۱۵) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حوالہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حوالہ میں رجوع کیا جاسکتا ہے، مسلمان کے مال کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔

(۲۱۱۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيٍّ ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ .
(۲۱۱۱۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے مالدار کی حالت میں حوالہ کیا اور بعد میں غریب ہو گیا تو وہ مال اس کے لئے جائز ہے۔

(۲۱۱۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَطَّابِ الْعُصْفَرِيِّ ، قَالَ : أَحَابِلِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى الْأَوَّلِ .

(۲۱۱۱۷) حضرت خطاب عصفری کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے کسی یہودی کے پاس رکھوائے موجود مال کا حوالہ کیا اور اس یہودی نے مجھے مال دینے سے انکار کیا اور مال منول سے کام لیا تو میں نے اس بارے میں حضرت شعبی سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ پہلے سے رجوع کرو۔

(۲۱۱۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي الرَّجُلِ يُجِيلُ الرَّجُلَ فَيَتَوَى ، قَالَ : يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ .

(۲۱۱۱۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی دوسرے کے پاس مال رکھوائے تو دوسرا اس مال کو ہلاک کر دے تو پہلے سے رجوع کیا جائے گا۔

(۲۱۱۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ حَوْهٍ .
(۲۱۱۱۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۲۱۱۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : اشْتَرَيْتَ مِنِّي مَالًا عَلَى فُلَانٍ ، وَقَالَ : هُوَ عَرَّوٌّ .

(۲۱۱۲۰) حضرت شعبی نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں یہ چیز تجھ سے اس چیز کے عوض خریدتا ہوں جو فلاں کے پاس ہے، حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یہ غرر (غیر موجود چیز میں کیا جانے والا معاملہ) ہے۔

(۲۱۱۲۱) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءَةً إِلَّا أَنْ يَبْرَأَهُ ، فَإِذَا أَبْرَأَهُ ، فَقَدْ بَرَأَ .

(۲۱۱۲۱) حضرت حسن حوالہ کو براءت نہیں سمجھتے تھے، ہاں البتہ جب صاحب حق واقعی بری کر دے تو بری ہو جائے گا۔

(۸۵) فِي الْمَرْأَةِ تَعْطِي زَوْجَهَا

اگر عورت اپنے خاوند کو کوئی چیز دے تو واپس لے سکتی ہے یا نہیں؟

(۲۱۱۲۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّقْفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِلَى النِّسَاءِ يَعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَإِذَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَيَهِيَ أَحَقُّ بِهِ .

(۲۱۱۲۲) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام کے نام ایک خط میں لکھا کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو اپنی مرضی سے کوئی چیز دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو کوئی چیز دینے کے بعد واپس لینا چاہے تو وہ اس کی زیادہ حقدار ہے۔

(۲۱۱۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هَيْئَتِهَا ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هَيْئَتِهِ .

(۲۱۱۲۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ عورت اپنے ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتی اور آدمی بھی اپنی ہبہ کردہ چیز میں رجوع نہیں کر سکتا۔

(۲۱۱۲۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ .

(۲۱۱۲۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کوئی اپنی ہبہ کردہ چیز میں رجوع نہیں کر سکتا۔

(۲۱۱۲۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ .

(۲۱۱۲۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کوئی اپنی ہبہ کردہ چیز میں رجوع نہیں کر سکتا۔

(۲۱۱۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا) فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تَخَاصِمْكَ .

(۲۱۱۲۶) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاوند کا جھگڑالے کر حضرت شریح کے پاس آئی، اس نے اپنے خاوند کو کوئی چیز دی تھی اب واپس لینا چاہتی تھی، آدمی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں (ترجمہ) اگر عورتیں تمہیں اپنے دل کی خوشی سے کوئی چیز دے دیں تو اسے سہولت سے کھا لو۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ اگر وہ خوشی سے دیتی تو تجھ سے جھگڑا نہ کرتی۔

(۲۱۱۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتُهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهِ ، وَلَا هَوَانَ .

(۲۱۱۲۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دو عادل آدمی گواہی دیں کہ عورت نے مرد پر اپنے حق کو بغیر کسی زبردستی اور مجبوری کے چھوڑا ہے۔

(۲۱۱۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِرِزْوَجِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يَرِدُ إِلَيْهَا .

(۲۱۱۲۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر عورت خاوند کو کوئی چیز ہبہ کر کے اس میں رجوع کرنا چاہے تو وہ چیز اسے واپس کی جائے گی۔

(۲۱۱۲۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُعْطِيَتِ الْمَرْأَةُ رِزْوَجِهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ ، فَهِيَ جَائِزٌ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ : لَا يُعْجِنِي .

(۲۱۱۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے خاوند کو دل کی خوشی سے کوئی چیز دی تو یہ درست ہے، حضرت منصور فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تو اچھی نہیں لگتی۔

(۲۱۱۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَجُوزُ لَهَا مَا أُعْطَاهَا رِزْوَجِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أُعْطَتْهُ .

(۲۱۱۳۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ خاوند جو چیز بیوی کو دے وہ اس کے لئے جائز ہے اور بیوی جو چیز خاوند کو دے وہ اس کے لئے درست نہیں۔

(۸۶) فِي الرَّجُلِ يَرَهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأَرْضَ .

کیا آدمی دوسرے کے پاس زمین رہن رکھوا سکتا ہے؟

(۲۱۱۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا شَيْئًا ، فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا شَيْئًا حَسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مِثْلُ أَجْرٍ مِثْلِهَا .

(۲۱۱۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے دوسرے کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوائی تو وہ اس میں کام کاج نہیں کر سکتا، اگر وہ اس میں کوئی کام کرتا ہے تو زمین والے کو اس زمین کا پورا پورا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔

(۲۱۱۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبَّارٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بَصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ الْعَلَّةِ ، قَالَ : لَا تُحْسَبُ عَلَيْهَا .

(۲۱۱۳۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے مہر کے بدلے اپنی بیوی کے پاس اپنی زمین بطور رہن کے رکھوائی اور عورت نے اس کا غلہ کھایا تو یہ اس کے مہر میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۲۱۱۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنُ فَارِضَةَ لَهُ ، قَالَ : يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ .

(۲۱۱۳۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی باندی رہن رکھوائی، اس کا ایک بیٹا تھا جسے اس نے دودھ پلایا، تو اس کے دودھ پلانے کا اجر شمار کیا جائے گا۔

(۲۱۱۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ قَاصَهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ .

(۲۱۱۳۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی نے رہن شدہ چیز سے استفادہ کیا تو اس کا حساب لگایا جائے گا۔

(۲۱۱۳۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا ، أَوْ غَلَامًا فَاسْتَعْلَهُ ، قَالَ : الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهْنِ .

(۲۱۱۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس گھر رہن کے طور پر رکھوایا یا غلام رکھوایا اور اس نے اسے استعمال کیا تو وہ فائدہ رہن میں سے شمار ہوگا۔

(۸۷) فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ لِرِثٍ أَوْ غَيْرِ وَارِثٍ بَدِينٍ

اگر کوئی شخص وارث یا غیر وارث کے لئے قرض کا اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۱۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : إِذَا أَقْرَأَ لِرِثٍ بَدِينٍ جَازًا .

(۲۱۱۳۶) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے وارث کے لئے قرض کا اقرار کیا تو جائز ہے۔

(۲۱۱۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقَالَ : أَحْمَلُهَا إِيَّاهُ ، وَلَا اتَّحَمَلُهَا عَنْهُ .

(۲۱۱۳۷) حضرت حسن سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے اس پر لازم کرتا ہوں اس سے دور نہیں کرتا۔

(۲۱۱۳۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : إِذَا أَقْرَأَ فِي مَرَضٍ لِرِثٍ بَدِينٍ لَمْ يَجْزُ إِلَّا بَيْنَتَهُ ، وَإِذَا أَقْرَأَ لغيرِ وَارِثٍ جَازًا .

(۲۱۱۳۸) حضرت حکم، حضرت ابراہیم، حضرت شععی اور حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر مرض الوفات میں کوئی شخص کسی وارث کے لئے قرض کا اقرار کرے تو گواہی کے بغیر جائز نہیں اور اگر غیر وارث کے لئے کیا تو جائز ہے۔

(۲۱۱۳۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أُدَيْنَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ لِرِوَارِثِ بَدْنَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ .

(۲۱۱۳۹) حضرت ابن اذینہ فرماتے ہیں کہ وارث کے لئے قرضہ کا اقرار جائز نہیں۔

(۲۱۱۴۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ .

(۲۱۱۴۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مریض کا اقرار جائز نہیں۔

(۲۱۱۴۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَقْرَأَ لِرِوَارِثِ بَدْنَيْنِ ، قَالَ : جَائِزٌ .

(۲۱۱۴۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وارث کے لئے قرض کا اقرار جائز ہے۔

(۲۱۱۴۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالْبَدْنَيْنِ لِرِوَارِثِ ، وَلَا يُجِيزُهُ لِرِوَارِثِ إِلَّا بَيْتَةً .

(۲۱۱۴۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ موت کے وقت غیر وارث کے لئے قرض کا اقرار جائز ہے لیکن وارث کے لئے بغیر گواہی کے جائز نہیں۔

(۲۱۱۴۳) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُؤَصِّلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إِذَا أَقْرَأَ الرَّجُلُ بَدْنَيْنِ فِي مَرَضِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقْرَأَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازٌ وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ .

(۲۱۱۴۳) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض میں قرض کا اقرار کرے تو جائز ہے، کیونکہ اگر حالتِ صحت میں کرتا تو بھی جائز ہوتا اور جب حالتِ مرض میں کر رہا ہے تو بطریقِ اولیٰ جائز ہونا چاہئے۔

(۸۸) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ

نقد ادا کیلئے کے بعد ایک مقررہ مدت پر غلے کی بیع کرنا

(۲۱۱۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَارُوسٍ ، قَالَ : إِذَا بَعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا تَأْتِيهِ طَعَامًا ، قَالَ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْنَاءِ : إِذَا حَلَّ دِينَارُكَ فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ .

(۲۱۱۴۴) حضرت طاروس فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی ایک مقررہ مدت تک غلے کی بیع کرے تو وہ مدت پوری ہو جانے کے!

خود بخود غلے کو اٹھا نہیں سکتا، حضرت جابر بن زید ابوشعثاء فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دینار خرچ کر دو تو جو چاہو لے سکتے ہو۔

(۲۱۱۴۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : بَعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا أَخَذْتُ مِنْ تَمْرِي تَمْرًا ؟ قَالَ : لَا تَأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يَكْفَى وَبِوزْنٍ .

(۲۱۱۳۵) حضرت محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو کھجوریں بیچیں، کیا میں کھجوروں کی قیمت سے کھجوریں خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسا غلہ نہ لو جسے کیل یا وزن کیا جاتا ہے۔

(۲۱۱۴۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا بَعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ ، لَا تَأْخُذْ طَعَامًا إِلَّا طَعَامَكَ بِعَيْنِهِ .

(۲۱۱۳۶) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب تم نے غلے کو ایک مدت تک کے لئے فروخت کیا، اور تم نے اپنا مال ادا کر دیا تو تم اپنے سامان میں سے جو چاہو لے لو، البتہ اگر غلہ لو تو صرف اپنا غلہ ہی لو۔

(۲۱۱۴۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَبْرُكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيَقَاصَهُ فُكِّرَ هَهُ .

(۲۱۱۳۷) حضرت ابوسلمہ نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ آدمی دوسرے آدمی کو ایک مدت تک کے لیے ایک ریوڑ فروخت کرے، جب وہ مدت آئے تو وہ ریوڑ کو واپس لے کر بیع کو ختم کرنے کا ارادہ کرے۔

(۲۱۱۴۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكُرْبَاءَ بَارِعِينَ نَسًا ، ثُمَّ يَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا ، مِثْلَهُ بِدُونِ الْأَرْبَعِينَ .

(۲۱۱۳۸) حضرت حارث اور حضرت حماد نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آدمی غلے کا ایک کڑ چالیس میں ادھار پر خریدے اور پھر چالیس کے بغیر اس جیسا غلہ خرید لے۔

(۲۱۱۴۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا بَعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلَكَ فَلَا تَأْخُذْهُمَا وَخُذْ مَا خَالَفَاهُمَا .

(۲۱۱۳۹) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی کیلی یا موزونی چیز جب ایک مدت تک کے لئے بیچو اور جب وہ مدت آجائے تو ان دونوں کو نہ لو بلکہ ایسی چیز لو جو ان کے مخالف ہو۔

(۲۱۱۵۰) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَا : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلَ ، فَلَا يَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا .

(۲۱۱۵۰) حضرت سعید بن مسیب اور حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مقررہ مدت تک کے لئے سونے کے بدلے غلہ خریدے تو مدت کے آنے پر کھجوریں نہ لے۔

(۲۱۱۵۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذْ كَيْلًا .

(۲۱۱۵۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کیل کر کے نہ لو۔

(۲۱۱۵۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بَرًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا

حَلَّ الْأَجَلَ أَيَاخُذُ بَرًّا مَكَانَ ذَرَاهِمِهِ؟ قَالَ: لَا.

(۲۱۱۵۲) حضرت ابراہیم بن نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاووس سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو گندم ایک مدت تک کے لئے بیچی، جب مدت آئی تو کیا وہ دراہم کی جگہ گندم لے سکتا ہے، انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۲۱۱۵۲) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بَرًّا مَكَانَهُ.

(۲۱۱۵۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دراہم کی جگہ گندم لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۱۵۴) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ ذَرَاهِمَهُ ، قَالَ: خُذْ مَا شِئْتَ.

(۲۱۱۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ایک مدت تک کے لئے گندم بیچی، جب وہ مدت آئی تو اس کے پاس دراہم نہیں تھے تو وہ جو چاہے لے لے۔

(۲۱۱۵۵) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ حَمَادٍ ، قَالَ: خُذْ مَا شِئْتَ.

(۲۱۱۵۵) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جو چاہو لے لو۔

(۲۱۱۵۶) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: فَرَلَيْكَ طَعَامًا بِطَعَامٍ.

(۲۱۱۵۶) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یہ غلہ غلے کے بدلے ہوگا۔

(۲۱۱۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلَ ، أَيَاخُذُ مَتَاعًا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ، فَيَقِيلُ لَهُ: أَيَبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا؟ قَالَ: فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا.

(۲۱۱۵۷) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سامان کو ایک مدت تک کے لئے بیچے اور جب وہ مدت آجائے تو کیا وہ سامان لے سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے مقروض کے پاس جاتا ہے اور اس سے یہ لے لیتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ کیا وہ غلہ بیچ رہا ہے اور غلہ ہی لے رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔

(۲۱۱۵۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَيْنِ الْمُتَوَكَّفِيِّ مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ: لَا يَأْخُذُ الطَّعَامَ.

(۲۱۱۵۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ فرمایا جو فوت ہو جائے اور اس نے کسی کا غلہ دینا ہو تو غلہ نہیں لیا جائے گا۔

(۸۹) فی الرجل اشتری داراً فبناها

ایک آدمی گھر خریدے اور اس کی تعمیر کرے، پھر شفیع یا مستحق نکل آئیں تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۱۵۹) حَدَّثَنَا حَنْصُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَبْنِيهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ ، قَالَ : يَا أَخْذُهَا بِبَيْتِهَا ، أَوْ بِقِيمَتِهَا ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَقْلَعُ بِنَائِهَا وَيَأْخُذُهَا .

(۲۱۱۵۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گھر خریدنے کے بعد اس کی تعمیر کرے پھر شفیع کرنے والا آجائے تو وہ یا تو اس کی عمارت کے ساتھ لے گیا یا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس کی عمارت کو گرا کر وہ لے سکتا ہے۔

(۲۱۱۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ، فَكَتَبَ أَنْ تُقَوِّمَ الْعُرْصَةَ وَيَقْوَمَ الْبِنَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ أَبِي سَلَّمَ الْعُرْصَةَ بِقِيمَتِهَا .

(۲۱۱۶۰) حضرت خالد حداء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھر خرید کر اسے تعمیر کیا، پھر ایک آدمی اس میں مستحق نکل آیا تو زمین اور عمارت کی قیمت لگوائی جائے گی، اگر وہ چاہے تو عمارت کی قیمت ادا کر کے لے لے، اور اگر انکار کرے تو زمین کو اس کی قیمت کے ساتھ گاہک کے حوالے کر دے۔

(۲۱۱۶۱) قَالَ وَرَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانٌ : يَقْلَعُ بِنَائِهِ .

(۲۱۱۶۱) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اس کی عمارت گرائی جائے گی۔

(۹۰) فی الرجل یتزوج المرأة علی الدار

مکان کو مہر بنا کر شادی کرنے کا حکم

(۲۱۱۶۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ ، فَطَلَبَ شَفِيعُ الدَّارِ الدَّارَ ، قَالَ : يَا أَخْذُهَا بِصَدَاقِ مِثْلِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَلَكِنْ يَا أَخْذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ .

(۲۱۱۶۲) حضرت حارث عکلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے ایک مکان کے عوض شادی کرے پھر مکان کا شفیع مکان کو طلب کرے تو عورت کو اس کا مہر مثلی ملے گا، ابن شبرمہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ نہیں البتہ شفیع اس کی قیمت لے سکتا ہے۔

(۲۱۱۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقِ شَفِيعَةٍ .

(۲۱۱۶۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مہر میں شفیع نہیں ہو سکتا۔

(۲۱۱۶۴) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقِ شَفِيعَةٍ .

(۲۱۱۶۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مہر میں شفعہ نہیں ہو سکتا۔

(۲۱۱۶۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الدَّارِ ، قَالَ : يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيَمَةِ الدَّارِ .

(۲۱۱۶۵) حضرت ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی مکان کے عوض عورت سے نکاح کیا تو شفیع مکان کی قیمت لے سکتا ہے۔

(۹۱) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدِّينِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ ؟

اگر ایک آدمی نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۱۶۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَأَيْنَ وَارِثُهُ ؟ فَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيْرٌ .

(۲۱۱۶۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کسی آدمی کا قرضہ ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے یا اس کے ورثاء کہاں ہیں تو اس کی طرف سے صدقہ کرو، اس کے بعد اگر وہ آجائے تو اسے اختیار دے دو۔

(۲۱۱۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْرِفُ صَاحِبَ الدِّينِ ، فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِذَلِكَ الدِّينِ .

(۲۱۱۶۷) حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہلاک ہو گیا اور اس پر قرضہ تھا، قرضہ دینے والا کو علم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حکم دیا کہ قرضے کے برابر رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔

(۲۱۱۶۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ وَارِثُهُ فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ وَارِثُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ .

(۲۱۱۶۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے اور اس پر قرضہ ہو اور معلوم نہ ہو کہ اس کے ورثہ کہاں ہیں تو وہ قرضہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے اور اگر وہ مسلمان ہو اور معلوم نہ ہو کہ اس کے ورثہ کہاں ہیں تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔

(۲۱۱۶۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَعَابَ صَاحِبَهَا فَعَرَفَهَا سَنَةً ، أَوْ قَالَ : حَوْلًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ فَإِنْ آتَى قَالِي وَعَلِيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِاللُّقْطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ .

(۲۱۱۶۹) حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے سات سو درہم میں ایک باندی خریدی، ابھی رقم کی ادائیگی نہیں

ہوئی تھی کہ باندی کا مالک غائب ہو گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہے، پھر وہ مسجد گئے اور اس کی قیمت صدقہ کرنا شروع کی، ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ! یہ اس کی طرف سے ہے، اگر وہ آگیا تو میری طرف اور مجھ پر لازم ہوگا، پھر فرمایا کہ ہر گری پڑی یا گمشدہ چیز کے ساتھ یونہی کیا کرو۔

(۹۲) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الْخُمْسِ

خمس سے باندی خریدنے کا بیان

(۲۱۱۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ خُمْسٍ قُيِّمَ ، فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَاتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ : هِيَ لَكَ .

(۲۱۱۷۰) حضرت محمد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے خمس میں سے ایک باندی خریدی، میں نے اس باندی کے پاس پندرہ دینار پائے، میں وہ لے کر حضرت عبدالرحمن بن خالد بن ولید کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہیں۔

(۲۱۱۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ : يَرُدُّهَا .

(۲۱۱۷۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مال غنیمت میں سے کوئی باندی خریدے اور پھر اس کے پاس اسے چاندی ملے تو اسے واپس کر دے۔

(۲۱۱۷۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أُمَّةً يَوْمَ الْقَادِيسِيَّةِ مِنَ الْفُجَاءِ ، فَاتَتْهُ بِحُلِيِّ كَانَتْ مَعَهَا ، فَاتَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ .

(۲۱۱۷۲) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگ قادسیہ میں مال غنیمت میں حاصل ہونے والی ایک باندی خریدی، اس باندی پر کچھ زیور تھا، وہ آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ زیور کو مسلمانوں کے مال غنیمت میں جمع کرادو۔

(۹۳) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ

اگر کوئی شخص آزاد کرنے کی نیت سے غلام خریدے تو کیا طریقہ ہے؟

(۲۱۱۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ ، عَنِ الْحَرَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ جَسْرَ عَنَزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَّارٍ : الرَّجُلُ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَ الْمُعْتَقَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ مُعْتَقًا تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَهُ فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهِ الْعِتْقَ ، فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرُّقِّ ، وَلَكِنْ اشْتَرِهِ سَاكِنًا ، فَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ .

(۲۱۱۷۳) حضرت ابو عبد اللہ جبری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معتقل بن یسار سے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی غلام کو آزاد کرنے کے لئے خریدنا چاہتا ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تم کسی غلام کو آزاد کرنے کی نیت سے خریدو تو اس کے مالک سے آزادی کا تذکرہ کر کے نہ خریدو، بلکہ خاموشی سے خریدو پھر اگر چاہو تو روک لو اور اگر چاہو تو اسے آزاد کر دو۔

(۲۱۱۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَيُّوبَ فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ .

(۲۱۱۷۳) حضرت ابن علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مذکورہ حدیث کا ذکر حضرت ایوب سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ معاملہ مکمل نہیں ہے۔

(۲۱۱۷۵) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتَقَهَا ، قَالَ : فَكَّرَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ .

(۲۱۱۷۵) حضرت شعبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی پر غلام کا آزاد کرنا لازم تھا، اس نے غلام خرید اور خریدتے ہوئے اس پر آزاد کرنے کی شرط لگائی مگر وہ یہ مکرہ ہے اور یہ معاملہ مکمل نہیں ہے۔

(۲۱۱۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا : كَانَا لَا يَرِيَانَهَا سَلِيمَةً .

(۲۱۱۷۶) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ کسی غلام کو خرید اور اس کو آزاد کرنا بیع کی شرط میں شامل تھا تو یہ معاملہ سلیم نہیں ہے۔

(۲۱۱۷۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا : فَلَا يَشْتَرِطُ أَنَّهُ يَشْتَرِيهَا لِلْعَتَقِ .

(۲۱۱۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر غلام کا آزاد کرنا واجب تھا، پھر اس نے غلام خرید تو خریدتے ہوئے آزاد کرنے کی شرط نہیں لگائے گا۔

(۲۱۱۷۸) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَائِدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ مَوْلَاهَا عِتْقَهَا ، قَالَ : الْأَجْرُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي اشْتَرَطَ .

(۲۱۱۷۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص باندی خریدے اور اس کے آقا کے ساتھ اس کو آزاد کرنے کی شرط طے کرے تو اس کی آزادی کا ثواب اس کے آقا کو ملے گا۔

(۹۴) فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِي كُونَ فِي الْعِدْلِ

اگر کچھ لوگ اونٹ پر لدے کسی سامان تجارت میں شریک ہوں تو اس کی فروخت کا طریقہ

(۲۱۱۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِي كُونَ فِي الْعِدْلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ

بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ أَنْ يَفْتَسِمُوا.

(۲۱۱۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اونٹ پر لدے کسی سامان تجارت میں شریک ہوں تو اس کی فروخت ان میں سے ایک آدمی تقسیم سے پہلے کر سکتا ہے۔

(۲۱۱۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيئَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۱۸۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر ایک سامان میں دو آدمی شریک ہوں تو کیا ان میں سے ایک آدمی اپنی حصے کو تقسیم سے پہلے فروخت کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۱۱۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ .

(۲۱۱۸۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دونوں شریک اپنا اپنا سامان نکال لیں۔

(۲۱۱۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يُقَاسِمَهُ .

(۲۱۱۸۲) حضرت محمد اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی سامان کو تقسیم سے پہلے فروخت کر دے۔

(۲۱۱۸۳) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يَقْسِمَ ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۱۸۳) حضرت حسن اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ ایسی چیز کو تقسیم سے پہلے بیچنا مکروہ ہے جس میں تقسیم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور جس میں تقسیم کا اندازہ نہ لگایا جاسکتا ہو اسے تقسیم سے پہلے فروخت کرنے میں کچھ حرج نہیں۔

(۲۱۱۸۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَقَّافُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكَ مِنْ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يَقَاسِمَهُ خَلَا الْكَيْلُ وَالْوُزْنُ .

(۲۱۱۸۴) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تقسیم سے پہلے سامان میں ایک شریک اپنا حصہ فروخت کر دے، البتہ کیلی اور موزونی چیزوں میں ایسا نہیں ہو سکتا۔

(۹۵) فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ

خَرَاجِ زَمِينٍ كَوَ خَرِيدَةِ كَابِيَانِ

(۲۱۱۸۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ .

(۲۱۱۸۵) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خراجی زمین کو خریدا۔

(۲۱۱۸۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ .

(۲۱۱۸۶) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خراجی زمین کو خریدا۔

(۲۱۱۸۷) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئًا إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَانِقِيَاءَ وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ الْيَسِ .

(۲۱۱۸۷) حضرت ابن معقل فرماتے ہیں کہ مضافاتی علاقوں میں اہل بانقیاء، اہل حیرہ اور اہل الیس کے علاوہ کوئی جگہ نہ خریدو۔

(۲۱۱۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُشْتَرَى مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْجَزْيَةِ .

(۲۱۱۸۸) حضرت حسن اور حضرت محمد نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ سلطان سے جزیہ والی زمین خریدی جائے۔

(۲۱۱۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَرْضِ الدِّمَةِ ، وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا .

(۲۱۱۸۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حکم نامے میں تحریر فرمایا کہ ذمیوں کی زمین اور ان کے علاقوں سے کچھ نہ خریدو۔

(۲۱۱۹۰) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَعِيمُ بْنُ سَلَامَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا يُؤَدِّي عَنْهَا الْجَزْيَةَ .

(۲۱۱۹۰) حضرت نعیم بن سلامہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آدمی کو زمین دی جس کا جزیہ دیا جاتا تھا۔

(۲۱۱۹۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجَاءُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتْ تَمْرٌ أَرْضٌ يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْخَرَاجَ .

(۲۱۱۹۱) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین کی کچھ زمین تھی جس کا وہ خراج ادا کرتے تھے۔

(۲۱۱۹۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ ابَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِمَارِبَآ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْعَلُوا لِي أَعْنَاقَكُمْ صَغَارًا بَعْدَ أَنْفَذَكُمْ اللَّهُ مِنْهُ .

(۲۱۱۹۲) حضرت ابان بن صمعه کہتے ہیں کہ میں نے بکر بن عبداللہ مزنی سے سوال کیا کہ کیا خراجی زمین کو اس کے چشموں کے سا

خریدا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ تم اپنی گردنوں میں ذلت کا طوق ڈالو جبکہ اللہ تمہیں اس نجات دے چکا ہے۔

(۲۱۱۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ شِرَاءِ

أَرْضِ الْخَرَاجِ ، أَوْ شَيْءٍ هَذَا مَعْنَاهُ ، فَقَالَ : نُخْرِجُ الصَّغَارَ مِنْ عُنُقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ .

(۲۱۱۹۳) حضرت تابع فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خراجی زمین کو خریدنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ذلت کو اپنی گردن سے نکال کر تمہاری گردن میں ڈالنا چاہتا ہے؟

(۲۱۱۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَامِ بْنِ مَسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْحِزْيَةِ .

(۲۱۱۹۴) حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جزیرہ والی زمین کے خریدنے کو مکروہ قرار دیا۔

(۲۱۱۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ :

عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعُقَيْلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذَّمِّ شَيْئًا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ ، يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا مِنْ أَرْضِهِمْ . (عبدالرزاق ۱۹۳۹۰)

(۲۱۱۹۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے غلاموں کو نہ خریدو، کیونکہ وہ خراج والے ہیں اور ایک دوسرے کو بیچتے ہیں اور ان کی زمینیں بھی نہ خریدو۔

(۲۱۱۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ شَيْءٌ وَيَقُولُ : عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسْلِمِينَ .

(۲۱۱۹۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ خراجی زمینوں کے خریدنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان زمینوں پر مسلمانوں کا خراج لازم ہے۔

(۲۱۱۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ السَّوَادِ .

(۲۱۱۹۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذمیوں سے کسی چیز کے خریدنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۱۱۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ

أَرْضِ الْخَرَاجِ فَقَالَ : لَا تَبْعَهَا ، وَلَا تَشْتَرِهَا .

(۲۱۱۹۸) حضرت عبدالرحمن بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے خراجی زمینوں کو خریدنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں نہ بیچو اور نہ ہی خریدو۔

(۲۱۱۹۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْحِزْيَةِ .

(۲۱۱۹۹) حضرت مجاہد نے جزیرہ والی زمین کے خریدنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۹۶) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِدُ بِهِ الْعَيْبَ

ایک آدمی کوئی چیز خریدے اور پھر اس میں عیب نظر آئے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۲۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الدَّاءِ الَّذِي لَا

یُرَى عَلَى عِلْمِهِ ، وَعَلَى الظَّاهِرِ البتة .

(۲۱۲۰۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح اس بیماری پر قسم دلاوایا کرتے تھے جو نظر نہیں آسکتی، اس کے علم پر اور ظاہر پر۔

(۲۱۲۰۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانٍ مِئَةَ دِرْهَمٍ فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرَى عَيْبًا ، فَنَخَّصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ : بَعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : اتَّحْلِفُ لَكَ : لَقَدْ بَعْتُهُ وَمَا بِهِ عَيْبٌ تَعْلَمُهُ .

(۲۱۲۰۱) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آٹھ سو درہم کا ایک غلام فروخت کیا، پھر مشتری کو اس میں عیب نظر آ تو وہ یہ مقدمہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے برأت کے ساتھ بیچا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی قسم کھاتے ہو کہ تم نے اسے بیچا تھا تو اس وقت تمہیں اس میں کسی عیب کا علم نہیں تھا۔

(۲۱۲۰۲) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، أَوْ السَّلْعَةَ فَبِجَ بِهِ الْعَيْبُ ، قَالَ : يَلْتَمِسُ الْمُبْتَاعُ الْبَيِّنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَإِنْ وَجَدَهَا وَإِلَّا : اتَّحْلِفَ الْبَائِعُ عَلَى عِلْمِهِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ .

(۲۱۲۰۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی سامان خریدے اور پھر اس میں عیب پائے تو خریدار کو اس بات پر گواہی کی ضرورت ہوگی کہ یہ عیب بائع کے پاس ہی تھا، اگر گواہی مل جائے تو ٹھیک وگرنہ بائع سے قسم لی جائے گی کہ اسے اس عیب کا علم نہ تھا حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ علم کی قسم لی جائے گی۔

(۲۱۲۰۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَبِهَا بَرَصٌ وَلَيْسَ لَهُ شُهُودٌ قَالَ : يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ : مَا بَاعَهَا وَبِهَا بَرَصٌ .

(۲۱۲۰۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے باندی خریدی اور پھر دیکھا کہ اس میں چھپک کی بیماری تھی اور خریدار کے پاس گواہ بھی نہیں تھے تو بائع سے قسم لی جائے گی کہ جب اس نے بیچا تو چھپک نہیں تھی۔

(۲۱۲۰۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ذَرٍّ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَعُ عَنْ حَقِّ يَعْلَمُهُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِي الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ : إِنَّمَا إِثْمُهُ وَبَرُّهُ عَلَى مَا تَعَمَّدَ .

(۲۱۲۰۴) حضرت عمر بن زفر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمن اس بات پر قسم لیا کرتے تھے کہ بائع نے جب اس چیز کو لے لیا تو اس کے عیب کا اسے علم نہیں تھا، حضرت شعبی یمنی مرسلہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ اس پر ہے جو جا بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔

(۲۱۲۰۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطَاءِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا بَا

رَجُلًا سِلْعَةً ، فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : أَحْلِفْ بِاللَّهِ : مَا بَعْتَنِي عَيْبًا ، فَقَالَ الْبَائِعُ : أَحْلِفْ بِاللَّهِ : لَقَدْ بَعْتُكَ وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : فَقَالَ : عُمَانُ : أَنْصَفَكَ الرَّجُلُ .
(۲۱۲۰۵) حضرت عطاء مدینی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کچھ سامان بیچا، پھر مشتری نے عیب کا دعویٰ کر دیا، اور وہ یہ جھگڑالے کرتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، مشتری نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ جب تم نے مجھے بیچا تھا تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، بائع نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں یہ چیز بیچی تھی تو مجھے اس میں کسی عیب کا علم نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے تم سے انصاف کیا۔

(۲۱۲۰۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَنْ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا لِأَنْبِيءٍ فِيهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يُؤَدَّى عَنْهَا الْخِرَاجَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قُلْتُ : أَقْرَبُ بِالصَّغَارِ ، قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي رُؤُوسِ الرِّجَالِ .

(۲۱۲۰۶) حضرت زبیر بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کہ کیا میں خراج والی بنجر زمین کو کھیتی باڑی کے لئے خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا کہ کیا اس کا خراج ادا کیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا کہ میں چھوٹوں کے لئے اقرار کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ بات مردوں کے سروں میں ہوتی ہے۔

(۹۷) فِي بَيْعِ الْمُحَقَّلَاتِ

بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر کر انہیں فروخت کرنا درست نہیں

(۲۱۲۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّا كُمْ وَبَيْعَ الْمُحَقَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .

(۲۱۲۰۷) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر کر انہیں فروخت کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ کہ ہے اور دھوکہ کسی مسلمان کے لئے درست نہیں۔

(۲۱۲۰۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : النَّصْرِيَّةُ خِلَابَةٌ .
(۲۱۲۰۸) حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ بکریوں کے تھنوں کو بھر کر انہیں فروخت کرنا دھوکہ ہے۔

(۲۱۲۰۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تَحْفَلُوا . (ترمذی ۱۳۶۸ - احمد ۱/۲۵۶)

(۲۱۲۰۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شہر کے باہر سے آنے والے تجارتی قافلے پوشہ نہ باہر جا کر نہ ملو اور جانوروں کے تھنوں کو دودھ سے بھر کر فروخت نہ کرو۔

(۲۱۲۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ اللَّفْحَةَ ، أَوْ الشَّاةَ فَلَا يُحْفَلُهَا .

(احمد ۲/۳۸۱۔ ابن ماجہ ۲۲۳۱)

(۲۱۲۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اونٹنی یا بکری کو بیچو تو اس کے تھنوں میں دودھ روک کر مت بیچو۔

(۲۱۲۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضَّمْحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، قَالَ : بَيْعُ الْمُحْفَلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَأَنْ تَحِلَّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .

(۲۱۲۱۱) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صادق و مسدوق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ روک کر اسے فروخت کرنا دھوکا ہے اور دھوکہ دینا مسلمان کے لئے حلال نہیں۔

(۹۸) فِي شِرَاءِ الْغُلَامِ وَبَيْعِهِ

بچے کی خرید و فروخت کا حکم

(۲۱۲۱۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عِنَقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ .

(۲۱۲۱۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بچے کے لئے خرید و فروخت کرنا اور غلام کو آزاد کرنا درست نہیں۔

(۲۱۲۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ ، وَلَا بَيْعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ .

(۲۱۲۱۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ بچہ کی اجازت کے بغیر خرید و فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

(۲۱۲۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : إِذَا جَازَ بِيٍّ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاتُهُ .

(۲۱۲۱۴) حضرت مطرف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے کہا کہ کیا بچے کے لئے خرید و فروخت کرنا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے خرید و فروخت کرنے کو درست سمجھتے ہو تو اس کے آزاد کرنے کو بھی درست سمجھو۔

(۲۱۲۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ ، وَلَا شِرَاؤُهُ .

(۲۱۲۱۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بچے کے لئے خرید و فروخت کرنا درست نہیں۔

(۹۹) فی الرجلین یختصمان فی دعویٰ أحدهما علی الآخر الشیء علی من تكون الیمین؟
اگر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو، ایک دوسرے پر کسی چیز کے حق کا دعویٰ کرے تو قسم کس پر ہوگی؟

(۲۱۲۱۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّىٰ بَلَغَ النَّبِيَّةَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَصْمٍ، وَلَا ظَلِيمٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(ابوداؤد ۳۹۶۵ - عبدالرزاق ۱۵۳۶۵)

(۲۱۲۱۶) حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا اور اس نے اعلان کیا کہ فریق مخالف اور گمان رکھنے والے کی گواہ درست نہیں، قسم مدعی علیہ پر ہے۔

(۲۱۲۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَعْمَرِ الْبُصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ.

(۲۱۲۱۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے نام خط میں لکھا کہ قسم انکار کرنے والے پر ہے۔

(۲۱۲۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَ: مَضَّتِ السُّنَّةُ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(۲۱۲۱۸) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ سنت یہ رہی ہے کہ قسم مدعی علیہ پر ہے۔

(۲۱۲۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانِ أَبِي الْأَشْرَسِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيْتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ دَاءً، وَإِلَّا فِيمِينُهُ بِاللَّهِ: مَا بَاعَكَ دَاءً.

(۲۱۲۱۹) حضرت شریح کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے ایک باندی بیچی ہے جس کی گردن میں مرض ہے، حضرت شریح نے اس سے فرمایا کہ تم پر گواہی لازم ہے کہ اس نے تمہاری باندی بیماری کی حالت میں بیچی تھی، بصورت دیگر وہ قسم کھائے گا کہ اس نے بیماری کے ساتھ تمہیں باندی نہیں بیچی۔

(۲۱۲۲۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعَهُ دَاءً.

(۲۱۲۲۰) حضرت شعبی نے ایک آدمی سے فرمایا کہ تم کھاؤ کہ تم نے اسے بیماری کے ساتھ اپنی باندی نہیں بیچی۔

(۲۱۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ بِالْيَمِينِ عَلَىٰ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (بخاری ۲۵۱۳ - مسلم ۱۱۳۳۶)

(۲۱۲۲۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدعی علیہ پر قسم کو لازم قرار دیا۔

(۲۱۲۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ. (بيهقي ۱۰- دارقطني ۲۱۹)

(۲۱۲۲۲) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مطلوب پر قسم کو لازم قرار دیا۔

(۲۱۲۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيبِ بْنِ شَقِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ، قَالَ الْأَشْعَثُ : فِيَّ وَاللَّهِ نَزَلَتْ : كَانَ بَنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَبَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْكَ بَيْتَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ ، فَقُلْتُ : إِذَا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. (بخاری ۲۳۱۶- مسلم ۲۲۱)

(۲۱۲۲۳) حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یمن پر قسم کھائی اور کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لئے اس میں جھوٹ بولا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا، میں یہ مقدمہ لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا نہیں، آپ نے یہودی سے کہا کہ قسم کھاؤ، میں نے کہا کہ اس طرح تو یہ میرا مال لے جائے گا! اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

(۱۰۰) فِي أَجْرِ الْمُعَلِّمِ

معلم کے اجرت لینے کا بیان

(۲۱۲۲۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قَلَابَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا ، فَلَمْ يَرَّ بِهِ بَأْسًا .

(۲۱۲۲۴) حضرت خالد الحداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا معلم تعلیم دے کر اس پر اجرت لے سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ اجرت لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۲۲۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ ، وَلَا يُشَارِطَ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ .

(۲۱۲۲۵) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ معلم تعلیم دے اور (اجرت) کی شرط نہ لگائے اگر اس کو کچھ دے دیا جائے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۲۲۶) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ ،

وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.

(۲۱۲۲۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معلم شرط نہ لگائے اور اگر اُس کو کچھ دیا جائے تو اُس کو قبول کر لینا چاہیے۔
(۲۱۲۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ.

(۲۱۲۲۷) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ معلم کے اجرت لینے پر کوئی حرج نہیں سمجھتے اگر اُس نے اس کی شرط نہ لگائی ہو۔
(۲۱۲۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صَدَقَةَ الدَّمَشَقِيِّ ، عَنِ الْوُضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصَّبِيَّانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ.
(۲۱۲۲۸) حضرت وُضِين بن عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تیس معلمین بچوں کو تعلیم دینے پر مامور تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان میں سے ہر ایک معلم کو ماہانہ پندرہ (درہم یا دینار) وظیفہ دیا کرتے تھے۔

(۲۱۲۲۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُهَيَّبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلِّمَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.
(۲۱۲۲۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ معلم تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی شرط لگائے۔
(۲۱۲۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يُشَارِطَ.
(۲۱۲۳۰) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ معلم کے لئے اجرت کی شرط لگانے کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۱۲۳۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا ، وَكَرِهَ الشَّرْطَ.
(۲۱۲۳۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معلم اگر کتابت پر کچھ اجرت لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط لگانے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۲۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلِّمَ بِشَرْطٍ.
(۲۱۲۳۲) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ معلم کے اجرت کی شرط لگانے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۲۳۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنْ أَحَدًا كَرِهَهُ . يَعْنِي : أَجْرَ الْمُعَلِّمِ .
(۲۱۲۳۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے بھی معلم کے اجر لینے کو ناپسند کیا ہو۔

(۲۱۲۳۴) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَرَجُو أَنْ يَأْجُرَهُ اللَّهُ ، يُوَدِّعُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ .
(۲۱۲۳۳) حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید تو یہ ہے کہ اللہ پاک اُس کو ضرور اجر عطا فرمائے گا، وہ بچوں کو تعلیم اور ادب سکھائے۔

(۲۱۲۳۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِدَةَ الطَّائِنِي ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُعَلِّمُ لَا يُشَارِطُ ، فَإِنْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ .

(۲۱۲۳۵) حضرت عامر بن شیبہ فرماتے ہیں کہ معلم شرط تو نہ لگائے، ہاں اگر اُس کو کچھ ہدیہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔

(۲۱۲۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أَوْلَادِكَ الصَّخَامِ ، قَالَ : فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمَهْرَجَانِ .

(۲۱۲۳۶) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک معلم تھے اُس کے پاس اُس بڑے آدمی (سخی) کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ وہ نیروز اور مہرجان میں اُس معلم کے حق کو سمجھتے تھے۔

(۱۰۱) من کرہ أجر المعلم

جو حضرات معلم کے اجرت لینے کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۱۲۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُعِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ عِبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ نَعْلِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ : لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لِأَتَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسَأَلْتُهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أَعَلَّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَأَقْبَلْهَا .

(ابوداؤد ۳۴۰۹ - احمد ۳۱۵/۵)

(۲۱۲۳۷) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدرسہ صفہ کے کچھ طلبہ کو میں نے کتابت اور قرآن پاک کی تعلیم دی، ان میں سے ایک شخص نے مجھے کمان ہدیہ میں دی، پس میں نے یہ کہتے ہوئے قبول کر لیا کہ یہ مال نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتے وقت دشمن پر تیر برسوں گا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ سے اس کے متعلق پوچھوں گا۔ پھر میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! ایک شخص نے مجھے کمان ہدیہ میں دی ہے، کیونکہ میں نے اُس کو کتابت اور قرآن کریم کی تعلیم دی تھی اور مال نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کروں گا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ آگ کا طوق بنا کر تیرے گلے میں ڈالا جائے تو اُس کو قبول کر لے۔

(۲۱۲۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا

(۲۱۲۳۸) حضرت عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معلم کے اجرت لینے کو ناپسند کیا گیا ہے، بے شک نبی اکرم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو ناپسند کرتے تھے اور اس کو سخت (گناہ، وبال) سمجھتے تھے۔

(۲۱۲۳۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبِي بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلًا مَكْفُوفًا ، فَكَانَ إِذَا آتَاهُ عَدَاهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ شَيْئًا يَتَحَفُّكَ بِهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهِ وَطَعَامِ أَهْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

(ابن ماجہ ۲۱۵۸۔ بیہقی ۱۲۶)

(۲۱۲۳۹) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک نابینا شخص کو تعلیم دی، اُس کے بعد جب بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے وہ آپ کو کھانا کھلاتا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق میرے دل میں کچھ شبہ سا پیدا ہوا، میں نے رسول کریم رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ چیز تجھے تھکے (اجرت) میں دیتا ہے تو تیرے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور اگر اپنے اور اپنے گھروالوں کے کھانے کے لئے ہے تو پھر اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۲۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْكُتَابِ أَجْرًا .

(۲۱۲۴۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بچوں کو کتابت سکھا کر اجرت کو ناپسند کرتے تھے۔

(۱۰۲) من كره إذا أسلم المسلم أن يصرفه في غيره

جو حضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ بیع سلم میں جب ثمن سپرد کر دیا جائے تو اس

کو کسی اور کام میں خرچ کر دے

(۲۱۲۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَمَاءَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْتَ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَقْلًا فَخُذْ إِنْ شِئْتَ .

(۲۱۲۴۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تو کھانے کی چیز میں بیع سلم کر لے تو ہرگز اس کی جگہ دوسرا کھانا نہ لے۔ اگر تو اس کی جگہ چارہ لینا چاہے تو چارہ لے لے۔

(۲۱۲۴۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : خُذْ عَرَضًا ، خُذْ عَنَّا .

(۲۱۲۴۲) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی چیز میں بیع سلم کی پھر اس چیز نہ کو نہ پایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا سامان لے لے، بکریاں لے لے۔

(۲۱۲۴۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرَضًا .

(۲۱۲۴۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو بیع سلم میں ثمن ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تو اپنے راس المال

سے سامان خرید لے۔

(۲۱۲۴۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ .

(۲۱۲۴۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی چیز مسلم کرے تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لے اُس کو آگے فروخت نہ کر، اور ہی اُس کو کسی اور چیز میں خرچ کر۔

(۲۱۲۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلْمِ ، وَلَا تَصْرِفَهُ إِلَى غَيْرٍ . وَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .

(۲۱۲۴۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیع مسلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اُس کو کسی غیر چیز میں خرچ نہ کرے اور جب تا قبضہ نہ کر لے فروخت نہ کر۔

(۲۱۲۴۶) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ ، وَتُسَلِّمَنَّ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ تَحْوِلْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ .

(۲۱۲۴۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی چیز میں بیع مسلم کرے تو صرف وہی چیز لے جس میں تو نے بیع مسلم کی ہے، کسی ایسی چیز میں بیع مسلم نہ کر کہ جس کو تو بعد میں دوسری چیز سے تبدیل کرے۔

(۲۱۲۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ، فَمِنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذُ شَعِيرًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلَا يَأْخُذُ حِنْطَةً كَرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

(۲۱۲۴۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے بیع مسلم کی۔ لہذا اب جو کوئی بھی گندم میں بیع مسلم کرے گا وہ جو بیج لے سکتا اور جو کوئی جو بیع مسلم کرے گا وہ گندم نہیں لے سکتا جس کا وزن اور مدت معلوم ہونی چاہیے۔

(۲۱۲۴۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَصْرِفُ سَلْمَكَ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ .

(۲۱۲۴۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے قبل اپنے سلم میں تصرف نہ کرنا۔

(۱۰۳) فِي الْبَيْعِينَ يَخْتَلِفَانِ

اگر خرید و فروخت کرنے والوں کا اختلاف ہو جائے

(۲۱۲۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ .

(ترمذی ۳۴۷۰۔ ابوداؤد ۵۰۵)

(۲۱۲۴۹) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے تو بائع کی بات معتبر ہے اور مشتری کو اختیار ہے اگر چاہے تو بیع کرے اور اگر چاہے تو ترک کر دے۔

(۲۱۲۵۰) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْمُبِيعُ قَائِمٌ بَعْنِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُبِيعُ قَدْ اسْتَهْلَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ .

(۲۱۲۵۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے اور ان دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں، اور بیع بھی اپنی حالت پر قائم ہو تو بائع کا قول معتبر ہوگا، اور بیع ختم کر دی جائے گی، اور اگر بیع ہلاک ہو جائے تو مشتری کی بات مانیں گے اور بائع کے ذمہ گواہ قائم کرنا ہوگا۔

(۲۱۲۵۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيْعِينَ إِذَا اِخْتَلَفَا وَالْمُبِيعُ قَائِمٌ بَعْنِيهِ يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا ، فَإِنْ جَاءَا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ أُعْطِيَ الَّذِي حَلَفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بَعْنِيهِ ، أَوْ قَالَ : قَدْ اسْتَهْلَكَ يَكْلَفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي .

(۲۱۲۵۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے اور بیع بھی بعینہ موجود ہو تو دونوں سے گواہ طلب کریں گے، اگر ان میں سے کسی ایک نے گواہ پیش کر دیئے تو اس کے گواہوں کی وجہ سے اس کو دے دیا جائے گا، اور اگر ان دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو دونوں سے قسم اٹھوائی جائے گی، اور اگر دونوں قسم اٹھالیں تو بیع ختم کر دی جائے گی، اور اگر دونوں قسم اٹھانے سے انکار کر دیں تو بھی بیع ختم کر دیں گے، اور اگر ایک قسم اٹھالے جبکہ دوسرا انکار کر دے تو جس نے قسم اٹھائی ہے اس کو دے دیا جائے گا، اور اگر بیع بعینہ موجود نہ ہو یا وہ ہلاک ہو گیا ہو تو بائع کو گواہ کا مکلف بنائیں گے اور مشتری پر قسم اٹھانے کو لازم کریں گے۔

(۲۱۲۵۲) حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : يَرُدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ .

(۲۱۲۵۲) حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر بائع اور مشتری کا بیع میں اختلاف ہو جائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ سیدھے نہ ہوں اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو بیع کو ختم کر دیا جائے گا۔

(۱۰۴) فِي النَّحْلِ عِنْدَ الْجُلُودِ

منہ دکھائی کے وقت بیوی کو کوئی تحفہ پیش کرنا

(۲۱۲۵۳) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ بْنُ بِشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّحْلِ عِنْدَ الْجُلُودِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۲۱۲۵۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منہ دکھائی کے وقت کچھ دینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

(۲۱۲۵۴) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَانِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ .

(۲۱۲۵۳) حضرت محمد رضی اللہ عنہ عورت کو منہ دکھائی کے وقت کچھ دینے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۲۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ نُحْلٌ كَانَ نَحْلَهَا إِيَّاهُ تَحْرُجًا مِنْهُ .

(۲۱۲۵۵) حضرت ابوالخلیل نے وصیت فرمائی کہ میری بیوی کو تحفہ دیا جائے۔ انہوں نے وہ تحفہ اس کو حرج سمجھتے ہوئے (نکل آ کر) دیا تھا۔

(۲۱۲۵۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَّةٍ ، فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَلْبُ عَقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حَبَاءً بَعْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ . (ابوداؤد ۲۱۳ - احمد ۱۲۲)

(۲۱۲۵۶) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ مہر یا کسی وعدہ پر نکاح کرے تو اگر وہ وعدہ اور حق مہر نکاح سے قبل طے ہو گیا تھا تو وہ عورت کا حق ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد مرد عورت کے گھر کے افراد کو کوئی چیز عطیہ کرتا ہے تو وہ ان کے لیے ہے اور آدمی کا جس چیز سے بھی اکرام کیا جائے اس کا سب سے زیادہ حق دار اس کی بیٹی اور بہن ہے۔

(۲۱۲۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِهَا ، وَأَنَّ إِيَّاسًا كَانَ يَقْضِي بِهَا .

(۲۱۲۵۷) حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کا حکم دیا کرتے تھے اور ایاس رضی اللہ عنہ اس کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔

(۲۱۲۵۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجُلُوهَ .

(۲۱۲۵۸) حضرت شریح رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن اذنیہ رضی اللہ عنہما منہ دکھائی کی رقم کو ناجائز سمجھتے تھے۔

(۲۱۲۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطِيَّةِ الْجُلُوهِ ، قَالَ : تِلْكَ سُمْعَةٌ ، لَا تَجُوزُ .

(۲۱۲۵۹) حضرت اوزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے منہ دکھائی کی رقم کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سنی سانی بات ہے اور جائز نہیں ہے۔

(۲۱۲۶۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ تُجَلَى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَيَقُولُونَ : لَا تُرِيكَ .

حَتَّى تَنْحَلَهَا شَيْئًا ، قَالَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، يُؤْخَذُ بِهَا .

(۲۱۲۶۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کے لیے بیوی کو تیار کیا جائے اور لوگ اس شخص سے کہیں کہ ہم تجھ کو یہی اس وقت تک نہیں دکھائیں گے جب تک کہ تو کوئی چیز عطیہ نہ کر دے۔ حسن رضی اللہ عنہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسا پروا جب ہے جو اس سے لیا جائے گا۔

(۱۰۵) فِي الرَّجُلِ يَكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي الشَّيْءِ فِيهِدِي لَهُ

کوئی شخص کسی کی سفارش کرے تو اُس کو ہدیہ دینا

(۲۱۲۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى أَهْلِهِ فِإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ : أَخْرَجُوهَا ، أَتَعْتَجِلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّنْيَا ؟ .

(۲۱۲۶۱) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عمرو ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے وہاں پر ہدیہ موجود تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کی سفارش کی تھی اُس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو گھر سے باہر نکال دو، کیا میری سفارش کا اجر مجھے دنیا میں جلدی دینا چاہتے ہیں؟

(۲۱۲۶۲) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ ، عَنِ الشَّحِيتِ فَقَالَ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ النَّحَاجَةَ فَتَقْضَى لَهُ فِيْهِدِي إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا .

(۲۱۲۶۲) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے رشوت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی ضرورت طلب کرے اور اُس کے لئے فیصلہ کروادے اور وہ اُس کو کوئی ہدیہ دے تو اُس کو ایسے کہ ہدیہ قبول کرے۔

(۲۱۲۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ كَلْبِ بْنِ وَايِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي دِهْقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ فَقَالَ : تَقْبَلْنِي مِنَ الْعَامِلِ لَا اتَّقَبَّلُهُ لِأَعْطَى عَنْهُ شَيْئًا إِلَّا لِيُؤْمِنَهُ عَامِلُهُ وَيَضْطَرِبَ فِي حَوَائِجِهِ ، فَلَمْ الْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أَتَانِي بِصَحِيفَتِي ، فَقَالَ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَحَمَلَنِي عَلَى ذَابْتِهِ وَأَعْطَانِي دَرَاهِمَ ، وَكَسَانِي ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْهُ كَانَ يُعْطِيكَ ؟ قُلْتُ : لَا قَالَ : لَا يَصْلِحُ لَكَ .

(۲۱۲۶۳) حضرت کلب بن وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا جس کا بہت سارا خرچ بنتا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ عامل سے میری سفارش کر دیجیے۔ میں اس کی سفارش اس لیے نہیں کرتا کہ مجھ کو اس سے کچھ ہدیہ وغیرہ مل جائے۔ صرف اس لیے تاکہ عامل کو اس دیہاتی پر اعتماد ہو جائے اور عامل اس کی ضروریات کو پورا کر دیا کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہی گزری تھی کہ وہ میرے پاس میرا صحیفہ لے کر آیا اور کہا جزاک اللہ خیراً اور مجھے

سواری پر بٹھایا اور مجھے اور درہم دینے اور کپڑے پہنائے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: آپ کا کیا خیال ہے اگر تو اُس کی سفار نہ کرتا تو وہ تجھے یہ عطاء کرتا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ تیرے لئے ٹھیک اور درست نہیں ہے۔

(۲۱۲۶۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَى دِهْقَانَ مِنْ دَهَاقِينَ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي شَيْءٍ عَلَى عَلِيٍّ، قَالَ: فَكَلَّمَهُ لَهْ عَلِيًّا، فَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ الدَّهْقَانَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا وَبِشَيْءٍ مَعَهَا لَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ فَلَمَّا وَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَبِلَ لَهُ: بَعَثَ بِهَا الدَّهْقَانَ الَّذِي كَلَّمْتَهُ لَهُ فِي حَاجَتِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: رُدُّوَهَا عَلَيَّ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَبِيَّ الْمَعْرُوفِ.

(۲۱۲۶۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوفہ کے گاؤں کے چودھریوں میں سے ایک چودھری حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مدد مانگ (کوئی سفارش) مانگ رہا تھا، آپ رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اُس کی سفارش کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کی ضرورت پوری فرمادی، چودھری نے آپ کو چالیس ہزار درہم بدیہ میں بھیجے اور اُس کے ساتھ کچھ اور چیزیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھا، جب وہ سب کچھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے سامنے رکھے گئے تو آپ رضی اللہ عنہما نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہما نے جس چودھری کی حضرت علی رضی اللہ عنہما سے سفارش فرمائی تھی اُس نے آپ رضی اللہ عنہما کے لئے بھیجا ہے، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: واپس اُس کو بھیج دو، ہم اہل بیت تکلی فروخت نہیں کیا کرتے۔

(۱۰۶) فِي الرَّجْلِ يَكْتَبُ الْكِتَابَ عَلَى النَّفَرِ

اس شخص کے بارے میں جو ایک جماعت کے ساتھ لکھت پڑت کرے (یعنی کسی معاملہ،

تجارت وغیرہ میں ایک سے زیادہ آدمیوں سے تحریری معاہدہ کرے)

(۲۱۲۶۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: شَهِدْتُ وَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي اُكْتُبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ: أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي، فَقَالَ الرَّجُلُ: صَاحِبِي فِي السُّوقِ، قَالَ: خُذْ أَيُّهُمْ شِئْتُ.

(۲۱۲۶۵) حضرت طارق بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا میں نے اس آدمی اور نیز اس علاوہ دو آدمی اور تھے جن کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا تھا۔ کیا میں ان میں سے جس سے چاہوں اپنا حق وصول کر سکتا ہوں؟ اُس آدمی نے کہا کہ میرے دونوں ساتھی بازار میں ہیں، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس مرضی سے تو چاہے اپنا حق وصول کر لے۔

(۲۱۲۶۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اُكْتُبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ، أَنْ حَتَّكَ

عَلَى مَتِّعِكَمَا وَمَالِكِكَمَا عَلَى مُعْدِمِكَمَا قَالَ: يَجُوزُ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسَلِيمَانُ بْنُ مُوسَى.

(۲۱۲۶۶) حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ، تجارت میں دو آدمیوں پر نام درج دیا ہے۔

(۲۱۲۶۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّفْرِ يَكْتَبُ عَلَيْهِمُ الصَّكَّ: أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ؟ قَالَ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ، أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِحَصَّتِهِ وَهُوَ أَعْدَلُ.

(۲۱۲۶۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کچھ آدمیوں کے متعلق اقرار نامہ لکھا گیا ہے، ان میں سے کس سے اپنا مکمل حق وصول کیا جاسکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو شرط پر ہے (جو طے ہوا تھا) جس سے چاہے اپنا پورا حق وصول کر لے۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان میں سے ہر شخص سے اُس کے حصہ کے بقدر وصول کیا جائے، اور فرماتے تھے کہ یہ بیکہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔

(۲۱۲۶۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْقَوْمِ، يَقُولُ: أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي، قَالَ: هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْكُفَيْلِ.

(۲۱۲۶۸) حضرت حکم رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس کا ایک قوم پر حق ہو، فرماتے ہیں کہ جس سے چاہوں پورا حق وصول کر سکتا ہوں وہ سب بمنزلہ کفیل کے ہیں۔

(۲۱۲۶۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: كَتَبْتُ ذِكْرَ حَقِّ عَلَى عِدَّةٍ: أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي، فَقَدْ مَتَّعْتُهُمْ إِلَى شَرْيْحٍ فَقَالَ: خُذْ أَيُّهُمْ شِئْتُ.

(۲۱۲۶۹) حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر اپنا حق لکھا تھا کہ ان میں سے کس سے اپنا مکمل حق وصول کر سکتا ہوں، پس اُن کو حضرت شریح کے پاس لے گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس سے چاہو وصول کر لو۔

(۱۰۷) فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

جس غلام کو آقا نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو اُس کا بیان

(۲۱۲۷۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغْبِرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ، قَالَ: يَسْعَى لَهُمُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا.

(۲۱۲۷۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ عبد مآذون کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اُس کے ذمہ قرض ہو اور اُس کا آقا اُس کو آزاد کر دے، تو قرض خواہوں کے قرض ادا کرنے کی کوشش کرے گا، آزادی نے اُس کی صلاحیت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔

(۲۱۲۷۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يَعْتِقُهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ : يَصْنَعُ مَوْلَاهُ الْقِيَمَةَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : يَتَّبِعُ غُرْمَانَهُ بِمَا يَبْقَى مِنَ الدِّينِ .

(۲۱۲۷۱) ایسا غلام کہ جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہو پھر وہ مقروض ہو جائے اور اس کا آقا بھی اُس کو آزاد کر دے۔ اُس غلام کے بارے میں حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا آقا اس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس کے قرض خواہ جو قرض باقی بچا ہے اُس میں اُس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک وہ ادا نہ کر دے۔

(۲۱۲۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ، أَوْ عَتَقَهُ جَارِزٌ ، وَيَصْطَنُ السَّيِّدُ ثَمَنَهُ .

(۲۱۲۷۲) حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ اُس غلام کے متعلق فرماتے ہیں جو مفلس ہو جائے اور اُس کا آقا اُس کو آزاد کر دے، فرماتے ہیں کہ اُس کا آزاد کرنا جائز ہے اور آقا اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

(۲۱۲۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ قَالَ : عَلَى سَيِّدِهِ .

(۲۱۲۷۳) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آقا اُس کو آزاد کر دے تو قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار اُس کا آقا ہے۔

(۲۱۲۷۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْعَى لِلْغُرْمَاءِ ، لَمْ يَزِدْهُ الْعَبْدُ إِلَّا صَلَاحًا .

(۲۱۲۷۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کی قرض کی ادائیگی کے لئے کوشش کرے گا، اور آزادی نے اُس کو صلاحیت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔

(۱۰۸) فِي الْعَبْدِ يَدَّانُ بَغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

غلام آقا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہو جائے

(۲۱۲۷۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا آذَانَ الْعَبْدُ بَغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَبَاعُ بِذَلِكَ الدِّينِ .

(۲۱۲۷۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام آقا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہو جائے، پھر اُس کو آزاد کر جائے، بے شک اُس کو اُس قرض میں فروخت کیا جائے گا۔

(۲۱۲۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بَغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : لَيْدٌ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ .

(۲۱۲۷۶) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام آقا کی اجازت کے بغیر خرید و فروخت کرے تو اس کے آقا پر کوئی چیز لازم نہ آئے گی، سب کچھ غلام کے ذمہ ہے، جب اس کو آزاد کر دیا جائے تو اسی پر سب کچھ لازم ہوگا۔

(۲۱۲۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَوْرِ بْنِ حَزَامٍ ، قَالَ : سَيْلَ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اشْتَرَى بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ .

(۲۱۲۷۷) حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر غلام آقا کی اجازت کے بغیر خرید و فروخت کرے، اور اس کو آزاد کر دیا جائے، فرمایا آقا پر کچھ بھی لازم نہ آئے گا، قرض خواہوں کا قرض غلام کی گردن پر ہوگا جب وہ آزاد کر دیا جائے۔

(۱۰۹) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُمَّةَ فَيَطْأُهَا ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا

کوئی شخص باندی خریدنے کے بعد اس کے ساتھ صحبت کرے پھر وہ اس میں موجود عیب

پر مطلع ہو جائے

(۲۱۲۷۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ نَيْبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ .

(۲۱۲۷۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ باندی پہلے ہی شیبہ ہو تو بیسواں حصہ واپس لے اور اگر وہ باکرہ تھی تو دسواں حصہ واپس وصول کرے گا۔

(۲۱۲۷۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شَرِيحٍ : بِمِثْلِهِ .

(۲۱۲۷۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

(۲۱۲۸۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تَكْسُرُ فَرُدُّ عَلَيْهِ قِيَمَةَ الْعَيْبِ .

(۲۱۲۸۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باندی واپس نہیں کرے گا لیکن عیب کی قیمت اس کو واپس لٹائی جائے گی۔

(۲۱۲۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ طَهَّرَ بِهَا دَاءً كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ شَيْئًا .

(۲۱۲۸۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باندی خریدے پھر اس میں کوئی بیماری (عیب) ظاہر ہو جائے جو بائع کے پاس سے چلا آ رہا ہو تو وہ اس کے ذمہ لازم ہے، بائع اس پر کوئی چیز واپس نہیں لٹائے گا۔

(۲۱۲۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمَّصَاهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا .

(۲۱۲۸۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس پر بیع کو نافذ کر دیا جائے گا، اور اُس کو کوئی چیز بھی واپس نہیں لٹائی جائے گی۔

(۲۱۲۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَيُجَوَّزَ عَلَيْهِ .

(۲۱۲۸۳) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو باندی خریدے جس میں بیماری ہو، اور وہ عیب پر مطلع ہونے سے قبل ہی اُس سے صحبت کر لے تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ اُس کی قیمت کچھ کم کر دی جائے اور یہ بیع اس کے لیے جائز ہوگی۔

(۲۱۲۸۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا كَانَ يُوقَّتُ فِيهَا شَيْئًا يُقْضَى عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئَتِهَا .

(۲۱۲۸۴) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی کے بارے میں اختیار وقت نہیں دیا جائے گا بلکہ خریدنے والا ظاہری حالت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔

(۲۱۲۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مُعَشَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ بِكُرًا رَدَّ الْعُشْرَ ، وَإِنْ كَانَتْ نَبِيًّا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ .

(۲۱۲۸۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ باکرہ تھی تو دسواں حصہ ٹھن کا واپس کیا جائے گا اور اگر شیبہ تھی تو دسویں حصے کا نصف واپس کیا جائے گا۔

(۲۱۲۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ .

(۲۱۲۸۶) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی سمیت دس دینار بھی واپس کرے گا۔

(۱۱۰) فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِبَادٍ

قحط کے زمانے میں شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنا

(۲۱۲۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . (بخاری ۲۱۳۰ - مسلم ۱۸)

(۲۱۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہری کی بیع دیہاتی کے لئے جائز نہیں ہے۔

(۲۱۲۸۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ . (مسلم ۱۱۵۸ - ترمذی ۱۲۲۳)

(۲۱۲۸۸) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: شہری آدمی دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے، لوگوں کو تجھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے بعض کے ذریعہ بعضوں کو رزق دیتا ہے۔

(۲۱۲۸۹) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ الْخَطَّاطُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ. (بخاری ۲۱۵۹۔ احمد ۲/۳۲)

(۲۱۲۸۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے دیہاتی کے لئے شہری آدمی کی بیع کو منع فرمایا ہے۔

(۲۱۲۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ لِلْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: فَيَشْتَرِي مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ؟ قَالَ: لَا.

(۲۱۲۹۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ دیہاتی شخص سے دیہاتی خریدے، آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مہاجر سے خرید کر سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں۔

(۲۱۲۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ الْخَطَّاطِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَسَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

(۲۱۲۹۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ شہری آدمی دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے۔

(۲۱۲۹۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ۳۲۰)

(۲۱۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: شہری دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے۔

(۲۱۲۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْيَوْمَ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غَرَّةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ.

(۲۱۲۹۳) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کل ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک حضور ﷺ نے اس لیے منع کیا کہ جب دیہاتی لوگ مدینہ میں آئیں تو لوگ ان کے بھولے پن کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج کل بھی یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔

(۲۱۲۹۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

(۲۱۲۹۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہری دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے۔

(۲۱۲۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَإِنِّي لَا فَعَلُهُ.

(۲۱۲۹۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین ناپسند فرماتے تھے کہ شہری آدمی دیہاتی کے لئے بیع کرے، حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں ایسا کرتا ہوں۔

(۲۱۲۹۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ذَلُّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ وَأَخْبِرُوهُمْ بِالسَّعْرِ .

(۲۱۲۹۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے کی طرف ان کی راہنمائی کرو اور ان کو خرگ کی خبر دو۔

(۲۱۲۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَعْقَلِ ، قَالَ : قَرِئَ عَنَّا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

(۲۱۲۹۷) حضرت ایسا بن دغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا مکتوب پڑھا گیا، جس میں تحریر تھا کہ شہری آدمی دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے۔

(۲۱۲۹۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خَثِيمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدُمُونَ عَلَيْنَا فَاشْتَرَى لَهُمْ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۲۱۲۹۸) حضرت ابن خثیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ دیہاتی ہمارے پاس آتے ہیں ہم اُن سے خریدتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۲۹۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ رُحْصَةً .

(۲۱۲۹۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ دیہاتیوں سے ان کو رخصت اور نرمی پہنچے۔

(۲۱۳۰۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نَهَيْتَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . (بخاری ۲۱۲۱ - مسلم ۲۱)

(۲۱۳۰۰) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ شہری آدمی دیہاتی کے لئے بیع کرے، اگر چہ وہ اُس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔

(۱۱۱) مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

کتے کے ثمن کے متعلق جو وارد ہوا ہے اس کا بیان

(۲۱۳۰۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَمَنُ الْكَلْبِ سَحْتٌ .

(۲۱۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کتے کو فروخت کر کے اُس کی قیمت حرام ہے۔

(۲۱۳۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ مَهْرِ الْبَيْعِيِّ ، وَتَمَنِ الْكَلْبِ .

(۲۱۳۰۲) حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے زانیہ کی کمائی اور کتے کے شمن سے منع فرمایا۔

(۲۱۳۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَيْعِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَتَمَنِ الْكَلْبِ . (احمد ۵۰۰ / ۲ - دارقطنی ۷۲)

(۲۱۳۰۳) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے زانیہ کی کمائی سے، اونٹوں کے جفتی کروانے سے، حجامت

کا پیشہ اختیار کرنے سے اور کتے کے شمن سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۳۰۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ، ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ . (ترمذی ۱۲۷۹ - ابو داؤد ۳۷۷۳)

(۲۱۳۰۴) حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے کتے کے شمن سے منع فرمایا۔

(۲۱۳۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أَنَّهُمَا كَرِهَا تَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ . (ترمذی ۱۲۸۱ - نسائی ۶۲۶۳)

(۲۱۳۰۵) حضرت ابو مہزمؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے کتے کے علاوہ تمام کتوں کے شمن کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۳۰۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَيْعِيِّ ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَتَمَنِ الْكَلْبِ .

(بخاری ۲۰۸۶ - ابو داؤد ۳۷۷۷)

(۲۱۳۰۶) حضرت ابو جحیفہؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے زانیہ کے مہر کی کمائی، حجام کی کمائی اور کتے کی قیمت کو

وصول کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۳۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : تَمَنُ

الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَيْعِيِّ ، وَتَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ . (ابو داؤد ۳۷۷۶ - احمد ۳۳۵ / ۱)

(۲۱۳۰۷) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کتے کی قیمت، زانیہ کے مہر کی کمائی

اور شراب کی قیمت حرام ہیں۔

(۲۱۳۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَحَبُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّامَرَةِ ، وَتَمَنِ الْكَلْبِ .

(۲۱۳۰۸) حضرت ابن سیرینؓ فرماتے ہیں خبیث ترین ذریعہ معاش بانسری بجانا کا کماتا اور کتے کی قیمت (کاروبار) ہے۔

(۲۱۳۰۹) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي قُرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى

يَقُولُ : مَا أَبَالِي تَمَنِ كَلْبٍ أَكَلْتُ ، أَوْ تَمَنِ حَنْزِيرٍ .

(۲۱۳۰۹) حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کتے کی قیمت اور خنزیر کی قیمت کھانے میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔

(۲۱۳۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ اِبْدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا يَكْرَهُانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ .

(۲۱۳۱۰) حضرت حکم رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما کتے کی قیمت کو ناپسند سمجھتے تھے۔

(۲۱۳۱۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابَانُ الْعَطَّارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ ،

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبُعْثِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ .

(۲۱۳۱۱) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: حجام کی کمائی اور زانیہ کے مہر کی کمائی اور کتے کی قیمت حرام ہیں۔

(۱۱۴) مَنْ رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

جن حضرات نے شکاری کتے کی قیمت (ثمن) وصول کرنے کی اجازت دی ہے

(۲۱۳۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغْيِرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ .

(۲۱۳۱۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکاری کتے کے ثمن میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۳۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلْوْقِيِّ .

(۲۱۳۱۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی کتے کی قیمت وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۳۱۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاعْتَرَمْ لاهِلِهِ ثَمَنَهُ .

(۲۱۳۱۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہڑکائے کتے کے علاوہ کسی دوسرے کتے کو مار دے تو اس کے مالک کو اس کی قیمت کا جرمانہ ادا کر۔

(۲۱۳۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي

الْكَلْبِ بِارْبَعِينَ دِرْهَمًا .

(۲۱۳۱۵) حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ (فقہاء کرام رضی اللہ عنہم) کتے کو مارنے کی صورت میں (چالیس درہم

کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

(۲۱۳۱۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ جُسْتَّاسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فِي

كَلْبِ الصَّيْدِ اَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِي كَلْبِ الْحَرْثِ فَرْقٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِي

كَلْبِ الدَّارِ فَرَقَ مِنْ تَرَابٍ ، حَقَّقَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَحَقَّقَ عَلَى صَاحِبِ الكَلْبِ أَنْ يَقْبَلَهُ .

(۲۱۳۱۶) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکاری کتے کو مارنے کی صورت میں چالیس درہم لازم ہے، اور مویشیوں کے کتے میں ایک بکری، بھتی باڑی والے کتے میں کھانا تقسیم کرنا ہے اور گھریلو کتے میں مٹی تقسیم کرنا ہے جس نے مارا ہے اُس پر لازم ہے کہ وہ دے اور کتے کے مالک پر لازم ہے کہ وہ وصول کرے۔

(۲۱۳۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مِغْوِرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ .

(۲۱۳۱۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتے کی قیمت وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۱۳) فِي الْحَبْسِ فِي الدِّينِ

قرض کی ادائیگی تک قید کرنا

(۲۱۳۱۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ طَلْحِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهُمْ وَعَدُونِي أَنْ يُحْسِنُوا إِلَيَّ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ ، وَمَا طَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يَحْسِبَهُ حَتَّى صَالَحَنِي عَلَى مِئَةِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا .

(۲۱۳۱۸) حضرت طلح بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ذمہ میرے تین سو درہم تھے، میں نے اُس کے ساتھ حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے سامنے خاصمہ کیا، اُس شخص نے عرض کیا کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کا ارشاد ہے: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا۔ اور اُس کو قید میں رکھنے کا حکم فرمایا، اور جب تک اُس نے میرے ساتھ ڈیڑھ سو درہم پر صلح نہ کر لی میں اُس کی قید کا مطالبہ کرتا رہا۔

(۲۱۳۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هَلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَحْسِبُ فِي الدِّينِ .

(۲۱۳۱۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ قرض کے معاملہ میں قید فرمایا کرتے تھے۔

(۲۱۳۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ ، عَنْ سُرَيْيَةَ الشَّعْبِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمُّ جَعْفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَنَا لَمْ أَحْسِبْ فِي الدِّينِ فَأَنَا أَتَوَيْتُ حَقَّهُ .

(۲۱۳۲۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرض میں قید نہیں کرتا تو میں اپنے حق کو ہلاک کر بیٹھتا ہوں۔

(۲۱۳۲۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هَلَالٍ ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ ، عَنْ أَبِي الْمَهْزَمِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي غَرِيمٍ لَهُ فَقَالَ : أَحْسِبْهُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْنٌ مَالٍ فَأَخُذْهُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَارًا كَثِيرًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ ؟ قَالَ : أَحْسِبْهُ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي أَدْعُهُ يَطْلُبُ لَكَ وَلِنَفْسِيهِ وَلِعِيَالِهِ .

(۲۱۳۲۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنے مقروض کو لے کر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ اس کو قید کرو! میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے جو میں اس سے لے کر تجھے دوں؟ اُس نے عرض کیا نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کی ملکیت میں بڑی زمین ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے پوچھا کہ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ اس کو قید کریں: آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں اس کو چھوڑتا ہوں تاکہ یہ تیرے لئے اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے روزی کمائے۔

(۲۱۳۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(۲۱۳۲۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح فیصلہ فرمایا۔

(۲۱۳۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ عَلِيًّا حَبَسَ فِي الدِّينِ .

(۲۱۳۲۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرض میں قید فرمایا۔

(۲۱۳۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ شَرِيحًا حَبَسَ رُسْتَمَ الشَّدِيدِ فِي دِينِ .

قَالَ وَكِيعٌ : مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا مِنْ قَضَاتِنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَعَمِيرَةَ إِلَّا وَهُوَ يَحْبِسُ فِي الدِّينِ .

(۲۱۳۲۴) عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں شریح کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے رستم کو قرض کے بدلہ میں قید کیا۔

(۱۱۴) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الشَّيْءَ حَبْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

آدمی کا کوئی چیز راہِ خدا میں وقف کرنا

(۲۱۳۲۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا حُبْسَ عَنْ قَرَائِضِ اللَّهِ

إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ . (بیہقی ۱۲۳)

(۲۱۳۲۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرائض میں کوئی چیز وقف نہیں ہوتی سوائے اسلحہ اور گھوڑے کے۔

(۲۱۳۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا حَبْسَ إِلَّا فِي كُرَاعٍ ،

أَوْ سِلَاحٍ .

(۲۱۳۲۶) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھوڑے اور اسلحہ کے علاوہ کوئی بھی چیز راہِ خدا میں وقف نہیں۔

(۲۱۳۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شَرِيحٍ ، قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحُسِيِّ .

(۲۱۳۲۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیؑ سے وقف شدہ چیز کی بیع ثابت ہے۔

(۲۱۳۲۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُخْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَحْبِسُونَ الْفَرَسَ وَالسَّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(۲۱۳۲۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھوڑے اور اسلحہ راہِ خدا میں وقف کیا کرتے تھے۔

(۱۱۵) مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُوَقَّفَ الدَّارَ وَالْمَسْكَنَ

گھر اور رہنے کی جگہ کا وقف کرنا

(۲۱۳۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ .

(۲۱۳۲۹) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیٹیوں میں سے جو مطلقہ تھی ان کے لئے اپنا گھر وقف کیا ہوا تھا۔

(۲۱۳۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرُ أَوْ قَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَنَاتًا بَتْلًا .

(۲۱۳۳۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر مطلقہ عورتوں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

(۲۱۳۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : رَبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا

بِنِيٍّ وَيُسْكِنُونَهَا مِنْ أَحِبَّاءٍ .

(۲۱۳۳۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مکان جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس میں میرے بیٹے اور جو رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے۔

(۲۱۳۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَحْبَسُ بِمَنْزِلَةِ الْعَتِقِ ، هُوَ لِلَّهِ فِي الدَّارِ وَالْمَعَارِ .

(۲۱۳۳۲) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا وقف کرنا آزاد کرنے کی طرح ہے، گھر اور زمین وغیرہ وقف کرنا اللہ تعالیٰ

ہی کے لیے ہے۔

(۲۱۳۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبْتَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِي ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إِنْ

سُنْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ .

(بخاری ۲۷۳۷ - مسلم ۱۲۵۵)

(۲۱۳۳۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین (مالِ غنیمت میں) ملی، وہ آپ ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، اور مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ مال کبھی نہیں ملا، آپ ﷺ مجھے کیا

حکم فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے تو اصل زمین کو روک کر رکھ لے اور اس کے ذریعہ صدقہ خیرات کرتا رہے۔

پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ذریعہ صدقہ خیرات کیا۔ اصل زمین کو نہیں بیچا جائے گا اور نہ ہی ہبہ کیا جائے گا۔ نہ ہی وہ کسی کو وراثت میں

دی جائے گی۔

(۲۱۳۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَفْصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي لِلَّهِ ، وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُخْفِيَهُ مَا أَظْهَرْتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْهُ فِي فَقْرَاءِ أَهْلِكَ . (بخاری ۱۳۶۱۔ ابو داؤد ۱۶۸۶)

(۲۱۳۳۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، اگر میں اس کو پوشیدہ رکھنے کی طاقت رکھتا تو اس کو کبھی ظاہر نہ کرتا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس کو اپنے اہل و عیال میں جو فقراء ہیں ان کے لئے وقف کر دو۔

(۲۱۳۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدْرِيَّ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ .

(۲۱۳۳۵) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت حجر المدری رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اکرم ﷺ کے صدقہ میں سے ان کے اہل و عیال اچھے طریقہ سے کھایا کرتے تھے۔

(۱۱۶) فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَشِرَائِهِ

پانی کی خرید و فروخت کرنا

(۲۱۳۳۶) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الدِّيَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَاءٌ يَشْتَرِي مَاءَ لَأَرْضِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

(۲۱۳۳۶) حضرت مسلم بن ابوالذیال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ایک آدمی کی زمین ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے کیا وہ اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لئے پانی خرید سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۳۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قَرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : بَيْعُ الْمَاءِ فِي الْقُرْبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ يَسْتَفِيهِ هُوَ يَحْمِلُهُ ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ .

(۲۱۳۳۷) حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ مشک میں بھرے ہوئے پانی کو بیچ جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اس کو دریا سے نکال کر اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ لہذا یہ اس پانی کی طرہ نہیں ہے جو زمین میں بہ رہا ہے۔

(۲۱۳۳۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ . (ابن ماجہ ۲۳۷۷۔ ابن حبان ۴۹۵۳)

(۲۱۳۳۸) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے زائد پانی کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۳۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَبِي يُوْبَ ، عَنْ أَبِي فِلَانَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (عبد الرزاق ۱۱۳۹۲)

(۲۱۳۳۹) حضرت ابو قلابہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص زائد پانی کو روکے تاکہ وہ گھاس وغیرہ پر نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اُس سے زائد انعام و اکرام کو روک لیں گے۔

(۲۱۳۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : مَنَعَنِي جَارٌ لِي فَضْلَ مَاءٍ ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ .

(۲۱۳۴۰) حضرت عمران بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی نے زائد پانی روک لیا، میں نے حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ عتبہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زائد پانی کی بیع جائز نہیں ہے۔

(۲۱۳۴۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْعَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُعْجِبُهُ تَمَنُّ الْمَاءِ . قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي السَّقَابَةَ عَلَى الْجَمَلِ وَالظَّهْرِ يَبِيعُهُ .

(۲۱۳۴۱) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ پانی کو فروخت کر کے اُس کے تَمَنُّ کو پسند فرماتے تھے۔ مسروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی تھی، وکیع کہتے ہیں یعنی یہ بات کہ اونٹ اور کرپر لادتے ہوئے پانی کو بیچا جائے۔

(۲۱۳۴۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يُكْرَهُ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ .

(۲۱۳۴۲) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بیع کی بیع کو ناپسند سمجھتے تھے۔

(۲۱۳۴۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بَعْشَرِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : لَا تَبِيعُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ .

(۲۱۳۴۳) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اُن کا ایک غلام تھا جو ان کے چشمہ کا زائد پانی تیس ہزار میں فروخت کرتا، حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: اس کو فروخت نہ کرو، بے شک اس کی بیع جائز نہیں۔

(۲۱۳۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْمُرَيْتِيِّ ، وَرَأَى أَنَا سَاءَ يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ : لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تَبَاعَ .

(ابو داؤد ۳۴۷۲ - ترمذی ۱۴۷۱)

(۲۱۳۳۳) حضرت ایاس بن عبدالمزنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو پانی کی بیع کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس کو نہ بیچو، بے شک میں نے رسول اکرم ﷺ کو اس کی بیع سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔

(۲۱۳۴۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ . (بخاری ۲۳۵۳ - مسلم ۳۶)

(۲۱۳۴۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے زائد پانی کو روکنے سے منع فرمایا کہ گھاس و سبزہ وغیرہ رک سکے۔

(۲۱۳۴۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (يَعْنِي : كَاذِبًا) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ .

(مسلم ۱۷۲ - ابو داؤد ۳۶۶۸)

(۲۱۳۴۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین بد نصیب ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اول وہ شخص جس کے پاس زائد پانی موجود ہو لیکن وہ مسافر کو نہ دے، دوسرا وہ شخص جو اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لئے جھوٹی قسم اٹھائے، تیسرا وہ شخص جو امام کے ہاتھ پر بیعت کرے، پس اگر وہ اس کو کچھ عطا کرے تو بیعت کو پورا کرے اور اگر کچھ عطا نہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔

(۲۱۳۴۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْنَعَ نَقْعَ الْبُرِّ يَعْنِي : فَضْلَ الْمَاءِ .

(احمد ۱۳۹/۶ - حاکم ۶۱)

(۲۱۳۴۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے زائد پانی کو روکنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۱۷) فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى

نابینا شخص کی گواہی کا بیان

(۲۱۳۴۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَأَاهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ .

(۲۱۳۴۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نابینا کی گواہی دینا جائز نہیں ہاں مگر وہ اس چیز کی گواہی دے جس کو بینائی کے جانے سے قبل وہ دیکھ چکا ہو تو پھر جائز ہے۔

(۲۱۳۴۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
(۲۱۳۴۵) حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہما جو نابینا تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی گواہی رد مایا۔

(۲۱۳۵۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ.
(۲۱۳۴۵) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نابینا کی گواہی جائز ہے۔

(۲۱۳۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَّاحِدِ بْنِ زَيَْادٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتُ.
(۲۱۳۴۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نابینا شخص اگر آوازوں کو پہچانتا ہو تو پھر اُس کی گواہی ایک عادل کے ساتھ مل کر لیک ہے۔

(۲۱۳۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى؟ فَقَالَ: رَبُّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ.
(۲۱۳۴۶) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رضی اللہ عنہما سے نابینا کی گواہی سے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے مایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جائز ہے۔

(۲۱۳۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.
(۲۱۳۴۷) حضرت امام زہری رضی اللہ عنہما نابینا کی گواہی کو جائز اور درست سمجھتے تھے۔

(۲۱۳۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.
(۲۱۳۴۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما نابینا کی گواہی کو درست سمجھتے تھے۔

(۲۱۳۵۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا.
(۲۱۳۴۹) حضرت عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر نابینا شخص عادل ہو تو پھر اُس کی گواہی قبول ہے۔

(۲۱۳۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
(۲۱۳۵۰) حضرت قتادہ جو نابینا تھا اس نے حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ عنہما کے سامنے گواہی تو آپ رضی اللہ عنہما نے اُس کی گواہی کو رد فرمادیا۔
(۲۱۳۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُرَيْكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ طَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ.
(۲۱۳۵۲) حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما سے نابینا شخص کی گواہی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے مجھ سے ایک حدیث بیان فرمائی، میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ناپسند سمجھتے تھے۔

(۲۱۳۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عْتِيبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْدَاءِ تَجَرُّزُ شَهَادَتِهِ وَيَوْمَ الْقَوْمِ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَوْمَ الْقَوْمِ وَيَشْهَدَ ؟ .

(۲۱۳۵۸) حضرت حکم بن عتبیبہ القاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا نابینا کو گواہی اور امامت جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نابینا کی گواہی اور امامت سے کون سی چیز مانع ہے؟

(۱۱۸) فِي شِرَاءِ الْمِثْنَةِ فِي الْعَطَاءِ

عطاء (سالانہ وظیفے یا راشن) کو فروخت کرنے کا بیان

(۲۱۳۵۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى ؛ أَنْ يُسْتَرَى الْمِثْنَةُ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يُسْتَرَى بِعَرَضٍ ، وَلَا بِغَيْرِهِ .

(۲۱۳۵۹) حضرت شریح اس بات میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ عطاء کو سامان کے بدلے فروخت کیا جائے۔ حضرت شعبی مطلقاً نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۳۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَّادَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِثْنَةِ الْعَطَاءِ إِلَّا بِعَرَضٍ .

(۲۱۳۶۰) حضرت ابن عباس کے نزدیک سامان کے علاوہ عطاء کی بیع مکروہ ہے۔

(۲۱۳۶۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ شِرَاءِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ قَالَ : لَا أَمْرُ بِهَا ، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَوَالِدِي ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، قُلْتُ مَنْ ؟ قَالَ : أَمْرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ .

(۲۱۳۶۱) شعبی سے عطا میں زیادتی کے ساتھ بیع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں میں خود کو اور اپنی اولاد کو اس سے روکتا ہوں۔ اسے مسلمانوں کے امراء نے کیا ہے اور مجھ سے بہتر تھے۔

(۲۱۳۶۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبَابٍ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عُمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ اشْتَرَيْتُ الزِّيَادَةَ فِي الْعَطَاءِ بِخُرَّاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالذَّرَاهِمِ ، فَحَجَجْتُ فَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ : أَكْرَهُهُ بِالذَّرَاهِمِ ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بِالْعَرُوضِ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرْظِيَّ فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْتُ الْحَسَّ وَأَبْنَ سِيرِينَ فَقَالَا : نَكْرَهُهَا بِالذَّرَاهِمِ ، وَلَا نَرَى فِيهَا بَأْسًا بِالْعَرُوضِ .

(۲۱۳۶۲) بکر بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خراسان میں ریشم اور درہم کے بدلے عطاء کی زیادتی کو بیچا کرتا تھا۔ ایک سال نے حج کیا اور اس بارے میں حضرت سالم سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں اگر سامان کے ساتھ ہوں۔

ہم کے ساتھ میں مکروہ سمجھتا ہوں۔ حضرت محمد بن کعب اور حضرت عطاء نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے حضرت حسن اور حضرت سیرین سے بھی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اسے درہم کے ساتھ مکروہ سمجھتے ہیں البتہ سامان کے ساتھ کچھ حرج نہیں۔

(۲۱۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا ، عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ فَقَالَ : بَعُهُ بَعْرَضٍ .

(۲۱۳۲) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ سامان کے ساتھ بیچ سکتے ہو۔

(۱۱۹) فی المضارِبِ إِذَا خَالَفَ فَرِيحَ

مضارب رب المال کی مخالفت کرے اور نفع کمالے

(۲۱۳۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الْمُضَارِبِ يُخَالَفُ ، قَالَ : يَتَنَزَّهُانِ عَنِ الرَّبْحِ يَتَصَدَّقَانِ بِهِ .

(۲۱۳۰) حضرت ابو معشر اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو مخالفت کرے کہ وہ دونوں نفع سے دور رہے اور اُس کو صدقہ کریں گے۔

(۲۱۳۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرَّبْحِ .

(۲۱۳۲) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفع کو صدقہ کر دیں گے۔

(۲۱۳۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَالرَّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ .

(۲۱۳۲) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اگر مضارب مخالفت کرے تو وہ ضامن ہوگا اور نفع رب المال کو ملے گا۔

(۲۱۳۳) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَا عَلَيْهِ .

(۲۱۳۲) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ نفع اُس پر ہوگا جو انہوں نے اُس پر شرط لگائی تھی۔

(۲۱۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا .

(۲۱۳۲) حضرت ایسا بن معاویہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مضارب ضامن ہوگا، اور نفع اُن کے درمیان تقسیم ہوگا۔

(۲۱۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ ضَمِنَ مَالًا ، فَلَهُ رِبْحُهُ .

(۲۱۳۲) حضرت شریح رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بیسوں کا ضامن ہے نفع اُس کو ملے گا۔

(۲۱۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَتَصَدَّقَانِ بِالْفَضْلِ .

(۲۱۳۲) حضرت شریح رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ کریں گے۔

(۲۱۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِيَّاحِ بْنِ عَبِيدَةَ ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بَيْضَاعَةً ، فَلَمَّا كَانَ

بَعْضُ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يَبَاعُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّيْءَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِي اشْتَرَى فَرَبِحَ ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : الرَّبِيحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ .

(۲۱۳۷۱) حضرت رباح بن عبیدہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ سامان تجارت بھیجا جب وہ راستہ میں تھا تو اُس نے دیکھا کہ کچھ فروخت ہو رہا ہے پھر اُس کو یاد آیا کہ وہ سامان کا ضامن ہے، اُس نے اُس سامان سے وہ چیز خرید لی، جب مدینہ تو اُس خریدی ہوئی چیز کو فروخت کر کے نفع کھایا، پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ فرمائیے کہ اُس نے فرمایا کہ رب المال کا ہے۔

(۱۲۰) فِي كَسْبِ الْحَجَامِ

حجام کی کمائی کا بیان

(۲۱۳۷۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : لِمَ كُرِهَ كَسْبُ الْحَجَّامِ ، قَالَ : لَا يُكْرَهُ .
(۲۱۳۷۳) حضرت سلیمان بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ حجام کی کمائی کو کیوں ناپسند کیا گیا ہے آپ فرمائیے کہ اس کو ناپسند نہیں کیا گیا۔

(۲۱۳۷۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : لَوْلَا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرِ بِهِ بَأْسًا .
(۲۱۳۷۵) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اگر حجام خون نہیں چوستا تو میں اس کمائی میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

(۲۱۳۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَيْدِ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرِيَا بَأْسًا ، وَتَكَلَّوْا : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ الْآيَةَ .

(۲۱۳۷۷) حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن یحییٰ اور حضرت قاسم بن یحییٰ سے حجام کی کمائی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ فرمائیے کہ دونوں حضرات نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾

(۲۱۳۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَيْسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : مَا تَعْجِبُنِي مِنَ الْحَجَّامِ وَالْحَمَّامِ .

(۲۱۳۷۹) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حجام اور حمام کی اجرت اور کمائی پسند نہیں۔

(۲۱۳۸۰) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ لِلْحَارِثِ غَلَامٌ حَجَّامٌ .

(۲۱۳۸۱) حضرت حارث رضی اللہ عنہما کا ایک غلام تھا جو حجام تھا۔

(۲۱۳۸۲) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ

بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۳۷۷) حضرت قاسم رضی اللہ عنہما سے حجامت کے کمائی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔
(۲۱۳۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحِيطَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ : اَعْلِفْهُ نَاصِحَكَ ، أَوْ أَطْعِمَهُ رَقِيقَكَ .

(ابوداؤد ۳۴۱۵ - احمد ۳۳۶/۵)

(۲۱۳۷۸) حضرت حرام بن سعد بن محیصہ رضی اللہ عنہما کے والد نے حضور اقدس ﷺ سے حجام کی کمائی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، وہ مسلسل آپ ﷺ سے کلام کرتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اُن پیسوں سے اونٹ کو چارہ ڈال دو یا غلام کو کھلا دو۔

(۲۱۳۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ ، فَخَفُّوا عَنْهُ مِنْ عَلَّتِهِ . (بخاری ۶۵۹۲ - مسلم ۶۲)

(۲۱۳۷۹) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ابو طیبہ حجام سے بچھنے لگوائے اور اُس کو دو صاع کھانا عطاء فرمایا اور اُس کے گھر والوں سے بات فرمائی انہوں نے اُس کے غلہ میں تخفیف کر دی۔

(۲۱۳۸۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ : كَمْ خَرَجَ جُكُّكَ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ أَصْعٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَجِهِ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرًا .

(احمد ۳۵۳/۳ - ابویعلیٰ ۱۷۷۱)

(۲۱۳۸۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو طیبہ نامی حجام سے آپ ﷺ نے بچھنے لگوائے اور اُس سے پوچھا تیری کتنی اجرت ہے؟ اُس نے عرض کیا تین صاع۔ آپ ﷺ نے اس میں سے ایک صاع کم کروا کر اُس کو اُس کا اجر (دو صاع) عطا فرمایا۔

(۲۱۳۸۱) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِكَسْبِ الْحَجَّامِ بِالْجَلْمِ بَأْسًا .

(۲۱۳۸۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حجام کی کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے جو وہ بچھنی کے ساتھ کمائے۔

(۲۱۳۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجَرَ الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ . (بخاری ۲۱۰۳ - ابوداؤد ۳۴۱۶)

(۲۱۳۸۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے بچھنے لگوائے اور حجام کو اجرت دی، اگر حجام کی کمائی حرام ہوتی تو آپ ﷺ اُس کو عطا نہ فرماتے۔

(۲۱۳۸۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَامٌ لَهُ يَحْتَجُّهُ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ! مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجِ هَذَا ؟ قَالَ : أَكَلَهُ وَأَوْكَلَهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ .

(۲۱۳۸۳) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک غلام آپؓ کو چھپنے کا غلام ان کی حجامت کر رہا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ اس اجرت کا کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کو خود بھی کھاؤں گا اور اس کو بھی کھلاؤں گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے غلام کے منہ کی طرف اشارہ کیا۔

(۲۱۳۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطَّهَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : احْتَجَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَعَهُ : كَمْ خَرَجْتُكَ ؟ قَالَ : صَاعَانِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا ، فَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتَهُ صَاعًا . (ابن ماجہ ۲۱۶۳۔ احمد ۱/۹۰)

(۲۱۳۸۳) حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے چھپنے لگوائے پھر حجام سے دریافت کیا کہ تیری اجرت کتنی ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ دو صاع۔ حجام نے رسول اللہ ﷺ کے لیے ایک صاع کم کر دیا۔ حضور ﷺ نے مجھے حکم دیا اور میں نے اس کو ایک صاع دے دیا۔

(۲۱۳۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابِرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجِرُهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ .

(۲۱۳۸۵) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے چھپنے لگوائے اور اُس کو اجرت دی اور اُس کو کمانی میں کوئی حرج ہوتا تو آپ ﷺ اس کو عطا نہ فرماتے۔

(۲۱۳۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : ابْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَكَلَى عَلَامٌ حَجَّامٌ ، وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّي أَكَلْتُ ثَمَنَ الدَّمِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَا يَزْعُمُونَ شَيْئًا ، إِنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلَامِكَ ، وَلَسْتَ تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ .

(۲۱۳۸۶) حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا میں عراق سے ہوں، میرا ایک غلام ہے جو حجامت کرتا ہے، عراق کے لوگوں کا خیال ہے کہ میں خون کی کمانی کھاتی ہوں، آپؓ نے فرمایا: وہ کچھ بھی گمان نہیں کرتے، تو اپنے غلام کی کمانی کھاتی ہے، خون کی کمانی نہیں کھاتی۔

(۲۱۳۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : احْتَجَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عَمَلَتَهُ دِينَارًا . (طبرانی ۷۸۳۰)

(۲۱۳۸۷) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے چھپنے لگوائے اور حجام کو مزدوری میں ایک دینار عطا فرمایا۔

(۲۱۳۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا معمرُ ابْنُ سامٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجَجَمَ الرَّجُلُ ، وَلَا يَشَارِطُ .

(۲۱۳۸۸) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آدمی پچھنے لگوائے اور حجام کے ساتھ شرط نہ لگائے۔

(۲۱۳۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : هُوَ سُحْتٌ .

(۲۱۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں حجام کی کمائی رشوت ہے۔

(۲۱۳۹۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّامِ .

(۲۱۳۹۰) حضرت سفیان، حضرت منصور اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم حجام کی کمائی کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۱۳۹۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ .

(۲۱۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حجام کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۳۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ : أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى غُلَامًا لَهُ حَجَّامًا فَكَسَّرَ مَحَاجِمَهُ ، وَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ .

(۲۱۳۹۲) حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلام خریدا جو حجام تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اُس کے اوزار توڑ ڈالے اور فرمایا: آپ ﷺ نے خون کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۳۹۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ غِلْمَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ حَجَّامٌ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا كَسْبَهُ فِي عِلْفِ النَّاصِحِ .

(۲۱۳۹۳) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کے نوجوانوں کے لئے ایک حجام تھا، حضور اقدس ﷺ نے اُن کو حکم فرمایا کہ اس کی کمائی اونٹوں کے چارے میں استعمال کرو۔

(۲۱۳۹۴) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ حَيْثُ ، وَمَهْرُ الْبَيْعِ حَيْثُ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَيْثُ .

(۲۱۳۹۴) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: حجامت کی کمائی، زانیہ کے مہر کی کمائی اور کتے کی قیمت حرام ہیں۔

(۲۱۳۹۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَأَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ .

(۲۱۳۹۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حجام کی کمائی کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۱۲۱) فی الرجل یتصدق بالصدقة ثم یردها إلیه المیراث

کوئی شخص صدقہ کرے اور وہی چیز وراثت میں دوبارہ اُس کو مل جائے

(۲۱۳۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَانَبَ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : ابْنِي تَصَدَّقْتُ عَلَىٰ أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيََتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ لَهَا : وَجَبَ أَجْرُكَ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ فِي الْمِيرَاثِ . (مسلم ۸۰۵ - ابو داؤد ۱۶۵۳)

(۲۱۳۹۶) حضرت ابن بَرِيْدَةَ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میں نے اپنی والدہ پر ایک باندی صدقہ کی تھی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور باندی میرے پاس رہ گئی، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تیرا اجر پورا ہو گیا اور وہ باندی وراثت میں تیری طرف لوٹ آئی۔

(۲۱۳۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ تَصَدَّقَ عَلَىٰ أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا ، ثُمَّ تَوَفَّيَتْ أُمَّهُ ، فَسَأَلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ : أَنْتَ تَرَكْتَ أُمَّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهْتَهَا فِيهِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتَهَا يُقَالُ لَهَا لَيْبَةَ .

(۲۱۳۹۷) حضرت حمید بن حلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو باندی صدقہ کی، اس کی والدہ نے اس باندی کو مکاتبہ بنا لیا، پھر اُس کا انتقال ہو گیا تو باندی وراثت میں دوبارہ اسی کو مل گئی، اُس شخص نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنی والدہ کے ترکہ کا وارث بنے گا، اور اگر تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہے جو پہلے کرتا تھا تو کر سکتا ہے۔ حضرت حمید فرماتے ہیں کہ اس کا نام لیبہ تھا۔

(۲۱۳۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِيئُهَا ، قَالَ : إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِهَا ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ . (۲۱۳۹۸) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو کوئی چیز صدقہ کرے پھر وہ اُس کو وراثت میں واپس مل جائے: فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۳۹۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا وَرِثَهَا : قَالَ : يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ .

(۲۱۳۹۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی صدقہ کرنے کے بعد وراثت میں دوبارہ اُس کا مالک بن جائے تو جو اُس کے ساتھ پہلے کرتا تھا وہی کرے۔

(۲۱۴۰۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۲۱۳۰۰) حضرت ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

(۲۱۴.۱) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا .

(۲۱۳۰۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ اُس کو کھالیا جائے۔

(۲۱۴.۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا .

(۲۱۳۰۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۱۴.۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ فِئَانٍ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعَمَكَ حَرَامًا .

(۲۱۳۰۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس کو کھالو، اللہ تعالیٰ نے اُس کا کھانا تم پر حرام نہیں کیا۔

(۲۱۴.۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْكَ سِهَامُ الْفَرَائِصِ ، فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ .

(۲۱۳۰۴) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی میراث میں حصہ بن کر آپ کو ملے اُس کا کھانا آپ کے لئے حلال ہے۔

(۲۱۴.۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ ، أَنَّ عَمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

حَقُّ يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ .

(۲۱۳۰۵) حضرت ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی چیز صدقہ کرتے اور وہ میراث میں اُن کو واپس مل

جاتی تو اُس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے (اُس کے ساتھ اسی طرح پیش آتے) جس میں وہ پہلے تھا۔

(۲۱۴.۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ .

(۲۱۳۰۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ وراثت میں واپس آپ کو مل جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۴.۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرْتُفِعُهَا ، قَالَ : إِنَّ

السَّهَامَ لَمْ تَرُدَّهَا إِلَّا حَلَالًا .

(۲۱۳۰۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو صدقہ کرے پھر وہی چیز اُس کو میراث میں مل جائے تو میراث میں

اُس کا حصہ اس میں حلت کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گا۔

(۲۱۴.۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ تَرَجَّعَ إِلَيْهِ فِي

الْيَمِيرَاتِ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ .

(۲۱۳۰۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرے پھر وہی چیز وراثت میں اُس کو واپس مل رہی ہو تو اُس کو کسی

دوسرے وارث کے حصہ میں ڈال دے۔

(۲۱۴.۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا فَقَالَ : إِنْ أَخَذَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ .

(۲۱۳۰۹) حضرت مرزوق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو

اپنے حصہ میں لے لے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر چھوڑ دے تو یہ افضل ہے۔

(۲۱۴۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا .

(۲۱۴۱۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کے مثل میں اُس کو رکھے گا (دوبارہ صدقہ کر دے گا)۔

(۲۱۴۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا .

(عبدالرزاق ۱۶۲۲۹)

(۲۱۴۱۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منت والی اونٹنی اور صدقہ اُسی دن کے لئے ہیں۔ (قیامت کے دن کے لئے)۔

(۱۲۲) فِي الرَّجُلِ يَقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ

کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دے

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۲۱۴۱۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا : أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۱۴۱۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو دراہم قرضہ میں دے اور بدلہ میں اُس سے کھانا (گندم) وصول کرے۔

(۲۱۴۱۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وَعِكْرِمَةَ ، قَالُوا : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا .

(۲۱۴۱۳) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما، حضرت حماد اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۱۴۱۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ إِلَّا مَا بَعْتَهُ بِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلَا يَصْرُكَ أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ .

(۲۱۴۱۴) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ جب اصل حق دین ہو (یعنی مدت متعین ہو) تو جو چیز دی ہے وہی وصول کر، اور اگر قرض ہو (مدت متعین نہ ہو) تو جو قرض دیا ہے اُس کے غیر جنس لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۴۱۵) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَاتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا ، أَوْ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ .

(۲۱۳۱۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے کسی شخص پر کچھ دراہم قرض ہوں، اور وہ اُس کے پاس آکر قرض کا مطالبہ کرے اور مقروض کہے کہ اس کے بدلے جو گندم، بھجور یا سونے کے علاوہ کوئی چیز رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، جب اُس کے درہم دوسرے پر قرض ہوں تو وہ اُس کے بدلے اُس سے جو چاہے وصول کر سکتا ہے۔

(۲۱۴۱۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : بَعْتُ جُزُورًا بِدَرَاهِمِ إِلَى الْحَصَادِ ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَّ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمَسِيبِ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا دَرَاهِمَ .

(۲۱۳۱۶) حضرت ابن حرملة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی اس بات پر فروخت کی کہ کنائی کے دن مجھے درہم بدلے میں چاہئیں۔ جب پردگی کا وقت آیا تو میرے لیے گندم، جو اور گیہوں کا فیصلہ کیا تو میں نے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، دراہم کے علاوہ کوئی چیز وصول نہ کرنا۔

(۲۱۴۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا .

(۲۱۳۱۷) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا دوسرے پر دین ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اُس سے (اُس کے بدلے میں) سستا غلام لے لے۔

(۱۲۳) فِي الرَّجُلِ يَعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ بِالْأَرْضِ وَيَأْخُذُ بِغَيْرِهَا

کوئی شخص کسی آدمی کو ایک شہر میں پیسے دے اور دوسرے شہر میں پہنچ کر اُس سے وصول کر لے

(۲۱۴۱۸) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ حَفْصِ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِأُفْرَاقِهَا .

(۲۱۳۱۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مدینہ منورہ میں پیسے دیئے جائیں اور افریقہ جا کر وصول کر لیے جائیں۔

(۲۱۴۱۹) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ حَفْصِ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ نَحْوِهِ .

(۲۱۳۱۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

(۲۱۴۲۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالَ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَيُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ .

(۲۱۳۲۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ حجاز پہنچ کر مال وصول کر لیا جائے جبکہ وہ عراق

میں دیئے ہوں اور عراق میں وصول کر لیے جائیں جبکہ وہ حجاز میں دیئے ہوں۔

(۲۱۴۲۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ لَمْ يَرِ بِهٖ بَأْسًا .

(۲۱۴۲۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۴۲۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مُسْكِينٍ وَخَارِجَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ

يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ بِالْحِجَازِ .

(۲۱۴۲۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ حجاز میں وہ مال وصول کر لیتے تھے جو وہ عراق میں دیتے تھے یا عراق میں وہ مال وصول کر لیتے تھے جو وہ

حجاز میں (قرض) دیا کرتے تھے۔

(۲۱۴۲۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ .

(۲۱۴۲۳) حضرت عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ دراہم حجاز میں وصول کر لیتے (جبکہ) دیتے عراق میں تھے۔

(۲۱۴۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا

بِالْكُوفَةِ .

(۲۱۴۲۴) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ بصرہ میں دراہم دے کر کوفہ میں وصول کر لیے جائیں۔

(۲۱۴۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ .

(۲۱۴۲۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسید لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۴۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَمِيَسِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَعْدُبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ أَمْرًا

عَبْدَ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جُدَادًا خَمْسِينَ وَسَقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسَقًا شَعِيرًا ، فَقَالَ

لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ : إِنَّ سِنْتَ وَقَيْتِكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوْفِينَهَا بِخَيْرٍ ، فَقَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

عُمَرَ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : وَكَيْفَ بِالضَّمَانِ ؟ . (عبدالرزاق ۱۳۶۳۳)

(۲۱۴۲۶) حضرت زینب الثقفیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے جذاذ کو پچاس وسق کھجور اور بیس وسق جو عطا فرمائی،

حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اگر آپ چاہیں تو ہم تجھے یہ مدینہ منورہ میں دے دیں اور تو ہمیں خیبر میں دے دے،

انہوں نے عرض کیا: (ظہر جاؤ) یہاں تک کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کر لوں، پس انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے

دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضمان کون دے گا؟

(۲۱۴۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ

بَارِضٍ أُخْرَى ، فَذَكَرَ ، أَوْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطَ .

(۲۱۴۲۷) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ تاجروں کو مال یہاں سے دیتے اور دوسری جگہ پہنچ کر وصول فرما

لیتے، اس بات کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے ہوا، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر بطور شرط ایسا نہ کیا گیا ہو تو تب درست ہے۔
(۲۱۴۲۸) حَدَّثَنَا عُذْرَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ ، وَكَانَ مِيمُونَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ يَكْرَهُهَا .

(۲۱۴۲۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسید حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں اور حضرت ميمون بن ابوشيبہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۴۲۹) حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ ، عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ : أُعْطِيَ الصَّرَافَ الدَّرْهَمَ بِالْبَصْرَةِ وَأَخَذَ السَّفْتَجَةَ ، أَخَذَ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : أَنْمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللَّصُوصِ ، لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .

(۲۱۴۲۹) حضرت دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: صراف کو بھرہ میں دراهم دے کر اُس سے رسید حاصل کی جاسکتی ہے؟ اُس جیسے دراهم کو نہ میں جا کر اُس سے وصول کر لیتے جاؤں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ چوروں کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے، البتہ اُس قرض میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جس میں نفع (سود) ہو۔

(۱۲۴) فِي شَهَادَةِ الصَّبِيَانِ

بچوں کی گواہی کا بیان

(۲۱۴۲۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .
(۲۱۴۳۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بچوں کی گواہی بعض کی بعض کے خلاف جائز ہے۔

(۲۱۴۳۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ شَرِيحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيَانِ ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۱۴۳۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ بعض بچوں کی گواہی ایک دوسرے پر بیع کے معاملہ میں صحیح سمجھتے تھے۔

(۲۱۴۳۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيَانِ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ .

(۲۱۴۳۲) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بچوں کی گواہی جائز ہے، اور اُن کی پہلی بات لی جائے گی۔

(۲۱۴۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصَّبِيَانِ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وَلَيْسُوا بِرَضَى ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : هُمْ أُخْرَى إِذَا سِيلُوا عَمَّا رَأَوْا أَنْ يَشْهَدُوا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ : فَمَا رَأَيْتَ الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إِلَّا بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .

(۲۱۳۳۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گواہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ﴿مِمَّنْ تَرَوْضُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ﴾ جبکہ بچہ مِمَّنْ تَرَوْضُونَ میں نہیں آتے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز کے زیادہ مستحق اور لائق ہیں جس کو چیز کو وہ دیکھیں اور اُس کے متعلق اُن سے سوال کیا جائے تو وہ گواہی دیں، اور حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاضیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قول کے علاوہ کسی کا قول لیتے ہوں۔

(۲۱۴۳۴) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا فُرِقَ بَيْنَهُمْ .
(۲۱۳۳۳) بچوں کی گواہی بڑوں کے خلاف جائز نہیں اور بچوں کی گواہی بچوں کے خلاف جائز ہے جب ان کے درمیان کوئی لڑائی، تفرقہ ہو جائے۔

(۲۱۴۳۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْمَلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيَانِ فِي السِّنِّ وَالْمَوْضِحَةِ ، وَيَأْبَاهُمُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ .

(۲۱۳۳۵) حضرت شریح رضی اللہ عنہ کی گواہی دانت اور موضع زخم میں جائز سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔

(۲۱۴۳۶) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .

(۲۱۳۳۶) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر پندرہ برس ہو جائے، تو اُس کی گواہی معتبر (جائز) ہے۔

(۲۱۴۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : شَهِدَ غُلَامٌ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ ، قَالَا : إِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَاجْزُ شَهَادَتُهُ .

(۲۱۳۳۷) حضرت داؤد بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ کے قاضیوں میں سے ایک قاضی کے پاس ایک بچے نے گواہی دی، جس کا نام سلمہ بن عبد الرحمن المخزومی تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے اُس کی گواہی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اُس کے زیر ناف کچھ بال اچکے ہیں تو اُس کی گواہی معتبر ہے۔

(۲۱۴۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصَّبِيَانِ : تَكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَبْتُونَ .
(۲۱۳۳۸) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ کی گواہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُن کی گواہی لکھی جائے گی اور اُس کی تحقیق اور چھان بین کی جائے گی۔

(۲۱۴۳۹) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَسْتَبْتُونَ .

(۲۱۳۳۹) حضرت حمید بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تحقیق کی جائے گی۔

(۲۱۴۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ .

(۲۱۳۴۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔

(۲۱۴۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا .

(۲۱۳۴۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بڑے ہونے سے پہلے بچوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔

(۲۱۴۴۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ .

(۲۱۳۴۲) حضرت عامر رضی اللہ عنہما بچوں کی گواہی کو جائز نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۴۴۳) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ

شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ فَقَالَ : بِيَا صَبِيْعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي : حَتَّى تَبْلُغَ .

(۲۱۳۴۳) حضرت سلیمان الحمدانی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے حضرت شریح رضی اللہ عنہما کے سامنے گواہی دی،

آپ رضی اللہ عنہما نے میرے کچھ جسم کو انگلی سے چھو کر فرمایا: بالغ ہونے سے قبل گواہی معتبر نہیں۔

(۲۱۴۴۴) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صَبِيَّانَ مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَقَالَ : اَكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ

وَفُلَانٌ وَهَمْ صَغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَبَادَا بَلَّغُوا فَإِنْ نَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَازَتْ ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۲۱۳۴۴) حضرت ورکع رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہما کے پاس محلے کے کچھ بچوں نے گواہی دی جو نابالغ تھے،

آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: فلاں، فلاں کی گواہی لکھ لو، جب بالغ ہو جائیں تو دیکھنا کہ اگر اس پر ثابت اور برقرار ہیں تو گواہی معتبر ہے اور

اگر رجوع کر لیں تو وہ گواہی کا لعدم ہوگی۔

(۲۱۴۴۵) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ

الصَّبِيَّانِ وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا .

(۲۱۳۴۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما بچوں کی گواہی معتبر سمجھتے تھے۔

(۲۱۴۴۶) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غُلَمَانَ فِي أُمَّةٍ ،

وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ .

(۲۱۳۴۶) حضرت شریح رضی اللہ عنہما نے باندی کے معاملہ میں بچے کی گواہی کو قبول کیا اور چار ہزار درہم کا فیصلہ سنایا۔

(۲۱۴۴۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيَّانِ

بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۱۳۴۷) حضرت علی رضی اللہ عنہما بچوں کی گواہی بچوں کے بارے میں جائز سمجھتے تھے۔

(۱۲۵) فِي الْقَصَارِ وَالصَّبَاغِ وَغَيْرِهِ

رنگ ریز وغیرہ کا بیان

(۲۱۴۴۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَسْمَاكٍ ، عَنْ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا .
(۲۱۴۴۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بروہی کو ضامن بنایا۔

(۲۱۴۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْحَجِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصَّنَاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ .
(۲۱۴۴۹) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کاریگروں کو ان کے ہاتھوں ضائع ہونے والی چیزوں کا ضامن قرار دیا ہے۔

(۲۱۴۵۰) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَارَ وَالصَّوَّاعَ ، وَقَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ .
(۲۱۴۵۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رنگ ساز اور رنگ ریز کو ضامن بنایا اور فرمایا: لوگوں کے لیے اسی میں بہتری ہے۔

(۲۱۴۵۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَارَ وَقَالَ : أَعْطَاهُ تَوْبَةً ، أَوْ شُرُوهًا .
(۲۱۴۵۱) حضرت قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے رنگ ساز کو ضامن بنایا اور فرمایا: نقصان کی صورت میں وہی کپڑا دے یا اس جیسا کپڑا دے۔

(۲۱۴۵۲) حَدَّثَنَا عُقْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَا يُضَمِّنَانِ الْقَصَارَ شُرُوهًا يَوْمَ أَخَذَهُ .
(۲۱۴۵۲) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ اور حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے رنگ ساز کو ضامن بنایا اور فرمایا: نقصان کی صورت میں وہی کپڑا دے یا اس جیسا کپڑا دے۔

(۲۱۴۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي قَصَارٍ حَرَقَ تَوْبًا : يُضَمِّنُ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذُ تَوْبَةً إِلَيْهِ .
(۲۱۴۵۳) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ اور حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اگر کپڑا پھاڑ دے تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس سے کپڑا وصول کیا جائے گا۔

(۲۱۴۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَارِ إِذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ وَكَانَ لَا يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلَا حَرَقًا ، وَلَا عَدُوًّا مُكَابِرًا .
(۲۱۴۵۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اگر خراب کر دے تو وہ ضامن ہے، اور اگر وہ چیز ڈوب جائے یا جل جائے، تو دشمن برباد کر دے تو ضامن نہ ہوگا۔

(۲۱۴۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَارِ إِذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ وَكَانَ لَا يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلَا حَرَقًا ، وَلَا عَدُوًّا مُكَابِرًا .
(۲۱۴۵۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اگر خراب کر دے تو وہ ضامن ہے، اور اگر وہ چیز ڈوب جائے یا جل جائے، تو دشمن برباد کر دے تو ضامن نہ ہوگا۔

(۲۱۴۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَارِ إِذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ وَكَانَ لَا يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلَا حَرَقًا ، وَلَا عَدُوًّا مُكَابِرًا .
(۲۱۴۵۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اگر خراب کر دے تو وہ ضامن ہے، اور اگر وہ چیز ڈوب جائے یا جل جائے، تو دشمن برباد کر دے تو ضامن نہ ہوگا۔

(۲۱۴۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : أَمَرَنِي جَارِلِيُّ قَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أَسْأَلُ لَهْ إِبْرَاهِيمَ : عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى غُلَامًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ : أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلَامٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ .

(۲۱۴۵۵) حضرت اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوسی ثابت نے جو رنگ ساز تھا مجھے کہا کہ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کروں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو کپڑے دیئے، اُس نے وہ ضائع کر دیئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اُس کا غلام ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ضامن ہوگا۔

(۲۱۴۵۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَائِكِ مَسَى فِي غَزَلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ فَأَحْرَقَتْ الْغَزْلَ ، قَالَ : يَضْمَنُ .

(۲۱۴۵۶) حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کپڑا بننے والا اونی کپڑوں میں (اون) آگ کے انگاروں کے پاس سے گزرا تو آگ کے انگارے نے اُس اون کو جلا ڈالا، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ضامن ہوگا۔

(۲۱۴۵۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الصَّبَاغُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٍ . (۲۱۴۵۷) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اور ہر مشترک اجیر ضامن ہوگا۔

(۲۱۴۵۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُضْمَنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَعَتْ يَدُهُ .

(۲۱۴۵۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اسی کا ضامن ہوگا جو اُس کے ہاتھوں نے کیا ہو۔ (جو خرابی اُس کی وجہ سے آئی ہو)۔

(۱۳۶) فِي الْأَمَةِ تَزَعَمُ أَنَّهَا حُرَّةٌ

اگر کوئی باندی خود کو آزاد قرار دے (اور اس سے شادی کر لی جائے تو) کیا حکم ہے؟

(۲۱۴۵۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أُمَّةً أَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهُا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَوَجَدُوا أُمَّةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيَمَةِ أَوْلَادِهَا فِي كُلِّ مَعْرُورٍ غُرَّةٌ .

(۲۱۴۵۹) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک باندی (ہجرت کر کے) ایک قوم کے پاس آئی اور اُن کو دھوکہ دیا، اور میں نے کہا کہ وہ آزاد ہے، ایک شخص نے اُس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس سے کچھ بچے بھی ہو گئے، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو باندی ہے تو

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس کی اولاد کی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ یہ فرماتے ہوئے کیا کہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ دھوکہ ہو اُس جرمانے کے طور پر (غلام یا باندی) دی جائے گی۔

(۲۱۴۶۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ أُمَّةً آتَتْ طَيْنًا فَرَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلَادَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِرُؤُوسِهَا مَا أُذْرِكُ مِنْ مَتَاعٍ وَجَعَلَ فِيهِمُ السَّنَةَ ، أَوْ الْمِلَّةَ : فِي كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ .

(۲۱۴۶۰) حضرت خلاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک باندی قبیلہ طی میں آئی، اس نے کہا کہ وہ آزاد ہے، اُس کو آزاد سمجھتے ہو۔ ایک شخص نے اُس کے ساتھ نکاح کر لیا، پھر اُس باندی کا آقا اُس کو لینے آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ باندی اور اُس کے بچے آقا کو ملیں گے، اور اُس کے شوہر کے لئے وہ ہے جو وہ سامان میں سے پالے۔ پھر آپ نے لوگوں میں یہ طریقہ جا فرمایا کہ ہر ایک نفس میں دو نفس ہیں۔

(۲۱۴۶۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ، عَنْ جَارِيَةٍ أَبَقَتْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى ، فَاتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَرَعِبَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَهْلٌ فَجَاءَ مَوْلَاهَا فَأَخَذَهَا ، قَالَ : يَا خُذْ الْمَوْلَى أُمَّتَهُ ، وَيَقْدِي الْأَبُ أَوْلَادَهُ بَعْرَةَ عُرَّةَ .

(۲۱۴۶۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک باندی ایک شہر سے بھاگ کر دوسرے شہر چلی گئی، اور ایک قوم کے پاس آئے آپ کو آزاد ظاہر کیا، تو اس میں ایک شخص نے رغبت کی اور اُس کو پسند کر کے اُس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اُس سے کچھ بچے ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ وہ تو باندی ہے اور اُس کا آقا بھی آ گیا تو کیا وہ اُس باندی کو لے جاسکتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا باندی کو لے جائے گا اور اُس کے بچوں کے باپ کے لئے غلام یا باندی ہے۔ (اُس کو غلام یا باندی دے گا)۔

(۲۱۴۶۲) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَصَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : وَوَلَدَ كُلُّ مَعْرُورٍ عُرَّةً .

(۲۱۴۶۲) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دھوکے سے کیے گئے نکاح سے پیدا ہونے والے ہر بچے کے بدلے ایک غرہ (غلام یا باندی) ہے۔

(۱۲۷) فِي الرَّجُلِ يَحْبِرُ عَلَى غَلَامِهِ

کوئی شخص اگر غلام کو تصرف (تجارت) وغیرہ کرنے سے روک دے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۴۶۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، أَوْ رَجُلًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالَهُ أُنُوَى .

(۲۱۳۶۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسا غلام بیچا جسے تجارت سے روکا گیا تھا تو اس نے اپنا صلح کر دیا۔

(۲۱۴۶۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا آتَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِطَهُ .

(۲۱۳۶۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا بازار والوں کے پاس آکر انہیں بتا دے کہ اس نے اپنے غلام کو تجارت سے روک دیا ہے تو پھر کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اس کے ساتھ معاملات کرے۔

(۲۱۴۶۲) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ .
(۲۱۳۶۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلام کو بازار میں بازار والوں کے سامنے سے تصرف وغیرہ کرنے سے روک دے تو اس سے بیع وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(۲۱۴۶۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا .

(۲۱۳۶۴) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ تجارت سے روکے جانے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۱۴۶۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ بَكَارِ الْعَنْزِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا حَجَرَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ فَرَفَعَ إِلَيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ : كُنْتُ تُرْسِلُهُ بَدْرَهُمْ يَشْتَرِي بِهِ لَحْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ .

(۲۱۳۶۵) حضرت بکار العنزى رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو تجارت سے روک دیا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ملے لے گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مالک سے دریافت کیا کہ کیا تو اسے درہم دے کر گوشت وغیرہ لینے بھیجتا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، یہ سن کر آپ نے اس غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔

(۱۲۸) من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه

جو حضرات آزاد شخص کو تجارت سے روکنے کو ناپسند کرتے ہیں اور جو حضرات اس کی

اجازت دیتے ہیں

(۲۱۴۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُحَجَرُ عَلَى حُرٍّ .

(۲۱۳۶۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آزاد شخص کو تجارت سے نہیں روکا جائے گا۔

(۲۱۴۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، مَعَهُ ابْنُ أُخِيهِ قَدْ اسْتَعْلَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ ابْنَ أُخِيهِ يَكْتَبِرُ أَكْلَ السُّكَّرِ ، يُعْرَضُ بِالشَّرَابِ ، قَالَ شُرَيْحٌ : أَمْسِكْ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَانْفِقْ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أُخِيهِ قَدْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ .

(۲۱۳۶۹) حضرت حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شرح بوشہ کے پاس حاضر تھا ایک شخص آیا اُس کے ساتھ اُس کا بھتیجا جس کے خلاف وہ مدد چاہ رہا تھا، اُس شخص نے عرض کیا کہ یہ میرا بھتیجا نشہ آور اشیاء بہت کھاتا ہے (اس کا اشارہ شراب کی طرف تھا) حضرت شرح بوشہ نے فرمایا اُس کا جیب خرچ روک دے اور اُس پر اچھے طریقے سے خرچ کر، حضرت حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اُس کے بھتیجے کی دائرگی کے بال آچکے تھے۔

(۲۱۴۷۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْبِ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ .

(۲۱۴۷۰) حضرت عبد الملک بن مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو لکھا اور دریافت کیا کہ وہ بوڑھا جس کی عقل زائل ہو چکی ہو یا نا سمجھ ہو چکا ہو، (اُس کا کیا حکم ہے؟) آپ رضی اللہ عنہ نے اُس کو لکھا کہ جب اُس کی عقل زائل ہو جائے نا سمجھ ہو جائے تو اُس کو تجارت وغیرہ سے روک دیا جائے گا۔

(۲۱۴۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْهُ .

(۲۱۴۷۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے۔

(۱۲۹) مَنْ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحَمَقِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ (غلام اور باندی کو) حماقت کی وجہ سے واپس کیا جائے گا

(۲۱۴۷۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحَمَقِ الْبَاتِ .

(۲۱۴۷۲) حضرت شرح بوشہ فرماتے ہیں کہ حماقت کی وجہ سے (باندی یا غلام کو) واپس کر دیا جائے گا۔

(۲۱۴۷۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ أَبِي الْمُعَلَّى ، مَوْلَى رَيْنَى تَيْمِيمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَعَاذٍ وَابْنَ جَارِيَةَ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذِهِ جَارِيَةً فَوَجَدْتُهَا حَمَقَاءً ! قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ مِنَ الْحَمَقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ حَمَقٌ كَالْجُنُونِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذَكَّرِينَ لَيْلَةَ وُلِدْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهَا : أَيُّ رَجُلِكَ أَطْوَلُ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ يَا حُدَى رَجُلِيهَا هَذِهِ ، قَالَ : فَرَدَّهَا .

(۲۱۴۷۳) حضرت زید ابو المعلى رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ایسا بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا، اُس کے پاس باندی کا بھٹرا لایا گیا، ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس سے باندی خریدی تھی یہ تو احمق ہے، دوسرے نے کہا کہ مجھے تو نہیں کہ حماقت کی وجہ سے واپس لوٹایا جائے گا، اُس شخص نے عرض کیا کہ حماقت بھی تو جنون کی طرح ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے اُس خاندی (باندی) سے فارسی میں دریافت کیا کہ تجھے وہ رات یاد ہے جس میں تو پیدا ہوئی تھی؟ اُس نے کہا کہ ہاں، آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تیری کون سی ٹانگ لمبی ہے؟ اُس نے ایک ٹانگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ، پس اُس کو واپس پہلے

کی طرف لوٹا دیا گیا۔

(۲۱۴۷۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْهُوجِ ، قَالَ : لَا يُرَدُّ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا . يَعْنِي : حُمَقًا مَعْرُوفًا .

(۲۱۴۷۴) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معمولی حماقت و نادانی کی وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا، ہاں البتہ اگر حماقت پاگل پن جیسی ہو تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔

(۱۲۰) فِي الرَّجْلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ فَيَجِدُ بِهِ قَرْعًا أَوْ صَلْعًا

کوئی شخص غلام خریدے، پھر اس کے آدھے سر کو گنجا پائے یا گنچے پن کی بیماری میں مبتلا

پائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۴۷۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الرِّعَابِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلْعِ .

(۲۱۴۷۵) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گنچے پن کی وجہ سے غلام کو واپس کیا جائے گا۔

(۲۱۴۷۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إِذَا بِهِ قَرْعٌ ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا هَذَا الْغُلَامَ وَبِهِ قَرْعٌ ، فَانظُرْ إِلَيَّ قَرْعِهِ فَإِنَّ الْقَرْعَ لَا يَحْدُثُ ، قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا ، أَرَهُ غَيْرِي ، ثُمَّ انْتَبَهَى بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ ، وَإِلَّا فِيمِنَهُ بِاللَّهِ : مَا بَاعَكَهُ وَبِهِ هَذَا الْقَرْعُ .

(۲۱۴۷۶) حضرت شعبي رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے غلام خریدا پھر جب وہ اس کو لے کر گیا تو وہ گنجا تھا، وہ شخص اس کے ساتھ بھگرتے ہوئے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور عرض کیا کہ میں نے اس سے غلام خریدا تھا یہ تو گنجا ہے آپ اس کے گنچے پن کو دیکھئے، یہ گنجا پن کوئی بنا نہیں ہے۔ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں یہ نہیں کر سکتا کہ فیصلہ بھی کروں اور گواہ بھی بنوں، میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی دکھا دو، پھر ان کے ساتھ میرے پاس آؤ تاکہ وہ تمہارے حق میں گواہی دیں وگرنہ نیچنے والا قسم اٹھائے گا کہ اس نے گنچے پن کے ساتھ نہیں بیچا تھا۔

(۱۲۱) فِي بَيْعِ صَكَاتِ الرَّزْقِ

راشن کی پرچیوں کو فروخت کرنے کا بیان

(۲۱۴۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عَمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا بِشَرَاءِ الرَّزْقِ إِذَا خَرَجَتِ الْقَطُوطُ ، وَهِيَ : الصَّكَاتُ ، وَيَقُولُونَ : لَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .

(۲۱۳۷۷) حضرت ابن عمر اور حضرت زید بن ثابت نے راشن کی پرچیاں خریدنے کو جائز قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ قبضہ سے پہلے نہ بیچو۔

(۲۱۴۷۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : نُبِتَتْ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ .

(۲۱۳۷۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام راشن کی پرچیوں کو بیچتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قبضہ سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔

(۲۱۴۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُحَيْرَةَ .

(۲۱۳۷۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یونہی منقول ہے۔

(۲۱۴۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سُنِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرِّزْقِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .

(۲۱۳۸۰) حضرت عامر سے راشن کی فروخت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں لیکن قبضہ سے پہلے نہ بیچو۔

(۲۱۴۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الرِّزْقِ إِذَا خَرَجَتْ الصَّكَاكُ .

(۲۱۳۸۱) حضرت محمد نے راشن کی پرچیاں نکلنے کے بعد اس کی بیع کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(۲۱۴۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَجِيءُ سِوَاءَ ، وَيَقُولُوا : إِنَّهُمْ يَكِيلُونَ بِالْجَرِيبِ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ كَيْلًا مَسْمِي إِلَى أَجْلِ مَسْمِي .

(۲۱۳۸۲) حضرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس میں برابری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلاف جریر کے ذرے مانتے تھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مقررہ پیمانے کو مقررہ مدت تک کے لیے خریدو۔

(۲۱۴۸۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ بِيَعِ الرِّزْقِ حَتَّى يَقْبِضَ الصِّكَّ .

الرزق حتى يقبض الصك.

(۲۱۳۸۳) حضرت ابراہیم نے پرچی کے حصول تک راشن کی بیع کو مکروہ کہا ہے۔

(۲۱۴۸۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرِّزْقِ حَتَّى يَقْبِضَهُ .

(۲۱۳۸۳) حضرت زہری نے قبضہ تک راشن کی بیع کو مکروہ کہا ہے۔

(۱۳۳) العبد یكون بین الرجلین فیکاتبہ أحدهما

ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو پھر ان میں سے کوئی ایک اُس غلام کو مکاتب بنا لے

(۲۱۴۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبْرُكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ كَاتِبِهِ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقَسَّمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ ، لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ .

قال: وكان عطاء يقول: عليه نفاذ عتقه كما يكون على الذي اعتق.

(۲۱۳۸۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما اُس غلام کے متعلق فرماتے ہیں جو تین آدمیوں کے درمیان مشترک ہو پھر ان میں سے ایک اُس کو مکاتب بنا لے، تو اُس شخص سے لے لیا جائے گا جو وہ مکاتب غلام سے وصول کرے اور وہ مال تینوں شرکاء کے درمیان تقسیم ہوگا، اور غلام تینوں کی ملکیت میں رہے گا اُس کا مکاتب بنانا جائز نہیں ہے۔

(۲۱۴۸۶) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُكَاتَبِ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ قَاطِعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتَيْهِ فَلَمْ يَقَاطِعْهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا ، لِمَنْ تَرَكَهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : يَسْتَوْفَى الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِقِيَمَةِ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ .

(۲۱۳۸۶) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ ایک مکاتب تین آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، ان میں سے بعض نے اس کو کتابت سے علیحدہ کر دیا اور بعض نے مال کتابت وصول کیا اور علیحدہ نہ کیا، وہ مکاتب غلام فوت ہو گیا اور اس نے ترکہ میں بہت سے مال چھوڑا، تو اُس کا ترکہ کس کو ملے گا؟ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جنہوں نے مکاتب بنایا تھا اُن کو بقیہ مال کتابت دیا جائے گا پھر جو کچھ بچے گا وہ اُن کے درمیان مشترک ہوگا۔

(۲۱۴۸۷) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ ، فَكَّرَهُ حَمَّادٌ ، وَكَمْ يَرِيهِ الْحَكَمُ بَأْسًا .

(۲۱۳۸۷) حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کہ ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے ان میں سے کسی ایک کا اُس کو مکاتب بنانا کیسا ہے؟ حضرت حماد نے اُس کو ناپسند فرمایا اور حضرت حکم نے اُس کی اجازت دی اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

(۲۱۴۸۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ ، قَالَ : إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدَّى رَدْوُهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يَرُدَّ .

(۲۱۳۸۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص غلام میں اپنے حصہ کا مکاتب بنا لے اگر ادائیگی سے قبل اُس کے ساتھیوں کو پتہ چل جائے تو رد کر دیا جائے گا اور اگر ان کو معلوم ہونے سے پہلے ادائیگی ہو جائے تو رد نہیں کیا جائے گا۔

(۳۱۴۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ فَاَعْتَقَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى الْعَبْدُ وَكَهْ مَالٌ ، قَالَ : يَغْرَمُ اللَّذَانِ اَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ثَلَاثَ ثَمَنِيهِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَسْهُمٍ ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ .
 (۲۱۳۸۹) حضرت عامر اُس غلام کے متعلق فرماتے ہیں جو تین آدمیوں کے درمیان مشترک تھا ان میں سے دو نے اُس کو آزاد کر دیا، پھر غلام کا انتقال ہو گیا اور اُس نے کچھ مال چھوڑا تو جن دو نے غلام کو آزاد کیا تھا وہ تیسرے شخص کے لئے ثلث مال کا ضامن ہوں گے پھر اُس کے بعد اُس کی وراثت کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے اور ہر شریک کو ایک حصہ ملے گا۔

(۳۱۴۹۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، لِأَنَّ لَعْلَ فَاَسَمَهُ الْاِذَى لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَحَدٌ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْاِذَى كَاتِبُهُ مَا كَاتِبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيَمَتِهِ الْاِذَى لَمْ يُكَاتِبَهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا .
 (۲۱۳۹۰) حضرت حسن فرماتے ہیں جو غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو، اسے دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر مکاتب بنانا مکروہ ہے، اور اگر بغیر اجازت کے مکاتب بنا لیا تو جتنا مال پہلا شریک غلام سے وصول کرے گا وہ مال دوسرے شریک کے ساتھ تقسیم کرے گا، پھر غلام مکمل بدل کتابت ادا کر دے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور جس آقا نے اُس کو آزاد نہیں کیا تھا اُس کے لئے نصف قیمت میں سخی کرے گا اور اُس غلام کی ولاء دونوں کو ملے گی۔

(۱۳۳) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ اِلَى اَجَلٍ

کوئی شخص فوت ہو جائے اور اُس پر قرض ہو، جس کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر ہو

(۳۱۴۹۱) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْتَةَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْرَاهِيمَ قَالَا : اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ اِلَى اَجَلٍ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ .
 (۲۱۳۹۱) حضرت شعبيؒ اور ابراہیمؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اُس کے ذمہ قرض ہو ایک مقررہ مدت کے لئے تو اس کا قرض فوری ادا کیا جائے گا۔

(۳۱۴۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ اِلَى اَجَلٍ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : اِذَا اَوْتِقَ الْوَرِثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ اَجَلٌ صَاحِبِهِمْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : اِذَا مَاتَ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ .
 (۲۱۳۹۲) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر ایک مقررہ مدت تک کے لئے قرض ہو؟ آپ نے فرمایا: جب اُس کے ورثاء صاحب حق کو ادائیگی کا یقین دلا دیں تو وہی مدت ہوگی جو مرحوم نے مقرر کی تھی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب مقروض فوت ہو جائے تو قرض فوراً ادا کرنا ہوگا۔

(۳۱۴۹۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ اَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ اَوْ اَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا
 (۲۱۳۹۳) حضرت اشعثؒ، ابن سیرینؒ، و ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو قرض فوراً ادا کرنا ہوگا۔

عَلَيْهِ.

(۲۱۳۹۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر مقروض فوت ہو جائے یا مفلس ہو جائے تو جو کچھ اُس کے ذمہ تھا وہ اسی وقت سے لازم قرار پائے گا۔

(۲۱۴۹۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أْفْلَسَ ، لَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ .

(۲۱۳۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مقروض فوت ہو جائے یا مفلس ہو جائے تو جو کچھ اُس کے ذمہ تھا وہ اسی وقت سے لازم قرار پائے گا۔

(۲۱۴۹۵) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ شَهَابٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إِلَى أَجَلٍ .

(۲۱۳۹۵) حضرت ابن شہاب، حضرت ابو بکر بن محمد اور حضرت سعد بن ابراہیم رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ورثاء مقررہ وقت تک قرض کی ادائیگی کریں گے۔

(۲۱۴۹۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أَوْتِقَ لَهُ الْوَرِثَةُ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ .

(۲۱۳۹۶) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ورثاء ادائیگی کی یقین دہانی کروادیں تو وہ مقررہ مدت پر ہی ادا کیا جائے گا۔

(۲۱۴۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَطْرَفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَيْتٍ شَرْطٌ .

(۲۱۳۹۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میت کے لئے کوئی بھی شرط نہیں ہے۔

(۱۳۴) فِي الرَّجْلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ مِمَّا يَكَالُ فَيُرْفَعُ لِلظَّرُوفِ مِنْهُ شَيْئًا

کوئی شخص پیمانے کے ذریعے ناپی جانے والی چیز بیچے اور برتن کے بدلے میں کچھ نکال

لے تو کیا حکم ہے؟

(مثال کے طور پر وہ برتن اور برتن کے اندر موجود چیز کا سو کلوگرام کے بدلے وزن کرے، پھر سو میں دس گرام اس بنیاد پر کم کر دے کہ وہ برتن کا وز ہے۔)

(۲۱۴۹۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ ، وَيُرْفَعُ لِلظَّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولُ : لَا إِلَّا صَبًّا ، أَوْ وَزْنًا .

(۲۱۳۹۸) حضرت طاووس ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص گھی اور زیتون کی اس طرح بیع کرے کہ برتن کے بدلے میں کچھ کم

کردے اور کہے کہ یہ وزن کے طور پر ہے۔

(۲۱۴۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطْرَةَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : الْقَطْرُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الرَّجُلَ فَيُلْقِي لِلظُّرُوفِ شَيْئًا مِنَ الْوُزْنِ .

(۲۱۴۹۹) حضرت محمد رضی اللہ عنہ قطر کو ناپسند کرتے تھے، حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ قطریہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے بیع کرے اور وزن میں سے کچھ حصہ برتن کے لئے الگ ڈال دے۔

(۲۱۵۰۰) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الدِّيَّانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، عَنِ الَّذِي يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِي الْبَوَاسِنِ وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : يَبِيعُهُمْ وَزْنَا كُتْلَةً وَالظُّرُوفُ مَعَهُ .

(۲۱۵۰۰) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا کہ لوگ بواسن میں سامان کی بیع کرتے ہیں اور برتن کے بدلے اُس میں کچھ معلوم مقدار میں ڈالتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پورے وزن کی بیع کریں اور برتن اُس کے ساتھ ہی ہوگا۔ (وزن کرنے میں برتن کو ساتھ ہی شمار کیا جائے گا)

(۲۱۵۰۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْغَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالَا : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ أَوْ الْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَرَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ .

(۲۱۵۰۱) حضرت قتادہ اور حضرت ابو ہاشم سے دریافت کیا گیا کہ کوئی بھی شخص کھی یا شہد کی بیع اس طرح کرے کہ برتن کے بدلے میں کچھ خاص مقدار کا اضافہ کرے تو انہوں نے اس طرح کرنے کو ناپسند سمجھا۔

(۲۱۵۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْرَابِيِّ يَبِيعُ بِالنُّحْيِ مِنَ السَّمَنِ وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِي لِلنُّحْيِ أَمْتَانًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۵۰۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک اعرابی کھی کا برتن لے کر آیا اور وہ بیع اس طرح کرتا ہے کہ برتن کے بدلے میں کچھ کیل ڈالتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۳۵) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ السَّلْعَةَ وَيَقُولُ قَدْ بَرِئْتُ إِلَيْكَ

کوئی شخص یہ کہتے ہوئے سامان فروخت کرے کہ میں ہر عیب سے بری ہوں، تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۵۰۳) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبُرْآنَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَانِبًا .

(۲۱۵۰۳) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ بائع یہ کہہ کر چیز فروخت کرے کہ میں ہر عیب سے بری ہوں۔

(۲۱۵۰۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو بَاعَ غَلَامًا لَهُ بِشَمَانٍ مِثْلَ دِرْهَمٍ ،

قَالَ: فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَانَ، فَسَأَلَهُ عُمَانُ فَقَالَ: بَعْتُهُ بِالْبَرَايَةِ، فَقَالَ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ بَعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ؟ فَقَالَ: بَعْتُهُ بِالْبَرَايَةِ، فَقَالَ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ بَعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ؟ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، فَرَدَّهُ عُمَانُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْفِئِ وَخَمْسٍ مِئَةٍ.

(۲۱۵۰۳) حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آٹھ سو درہم میں ایک غلام فروخت کیا، مشتری نے اس غلام میں عیب پایا اور خاصمہ کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق دریافت فرمایا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے اسے بیچتے وقت کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ہر عیب سے بری الذمہ ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ قسم اٹھائیں کہ میں نے اس کو غلام فروخت کیا اور اس میں بوقت فروخت کوئی عیب ایسا نہ تھا جو میرے علم میں ہو؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے بیچتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ہر عیب سے بری الذمہ ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ قسم اٹھائیں کہ میں نے اس کو غلام فروخت کیا اور اس میں بوقت فروخت کوئی عیب ایسا نہ تھا جو میرے علم میں ہو؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ غلام آپ کو واپس کر دیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بعد میں وہی غلام پندرہ سو درہم میں فروخت کیا۔

(۲۱۵۰۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مِغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا سَمَى مِنْ عَيْبٍ بَرَاءً مِنْهُ.

(۲۱۵۰۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بائع بیع کرتے وقت جن عیوب کا نام لے کر برأت کا اظہار کرے گا صرف انہی عیوب سے بری ہوگا۔

(۲۱۵۰۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إِذَا هُوَ سَمَى بَرَاءً.

(۲۱۵۰۶) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عیوب کا نام لے لے تو وہ بری ہو جائے گا۔

(۲۱۵۰۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ وَيَقُولُ: أَبْرَأُ مِنْ كَذَا، أَبْرَأُ مِنْ كَذَا، أَبْرَأُ مِنَ الْجَرْدِ، قَالَ: لَا، وَقَالَ: لَا يَبْرَأُ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُرِيهِ.

(۲۱۵۰۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کہتے ہوئے جانور فروخت کرتا ہے کہ میں فلاں عیب سے بری ہوں، فلاں عیب سے بری ہوں اور گنجه پن کی بیماری سے بھی بری ہوں، آپ نے فرمایا جن عیوب کا وہ نام لے گا صرف ان عیوب سے بری ہوگا۔

(۲۱۵۰۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَيْعُ السُّلْعَةُ وَأَتَبْرَأُ مِنَ الْفُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالنَّفَاعِ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، فَقَالَ: لَا تَبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ: فِي هَذِهِ الْعَيْنِ كَذَا، وَهَذَا كَذَا، وَالْأَرْدُ عَلَيْكَ.

(۲۱۵۰۸) حضرت دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: بیع فروخت کرنا یہ کہتے ہوئے کہ میں پھنسیوں سے، زخموں سے، ہاتھ اور پاؤں کے آبلوں سے اور ظاہر و باطن کے ہر عیب سے بری ہوں، یہ کہنا کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو

بری نہیں ہوگا جب تک یہ نہ کہہ دے کہ اس آنکھ کے عیب سے اور اس چیز کے عیب سے بری ہوں، اگر ایسا نہ کہے تو بیع کو تجھے واپس کیا جائے گا۔

(۲۱۵۰۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ .

(۲۱۵۰۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمام عیوب کے نام نہ لے لے اور ان پر ہاتھ نہ رکھ کر بتا دے وہ بری نہ ہوگا۔

(۲۱۵۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا سَمَى بَرَاءً ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ .

(۲۱۵۱۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف نام لینے سے بھی وہ بری ہو جائے گا، اگرچہ عیوب پر ہاتھ نہ بھی رکھے۔

(۲۱۵۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ .

(۲۱۵۱۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عیوب پر ہاتھ نہ رکھے بری نہ ہوگا۔

(۲۱۵۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : أبيعك لَحْمًا عَلَى بَارِيَةِ

أبيعك مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ ، قَالَ : إِذَا سَمَى بَرَاءً .

(۲۱۵۱۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں گوشت چٹائی پر رکھ کر فروخت کروں گا، یا میں تجھے وہ چیز

فروخت کروں گا جو زمین سے نکلے، اگر وہ عیوب کا نام لے لے تو بری ہو جائے گا۔

(۱۳۶) من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره

جو حضرات اجیر کو اجرت بتائے بغیر اس سے کام لینے کو ناپسند خیال کرتے ہیں

(۲۱۵۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالَا : مَنْ اسْتَأْجَرَ

أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ . (عبدالرزاق ۱۵۰۲۳)

(۲۱۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مزدور کو اجرت پر لائے تو اس کو چاہیے کہ اس

کی اجرت اس کو بتا دے۔

(۲۱۵۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَانُ : مَنْ اسْتَأْجَرَ

أَجِيرًا فَلْيَبَيِّنْ لَهُ أَجْرَهُ .

(۲۱۵۱۴) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مزدور کو اجرت پر لائے تو اس کو چاہیے کہ اس کی اجرت اس کو بتا دے۔

(۲۱۵۱۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمَلَ

الْأَجِيرَ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ .

(۲۱۵۱۵) حضرت ابراہیم اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما اجرت بتائے بغیر مزدور سے کام لینے کو ناپسند خیال کرتے تھے۔

(۲۱۵۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرَ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا .

(۲۱۵۱۶) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند خیال کرتے تھے کہ مزدور سے کام لیا جائے اور اُس کو اجرت معلوم نہ ہو۔ جب تک اُس کو اجرت نہ بتا دے اُس سے کام نہ لے۔

(۲۱۵۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يُسْتَأْجَرُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ .

(۲۱۵۱۷) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مزدور کو اجرت پر نہ لائے مگر اس کو اجرت بتا کر جو کہ معلوم ہو۔

(۱۳۷) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيُظْهِرُ بِهَا الْعَيْبَ

کوئی شخص باندی خرید کر لائے بعد میں اس باندی میں عیب ظاہر ہو جائے

(۲۱۵۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لَا أَذْفَعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَحِيضَ ، فَوَضَعَتْ عَلَى يَدَيَّ عَدْلَ فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ .

(۲۱۵۱۸) حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی شخص باندی خریدے اور بائع اُس کو کہے کہ جب تک اس کو حیض نہ آجائے میں تیرے سپرد نہ کروں گا وہ کسی عادل اور امین شخص کے سپرد کر دی گئی اور فوت ہو گئی، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بائع کے مال میں سے ہلاک ہو گئی۔ (نقصان بائع کا شمار ہوگا)۔

(۲۱۵۱۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَرَعَمَ أَنَّهَا حَبْلِي ، فَانْكَرَ الْإِدْيَ بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيَّ عَدْلَ حَتَّى يَبِينَنَّ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبِينٌ حَمْلُهَا فِئْتِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَبِينٌ حَمْلُهَا فِئْتِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي .

(۲۱۵۱۹) حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے باندی خریدی اور اس کا خیال تھا کہ یہ باندی حاملہ ہے، جبکہ بائع نے اُس کا انکار کیا، باندی عادل شخص کے سپرد کر دی گئی یہاں تک کہ اُس کا حمل ظاہر ہوا وہ مر گئی تو اُس کا کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اُس کا حمل ظاہر ہو جائے تو وہ بائع کے مال میں سے ہلاک ہوگی اور اگر حمل ظاہر نہ ہوا تو مشتری کے مال میں سے ہلاک ہوگی۔

(۲۱۵۲۰) حَدَّثَنَا وَرِكَعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيَّ عَدْلَ فَمَاتَتْ ، قَالَ : هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ .

(۲۱۵۲۰) حضرت عامر اور حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے باندی خریدی اور اس میں عیب نکل آئے اور اس کو کسی

عادل کے سپرد کر دیا گیا، پھر وہ باندی مر گئی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں نے فرمایا کہ وہ بائع کے مال میں ہلاک ہوگی۔

(۱۲۸) فِی نَثْرِ اللُّوزِ وَالسُّكَّرِ فِی الْعَرَسِ

شادی میں بادام اور شیرینی تقسیم کرنا

(۲۱۵۲۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَلَكَ عَبَّاسٍ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَعَنَا عِكْرِمَةُ ، فَجَاؤُوا بِاللُّوزِ وَالسُّكَّرِ لِنَشْرُوهُ فَقَالَ : عِكْرِمَةُ : ائْتُونَا بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَلَنَأْخُذَ مِنْهُ حَاجَتَنَا .

(۲۱۵۲۱) حضرت حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عباس بن تمام کی شادی میں شریک تھا۔ ہمارے ساتھ حضرت عکرمہ بھی تھے۔ کچھ لوگ بادام اور شیرینی وغیرہ لائے تاکہ اسے بکھیریں اور لوگوں کی طرف اچھالیں۔ حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں پلیٹوں میں لاؤ تاکہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں۔

(۲۱۵۲۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّهَابِ فِي الْعُرُوسَاتِ وَالْوَالِدِيْمِ .

(۲۱۵۲۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شادیوں اور ولیموں وغیرہ میں شیرینی وغیرہ بکھیرنے اور ایک دوسرے سے چھین کر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۵۲۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ .

(۲۱۵۲۳) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ شریعی وغیرہ کو پلیٹوں میں لایا جائے تاکہ اس میں سے لوگ بقدر حاجت لے لیں۔

(۲۱۵۲۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .

(۲۱۵۲۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

(۲۱۵۲۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَأْخُذُهُ الصَّبِيَانِ .

(۲۱۵۲۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے بچے اٹھالیتے ہیں۔

(۲۱۵۲۶) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دُعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى عُرْسٍ ، فَجَاؤُوا بِسُكَّرٍ لِنَشْرُوهُ فَقَالَ : أَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ .

(۲۱۵۲۶) حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ کو ایک شادی میں بلایا گیا، اس شادی میں لوگ لٹانے کے لئے شیرینی لے کر آئے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شیرینی ان کے درمیان تقسیم کر دو۔

(۲۱۵۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ

إملاً كما فحىء بسكركم لينثروه فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: دَعُوهُ فَاقْسِمُوهُ.

(۲۱۵۲۷) حضرت موسیٰ بن عبد اللہ ابن یزید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں تھا، لوگ شیرینی بکھیرنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا (لناؤمت) اس کو رکھ دو اور تقسیم کر دو۔

(۲۱۵۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ فِي نَثْرِ الْجُوزِ ، قَالَ : إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَمْ نُصَبْ مِنْهُ.

(۲۱۵۲۸) حضرت عبد اللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ بادلہ نامی شخص کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ وہ رکھ دو گے تو ہم ان تک پہنچ جائیں گے اور اگر آپ لوگ لٹاؤ گے تو ہم اس تک نہ پہنچ پائیں گے۔

(۲۱۵۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ رِجَالًا صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نَثَرُوا.

(۲۱۵۲۹) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی صالح لوگوں کو پایا جو لوٹی ہوئی چیز کھانے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۵۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ انْتِهَابَ الْجُوزِ وَالسُّكَّرِ . قَالَ : وَقَالَ عَامِرٌ : لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا كَرِهَ مَا لَمْ تَطْبُ بِهٖ نَفْسُ صَاحِبِهِ .

(۲۱۵۳۰) حضرت ابراہیم بادلہ نامی اور شیرینی لٹانے کو ناپسند کرتے تھے، حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اس کو ناپسند اس لئے کیا گیا ہے کہ شریف آدمی کا نفس اس کو پسند نہیں کرتا۔

(۲۱۵۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَثَرَ عَلَى الصَّبْيَانِ مَنَعَ صَبْيَانَهُ فَاشْتَرَى لَهُمْ .

(۲۱۵۳۱) حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب بچوں پر چیزیں لٹائی جا رہی ہوتیں تو یہ بچوں کو ان کے لینے سے منع فرماتے اور ان کو خرید کر دیتے۔

(۲۱۵۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نَهَابَ السُّكَّرِ عَلَى الصَّبْيَانِ .

(۲۱۵۳۲) حضرت خالد بن سعد بچوں پر شیرینی وغیرہ لٹانے کو ناپسند سمجھتے تھے۔

(۲۱۵۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَسَبَّحْنَا عَنْ نَهَابِ السُّكَّرِ فِي الْعُرْسِ ، فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ ، وَلَمْ يَرِ الشَّعْبِيُّ بِهٖ بَأْسًا .

(۲۱۵۳۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان دونوں حضرات سے شادی میں شیرینی وغیرہ لٹانے کے متعلق دریافت کیا گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے اس کو ناپسند فرمایا، جبکہ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے اس

میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

(۲۱۵۳۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَنبَسَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ لَمْ يَرِ بِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ .

(۲۱۵۳۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما اس کو ناپسند کرتے۔

(۲۱۵۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكَّرِ .

(۲۱۵۳۵) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما شیرینی وغیرہ لٹانے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۵۳۶) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكَّرِ .

(۲۱۵۳۶) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما بھی اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۱۳۹) فِي هَذِهِ الْآيَةِ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)

قرآن مجید کی آیت ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ کی تفسیر کا بیان

(۲۱۵۳۷) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: الْغِنَاءُ ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .

(۲۱۵۳۷) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے قرآن مجید کی آیت ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ کی تفسیر کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا گانا مراد ہے، قسم ہے اُس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(۲۱۵۳۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: الْغِنَاءُ وَشِرَاءُ الْمُغْنِيَةِ .

(۲۱۵۳۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا اور آلات موسیقی خریدنا ہے۔

(۲۱۵۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ ، وَالْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ .

(۲۱۵۳۹) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ سے مراد گانا بجانا اور گانا سننا ہے۔

(۲۱۵۴۰) حَدَّثَنَا عَدَدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ .

(۲۱۵۴۰) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گانا مراد ہے۔

(۲۱۵۴۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: هُوَ الْغِنَاءُ .

(۲۱۵۴۱) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گانا مراد ہے۔

(۲۱۵۴۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ .

(۲۱۵۴۲) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گانا مراد ہے۔

(۲۱۵۴) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ .

(۲۱۵۴) حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا مراد ہے۔

(۲۱۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ .

(۲۱۵۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے گانا (موسیقی) اور اس جیسی دوسری چیزیں مراد ہیں۔

(۲۱۵۴) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَابْرَاهِيمَ ، قَالَ اِبْرَاهِيمُ :

الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ هُوَ الْغِنَاءُ .

(۲۱۵۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا (یا سنا) دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

آن مجید کی آیت ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ سے مراد گانا (موسیقی) ہے۔

(۱۴۰) فِي الرَّجُلِ يَلْتَقِطُ الصَّبِيَّ فَيَنْفِقُ عَلَيْهِ

کسی شخص کو کوئی بچہ ملے اور وہ اُس کو پالے اور اُس پر خرچ کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

(۲۱۵۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسَوِّرُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ امْرَأَةً تَلَقَّتْ صَبِيًّا

فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى سَبَّ ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكُتِبَ : أَنْ

تُسْتَحْلَفَ أَنَّهُمَا لَمْ تَنْفِقْ عَلَيْهِ أَحْتِسَابًا ، فَإِنْ حَلَفَتْ ، اسْتَسْعَى .

(۲۱۵۴) حضرت مسور بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت کو بچہ ملا، اُس نے اس کو پالا اور اس پر خرچ کیا یہاں تک کہ وہ

من ہو گیا، پھر خاتون نے اس لڑکے سے نفقہ کا مطالبہ کیا، اُس لڑکے کے باپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو خط لکھ کر اس کا حکم

سب کیا گیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس عورت سے قسم لی جائے گی کہ اس نے ثواب کی نیت سے لڑکے پر خرچ نہیں کیا۔ اگر

مکھالے تو لڑکے سے نفقہ کے لیے سعی کرنے کو کہا جائے گا۔

(۲۱۵۴) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ .

(۲۱۵۴) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لقیط (گرے پڑے بچہ) پر خرچ کرے تو (بعد میں) اس بچہ پر کچھ لازم

نہیں ہے۔

(۲۱۵۴) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمَمْنُودُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ

نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً .

(۲۱۵۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ ملے وہ آزاد ہے، جس شخص نے اُس بچہ کی پرورش کی ہے اگر وہ نفقہ کا

مطالبہ کرے تو اگر بچہ (بڑا ہو کر) مالدار ہو تو اُس کو واپس کرے گا اور اگر وہ بچہ مالدار نہ ہو تو اُس شخص نے جو اُس پر خرچ کیا ہے

وہ صدقہ ہے۔

(۲۱۵۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى لِي وَلَدَ الزَّوْنَا أَنَّهُ يَقَاصُ صَاحِبَهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ اسْتَسْمَى وَقَضَيْتُ أَنَا : يَقَاصُهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ أَذَيْتَهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

(۲۱۵۴۹) حضرت خالد بن ابی صلت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے پالنے والے کا حساب چکائے جو اُس نے اُس کی خدمت کی ہے، اور جو باقی رہ جائے اس کے لئے کوشش کرے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اُس نے خدمت کی ہے اُس کا حساب چکائے اور جو باقی بچ جائے وہ المال سے ادا کیا جائے۔

(۱۴۱) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ بِالْبِعِيرِ الضَّالِّ فَيَنْفِقُ عَلَيْهِ

کسی شخص کو گمشدہ اونٹ ملے اور وہ اُس پر خرچ کرے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۵۵۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ عَلِيَهُ ، أَعْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ ، فَاحْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَضَى لِرَجُلٍ الْبَعِيرَ بِبَعِيرِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ . قَالَ الشَّعْبِيُّ : قَلِمُ يُعْجِنُنِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ بِبَعِيرِهِ ، نَفَقَةً عَلَيْهِ .

(۲۱۵۵۰) حضرت شععی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، اُس نے اپنا اونٹ دوسرے شخص کے پاس پایا جو اُس پر بارہا ہے، اُس کو چارہ دے کر فریبہ کر دیا ہے، وہ دونوں اپنا جھگڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے، آپ ان دنوں مدینہ منورہ کے گورنر تھے، آپ نے اونٹ کے مالک کے لئے اونٹ کا فیصلہ فرمایا اور اُس پر اُس کے خرچہ کی ادائیگی کو لازم فرمایا۔ حضرت شععی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس فیصلہ نے تعجب میں نہیں ڈالا، پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنا اونٹ پکڑ لے اُس پر کوئی وغیرہ بھی نہیں ہے۔

(۲۱۵۵۱) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ مَرْثَدَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلضُّوَالِ مِرْبَدًا ، فَكَانَ يَعْلِفُهَا عَلَفًا لَا يُسَمِّنُهَا ، وَلَا يَهْزِلُهَا ، مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَكَانَتْ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيْنَهُ عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَقْرَاهَا عَلَى خَالِهَا لَا يَبِيعُهَا ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : لَوْ وُلِّيتُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْتُ هَكَذَا .

(۲۱۵۵۱) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گمشدہ اونٹوں کے لئے ہارہ بنایا ہو

میں اُن کو چارہ ڈالا جاتا، نہ اُن کو بہت فریہ کیا جاتا نہ بہت لاغر، سارا خرچ بیت المال کے ذمہ ہوتا، وہ اونٹ گردنوں کو بلند کے جھانکا کرتے تھے، اگر کوئی شخص کسی اونٹ پر گواہ پیش کر دیتا تو وہ لے لیتا ورنہ وہ باڑہ میں اسی حال میں رہتے، اُس کو فروخت با جاتا۔ حضرت سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے مسلمانوں کا امیر بنایا جاتا تو میں یہی کرتا۔

(۱۶۲) فِی بَیْعِ الرَّقْمِ

تاکہ ایک سے بیع مرا بچہ کرنے یا اسے دھوکہ دینے کے لیے کپڑے وغیرہ پر قیمت لکھ کر چٹ لگا دینا
(۲۱۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ اَحَبِّ بِيُوْعِهِمْ اِلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ .

(۲۱۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بیع وہ ہے جس میں قیمت لکھ کر چٹ لگا دی جائے۔
(۲۱۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، اَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّقْمِ ، وَقَالَ : اِنِّي اُكْرَهُ اَنْ اُرِيَنَّ بِلَعْنَتِي بِالْكَذِبِ .

(۲۱۷) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ سامانِ فروخت پر قیمت کی چٹ لگانے کو ناپسند فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اس بات کو ناپسند ہوں کہ اپنے سامان کو جھوٹ کے ساتھ مزین کروں۔

(۲۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اِنَّمَا رَقْمْتَهُ لِاسَاؤِ مَكْمُومٍ بِهِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مَنَاقِصَةً : الْعُشْرَةَ يَتَسَعَةً .

(۲۱۹) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے سامان کی جو چاہے قیمت لکھتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قیمت لکھی ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ انصاف کروں پھر وہ اُس چیز کو کم کر کے فروخت کرتا ہے، دس کونو کے ساتھ۔

(۲۲۰) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بَنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا وَرَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ : نَشْتَرِي الْبُرَّ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَرْقُمُهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابِحَةً ، وَلَا نُبِينُ الزِّيَادَةَ ، فَقَالَ : لَا ، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَادِبَةُ .

(۲۲۱) حضرت عبد الملک بن ابی قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حضرت ربیع سے دریافت کیا کہ ہم لوگ خریدتے ہیں پھر اُس پر کچھ ثمن کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر اُس پر قیمت کی چٹ لگا دیتے ہیں اور اُس کو بیع مرا بچہ کرتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں، لیکن جو ثمن زیادہ کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو دھوکہ

دیتا ہے۔

(۲۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ اَنْ يَرْسُمَ الثِّيَابَ ، ثُمَّ يَقُولُ اَبِيعْكُمْ عَلَيَّ رَسْمِي هَذَا مُرَابِحَةً .

(۲۱۵۵۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرن نہیں کہ آپ کپڑوں پر قیمت لکھ دو پھر یہ کہتے ہوئے فروخت کرو کہ: آپ کو اس قیمت پر بیع مرا سح کے ساتھ فروخت کرتا ہوں۔

(۲۱۵۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَنِيَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمَسَاوَةِ .
(۲۱۵۵۷) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع مسامہہ کے مثل ہے۔

(۱۴۳) فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي الشَّيْءِ فَيَقِيمُ أَحَدُهُمَا بَيْتَهُ

دو آدمیوں کا کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے پھر ان میں سے ایک گواہ پیش کر

دے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۵۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَدَّعَى رَجُلٌ بَغْلًا فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَ الْبَيْتَةُ لَهُ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ ائْتَجَهُ ، فَقَضَى بِهِ شَرِيحًا لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ .

(۲۱۵۵۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے قبضہ میں موجود بچر پر دعویٰ کیا اور گواہ پیش کر دیئے وہ جس کے قبضے میں تھا اس نے اس بات پر گواہ پیش کر دیئے کہ یہ بچر اس کے پاس پیدا ہوا ہے۔ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اس کا فیصلہ اُس کے لئے کر دیا جس کے قبضے میں وہ تھا۔

(۲۱۵۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : اخْتَصِمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي لَوْالِي وَأَنَا ع . فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْتَةَ أَنَّهُ لَهَا ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُمَا بِيَدِهِ وَيَقُولُ : هِيَ لِلْمُتُّ هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ .

(۲۱۵۵۹) حضرت ابو حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عتبہ کے پاس تھا کہ آپ کے پاس موتیوں کا جھگڑا لایا ان میں سے ہر ایک نے گواہ پیش کئے کہ یہ اُس کا ہے، میں نے حضرت عبد اللہ بن عتبہ کو دیکھا کہ وہ اُس کو اپنے ہاتھ سے حرکت رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ اُس کا ہے جس کے قبضہ میں ہے۔

(۲۱۵۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : وَجِدَ بَغْلًا فِي النَّهْرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيْتَةَ لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ : لِلَّذِي هُوَ فِي أَيْدِيهِمْ .

(۲۱۵۶۰) حضرت حکم سے مروی ہے کہ ایک بچر کے بارے میں دو گروہوں کا جھگڑا ہو گیا، ہر گروہ نے گواہ قائم کئے یہ بچر ان کا حضرت عبد اللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جن کا قبضہ ہے یہ ان کا ہے۔

(۲۱۵۶۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَوَتْ الْبَيْتَانِ ، لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ .

(۲۱۵۶۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریق گواہ پیش کر دیں تو چیز اُس کے لئے ہوگی جس کا قبضہ ہوگا۔

(۲۱۵۶۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ ، اَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ .

(۲۱۵۶۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب دو گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ یہ جانور فلاں شخص کا ہے اور اُس کے پاس پیدا ہوا ہے، اور دوسرے دو گواہ گواہی دیں کہ یہ فلاں کا ہے اور اُس کے پاس پیدا ہوا ہے تو جس کے قبضہ میں ہوگا اُس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔

(۲۱۵۶۳) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ اَسْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ التَّوْبُ فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيْتَةَ اَنَّهُ تَوْبَةٌ ، وَيُقِيمُ الْاُخْرَى هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيْتَةَ اَنَّهُ تَوْبَةٌ ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ ، وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ : يُقِيمُ هَذَا الْبَيْتَةَ اِنَّهَا دَابَّةٌ ، وَيُقِيمُ الْاُخْرَى هِيَ فِي يَدِهِ الْبَيْتَةَ اِنَّهَا دَابَّةٌ ، قَالَ : هِيَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ .

(۲۱۵۶۳) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس کپڑا تھا ایک شخص نے گواہ پیش کر دیئے کہ یہ اُس کا کپڑا ہے، اور جس کے پاس تھا اُس نے بھی گواہ پیش کر دیئے کہ یہ اُس کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے قبضہ میں ہے اس کا ہے، اور جانور میں ایک شخص نے گواہ پیش کئے کہ یہ اُس کا جانور ہے، اور جس کا قبضہ تھا اُس نے گواہ پیش کر دیئے کہ یہ اُس کا جانور ہے، آپ نے فرمایا جس کے قبضہ میں ہے اُس کا ہے۔

(۲۱۵۶۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اِذْعَبَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْتَةَ اَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ بَيْنَهُمَا . (ابو داؤد ۳۳۹ - عبد الرزاق ۱۵۲۰۲)

(۲۱۵۶۴) حضرت تميم بن طرفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمیوں نے ایک اونٹ کے متعلق دعویٰ کیا اور ہر ایک نے گواہ پیش کر دیئے کہ یہ اُس کا ہے، آپ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ ان دونوں کا ہے۔

(۲۱۵۶۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْتَةَ اَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : مَا كَانَ اَحْوَجَكُمَا اِلَى مِثْلِ سُلَيْسَلَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . (عبد الرزاق ۱۵۲۰۳)

(۲۱۵۶۵) حضرت ابن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ دو آدمی ایک جانور کے متعلق جھگڑتے ہوئے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے گواہ پیش کر دیئے کہ یہ اُس کا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے اُس کا فیصلہ دونوں کے لئے فرما دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے زیادہ محتاج بنی اسرائیل کی زنجیر کی طرح نہیں تھا۔

(۲۱۵۶۶) حَدَّثَنَا عُبَادَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا

فی دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقاضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها بينهما .

(ابوداؤد ۳۶۰۸ - حاکم ۹۳)

(۲۱۵۶۶) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمیوں کا ایک جانور کے بارے میں جھگڑا ہو گیا اور ہر ایک نے گواہ پیش کر دیئے کہ وہ اُس کا ہے، آنحضرت ﷺ نے اُس کا دونوں کے لئے فیصلہ فرمادیا۔

(۲۱۵۶۷) حَدَّثَنَا عَفَانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِةَ ، عَنْ سَعِيدِ .

(۲۱۵۶۷) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۱۵۶۸) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابْتَةٍ وَآيَسَ لَهُمَا بَيْتَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ . (ابوداؤد ۳۶۶۱ - احمد ۳۸۹)

(۲۱۵۶۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمی ایک جانور کے متعلق جھگڑتے ہوئے حضور ﷺ کی خدمت میں آئے، دونوں کے پاس گواہ نہ تھے آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ دونوں قسم کے بارے میں قرعہ اندازی کر لیں۔

(۱۴۴) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَدِيعَةَ فَيُدْفَعُهَا إِلَيْهِ

کسی شخص کی امانت دوسرے کے پاس ہو اور وہ اُس کو دے دے

(۲۱۵۶۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمٌ ، فَلَمَّا حَلَّتْ ، قَالَ : أُمِسَّكَهَا مُضَارَبَةً ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ .

(۲۱۵۶۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے دوسرے کے پاس کچھ دراہم تھے، جب واپسی کا وقت آیا تو اس نے اُس سے کہا کہ اس کو بطور مضاربت اپنے پاس رکھ لے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اُس کے لئے ٹھیک نہیں ہے جب تک وہ اس سے لے کر قبضہ نہ کر لے پھر اگر چاہے تو اُس کو دوبارہ دے دے۔

(۲۱۵۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ ، لَا تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبِضَ . (۲۱۵۷۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ امانت بھی قرض کی طرح ہے، قبضہ کرنے سے پہلے اُس کو بطور مضاربت مت دو۔

(۲۱۵۷۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمٌ فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِي لِي بِهَا شَيْئًا فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، وَإِنْ هَلَكَ الْوَدِيُّ اشْتَرِي لِي فَبَيَّنْتُهُ أَنَّهُ لَهُ اشْتِرَاؤٌ ، وَإِلَّا لَمْ يَصْدَقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً فَلَا يَشْتَرِي لَهَا بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، أَوْ يُعْطِيَهَا وَرَبًّا لَهُ .

(۲۱۵۷۱) حضرت حارث سے مروی ہے کہ ایک شخص کے ذمہ دوسرے کے کچھ دراہم بطور امانت تھے، اُس شخص نے اُس سے کہا کہ ان سے میرے لئے کچھ خرید لے، آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، ہاں اگر وہ چیز ہلاک ہوگئی اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے کہ وہ اُس کے لئے خریدا گیا تھا، وگرنہ اُس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کہ وہ اُس کے لئے خریدا گیا تھا، اور اگر وہ بطور مضاربت ہو تو وہ اس سے اس کے لئے کچھ نہ خریدے جب تک کہ وہ اُس پر قبضہ نہ کر لے یا اُس کو اُس پر کوئی ولی نہ دے دے۔

(۲۱۵۷۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ اِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ اَنْ يُسَلِّمَهُ اِلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ .

(۲۱۵۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا کسی پر قرضہ ہو تو وہ قرضہ کی رقم قبضہ کیے بغیر بیع سلم میں اس کے حوالے نہ کرے۔

(۲۱۵۷۴) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَاسْلَمَهُ اِلَيْهِ ، قَالَ : لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ .

(۲۱۵۷۵) حضرت شعبيؒ سے دریافت کیا گیا کہ کسی شخص پر کسی کا دین ہو تو وہ اس سے بیع سلم کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تک کہ وہ اس پر خود قبضہ نہ کر لے۔

(۲۱۵۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي شَهَابٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُصَرَّفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَلَا يُصَرَّفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ .

(۲۱۵۷۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ مضاربت کو قرض کی طرف پھیرا جا سکتا ہے مگر قرض کو مضاربت کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا۔

(۲۱۵۷۸) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ كَلِيبِ بْنِ وَاثِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُوَيْلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَرَادَ اَنْ يُسَلِّمَهُ اِلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكْرِهَهُ ، وَقَالَ : لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ .

(۲۱۵۷۹) حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ کسی شخص کے ذمہ کسی کا قرض تھا، پھر اُس شخص نے ارادہ کیا کہ اُس کی طرف سے طعام میں ادا کر دے، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ قبضہ نہ کرے ایسا نہ کرے۔

(۱۴۵) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقْطَعُهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَوَارًا

کوئی شخص کسی سے کپڑا خریدے اور اُس کو کاٹ بھی لے پھر اُس کپڑے میں عیب پائے

تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۵۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُمَانَ أَنَّهُ قَصَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَارٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ لَبَسَهُ .

(۲۱۵۷۶) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کپڑا خریدا اُس کپڑے میں عیب تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اُس کو واپس کر دے، خواہ اس نے اس کو پہنا ہو۔

(۲۱۵۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا ، قَالَ : يُحْطُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَا يَصْعُقُ ذَلِكَ الْعَوَارَ .

(۲۱۵۷۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی نے کپڑا خریدا پھر اُس میں عیب پایا، آپ نے فرمایا عیب کی بقدر ثمن میں پیسے واپس کئے جائیں گے۔

(۲۱۵۷۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَحْوِرَهُ وَيَحْطُ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ .

(۲۱۵۷۸) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کپڑا خریدے، پھر اس میں عیب پائے تو اگر وہ کپڑا اپنی حالت سے بدل گیا ہے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بیع کو نافذ کیا جائے اور عیب کی بقدر ثمن کم کیا جائے۔

(۲۱۵۷۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُورِجٍ : أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ رَاوِيَةً ، فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ : الَّذِي أَحَدَنَتْ فِيهَا أَشَدَّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا .

(۲۱۵۷۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص بھگڑا لے کر آئے، ایک نے دوسرے سے کپڑا خریدا تھا اور پھر اُس کو کاٹ دیا تھا، کاٹنے کے بعد اس میں عیب پایا، آپ نے فرمایا کہ: کاٹنے کی وجہ سے جو عیب تو نے اس میں پیدا کر دیا وہ اُس عیب سے زیادہ سخت ہے جو اس میں تھا۔

(۲۱۵۸۰) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ . وَسَأَلْتُ حَمَادًا فَقَالَ : يَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ أَرْضَ التَّقْطِيعِ . قَالَ شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ ، عَنْ حَمَادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُوَضَعُ عَنْهُ أَرْضُ الْعَوَارِ .

(۲۱۵۸۰) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کپڑا خریدا کہ اُس کو کاٹ لیا پھر اس میں عیب نکل آیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کپڑا واپس کر دے گا، میں نے پھر حضرت حماد سے یہی دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کپڑا واپس کر دے گا اور کاٹنے کا تاوان بھی واپس کرے گا۔ (کپڑے کو کاٹنے کی وجہ سے جو خرابی آئی ہے اُس کا جرمانہ بھی واپس کرے گا) شعبہ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے ہیثم نے خبر دی ہے کہ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اُس سے عیب کا تاوان لے گا۔

(۲۱۵۸۱) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُوَيْبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبَسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الصُّفْرَةِ .

(۲۱۵۸۱) حضرت جبلة بن سُوَيْبٍ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ رضی اللہ عنہ نے ایک قمیض خریدی اور اُس کو پہن

لیا، اس میں آپ کی داڑھی سے زردی لگ گئی، آپ نے وہ قمیض واپس کرنے کا ارادہ کیا پھر اُس زردی کی وجہ سے واپسی کا ارادہ ترک فرمادیا۔

(۲۱۵۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ .

(۲۱۵۸۲) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی قمیض خریدے جس میں عیب ہو تو اُس کو اختیار ہے۔ (چاہے تو رکھ لے چاہے تو واپس کر دے)

(۱۶۶) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ فَيَسْتَغْلِيهِمَا

کوئی شخص غلام یا گھر خریدے پھر اُس کو کرایہ پر دے کر ان سے نفع حاصل کرے

(۲۱۵۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : النَّمَاءُ مَعَ الضَّمَانِ ، يَعْنِي الرَّبْحَ .

(۲۱۵۸۳) حضرت ابو بکر بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ نفع حاصل کرنا ضمان کے ساتھ ہے۔

(۲۱۵۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ الْعَبْدَ بِاللَّدَاءِ ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَوَلَّهُ الْعَلَّةَ .

(۲۱۵۸۳) حضرت شرح بن شیبہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے غلام واپس کر دے؟ آپ نے فرمایا کہ واپس کر دے اُس کا نفع اٹھانا اُس کے لئے ہی ہوگا۔ (ضمان وغیرہ نہیں ہے)۔

(۲۱۵۸۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَدَّعَاهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَحَقَّهُ ، فَقَضَى لَهُ بِالْعَبْدِ وَبِغَلَّتِيهِ ، وَقَضَى لِلرَّجُلِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ غَلَّتِيهِ . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : هُوَ فِيمَ .

(۲۱۵۸۵) حضرت ابن عاون سے مروی ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا پھر اُس کو کرایہ پر دے کر نفع حاصل کیا، پھر ایک شخص نے اُس غلام پر دعویٰ کر دیا، وہ دونوں جھگڑتے ہوئے حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے، وہ اُس غلام کا مستحق نکل آیا آپ نے اُس کے لئے غلام اور اُس کے منافع کا فیصلہ فرمادیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس فیصلہ کا ذکر حضرت محمد بن سیرین سے کیا، آپ نے فرمایا وہ سمجھ دار ہیں، جو صحیح سمجھا اُس کا فیصلہ کیا۔

(۲۱۵۸۶) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَعْلَهُ ، قَالَ : الْعَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي .

(۲۱۵۸۶) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو غلام خریدے پھر وہ عیب پر مطلع ہو، اور وہ اس غلام کو کرایہ پر دے کر نفع بھی اٹھا چکا ہو، آپ نے فرمایا کہ نفع مشتری کے لئے ہوگا۔

(۲۱۵۸۷) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَادٍ ، قَالَ : الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ .

(۲۱۵۸۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ نفع جو اٹھایا ہے وہ مشتری کے لئے ہوگا مگر ضمان کے ساتھ۔

(۲۱۵۸۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَعْلَمَهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ، قَالَ : لَا أَجْعَلُ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئًا ، يَعْنِي الْمُسْتَحَقَّ .

وَفِي أَشْبَاهِ هَذَا فَيَمَنْ اسْتَقْدَمَ مَنْ فِي يَدَيْهِ .

(۲۱۵۸۸) حضرت حارث عکلی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے مکان خریدا اور پھر اُس کو کرایہ پر دے کر نفع اٹھایا، پھر ایک شخص اُس کا مستحق نکل آیا، آپ نے فرمایا میں اُس کے لئے اس سے نفع اٹھانے پر کوئی ضمان لازم نہ کروں گا۔

(۲۱۵۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُفَّافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْخُرَاجَ بِالضَّمَانِ . (ابوداؤد ۳۵۰۲۔ ترمذی ۱۲۸۵)

(۲۱۵۸۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ خراج ضمان کے ساتھ ہے۔

(۲۱۵۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَهُ : الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ .

(۲۱۵۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نفع اٹھانا ضمان کے ساتھ ہے۔

(۲۱۵۹۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لِابْنِهِ ، وَكَانَ

الْأَبُ يَرْهَقُ ، فَجَاءَ الْإِبْنُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ ، وَقَضَى لَهُ بِالذَّارِ ، فَقَالَ : غَلَّتْهَا ؟ فَقَالَ :

غَلَّتْهَا بِضَمَانِهَا .

(۲۱۵۹۱) حضرت زید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا مکان فروخت کیا، اُس کا باپ کم عقل تھا، بیٹا

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو آپ نے بیع کو باطل کر دیا اور بیٹے کے لئے گھر کا فیصلہ فرمایا۔ بیٹے نے سوال کیا کہ اس کے

کرائے کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس کا نفع ضمان کے ساتھ ہوگا۔

(۲۱۵۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَبَّاحٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي

رَجُلٍ غَضَبَ عَبْدًا فَاسْتَعْلَمَهُ ، قَالَ : يَرُدُّ الْغَلَّةَ .

(۲۱۵۹۲) حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے غلام غصب کیا اور پھر اُس سے نفع اٹھایا، آپ نے فرمایا:

کرایہ پر دے کر جو نفع حاصل کیا ہے وہ واپس کرے گا۔

(۱۴۷) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمْرَ النَّخْلِ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ

کوئی شخص کھجور کا درخت خریدے پھر پھل کاٹنے سے قبل آگے فروخت کر دے

(۲۱۵۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالْوَبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرِيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِذَا أَدْرَكَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ .

(۲۱۵۹۳) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ آدمی درخت پر جو پھل ہے اُس کو خرید لے پھر اُس کو کاٹنے سے قبل آگے فروخت کر دے۔

(۲۱۵۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۱۵۹۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۵۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الثَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا .

(۲۱۵۹۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درخت پر لگا پھل خریدے تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لے اُس کو آگے فروخت نہ کرے۔

(۲۱۵۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا اشْتَرَى الثَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَصْرِمَهَا .

النخل ان بیعہا حتی یصرمہا .

(۲۱۵۹۶) حضرت عکرمہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی درخت پر لگا پھل خرید لے پھر اُس کو کاٹنے سے قبل فروخت کر دے۔

(۲۱۵۹۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ . قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثُرُوا عَلَيْهِ فِيهِ ، قَالَ : دَعُوا مَا يَرِيكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيكُمْ .

(۲۱۵۹۷) حضرت یزید بن ہارون ، عن ہشام ، عن الحسن : فی الرجل یشتری الثمر علی رؤوس النخل ، قال : لا بأس ان یشترہ قبل ان یصرمہ . قال : وكان محمد لا یرى به زمانا بأسا ، فلما اکثروا علیه فیہ ، قال : دعوا ما یریکم الی ما لا یریکم .

(۲۱۵۹۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی درخت پر لگا پھل خرید لے تو اُس کو کاٹنے سے قبل آگے فروخت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب لوگوں نے اُن سے بہت زیادہ اس بارے میں پوچھا شروع کیا تو آپ نے فرمایا: اُس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اُس کے بدلے میں جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔

(۲۱۵۹۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ الْفَرَاتِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : بَعْتُ قَوْمًا ثَوْبًا وَارْتَهَنْتُ مِنْهُمْ رَهْنًا إِلَى

أَجَلَ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَيْتَ مِنْهُمْ نَخْلًا بِمَا لِي عَلَيْهِمْ ، فَمَبَضَّتْهُ وَيَسَّتَهُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، فَوَقَعَ مِنْهُ عِدْقٌ ، فَأَخَذْتَهُ ، ثُمَّ جَانَوْنِي الَّذِينَ بَاعُونِيهِ ، فَرَعَبُوا إِلَيَّ فِي الثَّمَرِ فَبِعْتَهُ مِنْهُمْ إِلَى أَجَلَ ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَسَأَلْتُ سَالِمًا وَقَصَّصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِي ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ : كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِي ، قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۲۱۵۹۸) حضرت ثعلبہ بن فرات انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کے لوگوں کو کھجور فروخت کیا اور ایک خاص مدت کے لئے پیسے رہن رکھوا دیئے، جب مقررہ مدت مکمل ہوگئی تو ان پیسوں کے بدلے میں ان سے کھجور کے درخت خرید لئے، اور ان پر قبضہ کر لیا اور اس کے پھل کو درخت پر ہی کھایا، وہ خوشے بن کر پھل دار بن گئے تو میں نے ان کو اتار لیا، پھر جن لوگوں نے مجھے فروخت کیا تھا وہ میرے پاس آئے اور اس پھل کی طرف رغبت کرنے لگے، میں نے وہ پھل ان کو ایک مقررہ مدت کے لئے فروخت کر دیا، اس بارے میں لوگوں نے بہت سی باتیں کیں تو میں نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا اور ان کو یہ سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے دل میں تھا کہ میں دوبارہ انہی کو فروخت کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں خدا کی قسم میرے دل میں یہ خیال بھی نہ گذرا تھا، آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، پھر میں نے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا؟ آپ نے بھی دریافت کیا کہ کیا تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ دوبارہ انہی کو فروخت کروں گا؟ میں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم میرے دل میں یہ خیال بھی نہ آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۵۹۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ جَرِيْتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمْرَةَ النَّخْلِ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ .

(۲۱۵۹۹) حضرت عکرمہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اگر کھجور کا درخت خریدے، آپ نے فرمایا کہ جب تک پھل نہ کاٹ لے آگے فروخت نہ کرے۔

(۱۴۸) من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثنى بعضه

جو حضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص بیع کرے اور اس میں بعض مجہول

حصہ مستثنیٰ کر لے

(۲۱۶۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْيَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّيَا .

(مسلم ۱۱۷۵ - احمد ۳۱۳)

(۲۱۶۰۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ بیع کر کے اس میں کچھ حصہ

(مجهول) الگ کر لیا جائے۔

(۲۱۶.۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : أبيعُ تَمْرَ أَرْضِي وَأَسْتُنِي ؟ قَالَ : لَا تَسْتُنِي إِلَّا شَجَرًا مَعْلُومًا ، وَلَا تَبْرَأَنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ : فَذَكَرْتَهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَكَانَهُ أَعْجَبَهُ .

(۲۱۶۰۱) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ: میں اپنی زمین کے پھل فروخت کر کے اس میں سے کچھ حصہ الگ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا مستثنیٰ نہ کرو، اگر کرنا ہے تو ایک معین درخت الگ کر لو، لیکن اُس کو بھی صدقہ سے بری نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا۔

(۲۱۶.۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَوْلَا أَنَّ ابْنَ عَمَرَ كَرِهَ الثُّمَيَّا وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا مَا رَأَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسًا . زَادَ ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ : فَتَحَدَّثْنَا أَنَّ ابْنَ عَمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا أبيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ ، وَلَا أبيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ .

(۲۱۶۰۲) حضرت قاسم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بعض مجہول حصہ الگ کرنے کو ناپسند نہ کرتے اور ہماری اپنی مرضی ہوتی تو ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے۔ ابن علیہ راوی اضافہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے میں اس (معین) درخت کو فروخت نہیں کروں اس درخت (معین) کو فروخت نہیں کروں گا۔

(۲۱۶.۳) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنَ النَّخْلِ بِكَيْلٍ .

(۲۱۶۰۳) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہما اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ بھجور کے درختوں میں سے کچھ ماپ کر خریدے جائیں۔

(۲۱۶.۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أبيعُ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتُنِي بَعْضُهَا ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ قُلْ : أبيعُكَ نِصْفَهَا .

(۲۱۶۰۴) حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ میں ایک آدمی کو بکری فروخت کر کے اُس کا بعض حصہ مستثنیٰ کیا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ آپ اُس کو یوں کہو کہ میں نصف بکری آپ کو فروخت کرتا ہوں۔

(۲۱۶.۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يبيعُ البَيْعَ وَيَسْتُنِي بَعْضُهُ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ .

(۲۱۶۰۵) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ آدمی کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور اس میں سے کچھ مستثنیٰ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا

یہ ٹھیک نہیں ہے۔

(۲۱۶۰۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ لِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ، ثُمَّ أَرْضِيهِ وَيَسْتَتِيهِ الْكُرَّ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَعْلِمَ نَحْلًا .

(۲۱۶۰۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آدمی اپنی زمین سے کھجور کی بیع کرے اور ایک (یا کچھ) گز متشتی کر لے، آپ نے فرمایا تعجب ہے کہ وہ کھجور کے درخت کو جانتا ہے (کہ وہ کتنی کھجور دے گا)۔

(۲۱۶۰۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، وَقَالَ : أَنَا شَرِيكَ لِبَيْهَا ، قَالَ : لَكِرَّةٌ هَذَا الْبَيْعُ .

(۲۱۶۰۷) حضرت حجاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو سامان فروخت کیا اور اس نے کہا کہ میں سامان میں تیرا شریک ہوں؟ آپ نے اس بیع کو ناپسند فرمایا۔

(۲۱۶۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَتِيهِ كَيْلًا ، أَوْ سِلًّا ، أَوْ كِرَارًا .

(۲۱۶۰۸) حضرت سالم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ بیع میں کچھ کیل، گز یا خاص برتن متشتی کر لئے جائیں۔

(۱۴۹) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

جن حضرات نے اس بیع کی اجازت دی ہے

(۲۱۶۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . (بخاری ۳۳۳۔ ابوداؤد ۳۴۹۹)

(۲۱۶۰۹) حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک اونٹ یہ شرط لگا کر فروخت کیا کہ مدینہ منورہ تک اس پر سواری کریں گے۔

(۲۱۶۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرُو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ ، ثُمَّ رَهَ لَهُ بَارِبَعَةَ آلَافٍ وَاسْتَتِي مِنْهَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ .

(۲۱۶۱۰) حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ نے چار ہزار درہم میں پھل فروخت کئے اور اس میں سے آٹھ سو درہم متشتی کئے۔

(۲۱۶۱۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ، ثُمَّ رَهَهُ وَيَسْتَتِي مِنْهَا مَكِيلَةً مَعْلُومَةً .

(۲۱۶۱۱) حضرت سالم رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ پھلوں کی بیع کی جائے اور اس میں سے کچھ معین کیل متشتی کر لیے جائیں۔

(۲۱۶۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْنَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ نَيْبًا وَاسْتَشْتَى بَعْضُهُ .

(۲۱۶۱۲) حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کچھ خرید تو انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ الگ کیا۔

(۲۱۶۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ، ثَمَرَتَهُ وَيَسْتَشْتَى ثَلَاثَهُ ، رُبْعَهُ ، نِصْفَهُ .

(۲۱۶۱۳) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما اس طرح بیع کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ پھلوں کی بیع کرے اور اس میں سے ثلث، ربع یا نصف مستثنیٰ کر لے۔

(۲۱۶۱۴) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الرَّجَالِ ، عَنْ أُمِّ عَمْرَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثَمْرَةَ أَرْضِهَا ، وَتَسْتَشْتَى مِنْهَا .

(۲۱۶۱۴) حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا اپنے زمین کے پھلوں کی بیع کرتی اور اس میں سے کچھ حصہ مستثنیٰ کر لیتیں۔

(۲۱۶۱۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ بَاعَ ، ثَمْرَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دَرَاهِمٍ ، أَوْ بِثَلَاثَةِ ، وَاسْتَشْتَى مِنْهَا سَبْعِينَ .

(۲۱۶۱۵) حضرت عمرو بن حزم نے تین یا چار ہزار کے پھلوں کی بیع کی اور اس میں سے سات سو درہم مستثنیٰ کئے۔

(۲۱۶۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السَّلْعَةَ وَيَسْتَشْتَى نِصْفَهَا .

(۲۱۶۱۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ سامان کی بیع کی جائے اور اس میں سے نصف مستثنیٰ کر لیا جائے۔

(۲۱۶۱۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ بَاعَ ثَمْرَتَهُ ، وَاسْتَشْتَى مِنْهَا .

(۲۱۶۱۷) حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے اپنے پھل فروخت کئے اور اس میں سے کچھ مستثنیٰ کئے۔

(۱۵۰) مَنْ رَخَّصَ فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

جن حضرات نے سونے اور چاندی اور ایک دوسرے کے بدلے دینے کی اجازت دی ہے۔

(۲۱۶۱۸) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ لِامْرَأَةٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ .

(۲۱۶۱۸) حضرت حکم سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ کا اُن کے ذمہ کچھ لازم تھا، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اُن کو اُن درہم کی قیمت میں دینا دوں۔

(۲۱۶۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيَّ الْوَرِقُ ، فَيُعْطِي قِيمَتَهَا دَنَانِيرَ ، إِذَا قَامَتْ عَلَيَّ سَعِيرٌ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ ، فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا .

(۲۱۶۱۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا آپ پر چاندی لازم تھی آپ نے اس کی قیمت میں دینار دے دیئے ، اور آپ پر دینار لازم تھے آپ نے اس کی قیمت میں چاندی دے دی۔

(۲۱۶۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبُهَيْمِيِّ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ لَمْ يَرِ بِأَسٍ بِاقْتِصَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ .

(۲۱۶۲۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ چاندی کے بدلے سونا اور سونے کے بدلے چاندی دی جائے۔

(۲۱۶۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ ، أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۶۲۱) حضرت موسیٰ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ آدمی قرض میں سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سونا دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۶۲۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرِ بِهِ بَأْسًا .

(۲۱۶۲۲) حضرت طاووس اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۶۲۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

(۲۱۶۲۳) حضرت قتادہ اور حضرت زہری رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۶۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِاقْتِصَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيَمَةِ السُّوقِ .

(۲۱۶۲۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بازار کی قیمت کا لحاظ کر کے اگر سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے میں سونے دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۶۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۶۲۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۶۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۶۲۶) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۶۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرٌ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بَصْرِفِهَا ، وَلَا يَرَى بِأَسًا أَنْ يَرِيدَهُ عَلَى السَّعِيرِ ، أَوْ يَنْتَقِصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا .

(۲۱۶۲۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ذمہ دوسرے کے دینار ہوں اور وہ اُن کی جگہ درہم دے دے تو کوئی حرج نہیں، لہذا اُس کی قیمت کچھ کم یا زیادہ بھی ہو جائے اگر وہ دونوں اُس پر راضی ہوں۔

(۱۵۱) من کبرہ اقتضاء الذہب من الورق

جن حضرات سونے اور چاندی کو ایک دوسرے کے بدلے دینے کو ناپسند قرار دیتے ہیں

(۲۱۶۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ .

(۲۱۶۲۸) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سونا دینے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۶۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ .

(۲۱۶۲۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس کو ناپسند سمجھتے تھے۔

(۲۱۶۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لَا تَأْخُذْ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلَا تَأْخُذَنَّ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ .

(۲۱۶۳۰) حضرت ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ذمے تیری چاندی قرض ہو تو اس سے سونا مول نہ کر، اور سونے کے بدلے چاندی وصول نہ کر۔

(۲۱۶۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَكْرِهَهُ .

(۲۱۶۳۱) حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے کو درہم قرض میں دیئے ہیں تو کیا اُس سے دینار مول کر سکتا ہے؟ آپ نے اس کو ناپسند کیا۔

(۲۱۶۳۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۱۶۳۲) حضرت ابو سلمہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۶۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمٌ فَأَخَذَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكْرِهَهُ .

(۲۱۶۳۳) حضرت ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ذمے دوسرے کے کچھ درہم تھے، پھر اُس نے اُن کی قیمت میں دینار وصول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے اس کو ناپسند کیا۔

(۲۱۶۳۴) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ابْتَعْتُ مِنْ بَرْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ مِنِّي ، فَقُلْتُ : عِنْدِي ذَرَاهِ لَيْسَ عِنْدِي دَنَانِيرُ فَقَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ : خُذْ مِنْهُ دَنَانِيرَ عَيْنًا ، فَإِنِ أَدَّعَا ، فِدْعُهُ ، مَوْعِدُهُ اللَّهُ .

(۲۱۶۳۳) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے غلام سے چار دینار میں اونٹنی خریدی، وہ حق وصول کرنے جب میرے پاس آیا تو میں نے اُس سے کہا کہ میرے پاس دراہم ہیں دینار نہیں ہیں، تم مجھ سے دینار لے لو، اُن نے کہا کہ میں سعید بن مسیب سے پوچھ کر لوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا: اس سے دینار ہی وصول کرو، اور اگر وہ اکرے تو چھوڑ دینا کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کا وقت مقررہ کیا ہوا ہے۔

(۲۱۶۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ .

(۲۱۶۳۵) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۶۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَهُ .

(۲۱۶۳۶) حضرت عبد اللہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۱۵۲) مَنْ لَمْ يَرِ بِالْمَزَارِعَةِ بِالنِّصْفِ وَبِالثَّلْثِ وَبِالرَّبْعِ بِأَسَا

جو حضرات نصف، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے

(۲۱۶۳۷) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي ، عَنْ عُمَانَ أَقْطَعَ خَبَابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصَهْبِيًّا أَرْضًا ، فَكَلَّا بَجَارِي قَدْ رَأَيْتَهُ يَا أَرْضَهُ بِالثَّلْثِ وَالرَّبْعِ : عَبْدُ اللَّهِ وَسَعْدًا .

(۲۱۶۳۷) حضرت ابراہیم بن مہاجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ بن طلحہ سے مزارعت کے متعلق دریافت کیا؟ اُن نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب، حضرت عبد اللہ، حضرت سعد اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم کو اپنی زمین دی میں نے دیکھا کہ آپ نے مزارعت بالثلث اور ربع کے تحت زمین دی۔

(۲۱۶۳۸) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَقَدْ أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ يَعْنِي بِنِصْفٍ .

(۲۱۶۳۸) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمروالی زمین مزارعت بالنصف کرتے ہوئے دی

(۲۱۶۳۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ

يُزَارِعَانِ بِالثَلَاثِ وَالرُّبْعِ

(۲۱۶۳) حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم مزارعة بالثلث، اور ربع فرمایا کرتے تھے۔

(۲۱۶۴) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثَلَاثِ وَالرُّبْعِ فَلَمْ يَعْصِ ذَلِكَ عَلَيْنَا.

(۲۱۶۳) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ اپنی زمینیں مزارعة بالثلث اور ربع کے تحت دیا کرتے تھے، آپ نے اس پر ہمیں ملامت نہ فرمائی۔

(۲۱۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالٍ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ بِنَحْوِهِ.

(۲۱۶۳) حضرت طاووس سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۱۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ حَيْبَرَ عَلَى الشُّطْرِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، ثُمَّ أَهْلُهُمْ إِلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثَّلَاثَ وَالرُّبْعَ.

(۲۱۶۳) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے خیبر والوں کو اپنی زمین نصف مزارعة دی۔ پھر حضرت بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر ان کے اہل و عیال نے آج تک مزارعة بالثلث اور ربع فرمائی۔

(۲۱۶۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكَيْعٌ، عَنْ عُمَرُو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتَهُ، عَنِ الْمَزَارَعَةِ بِالثَلَاثِ وَالرُّبْعِ، فَقَالَ: إِنَّ نَظَرْتُ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدْتَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

(۲۱۶۳) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ زمین مزارعة بالثلث اور ربع کرتے ہوئے دینا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آل کو دیکھو گے تو آپ ان کو اس طرح کرتے ہوئے پاؤ گے۔

(۲۱۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ كَلْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَدْرٌ، وَلَا بَقْرٌ، فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَرَزَعْتَهَا بِنَدْرِي وَبَقْرِي، ثُمَّ قَاسَمْتَهُ عَلَى النِّصْفِ، قَالَ: حَسَنٌ.

(۲۱۶۳) حضرت کلب بن وائل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے عرض کیا کہ ایک شخص کی اپنی زمین اور پانی ہے لیکن اُس کے پاس دانہ اور بیل نہیں ہے، اُس نے اپنی زمین مزارعة بالنصف کے طور پر مجھے دی میں نے اپنے بیج اور بیل کے ساتھ کھیتی باڑی کی (اور جو کچھ نکلا) اُس کو نصف تقسیم کر لیا، (ایسا کرنا ٹھیک ہے)؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے۔

(۲۱۶۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ صَحْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صَلْبِجٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ لَمْ يَرَبَّأَسًا بِالْمَزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ.

(۲۱۶۳۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ مزارعة بالنصف کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۶۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرْضِي وَبِعِيرِي سَوَاءً

(۲۱۶۳۶) حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زمین اور میرا اونٹ برابر ہے۔

(۲۱۶۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ: أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللَّهِ لَنُكْرِي-

بِكِرَاءِ الْإِبِلِ.

(۲۱۶۳۷) حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ابن خدیج رضی اللہ عنہ اپنے نفس پر زیا

چاہی، خدا کی قسم میں ضرور بضرور اس سے اونٹ کا کرایہ وصول کروں گا۔

(۲۱۶۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالْمَزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُلْثِ

وَالرُّبْعِ.

(۲۱۶۳۸) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ مزارعة بالنصف، ثلث اور ربع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۶۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِي

(۲۱۶۳۹) حضرت ابن الاسود اپنے والد محترم کی زندگی میں دیہات والوں کے ساتھ مزارعة کرتے تھے۔

(۲۱۶۵۰) حَدَّثَنَا الْفُضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كُنْتُ أَزَارِعُ بِالثُلْثِ

وَالرُّبْعِ وَأَحْمِلُهُ إِلَى عِلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَتَهَوَّنِي عَنْهُ.

(۲۱۶۵۰) حضرت ابن الاسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مزارعة بالثلث اور ربع کیا کرتا تھا، میں نے حضرت علقمہ اور حضرت

الاسود رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ (اُن کو باخبر کیا اس بارے میں) پس اگر وہ اس میں کچھ حرج سمجھتے تو مجھے اس سے منع کرتے۔

(۲۱۶۵۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

(۲۱۶۵۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زمینوں کو مزارعة بالثلث اور ربع پر دینے کا حکم فرمایا تھا۔

(۲۱۶۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ أَنْ يُزَارِعَ

بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ.

(۲۱۶۵۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مزارعة بالثلث اور ربع کرو۔

(۲۱۶۵۳) حَدَّثَنَا فَضِيلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانُ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَ

آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ، أَوْ الرَّبْعَ، أَوْ الْعُشْرَ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

(۲۱۶۵۳) حضرت قاسم اور حضرت ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کو اپنی زمین مزارعة بالثلث

ربیع اور عثر پردے، اور اس پر فرقہ میں کوئی چیز لازم نہیں ہے۔

(۲۱۶۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَوِي بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا .

(۲۱۶۵۴) حضرت ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد زمین کرایہ (مزارعت) پردینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۱۶۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۶۵۵) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۶۵۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنِ

الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَا وَاللَّهِ

أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إِنَّمَا آتَاهُ رَجُلَانِ قَدْ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ كَانَ هَذَا

شَانِكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ : لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ . (ابوداؤد ۳۳۸۳ - احمد ۱۸۲)

(۲۱۶۵۶) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے، خدا کی قسم میں ان

سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر

تمہاری یہی حالت ہے تو تم لوگ زمین کرایہ (مزارعت) پر نہ دیا کرو، حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے صرف آپ ﷺ کا آخری قول ”زمین

مزارعت پر مت دیا کرو“ سنا۔

(۲۱۶۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةَ

إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثَّلْثِ وَالرَّبْعِ .

(۲۱۶۵۷) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کا کوئی بھی گھرایا نہ تھا جو اپنی زمینیں مزارعت بالثلث اور

ربیع پر نہ دیتے ہوں۔

(۲۱۶۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثَّلْثِ .

(۲۱۶۵۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی زمین مزارعت بالثلث پر دیا کرتے تھے۔

(۲۱۶۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدٍ ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ ، قَالَ : أَرْضِي وَيَعِيرِي سَوَاءٌ .

(۲۱۶۵۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زمین اور میرا اونٹ (کرایہ پردینے کے اعتبار سے) برابر ہیں۔

(۲۱۶۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشُّطْرِ . (مسلم ۱۱۸۶ - ابوداؤد ۳۹۹۹)

(۲۱۶۶۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے خیبر والوں کو زمین مزارعت بالنصف پر عطا فرمائیں۔

(۲۱۶۶۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : كَانَ لِعَبِيدِ الرَّحْمَةِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْقَوَارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ ، فَيُرْسِلُنِي أَقَابِسَهُمْ .
(۲۱۶۶۲) حضرت عبد اللہ بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کی مقام قوارہ میں زمین تھی جو آپ نے مزارعہ بالثلث اور ربع پر دی ہوئی تھی، آپ نے مجھے ان لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

(۱۵۳) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الْأَرْضَ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ

جو حضرات بیالی پر زمین دینے کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۱۶۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، نَهَانَا إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَوَاجِرِهَا بِثُلْثٍ ، أَوْ نِصْفٍ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ . (ترمذی ۱۳۸۳)

(۲۱۶۶۴) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ہمیں ایسے کام سے منع فرمایا ہے جس میں صرف ہمیں نفع ہو، آپ ﷺ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی کی زمین ہو اور وہ اس کو مزارعہ بالثلث، یا ربع پر کسی کو دے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کی زمین ہو وہ اس میں خود کھیتی باڑی کرے یا اپنے کسی بھائی کے لئے چھوڑ دے۔

(۲۱۶۶۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا . (مسلم ۱۱۸ - احمد ۳۳)

(۲۱۶۶۳) حضرت ابن معقل سے مزارعہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے مجھے دی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۶۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعَ عُمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ . (مسلم ۱۱۷۷ - نسائی ۶۵۱)

(۲۱۶۶۳) حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے بیالی پر زمین دینے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۶۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كُنَّا نَخَابِرُ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَتَرَكَنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ .

(مسلم ۱۱۷۹ - ابوداؤد ۳۸۲)

(۲۱۶۶۵) حضرت عمرو بن عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیالی پر زمین دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا گمان یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، ہم نے اُن کی وجہ سے یہ کام

چھوڑ دیا۔

(۲۱۶۶۶) حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ أُيُوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَتَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ : أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ ، أَوْ ثُلُثٍ ، أَوْ رُبْعٍ . (احمد ۱۸۷۔ عبد بن حمید ۲۵۳)

(۲۱۶۶۶) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے بٹائی پر زمین دینے سے منع فرمایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مخابرة سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زمین نصف یا ثلث پر بٹائی پر دینا۔

(۲۱۶۶۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّا نَأْخُذُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينَ ، فَأَعْتَمَلُهَا بِيَدِي وَبِقَرِي ، فَأَخُذُ حَقِّي وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : خُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَلَا تَرُدْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَذَا .

(۲۱۶۶۷) حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم جاگیرداروں سے زمین لیتے ہیں، اور اُس میں اپنے دانہ اور تیل سے محنت کرتے ہیں اور اُن سے اپنا حق وصول کرتے ہیں اور اُن کو اُن کا حق دے دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا صرف راس المال لیا کرو اس سے زیادہ نہ لیا کرو، اُس نے تین مرتبہ آپ سے پوچھا آپ نے تینوں بار یہی جواب دیا۔

(۲۱۶۶۸) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّهُ كَرِهَ الْمَزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ .

(۲۱۶۶۸) حضرت عکرمہ مزارعہ بالثلث اور ربع کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۱۶۶۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ الْمَزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ .

(۲۱۶۶۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مزارعہ بالثلث اور ربع کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۱۶۷۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ .

(۲۱۶۷۰) حضرت ابراہیم مزارعہ بالثلث اور ربع کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۱۶۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاءَ الْأَرْضِ .

(۲۱۶۷۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ زمین کرایہ پر دینے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۶۷۲) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا تُكْرَى الْأَرْضُ ، وَلَا بَدْرَةٌ ، أَوْ

قَالَ : مَدْرَةٌ .

(۲۱۶۷۲) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ زمین اور بیج کرایہ پر مت دو۔

(۲۱۶۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرُفِقُ بِنَا ، وَطَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا ، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا الْأَرْضَ إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مَيْبِحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ . (احمد ۴۶۵ - ابوداؤد ۳۳۹۰)

(۲۱۶۷۳) حضرت رافع بن خدیجؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابورافعؓ رسول اکرم ﷺ کی خدمت سے ہمارے پاس تشریف لائے، اور فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں ایک کام سے منع فرمایا۔ وہ ہمارے ساتھ بہت نرمی کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے زیادہ نرمی والی بات ہے۔ آپ نے ہمیں فرمایا ہے ہم اپنی زمین مزارعت پر دیں۔ ہمیں حکم ہے کہ یا تو اپنی مملوکہ زمین میں کھیتی باڑی کریں یا ایسی زمین میں جو بلا معاوضہ کام کے لیے دی گئی ہو۔

(۲۱۶۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ أَذْهَمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الصَّحَّاحَ بْنَ مَزَاهِمٍ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا حَصْلَتَانِ : أَرْضٌ مَنَحَهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ اسْتَأْجَرْتَهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

(۲۱۶۷۴) حضرت صحاح بن مزاحم فرماتے ہیں کہ زمین دو ہی خوبیوں کی صلاحیت رکھتی ہے، آدمی جس زمین کے رقبہ کا مالک ہے اس کو عارضی طور پر دے دے یا زمین کو معین مدت کے لئے معین اجرت پر دے دے۔

(۲۱۶۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّ امْتَلَأَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ أَنْ يَسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ .

(۲۱۶۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی کا بہترین اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی زمین معلوم اجرت کے بدلے کسی کو کرایے پر دے دے۔

(۲۱۶۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مُنْصَوِّرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُهَا رَجُلٌ .

(۲۱۶۷۶) حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی درست نہیں ہے مگر اس زمین میں جس کے رقبہ کا تو مالک ہو، یہ وہ زمین جو کسی نے عارضی طور پر نفع حاصل کرنے کے لئے دی ہو۔

(۲۱۶۷۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَالْإِجَارَةِ : إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، أَوْ يُعَارَ ، ثُمَّ قَالَ : أَعَارَ أَبِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا وَبَنَى فِيهَا بُيُوتًا ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا فَرَأَى الْبُسْيَانَ فَقَالَ : مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا : فَلَانَ الَّذِي أَعْرَثَهُ ، فَقَالَ : أَعْرَضَ مِمَّا أُعْطِيْتَهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَا أَبْرُحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ .

(۲۱۶۷۷) حضرت رفاعہ بن رافعؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے زمین کی مزارعت اور اجارہ سے منع فرمایا ہے، مگر یہ

کہ آدمی اُس کو خرید لے یا معین مدت کے لئے کرایہ پر لے لے، پھر فرمایا کہ میرے والد محترم نے ایک شخص سے زمین عاریۃ لی اور اس میں کھیتی باڑی کی اور اس میں ایک عمارت بنائی، پھر وہ مالک زمین اُس طرف آیا اور اُس نے عمارت دکھی اور پوچھا کس نے یہ عمارت بنائی ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں شخص نے جس کو آپ نے زمین عاریۃ دی تھی، اُس نے کہا کہ کیا یہ عوض ہے اُس کو جو میں نے اُس کو دیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں، اُس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں ہوں گا جب تک کہ تم لوگ اس کو گرانہ دو۔

(۱۵۴) فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پر دینا

(۲۱۶۷۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عُنُقْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ .

(۲۱۶۷۸) حضرت عنقرمہ فرماتے ہیں کہ زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۶۷۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ .

(۲۱۶۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آدمی اپنی زمین گندم کے بدلے کرایہ پر دے۔

(۲۱۶۸۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ ، فَلَمْ يَرَهُ بِأَسَا .

(۲۱۶۸۰) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ زمین دراہم یا گندم کے عوض کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ آپ نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

(۲۱۶۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ نَأْخُذَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى .

(۲۱۶۸۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر ہم مقرر کر کے گندم وصول کریں۔

(۲۱۶۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يَكْرِهًا بَثْلًا ، وَلَا رُبْعًا ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى . (مسلم ۱۱۳ - نسائی ۴۲۳)

(۲۱۶۸۲) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس زمین ہے اُس کو چاہیے کہ خود کھیتی باڑی کرے، یا پھر اپنے بھائی کے لئے چھوڑ دے، اس زمین کو ثلث یا ربع پر کرایہ پر مت دے اور نہ ہی مقررہ گندم پر دے۔

(۱۵۲) فِي الرَّجُلَيْنِ يَدْعِيَانِ الشَّيْءَ فَيَقِيمُ هَذَا شَاهِدِينَ وَيَقِيمُ هَذَا رَجُلًا
دو آدمی کسی چیز پر دعویٰ کریں پھر اُن میں سے ایک دو گواہ پیش کر دے اور دوسرا ایک گواہ

پیش کرے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۶۸۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ دَابَّةٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الْأَزْدِ ، فَأَدَّعَاهَا قَوْمٌ ، فَأَقَامُوا الْبَيْتَةَ أَنَّهُمَا دَابَّتُهُمْ أَصْلُوهَا فِي زَمَانِ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَقَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمُ الْبَيْتَةَ أَنَّهُمْ نَتَجَوْهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ فَجَعَلَ هُوَ لَاءً يُعْدُونَ بَيْنَهُ وَيُرْوَحُ الْآخَرُونَ بِأَكْثَرِ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى سُرَيْحٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : لَسْتُ مِنَ النَّهَائِرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ ، وَالَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيْتَةَ أَنَّهُمْ نَتَجَوْهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أَحَقُّ ، وَأَوْلَىكَ أَوْلَى بِالشُّبُهَةِ .

(۲۱۶۸۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ ازد کے لوگوں کے پاس ایک جانور تھا، اُس پر ایک قوم نے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کر دیئے کہ یہ اُن کا جانور ہے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں گم ہو گیا تھا، اور جانور جن کے قبضہ میں تھا انہوں نے بھی گواہ پیش کر دیئے کہ وہ جانور اُن کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ معاملہ اُن کے قاضی عبدالرحمن بن اُذینہ کے سامنے پیش ہوا، اُن میں سے ایک فریق صبح آ کر گواہ پیش کرتا تو دوسرا فریق شام میں اُس سے زیادہ گواہ پیش کر دیتا، قاضی نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کو صورت حال لکھ کر بھیجی، حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ گواہوں کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے، جنہوں نے گواہ پیش کئے ہیں کہ وہ اُن کے ہاں پیدا ہوا ہے اور وہ جانور اُن کے قبضے میں ہے وہ اُس کے زیادہ حق دار ہیں۔

(۲۱۶۸۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدْعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَيَقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدِينَ ، وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً ، فَقَالَ : هِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُوجِبَانِ الْحَقَّ .

(۲۱۶۸۳) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ دو آدمیوں نے ایک جانور کے بارے میں دعویٰ کیا، اُس جانور پر دونوں میں سے کسی کا قبضہ نہیں تھا، ان میں سے ایک نے دو گواہ پیش کئے تو دوسرے نے چار گواہ پیش کر دیئے، آپ نے فرمایا جانور دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا، کیونکہ دو گواہ حق کو واجب کر دیتے ہیں۔

(۲۱۶۸۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشُّهُودِ .

(۲۱۶۸۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اُن کے درمیان گواہوں کے حصوں کی بقدر ہوگا۔

(۲۱۶۸۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَانَ يَقْضِي لِأَكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا .

(۲۱۶۸۶) حضرت ہشام بن ہبیرہ فریقین میں سے جس کے گواہ زیادہ ہوتے اُس کے حق میں فیصلہ فرماتے۔

(۲۱۶۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصِيلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : بَعْتُ بَعْلَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَلَبِثْتُ مَا

شَاءَ اللَّهُ ، فَاتَانِي وَقَدْ عَرَفْتُ الْبُعْلَةَ عِنْدَهُ ، فَاتَيْنَا شُرَيْحًا وَأَنْطَلَقْتُ بِالذَّابِيَةِ ، فَأَقَامَ سَبْعَةَ مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا ذَابِتُهُ لَمْ تَبِعْ وَلَمْ تَهَبْ ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِسِتَّةٍ مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا ذَابِتُهُ لَمْ تَبِعْ وَلَمْ تَهَبْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَشْهَدُ بِأَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ عَشَرَ سَهْمًا أُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةٍ شُهُودِهِ .

(۲۱۶۸۷) حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے ایک شخص کو خچر فروخت کیا، پس وہ جتنی دیر اللہ نے چاہا رہا، پھر وہ میرے پاس آیا، میں نے اُس کے پاس خچر کو پہچان لیا، ہم دونوں حضرت شریح کے پاس آئے۔ میں اس جانور کو لے کر چل پڑا، ایک نے سات گواہ قائم کر دیئے کہ یہ اُس کا جانور ہے۔ اس کو نہ بیچا گیا ہے نہ بہہ کیا گیا ہے، اور دوسرا آیا اُس نے چھ گواہ پیش کر دیئے کہ یہ اُس کا جانور ہے نہ اُس کو بیچا گیا ہے نہ بہہ کیا گیا ہے۔ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک فریق یقیناً جھوٹا ہے۔ آپ نے اُس کو اُن کے درمیان تیرہ حصوں میں تقسیم فرمادیا، ہر ایک ۱۰ اس کے گواہوں کے بقدر حصہ دیا۔

(۲۱۶۸۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَمَاكٍ ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي بُعْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نُبِجَتْ عِنْدَهُ ، وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نُبِجَتْ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ أَسْبَاعَ .

(۲۱۶۸۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو آدمی ایک خچر کے متعلق جھگڑتے ہوئے آئے، ایک نے پانچ گواہ پیش کر دیئے کہ وہ جانور اُس کے ہاں پیدا ہوا ہے، اور دوسرے شخص نے دو گواہ پیش کر دیئے کہ وہ اُس کے ہاں پیدا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کو اُن کے درمیان سات حصوں میں تقسیم فرمادیا۔

(۱۵۶) فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ

وہ غلام جسے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہو

(۲۱۶۸۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَعْبُورَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التَّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَعُوهُ ، وَيُقْسِمَ لَمَنْهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ .

(۲۱۶۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماذون مفلس ہو جائے، تو اُس کا قرض اُس کی گردن پر ہے، اُس کے آقا کو اختیار ہے اگر چاہے تو اُس غلام کو فروخت کر دے اور قیمت قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر دے، آقا پر اُس کے ثمن سے زائد کچھ لازم نہیں ہے۔

(۲۱۶۹۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بِأَعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَعْوَهُ .

(۲۱۶۹۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر قرض خواہ اُس کو فروخت کرنا چاہیں تو فروخت کر دیں، اگر اُس سے کام کروانا چاہیں تو اسے خرید لیں۔

(۲۱۶۹۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ .

(۲۱۶۹۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما اور حضرت شریح رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر قرض خواہ اُس کو فروخت کرنا چاہیں تو فروخت کر دیں، اگر اُس سے کام کروانا چاہیں تو کام کروالیں۔

(۲۱۶۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يَبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرُفْقَتِهِ .

(۲۱۶۹۲) حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک قرض اُس کی پوری ملکیت کو نہ گھیر لے تب تک اُس کو فروخت نہیں کریں گے۔

(۲۱۶۹۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أُرْتِيَ عَبْدًا رَكِبَهُ دَيْنٌ فَقَالَ : مَا لَهُ بِدَيْنِهِ ، مَا لَهُ بِدَيْنِهِ .

(۲۱۶۹۳) حضرت عبدالرحمن بن اذنیہ رضی اللہ عنہما کے پاس ایک غلام لایا گیا جو مقروض تھا، آپ نے فرمایا: اُس کا مال اُس کے قرض کے ساتھ ہے، اُس کا مال اُس کے قرض کے ساتھ ہے۔

(۲۱۶۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : دَيْنُهُ فِي نَمِيهِ .

(۲۱۶۹۴) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اُس کا قرض اُس کے نمن میں ہے۔

(۲۱۶۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فَضِيلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِئَةُ أَلْفٍ .

(۲۱۶۹۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غلام کو قرض میں فروخت نہیں کریں گے، اگر چہ اُس پر ایک لاکھ قرض ہو۔

(۲۱۶۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَلَا يَبَاعُ .

(۲۱۶۹۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قرض میں غلام سے کام کروایا جائے گا اُس کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔

(۲۱۶۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يَبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ .

(۲۱۶۹۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر غلام کو آقا قرض لینے کی اجازت دے دے تو اُس کے لئے جائز ہے کہ وہ قرض خواہوں کے لئے غلام کو فروخت کرے۔

(۱۵۷) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ أَوْ الْعِلَامَ فَيَجِدُ بَعْضَهُ عَيْبًا

کوئی شخص سامان یا غلام خریدے پھر اُس کے بعض حصہ میں عیب پائے

(۲۱۶۹۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ

يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بَعْضَهُ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلُّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ .

(۲۱۶۹۸) حضرت قاسم بن عبد الرحمن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو سامان خریدے پھر اُس کے کچھ حصہ میں عیب پائے تو وہ پورا سامان رکھ لے یا پورا واپس کر دے۔

(۲۱۶۹۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بَعْضَهُ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلُّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ .

(۲۱۶۹۹) حضرت عامر بن شیبہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو سامان خریدے پھر اُس کے کچھ حصہ میں عیب پائے تو وہ پورا سامان رکھ لے یا پورا واپس کر دے۔

(۲۱۷۰۰) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مِغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعَلَامِينَ أَوْ السَّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدَيْهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا : رَدَّهَا بِقِيمَتَيْهَا ، وَجَازَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ .

(۲۱۷۰۰) حضرت حارث عکلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو غلام یا دو مختلف سامان خریدے پھر ان میں سے ایک میں عیب پائے ، اور اُس کو واپس کرنا چاہے تو اُس کی قیمت کے ساتھ واپس کر سکتا ہے ، اور جس میں عیب نہیں ہے اس میں بیع درست ہوگی۔

(۲۱۷۰۱) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بَعْضَهُمْ عَيْبًا ، فَقَالَ : يَرُدُّ بِقِيمَتِهِ ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ .

(۲۱۷۰۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کچھ غلام خریدے پھر ان میں سے بعض میں عیب ہو تو اُس کی قیمت کے ساتھ واپس کر دے اور سامان میں بھی اسی طرح کرے گا۔

(۲۱۷۰۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً فَيَجِدُ بَعْضَهُ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ جَمِيعًا ، أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا .

(۲۱۷۰۲) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی معاملہ میں بہت سا سامان خریدے ، پھر بعض میں عیب پائے تو وہ سارا رکھ لے یا سارا واپس کر دے۔

(۲۱۷۰۳) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا ابْتاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا ، قَالَا : يَرُدُّهُ كُلَّهُ .

(۲۱۷۰۳) حضرت عامر و ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ کچھ چیزیں خریدے اور ان میں سے کچھ میں عیب دیکھے تو وہ سارا واپس کر دے۔

(۲۱۷۰۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بَعْضَهُ عَيْبًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَيَلْزَمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ .

(۲۱۷۰۳) حضرت عطاء بن یشیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سامان خریدے پھر اس کے کچھ حصہ میں عیب ہو تو اُس حصے کو واپس کر دے۔

(۲۱۷۰۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يَسَّارٍ : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدًا صَاحِبَهُ ، فَنَقَصَتِ الرِّقَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يَقَاصَهُ بِبَعْضِ الدَّرَاهِمِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : خُذْ بِعُكَّ جَمِيعًا ، أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا .
(۲۱۷۰۵) حضرت حجاج سے مروی ہے کہ ایک شخص نے گھی کے مشکیزے خریدے اور پیسے نقد ادا کر دیئے، پھر کچھ مشکیزے کم نکلے، تو اُس نے ارادہ کیا کہ اُس کی کمی کچھ دراہم سے دور کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: اگر بیع کرنی ہے تو پوری کرو وگرنہ پوری چھوڑ دو۔

(۱۵۸) فِي الْمَضَارِبِ مِنْ أَيْنَ تَكُونُ نَفَقَتُهُ؟

مضارب کے خرچ کی کیا صورت ہوگی؟

(۲۱۷۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَفَقَةُ الْمَضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ كَذَلِكَ .
(۲۱۷۰۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مضارب پورے مال میں سے خرچ کرے گا، اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔

(۲۱۷۰۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمَضَارِبُ يُنْفِقُ وَيُكْتَسِبُ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ رِبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أَحَبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ .
(۲۱۷۰۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مضارب خرچ کرے گا اور درمیانے درجے کے کپڑے استعمال کرے گا، اگر اُس کو نفع ہو تو وہ اُس کے نفع میں سے ہوگا، اور اگر اُس کو نقصان ہو تو وہ اُس المال میں سے ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: رب المال سے اجازت کے بغیر خرچ کرنے کو میں پسند نہیں کرتا۔

(۲۱۷۰۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْمَضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّفِيقَ إِذَا كَادَ مِنَ الْمَضَارِبَةِ ، وَلَا يَأْكُلُ مَعَهُمْ .
(۲۱۷۰۸) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر مضارب چاہے تو اجیر کو اجرت پر لے سکتا ہے اور غلام کو کھلا سکتا ہے اگر وہ مضاربہ میں سے ہو، لیکن خود اُن کے ساتھ مت کھائے۔

(۲۱۷۰۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْمَضَارِبُ طَعَامًا ، وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ
(۲۱۷۰۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْمَضَارِبُ طَعَامًا ، وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ

يَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ .

(۲۱۷۰۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ مضارب کے لئے کھانے اور کسی ایسی چیز کی شرط نہیں لگائیں گے جس میں اُس کا فائدہ ہو، ہاں اگر اُس میں مضاربہ کا فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر مضاربہ کا فائدہ نہ ہو تو وہ اُس کے اپنے ذاتی مال میں سے شمار ہوگا۔

(۲۱۷۱۰) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ : أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرِبُ وَيَكْتَسِبُ وَيُرْتَكِبُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ .

(۲۱۷۱۰) حضرت قاسم اور سالم سے دریافت کیا گیا کہ مضارب ان چیزوں میں سے کھاپی سکتا ہے، سواری کر سکتا ہے اور کپڑے وغیرہ پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مضاربہ کی وجہ سے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(۱۵۹) فِي الشُّفْعَةِ تَكُونُ لِلْغَائِبِ أَمْرًا لَا ؟

غائب کے لئے شفیعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟

(۲۱۷۱۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّفْعُ أَحَقُّ بِشُّفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَتْ طَرِيقَهُمَا وَاحِدَةً .

(ابو داؤد ۳۵۱۲۔ ترمذی ۱۳۶۹)

(۲۱۷۱۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: شفیع پڑوسی پر شفیعہ کرنے کا زیادہ حق دار ہے، اگر اُن دونوں کا راستہ ایک ہو اور شفیع غائب ہو تو اُس کا انتظار کیا جائے گا۔

(۲۱۷۱۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ غَائِبًا صَاحِبُهَا .

(۲۱۷۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے دس سال بعد شریک کے لئے شفیعہ کا فیصلہ فرمایا، اُس کا شریک (ساتھی) غائب تھا۔

(۲۱۷۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ .

(۲۱۷۱۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بچے اور غائب کے لئے شفیعہ کا حق سمجھتے تھے۔

(۲۱۷۱۴) حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الدَّارِ تَبَاعٌ وَبِهَا شُفْعُ غَائِبٍ ، أَوْ صَغِيرٍ ، قَالَ : الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ .

(۲۱۷۱۴) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر فروخت ہو اور اُس کا شفیع غائب ہو یا چھوٹا ہو تو غائب واپس آنے تک شفیعہ کا زیادہ حق دار ہے اور چھوٹا بچہ بڑا ہونے تک حق دار ہے۔

(۲۱۷۱۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ . وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ .

(۲۱۷۱۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث فرماتے ہیں کہ غائب کے لئے شفعہ کا حق نہیں ہے۔

(۲۱۷۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ .

(۲۱۷۱۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت حاکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غائب کے لئے شفعہ کا حق ہے۔

(۲۱۷۱۷) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَيْهَا فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالْتَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .

(۲۱۷۱۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غائب کے لئے شفعہ کا حق ہے۔ اُس کو خط لکھا جائے گا، اگر وہ شفعہ کو قبول کرے اور گہ کا شن بھیج دے تو ٹھیک وگرنہ اُس کے لئے شفعہ نہیں ہے۔ (حق ختم ہو جائے گا۔)

(۱۶۰) فِي التَّوْلِيَةِ بَيْعٌ أَمْ لَا ؟

تولیۃ بیع ہے کہ نہیں؟

تولیۃ کہتے ہیں کہ جننے کی خریدی ہے اتنے میں ہی بغیر منافع حاصل کئے آگے فروخت کر دینا۔

(۲۱۷۱۸) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : صَارَ قَوْلُهُمَا إِلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ .

(۲۱۷۱۸) حضرت حسن اور ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تولیۃ بھی بیع ہے۔

(۲۱۷۱۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ .

(۲۱۷۱۹) حضرت عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تولیۃ بھی بیع ہے۔

(۲۱۷۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، وَلَا تَوَلَّى حَتَّى تَقْبُضَ .

(۲۱۷۲۰) حضرت زہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تولیۃ بھی بیع ہی ہے، قبضہ کئے بغیر پیٹھ نہیں پھیرے گا۔

(۲۱۷۲۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ فَطْرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ .

(۲۱۷۲۱) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ تولیۃ بیع ہے۔

(۲۱۷۲۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا .

(۲۱۷۲۲) حضرت طاووس رضی اللہ عنہما بیع تولیۃ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۱۷۲۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ .

(۲۱۷۲۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں تولیۃ بیع ہے۔

(۲۱۷۲۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ .

(۲۱۷۲۴) حضرت زہری فرماتے ہیں تولیۃ بیع ہے۔

(۲۱۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : التَّوَلِيَةُ بَيْعٌ .
(۲۱۷۳) حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں تولیہ بھی بیع ہے۔

(۱۶۱) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْعَبْدَ الْآبِقَ فَيَأْبِقُ مِنْهُ

کوئی شخص بھگوڑے غلام کو پکڑ لے پھر وہ اُس کے پاس سے بھی بھاگ جائے

(۲۱۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَجُلًا اجْتَمَعَ فِي عَبْدٍ آبِقٍ ، فَأَخَذَهُ لِيَرْدَهُ ، فَأَبِقَ مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَصَمَّنَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَيْثًا فَقَالَ : أَسَاءَ الْقَضَاءُ ، يَحْلِفُ بِاللَّهِ : لَا بَقَ مِنْهُ ، وَلَا صَمَّانَ عَلَيْهِ .

(۲۱۷۳) ایک شخص نے بھگوڑے غلام کو پکڑ لیا تاکہ اُس کے آقا کو واپس کر سکے، وہ غلام اُس کے پاس سے بھی بھاگ گیا، وہ نوں جھگڑتے ہوئے حضرت شریح کے پاس آئے، آپ نے اُس شخص کو ضامن بنا دیا، جب حضرت علی بن ابی طالب کو اس فیصلہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا قاضی نے غلطی کی، وہ اُس سے قسم اٹھوا تاکہ وہ اُس سے بھاگ گیا ہے اور اُس پر ضمان نہیں۔

(۲۱۷۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرْدَهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

(۲۱۷۳) حضرت شعبي فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھگوڑا واپس کرنے کے لئے پکڑے اور وہ غلام اُس کے پاس سے بھی گ جائے تو اُس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔

(۲۱۷۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

(۲۱۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اُس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔

(۲۱۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبِقَ مِنْهُ ، قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَدَّمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ أَبِقَ مِنْكَ قَبْلَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

(۲۱۷۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بھگوڑا غلام پکڑا تو وہ اُس کے پاس سے بھی بھاگ گیا، غلام کا آقا آیا اور اس کا مقدمہ حضرت شریح کے پاس آیا، آپ نے فرمایا: غلام اس سے پہلے ہی تیرے پاس سے بھاگا تھا لہذا اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔

(۲۱۷۲) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

(۲۱۷۳) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ملیکہ نے مجھ سے فرمایا اگر بھگوڑا غلام اس کے پاس سے بھی گ جائے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔

(۲۱۷۳۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ وَمَنْصُورٍ قَالُوا : إِنَّ قَوْمًا مِنَ الَّذِينَ أَهْلُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ .

(۲۱۷۳۱) حضرت قتادہ، حضرت ہاشم اور منصور رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جس نے بھلوڑے غلام کو پکڑا ہے اُس سے بھی غلام اگر بھلا جائے تو اُس پر کچھ لازم نہیں۔

(۱۶۲) مَنْ قَالَ إِذَا سَمِيَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَلْيَكِلْ

جب کیل اور وزن کو نام لے کر متعین کر لیا جائے تو پھر کیل کر دینا چاہیے

(۲۱۷۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عَيْنَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اذْهَبُوا بِنَا إِلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ فَقَامَ إِلَيْ جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ : فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعَهَا بَكْذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَمِيتَ فِكِلْ . (عبد بن حمید ۵۲ - احمد ۷۵)

(۲۱۷۳۲) حضرت حکم سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے گندم وغیرہ آئی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: چلو ہمارے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تاکہ گندم فروخت کرنے میں ہم اُن کی مدد کریں۔ آپ ﷺ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ اس بوری میں اتنی اتنی گندم ہے اور میں اُس کو اتنے اتنے فروخت کروں گا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم نام لے کر متعین کر دو تو کیل کر دیا کرو۔

(۲۱۷۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا سَمِيَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ . (۲۱۷۳۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب کیل اور وزن کا نام لے کر متعین کر دیا جائے تو کیل کرنے سے پہلے فروخت نہ کیا کرو۔

(۲۱۷۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا سَمِيَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَلْيَكِلْ . (۲۱۷۳۴) حضرت قتادہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کیل اور وزن کو نام لے کر متعین کر دیا جائے تو پھر کیل دینا چاہیے۔

(۲۱۷۳۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمِيتَ كَيْلًا ، فَلَا تَأْخُذْ جُزْأًا . (۲۱۷۳۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سلم کو اختیار کر لو اور کیل کو متعین کر لو تو پھر اندازے کے ساتھ مت لو۔

(۲۱۷۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زُكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكُنْتَهُ ، بَعْنِي بَعْنَتُهُ كَيْلًا .

(۲۱۷۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کیل کر کے کوئی چیز فروخت کرنی ہو تو اس کو کیل کر لیا کرو۔

(۱۶۳) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ تَوَلِيَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

کوئی شخص گندم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں بیع تولیہ (بغیر نفع کی بیع) کر سکتا ہے؟

(۲۱۷۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْتَى مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۲۱۷۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ گندم وغیرہ پر قبضہ سے پہلے بیع تولیہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوَلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ، وَيَقُولُ: هُوَ مَعْرُوفٌ.

(۲۱۷۲) حضرت قتادہ گندم پر قبضہ سے پہلے اس کو بیع تولیہ کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے اور فرماتے ہیں یہ معروف ہے۔

(۲۱۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۷۲) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ وَهْبِ الْعُمِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْتَى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

(۲۱۷۲) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ بھی قبضہ سے پہلے بیع تولیہ کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ فَلَا

يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْتَى أَوْ يُشْرَكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلَا وَزْنٍ.

(۲۱۷۲) حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کیل یا وزن کے ساتھ کوئی چیز خریدے تو قبضہ سے پہلے اس کو آگے فروخت نہ کرے، لیکن بیع تولیہ کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، یا وہ بغیر وزن اور کیل کے کسی کو شریک کر لے۔

(۲۱۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، رَفَعَهُ، قَالَ: لَا

بَأْسَ بِالتَّوَلِيَةِ وَالشُّرْكَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. (عبد الرزاق ۱۳۲۵۷ - ابو داؤد ۱۹۸)

(۲۱۷۲) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سپردگی سے قبل (قبضہ سے

بیع تولیہ اور شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۶۴) مَنْ قَالَ إِذَا بَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے قبل آگے بیع مت کرو

(۲۱۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: قَالَ لِي حَكِيمٌ:

اِتَّبَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أُقْبِضَهُ ، فَاتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ . (نسائی ۶۱۹۵ - طیالسی ۱۳۱۸)

(۲۱۷۳۳) حضرت حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے قبضہ کرنے سے پہلے صدقات کی گندم میں سے کچھ گندم فروخت کی، مجھے اس میں نفع ہوا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قبضہ کرنے سے پہلے آگے بیع مت کیا کرو۔

(۲۱۷۴۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكْبِلَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَيُقْبِضُهُ . (مسلم ۱۱۶۱ - بخاری ۲۱۲۳)

(۲۱۷۳۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بیع کرے تو کرنے سے پہلے بیع نہ کرے، حضرت ابن زائدہ فرماتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ جب تک قبضہ نہ کرے۔

(۲۱۷۴۵) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعُوَامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السُّلْفِ فِي الرَّبْرِ وَالسَّمْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .

(۲۱۷۳۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے تیل، گھی، گندم اور بکھ کے بیعانہ کے متعلق دریافت کیا گیا آپ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: کوئی خرید نہیں مگر اس پر قبضہ کرنے سے قبل بیع مت کرنا۔

(۲۱۷۴۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بُنْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِغَاكَ الرَّبْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ .

(۲۱۷۳۶) حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے راشن کی پرچی خریدی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے منع فرمادیا کہ اس پر قبضہ کرنے سے قبل اس کو فروخت نہ کرنا۔

(۲۱۷۴۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ . (۲۱۷۳۷) حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۱۷۴۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .

(۲۱۷۳۸) حضرت شعبي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز خریدو تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لو اس کو آگے فروخت مت کرو۔

(۲۱۷۴۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا تَبِعَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا يَرَى بِالشَّرْكَ بَأْسًا ، أَوْ تَعْطِيَهُ الثَّمَنَ .

(۲۱۷۴۹) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم گندم وغیرہ خریدو تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لو اُس کو آگے فروخت مت کرو، اور شرکت میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، یا اُس کو شمن عطاء کر دے۔

(۲۱۷۵۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبِضَهُ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُقْبِضَهُ .

(۲۱۷۵۰) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو بیع خریدنے کے بعد قبضہ سے قبل آگے فروخت کرنا چاہتا ہے، فرمایا ایسا مت کرو یہاں تک کہ پہلے اُس پر قبضہ کر لو پھر فروخت کرو۔

(۲۱۷۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ سِنَلَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يُقْبِضَهُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ .

(۲۱۷۵۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اگر بیع کرنے کے بعد قبضہ سے پہلے آگے فروخت کر دے تو کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیلی اور وزنی میں درست ہے۔

(۲۱۷۵۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نُهِِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبِضَ ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ .

(۲۱۷۵۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طعام کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ اُس پر قبضہ کرنے سے قبل اُس کو آگے فروخت نہ کرو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کھانے کی طرح ہی ہے۔ (اس حکم میں)۔

(۲۱۷۵۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ النَّجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفَوْهَا .

(۲۱۷۵۳) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ منع فرماتے ہیں اُن لوگوں کو جو پڑوسیوں (یا شریک کاروں سے) سے صحف کی بیع کرتے ہیں یہاں تک وہ سپرد کر دیں (اور وہ اُس پر قبضہ کر لیں)۔

(۲۱۷۵۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ ؟ فَقَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ الدَّهَبَ وَالطَّعَامَ مُرْجَأًا . (بخاری ۲۱۳۲ - مسلم ۲۹)

(۲۱۷۵۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص طعام خریدے وہ اُس کو کیل کرنے سے قبل آگے فروخت نہ کرے، راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ سونے کے بدلے اس طرح خریدتے ہیں (فروخت کرتے ہیں) کہ طعام مؤخر

(۲۱۷۵۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ عَثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ . (مسلم ۱۱۲۲ - احمد ۳۳۷)

(۲۱۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص طعام کی بیع کرے وہ کیل کرنے سے قبل اس کی بیع نہ کرے۔

(۱۶۵) مَنْ كَانَ يَحِطُّ عَنِ الْمَكَاتِبِ فِي أَوَّلِ نَجْوِمِهِ

جو حضرات فرماتے ہیں کہ مکاتب جب بدل کتابت کی ادائیگی کرے تو پہلے قسط میں کچھ

(رعایت) کرنی چاہیے

(۲۱۷۵۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ؓ قَالَ : الرَّبُّعُ مِنْ أَوَّلِ نَجْوِمِهِ . (ابن جریر ۱۳۹)

(۲۱۷۵۶) حضرت علی سے مروی ہے کہ قرآن پاک کی آیت ﴿ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ سے مراد پہلی قسط میں ربع چھوڑ دو۔

(۲۱۷۵۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَكَاتِبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ .

(۲۱۷۵۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آدمی مکاتب پر آخرت قسط تک عاجز ہونے کے اندیشہ سے بدل کتابت لادے رکھے تو ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔

(۲۱۷۵۸) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِبُّ إِذَا كَانَ الْمَكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ وَأَحْطَكَ مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نَجْوِمِكَ .

(۲۱۷۵۸) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ جب مکاتب بدل کتابت کو لکھے تو (اس میں لکھوادے کہ) میں تیری آخری قسط میں کمی کر دوں گا۔

(۲۱۷۵۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَكَاتِبُ تُعْطَى الرَّبُّعُ مِنْ جَمِيعِ مَكَاتِبِهِ تَعَجُّلًا مِنْ مَالِكَ .

(۲۱۷۵۹) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکاتب جب اپنے پورے بدل کتابت کا ربع ادا کر دے تو اس کے مالک سے اس کو آزاد کروانے میں جلدی کروائی جائے گی۔

(۲۱۷۶۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي شَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يَكْنَى أَبُو أُمَيَّةَ

فَجَاءَهُ بَنَجْمِهِ حِينَ جَاءَ فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، اسْتَعِينْ بِهِ فِي مُكَاتِبِكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ تَرَكَتَهُ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ، قَالَ: ابْنِي أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَاكَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾. قَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ أَوَّلُ نَجْمٍ أُدْيِيَ فِي الْإِسْلَامِ. (بيهقي ۳۲۹)

(۲۱۷۶۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا جس کی کثیت ابوامیہ تھی، جب وہ بدل کتابت کی قسط لے کر حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اُس سے فرمایا: اے ابوامیہ! اپنے بدل کتابت میں مدد طلب کر، اُس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ! اگر آپ کو آخری قسط تک رہنے دیں (تو بہتر ہے) آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تو اُس کو نہ پائے گا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ تلاوت فرمائی۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بدل کتابت کی پہلی قسط ہے جو اسلام میں ادا کی گئی۔

(۲۱۷۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتِبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتِبِهِ.

(۲۱۷۶۱) حضرت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو پسند فرماتے تھے کہ مکاتب کے بدل کتابت میں کچھ حصہ چھوڑ دیں۔

(۲۱۷۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قَالَ: مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتِبِهِ.

(۲۱۷۶۲) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی آیت ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے تمہارے لئے تمہارے مکاتب سے نکالا ہے (وہ مراد ہے)۔

(۲۱۷۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُكَ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ. (۲۱۷۶۳) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا دل کرے اتنا اُس کو چھوڑ دو اس میں کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے۔

(۲۱۷۶۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: يُوَضَعُ عَنْهُ. (۲۱۷۶۴) حضرت مجاہد اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اُس سے کچھ کم کر دیا جائے گا۔

(۲۱۷۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قَالَ: مِمَّا فِي يَدَيْكَ.

(۲۱۷۶۵) حضرت مجاہد قرآن پاک کی آیت ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے (وہ مراد ہے)۔

(۲۱۷۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا فَأَعْطَاهُ الرَّبْعَ، وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ

عَلَى: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾.

(۲۱۷۶۶) حضرت ابو عبد الرحمن نے غلام کو مکاتب بنایا اور اُس کو ربیع عطا کر دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور قرآن کریم کی آیت ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ تلاوت فرمائی۔

(۱۶۶) فِي حَرِيمِ الْآبَارِ كَمَا يَكُونُ ذِرَاعًا؟

کنویں کی منڈیر (احاطہ) کتنا ذراع ہو؟

(۲۱۷۶۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفَضِيلِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئِذَا قَالَ : اُكْتُبْ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا وَلاَ يَحْتَمِلُ لَهَا حَقُّ مُسْلِمٍ ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوْلَى مَنْ يَشْرَبُ .

(۲۱۷۶۷) حضرت عدی بن فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے کنویں کی کھدوائی کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا اس کا احاطہ پچاس ذراع لکھ لو، اور اس میں صرف مسلمان کا حق نہیں ہوگا، اور نہ ہی اُس کو نقصان پہنچائے گا، اور مسافر اس سے پینے کا زیادہ حق دار ہوگا۔

(۲۱۷۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ ، عَنِ الْأَعْطَانِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَّتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبُئْرَيْنِ مِئَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ رَأَوْا ، أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْرَاءٌ ، فَجَعَلَ لِكُلِّ بئرٍ خَمْسَ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَّتِهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا .

(۲۱۷۶۸) حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ سے کنویں کے احاطہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں اُس کے ارد گرد کے لئے پچاس ذراع ہوتا تھا، دو کنوؤں کے درمیان سو ہوتا تھا، جب اسلام کا دور آیا تو دیکھا گیا کہ اس سے کم بھی کافی ہو جاتا ہے، پھر ہر کنویں کے لئے پچیس ذراع بنایا گیا، اُس کے ارد گرد کے لئے پچاس ذراع۔

(۲۱۷۶۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَرِيمُ الْبئرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطْبِهِ ، وَلاَ مَا يَبِيه .

(۲۱۷۶۹) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنویں کا احاطہ (منڈیر) سارا سارا چالیس ذراع کا ہوگا۔ کسی کو اس کی جگہ اور پانی پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

(۲۱۷۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : حَرِيمُ الْبئرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الزَّرْعِ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَبَلَّغَنِي ، أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ سِتْمِنَةَ ذِرَاعٍ .

(۲۱۷۷۰) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کنواں دویر اسلام میں کھودا جائے اُس کا احاطہ پچیس ذراع ہوگا، اور پورے کھودے ہوئے کنویں کا پچاس ذراع اور کھیتی باڑی والے کنویں کا تین سو ذراع ہوگا۔

حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ چشمے والے کنویں کا چھ سو ذراع ہوگا۔

(۲۱۷۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَرِيمُ الْبَيْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا .

(۲۱۷۷۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنویں کا منڈیر چالیس ذراع ہے۔

(۲۱۷۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرِيمُ بَيْرِ الْبِدْيَةِ خُمُسٌ وَعَشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبَيْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، قَالَ سَعِيدٌ ، وَحَرِيمُ بَيْرِ الذَّهَبِ ثَلَاثٌ مِئَةَ ذِرَاعٍ . (ابو داؤد ۴۰۲ - حاکم ۹۷)

(۲۱۷۷۲) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو کنواں دویر اسلام میں کھودا جائے اُس کی منڈیر پچیس ذراع ہوگی، اور پرانے کنویں کی پچاس ذراع ہوگی، حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بئر الذهب کی تین سو ذراع ہوگی۔

(۲۱۷۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَاةُ الْقَلْبِ . يَعْنِي حَرِيمَ الْبَيْرِ وَحَلَقَةَ الْقَوْمِ . (بیہقی ۱۵۱)

(۲۱۷۷۳) حضرت بلال بن یحییٰ العبسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین چیزوں کے علاوہ کے لئے احاطہ کرنا نہیں ہے: کنویں کا احاطہ، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا احاطہ۔ (تیسری چیز یہاں مذکور نہیں لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے اور وہ ہے: طول الفرس، یعنی جہاں آدمی گھوڑا باندھے اس جگہ کا احاطہ)

(۱۶۷) فِي الرَّجْلِ يَكْتَابُ مَدْبَرَةً ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ مَكَاتِبَتِهِ شَيْءٌ

کوئی شخص اپنے مدبر غلام کو مکاتیب بنا لے پھر وہ فوت ہو جائے جبکہ مکاتیب پر بدل

کتابت میں سے کچھ ابھی باقی ہو، تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۷۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ السُّكْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَبَّرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَكَاتِبَهُ ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ : كَاتِبِيهِ ، فَإِنْ أَدَّى مَكَاتِبَتَهُ فَذَلِكَ ، وَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ عَنَّقْ ، قَالَ : وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَهُ . (بیہقی ۳۱۳)

(۲۱۷۷۴) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قریش کی ایک خاتون نے اپنا غلام مدبر بنایا، پھر اُس نے اُس کو مکاتیب بنانے کا ارادہ کیا،

اور قاصد کو خط دے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا، آپ نے فرمایا اُس کو مکتب بنا لو، اگر وہ بدل کتابت ادا کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر تجھے کوئی معاملہ پیش آجائے (تو مرجائے) تو وہ آزاد ہے۔

(۲۱۷۷۵) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَخْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُدَبَّرَهُ خِدْمَتَهُ ، قَالَ : مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ لَهُ .

(۲۱۷۷۵) حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مدبر غلام کی خدمت کو فروخت کر دے تو جو کچھ اُس کا آقا وصول کر چکا ہے، وہ اس کا شمار ہوگا اور جو باقی رہ گیا ہے وہ غلام پر لازم نہ ہوگا۔

(۲۱۷۷۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَخْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا شَيْءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ .

(۲۱۷۷۶) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے مگر اس میں اس کا اضافہ ہے کہ جب تمہارا ساتھی مرجائے تو پھر تمہارے لئے کچھ نہیں ہے۔

(۲۱۷۷۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ .

(۲۱۷۷۷) حضرت داؤد بن حرث فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے اسی طرح فیصلہ فرمایا۔

(۲۱۷۷۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ .

(۲۱۷۷۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو باقی اُس کے ذمہ رہ گیا ہے وہ بھی اُس سے وصول کرے گا۔

(۲۱۷۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهْشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يَبِيعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ .

(۲۱۷۷۹) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کو فروخت نہ کرے مگر اُس کے نفس کے بدلے میں۔

(۲۱۷۸۰) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهُ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكَاتِبَهُ .

(۲۱۷۸۰) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ مدبر غلام کی بیع کو ناپسند کرتے تھے، اور مدبر غلام کو مکتب بنانے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۷۸۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ .

(۲۱۷۸۱) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کی خدمت کو فروخت نہ کرے مگر اُس کے نفس (جان) کے بدلے میں۔

(۱۶۸) فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَدْفَعُ مِضَارِبَةً

یتیم کا مال بمضاربتہ میں دینا

(۲۱۷۸۲) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حَجْرِهِ يَتِيمَةً ، فَزَوَّجَهَا ، وَدَفَعَ مَالَهَا إِلَيْ زَوْجِهَا مِضَارِبَةً .

(۲۱۷۸۲) حضرت عیسیٰ بن یونس رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک یتیم کو اپنے حجر میں رکھا، اسے نکاح کیا، اور اس کا مال اس کے شوهر کو مضاربتہ میں دیا۔

(۲۱۷۸۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تربیت میں ایک یتیم بچی تھی، آپ نے اُس کی شادی کر دی اور اُس کا مال بطور مضاربت اُس کے شوہر کو دے دیا۔

(۲۱۷۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ الْفُضْلُ ، ثُمَّ تَفَرَّقَا .

(۲۱۷۸۳) حضرت حمید اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کے پاس یتیم کا مال بطور مضاربت بھیجا۔ انہوں نے اُس سے تجارت کی اور نفع کمایا، پھر انہوں نے منافع کو تقسیم فرمایا اور اس معاملے الگ الگ ہو گئے۔

(۲۱۷۸۴) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالَ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ .

(۲۱۷۸۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یتیم کا مال موجود تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے وہ مال بطور مضاربت بحری تجارت میں دے دیا۔

(۲۱۷۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلَى لَهُ .

(۲۱۷۸۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ یتیم کے مال کے والی تھے، انہوں نے وہ مال اُس کے مولیٰ (سرپرست) کو (بطور مضاربت) دے دیا۔

(۲۱۷۸۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنْ تَوَيَّ يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا .

(۲۱۷۸۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وصی یتیم کے مال کو کاروبار میں لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر مال ہلاک ہو جائے تو ضامن ہوگا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔

(۲۱۷۸۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ يَدِهِ .

(۲۱۷۸۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وصی یتیم کے مال کو کاروبار میں لگائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۷۸۸) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : إِضْمَنَهُ ، وَلَا تُعْرَضُهُ لِبَرٍّ ، وَلَا بَحْرٍ .

(۲۱۷۸۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ یتیم کے مال کو بطور مضاربت دینے کو ناپسند سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اُس مال کا ضامن ہو جا، اُس کو بحری یا زمینی تجارت میں نہ لگا۔

(۲۱۷۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : إِنْ اتَّجَرَتْ فِيهِ فَرَبِحَتْ فَلَهُ ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنَتْ ، وَإِنْ وَضَعْتَهُ فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ .

(۲۱۷۸۹) حضرت مجاہد یتیم کے مال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اُس کو تجارت میں لگا کر نفع کمالو تو وہ اُس کا ہے، اور اگر نقصان ہو

جائے تو ضامن ہوگا اور اگر وہ بڑا بڑا ہلاک ہو جائے تو ضامن لازم نہ آئے گا۔

(۲۱۷۹۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا آيَاتًا فِي حَجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تَرْكِي أَمْوَالَنَا وَتَضَعُهَا .

(۲۱۷۹۰) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ یتیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت میں تھے، آپ نبی ﷺ ہمارے مالوں کو پاکیزہ رکھتی تھیں اور تجارت میں لگاتی تھیں۔

(۲۱۷۹۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ قَالَ : يَتَنَعَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ .

(۲۱۷۹۱) حضرت صحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے لئے اُس مال میں (روزگار، تجارت) تلاش کیا جائے گا۔

(۱۶۹) فِي الْأَكْلِ مِنَ مَالِ الْيَتِيمِ

یتیم کا مال کھانا جرمِ عظیم ہے

(۲۱۷۹۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنُوبَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَيْنِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَضْرِبُ يَتِيمِي ؟ قَالَ : أَضْرِبُهُ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ ، قَالَ : فَمَا

أَكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ مُتَأْتِلٍ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا وَاقِيًا مَالِكَ بِمَالِهِ . (بیہقی ۲۸۵ - طبری ۲۶۰)

(۲۱۷۹۲) حضرت حسن عزیٰ ایک کوئی شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا میں اپنے زیر تربیت یتیم کو مار سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اُس کو اتنا ہی مارو جتنا کہ اگر اُس کی جگہ تمہارا اپنا بیٹا ہوتا تو اُس کو مارتے، اُس شخص نے عرض کیا کہ میں اُس کے مال میں سے کتنا اور کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھے اور معروف طریقے سے، اس کے مال کو ضائع کیے بغیر اور اس کے مال کے ذریعے اپنے مال کو بچائے بغیر استعمال کر سکتے ہو۔

(۲۱۷۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا أَكَلْتُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ، إِلَّا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ .

(۲۱۷۹۳) حضرت ابوالعالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال میں جتنا کھاؤ گے وہ تم پر قرض ہوگا، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ جب تم ان کے مال انہیں دو تو اس پر گواہ بناؤ۔

(۲۱۷۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ كَانَ

غَنِيًّا فَلَيْسَتْغَفِيفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿۱﴾ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ قَرْضٌ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ .

(۲۱۷۹۳) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَتْغَفِيفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سے کیا مراد ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد قرض ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ جب تم ان کے مال انہیں دو تو اس پر گواہ بناؤ۔

(۲۱۷۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَتْغَفِيفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ : وَيَتَجَرُّ لِيهِ .

(۲۱۷۹۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَتْغَفِيفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے ادھار لے کر اُس مال کو تجارت میں لگا لے۔

(۲۱۷۹۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ إِنْ احتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ ، وَلَا يَلْبَسُ عِمَامَةً .

(۲۱۷۹۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وصی محتاج ہو جائے تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ رکھ دے (یعنی تیبوں کے ساتھ کھائے) اور عمامہ نہ پہنے (یعنی سادگی اختیار کرے)

(۲۱۷۹۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَمِيَسِ ، عَنْ عَبْدِ بِنِ أَبِي لَبَابَةَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ : مِنْ مَالِهِ .

(۲۱۷۹۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ناداری کی صورت میں ان کے مال میں سے کھا سکتا ہے۔

(۲۱۷۹۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَإِلٍ قَالُوا : بِالْقَرْضِ .

(۲۱۷۹۸) حضرت سفیان، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرض لے کر کھائے۔

(۲۱۷۹۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : آتَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ بَيْنِي وَإِخْوَةَ لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ آيَاتُ فِي حَجْرِي ، وَكَانَ لِي مَالٌ فَكُنْتُ أَنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَمَا تَرَى ؟ قَالَ : ضَعِي يَدَكَ مَعَ أَيْدِيهِمْ وَكَلِمِي بِالْمَعْرُوفِ .

(۲۱۷۹۹) محمد بن کعب سے مروی ہے کہ ایک عورت آئی اور سوال کیا کہ میرے بیٹے اور ان کے بھائی جوان کے والد کی طرف سے

ہیں، یتیم ہیں اور میری کفالت میں ہیں، میرے پاس اپنا مال ہے، میں اُن پر اپنا مال خرچ کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، اب اُن کا مال موجود ہے اُس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اپنے ہاتھ اُن کے ہاتھوں کے ساتھ رکھو اور معروف طریقے سے کھاؤ۔

(۲۱۸۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ، قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ .

(۲۱۸۰۰) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو رکھ دے۔

(۲۱۸۰۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَتْ : أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصَلِّحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ . (بخاری ۳۵۷۵۔ مسلم ۳۲۱۵)

(۲۱۸۰۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یتیم کے مال کے والی کے متعلق نازل ہوا ہے، اگر وہ خود محتاج ہو تو اس میں سے کھا سکتا ہے۔

(۲۱۸۰۲) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُرْسَلْتَنِي امْرَأَةٌ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ يَتَامَى فِي جَبْرِهَا فَأَمَّتْ عَلَيْهِمْ هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، بِالْمَعْرُوفِ .

(۲۱۸۰۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے اُن کے پاس اُن یتیموں کے متعلق دریافت کرنے کے لئے بھیجا جو ان کی تربیت میں تھے، وہ اُن کی سرپرست تھی، کیا وہ اُن کے اموال میں سے کچھ کھا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں معروف طریقے سے کھا سکتی ہے۔

(۲۱۸۰۳) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْعَنْكَبِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُتِلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَعْلِمِي مَا تَأْكُلِينَ .

(۲۱۸۰۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ یتیم کے مال میں سے کھاؤ اور جتنا کھاؤ اُس کو اپنے علم میں رکھو۔

(۲۱۸۰۴) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي عُرَّةٌ حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي .

(۲۱۸۰۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ یتیم کا مال میرے پاس الگ رکھا ہوں یہاں تک کہ میں اپنے کھانے کو اُس کے کھانے کے ساتھ ملا لوں اور اپنے پینے کو اُس کے پینے کے ساتھ ملا لوں۔

(۲۱۸۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَخَّصَ لَوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مَكَانَ قِيَامِهِ

بالمعروف .

(۲۱۸۰۵) حضرت عمرو بن شیبہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے والی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اُس کے مال میں سے معروف طریقے سے کچھ کھالے۔

(۲۱۸۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ : يَأْكُلُ مِنَ الرَّسْلِ وَالْتَمْرَةِ بِحِسَابِ الْأَجِيرِ .

(۲۱۸۰۶) حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ وہ دودھ اور کھجور میں سے اجیر کے حساب سے تناول کر سکتا ہے۔

(۱۷۰) فِي الرَّجُلِ يَكْرِي مِنَ الرَّجُلِ غَلَامَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

کسی شخص کا کسی سے غلام اجرت پر لینا

(۲۱۸۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ آجَرَ غَلَامَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ .

(۲۱۸۰۷) حضرت حسنؒ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو اپنا غلام ایک سال کے لئے اجرت پر دے دے پھر وہ دورانِ سال اُس غلام کو فروخت کرنے کا ارادہ کرے، فرمایا اگر وہ چاہے تو اُس کو فروخت کر سکتا ہے۔

(۲۱۸۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يَعْلَمُهُ ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ .

(۲۱۸۰۸) حضرت ایاس بن معاویہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو اپنا غلام دوسرے شخص کے پاس بھیجے تاکہ وہ اُس کو تعلیم دے، پھر وہ شرط مکمل ہونے سے قبل ہی اُس کو وہاں سے نکال لے، تو جو کچھ معلم نے اُس غلام پر خرچ کیا ہے وہ اُس کو لوٹا یا جائے گا۔

(۲۱۸۰۹) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتَهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غَلَامَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ؟ قَالَ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ .

قَالَ : وَسَأَلْتَ حَمَادًا ، فَقَالَ : لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا مِنْ مَضْرُوقٍ .

(۲۱۸۰۹) حضرت حکم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ایک آدمی نے اپنا غلام ایک سال کے لئے اجرت پر دیا ہوا ہے پھر وہ اُس کو اُس سے نکالنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپؒ نے فرمایا کہ اُس کو واپس نکالنے کی (اُس سے لینے کی) اجازت نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت حماد سے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپؒ نے فرمایا کہ اُس سے نہ لے مگر نقصان سے خلاصی پانے کے لئے۔

(۲۱۸۱۰) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضَّحَى يَذْكُرُ : أَنَّ شُرَيْدًا وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ إِذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ، فَذَلِكَ لَهُ .

(۲۱۸۱۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہما اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا غلام ایک سال، یا ایک مہینے کے لئے یا پانچ مدت کے لئے کرایہ پر دے پھر وہ اُس سے غلام واپس لینے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ واپس لے سکتا ہے۔

(۱۷۱) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ فَيَعْمَلُ بِهَا لِمَنْ يَكُونُ رِبْحَهَا
کسی شخص کے پاس امانت کا مال ہو وہ شخص اُس مال کو کاروبار میں لگا کر نفع کما لے تو وہ
منافع کس کا شمار ہوگا؟

(۲۱۸۱۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ مَدًى فَتَعَرَّضَ لَهُ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ لِرَبِّ الْمَدِّ وَلَا الْمُسْتَوْدَعِ ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ .

(۲۱۸۱۱) حضرت ابن ابی نجیح سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ امداد تجارت میں لگا لے؟ حضرت عطاء رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو منافع حاصل ہو وہ رب المال کو ملے گا، اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہ رب المال کو ملے گا اور نہ ہی امانت دار کو بلکہ وہ مساکین کو ملے گا۔

(۲۱۸۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُحْرِكُ الْوَدِيعَةَ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَآلَةُ الرَّبْحِ .

(۲۱۸۱۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امانت کے مال کو اُس کے مالک کی اجازت کے بغیر کاروبار میں مت لگاؤ، اگر اُس بغیر اجازت ایسا کیا تو وہ ضامن ہوگا اور جو منافع اُس کو حاصل ہو وہ اسی کا ہوگا۔

(۲۱۸۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا بِحَوْلِهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، أَوْ يُغَيَّرَ عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ غَيْرُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ ؛ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .

(۲۱۸۱۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما امانت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُس پر اُس وقت ضمان نہیں آئے گا جب تک وہ اُس کو اُس کی سے پھیر نہ دے یا اُس کو اُس کی حالت سے تبدیل نہ کر دے، اگر وہ اُس کو اُس کی حالت سے تبدیل کر دے اور اُس کو کچھ منافع حاصل ہو تو اُس کو نفع کو صدقہ کر دے وہ ان میں سے کسی کا نہیں ہوگا۔

(۲۱۸۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ؟ فَقَالَ : هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعُ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ .

(۲۱۸۱۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یتیم کے مال کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ واپس نہ کر دیا جائے وہ مضمون (قابل ضمان) رہتا ہے، دریافت کیا گیا کہ اس میں کچھ منافع بھی ہے، فرمایا منافع کے ساتھ جو چاہے کرے لیکن یتیم کا مال جب تک واپس نہ کرے مضمون (قابل ضمان) رہے گا۔

(۲۱۸۱۵) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيَّامٍ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرَّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ .

(۲۱۸۱۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس یتیموں کا مال ہے، تو کیا وہ اس کو تجارت میں استعمال کر سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ ان کی اجازت کے بغیر کرے تو وہ ضامن ہوگا، اور جو منافع حاصل ہو اس کو صدقہ کرے گا۔

(۱۷۲) فِي الرَّجُلِ يَسْلِمُ فَيَقُولُ مَا كَانَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا

کوئی شخص بیع سلم کرتے ہوئے یوں کہے: جو کچھ گندم میں سے ہے وہ اتنے کا ہے

(۲۱۸۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دَرَاهِمٍ وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ : إِنْ أُعْطِيْتَنِي بَرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ أُعْطِيْتَنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ، قَالَ : سَمَّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرَفَا مُسْمَاةً ، فَإِنْ أُعْطَاكَ الْأَذَى فِيهِ وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكٍ .

(۲۱۸۱۶) محمد بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ بعض اوقات کوئی شخص کسی کے ساتھ ایک ہزار درہم میں بیع سلم کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے گندم دیا تو یہ سود اتنے کا ہوگا اور اگر جو دی تو اتنے میں ہوگا، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان میں سے ہر نوع (قسم) کے لئے الگ قیمت بیان کرے، اگر اسی قیمت میں مجھے دے دے تو ٹھیک وگرنہ اس سے اپنا رس المال واپس لے لے۔

(۲۱۸۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمِ بْنِ مَسْرُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فِي الرَّجُلِ يَسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا : إِنَّهُ كَمْرَهُ .

(۲۱۸۱۷) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص بیع سلم کرتے ہوئے یوں کہے کہ جو کچھ تیرے پاس گندم میں سے ہے وہ اتنے کا اور جو کچھ تیرے پاس دانوں میں سے وہ اتنے میں، تو ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔

(۲۱۸۱۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلْمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ .

(۲۱۸۱۸) حضرت عامر عنہ سے پوچھا گیا کہ حنطہ اور شعیرہ میں سے کونسا آسان ہے؟ فرمایا: نہیں۔

(۲۱۸۱۸) حضرت عامر سے گندم اور بھج کی بیع سلم کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جو بھی آسانی سے میسر ہو دے سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بیع اس کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ (درست نہیں ہے)

(۲۱۸۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذًا وَكَذًا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ .

(۲۱۸۱۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص کسی متعین چیز میں متعین وقت کے لئے بیع سلم کرے اگر وہ اس کو اتنی دے سکے تو اتنی مقدار میں کوئی اور متعین چیز دے سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ درست نہیں ہے۔

(۲۱۸۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُسَلِّفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بَرًّا فَبِكَذًا ، وَإِلَّا كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذًا : أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۱۸۲۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص یوں کہتے ہوئے سلم کرے کہ اگر گندم ہو تو اتنے میں اور بھج ہو تو اتنے میں تو کیسا ہے؟ آپ ﷺ نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۱۷۲) فِي السَّلْمِ فِي الشِّيَابِ

کپڑوں میں بیع سلم کرنا

(۲۱۸۲۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلْمِ فِي الشِّيَابِ ، ذَرَعَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

(۲۱۸۲۱) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کپڑوں میں اس طرح بیع سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ ذرا بھی متعین ہوں اور وقت بھی متعین ہو۔

(۲۱۸۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنِ السَّلْمِ فِي الشِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعْلُومَ الرُّفْعَةِ مَعْلُومَ كَذًا .

(۲۱۸۲۲) حضرت بکیر ابن عبداللہ بن الاشج سے کپڑوں میں بیع سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں، مگر کپڑا کی مقدار وغیرہ معلوم ہو۔

(۲۱۸۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلْمِ فِي الْكُرَّابِيِّسِ ؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ .

(۲۱۸۲۳) حضرت عامر سے سو تیکڑوں میں بیع سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تو کرتا تھا۔

(۲۱۸۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ فِي تَوْبٍ يَعْرِفُ ذَرْعَهُ وَرُقْعَتَهُ أَوْ

بأس.

(۲۱۸۲۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کپڑے کا ذراع اور مقدار وغیرہ معلوم ہو تو پھر بیع سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۸۲۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِي السَّلْمِ فِي الصُّوفِ وَالْأَكْسِيَةِ .

(۲۱۸۲۵) حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اون اور کپڑوں میں بیع سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۸۲۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلْمِ فِي الْكِرَابِيِّسِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

(۲۱۸۲۶) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے سوتی کپڑوں میں بیع سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا اگر ذراع اور وقت متعین ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۸۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلْمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ .

(۲۱۸۲۷) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر اس چیز کے بیع سلم میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے جس میں وقت متعین ہو سوائے حیوانات کے۔

(۲۱۸۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ ، أَيَعْنُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِينَ ، قَالَ : لَا .

(۲۱۸۲۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کپڑوں میں بیع سلم کرے تو وہ سپرد کرنے سے پہلے ان کی بیع کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔

(۱۷۴) من ردّ المكاتب إذا عجز

مکاتب اگر بدل کتابت سے عاجز آجائے تو اُس کو غلامی میں واپس لوٹا دیا جائے گا

(۲۱۸۲۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حجاج ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمَكَاتِبِ نَجْمَانٍ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ فَلَمْ يُوَدَّ نَجْمَانَهُ ، رُدَّ فِي الرَّقِّ .

(۲۱۸۲۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب لگا تار بدل کتابت کی دو قسمیں ادا نہ کر سکے تو وہ بیت مال میں داخل ہو جائے گا۔
گروہ ایک قسط نہ ادا کر پایا تو اُس کو دوبارہ غلامی میں لوٹا دیا جائے گا۔

(۲۱۸۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ، قَالَ الْمَكَاتِبُ : قَدْ عَجَزْتُ ، رُدَّ رَقِيْقًا .

(۲۱۸۳۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب خود کہہ دے کہ میں بدل کتابت سے عاجز ہوں تو اُس کو غلامی میں دوبارہ

لوٹا دیا جائے گا۔

(۲۱۸۳۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غَلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَذَاهَا إِلَّا مِئَةَ ، فَرَدَّهٗ فِي الرَّقِّ .

(۲۱۸۳۱) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنے غلام کو ہزار دینار پر مکتب بنایا، اُس نے سو دینار کم سارا مال ادا کر دیا، آپؓ نے اُس کو دوبارہ غلامی میں لوٹا دیا۔

(۲۱۸۳۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدْ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ .

(۲۱۸۳۲) حضرت حارثؓ عکلی فرماتے ہیں کہ جب بدل کتابت کی قسط دوسری قسط میں داخل ہو جائے تو اس سے مکتب کا بیع ثابت ہو جائے گا۔

(۲۱۸۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ ، وَلَا يَسْتَأْنِي بِهِ .

(۲۱۸۳۳) حضرت شریحؓ نے مکتب کو دوبارہ غلامی میں لوٹا دیا جب وہ بدل کتابت سے عاجز ہو گیا۔

(۲۱۸۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَاتَبَ غَلَامَهُ عَلَى مِئَةِ أَوْ قِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلَّا عَشْرًا أَوْاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ رَدُّهُ فِي الرَّقِّ .

(ابوداؤد ۳۹۲۲ - احمد ۲۰۶)

(۲۱۸۳۳) حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص غلام کو سو اوقیہ پر مکتب بنائے، پھر وہ غلام دس اوقیہ کے سوا باقی سارا ادا کر دے پھر وہ اُس دس کے ادا کرنے سے عاجز آجائے تو اُس کو دوبارہ غلامی میں لوٹا دیا جائے گا۔

(۲۱۸۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يَرُدُّ حَتَّى يَعْجَزَ عَنْ سِنِينَ .

(۲۱۸۳۵) حضرت حکمؓ فرماتے ہیں کہ مکتب اگر کئی سالوں کی قسطیں ادا کرنے سے عاجز آجائے تو پھر اُس کو دوبارہ غلامی میں لوٹا دیا جائے گا۔

(۱۷۵) فِي بَيْعِ الْمَجَازِقَةِ لِمَا قَدْ عِلِمَهُ كَيْلَهُ

جس چیز کی مقدار معلوم ہو اُس کو اندازے سے فروخت کرنا

(۲۱۸۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : إِذَا عِلِمْتُ مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلَا تَبَعُهُ جُزْأَفًا .

(۲۱۸۳۶) حضرت طاووسؓ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کی مقدار معلوم ہو تو پھر اُس کو اندازے سے فروخت نہ کرو۔

(۲۱۸۳۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يَقُولُ : قَدْ كَلَّتْ فِي هَذِهِ الْخَابِيَةِ كَذَا وَكَذَا مَنَّا ، وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ نَقْصٌ ، أَوْ سُقْرٌ ، أَوْ تَشْتَبِهُ الْخَابِيَةَ ، أَوْ كَانَ فِيهِ غَلْطٌ ، لَا أَيْبِعُكَ كَيْلًا ، إِنَّمَا أَيْبِعُكَ جُزْأَفَا ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .

(۲۱۸۳۷) حضرت معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے اس منگے کو تو لا ہے اس ساتنے من ہے، اور مجھے نہیں معلوم شاید یہ کم ہو گیا ہو، یا اس میں سے چوری ہو گیا ہو یا پھر کسی اور منگے سے مل گیا ہو یا پھر اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، میں اس کو کیل کر کے فروخت نہیں کروں گا، میں اس کو اندازاً فروخت کروں گا، اب اس بیع کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن سیرین نے اس کو ناپسند کیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۸۳۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَالَ جُزْأَفَا ؟ فَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبَيْدَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبَيْدَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكَّرَهُهُ إِبْرَاهِيمُ .

(۲۱۸۳۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اندازے سے خریدتا ہے اور کہتا ہے کچھ کچھ تیرے گھر میں گندم ہے وہ اتنے میں اور جو بھی بچ ہے وہ اتنے اتنے میں؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۲۱۸۳۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ فِطْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ يَفْقَدُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ كَيْلًا ، ثُمَّ نَقُولُ : يَبِيعُونَنا جُزْأَفَا ، قَالَ : لَا ، حَتَّى تَتَارَكُوا الْبَيْعَ .

(۲۱۸۳۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کچھ دیہاتی ہمارے پاس غلہ لے کر آئے، ہم نے ان سے کیل کر کے کچھ خرید لیا پھر کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ اندازے سے بیع کرو؟ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو یہاں تک کہ وہ بیع چھوڑنے پر راضی ہو جائیں۔

(۲۱۸۴۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزْأَفَا إِذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْلَهُ .

(۲۱۸۴۰) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے اندازاً بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے جبکہ اس چیز کی مقدار معلوم ہو۔

(۲۱۸۴۱) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عَصَامٍ الْعُسْقَلَانِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءَ ، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَبْتَاعُ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةٌ ، وَرَبُّ الطَّعَامِ قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ ؟ فَكَّرَهُهُ كُلُّهُمْ .

(۲۱۸۴۱) حضرت حسن، حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ اور حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص دوسرے کے پاس آتا ہے اور اندازاً گندم کی بیع کرتا ہے، اور بعض اوقات گندم کی مقدار معلوم بھی ہوتی ہے تو ایسی بیع کرنا کیسا ہے؟ سب حضرات نے اس کو پسند فرمایا۔

(۲۱۸۴۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ النَّافِعِ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُجَاءُ بِالْأَوْسَاقِ فَتُلْقَى فِي الْمُصَلَّى فَيَقُولُ الرَّجُلُ : كَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا أَيْعُهُ مَكَايِلَةٌ ، إِنَّمَا أَيْعُهُ مَجَازَفَةٌ ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا .

(۲۱۸۳۲) حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو دیکھا کہ ان کے سامنے غلے کے وسق لاسے جاتے تھے اور ایک آدمی کہتا کہ میں نے ان چیزوں کو کیل کر کے لیا ہے میں انہیں کیل کے حساب سے نہیں بلکہ اندازے سے بیچوں گا۔ اصحاب نبی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۱۸۴۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلَقَى الرَّجُلَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ مَجَازَفَةً ، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ نَنْقُلَهُ .

(بخاری ۲۱۶۶۔ مسلم ۱۶۱)

(۲۱۸۳۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم لوگ سواروں سے ملتے اور ان سے اندازے سے گندم وغیرہ خریدتے تھے آنحضرت ﷺ نے ہمیں اس سے روک دیا جب تک کہ ہم اس کو اس کی جگہ سے منتقل نہ کریں۔

(۱۷۶) فِي الْمَكَاتِبِ يَمُوتُ وَيَتْرِكُ دَيْنًا وَبَقِيَّةً مِنْ مَكَاتِبِهِ

مکاتب اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمہ بدل کتابت بھی ہو اور اس پر قرض بھی ہو

(۲۱۸۴۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَثَ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي مَكَاتِبِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مَكَاتِبِهِ ، قَالَ : يَضْرِبُ مَوَالِيَهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ . وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ مَا لَمْ يَحَلَّ .

(۲۱۸۳۳) حضرت شریح رضی اللہ عنہ اس مکاتب کے بارے میں فرماتے ہیں جو اس حال میں فوت ہو کہ اس پر قرض بھی ہو اور بدل کتابت بھی باقی ہو تو قرض سے پہلے آقاؤں کی واجب الاداء قسطیں ادا کی جائیں گی۔

(۲۱۸۴۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : أَخْطَأُ شُرَيْحًا ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا كَانَ زَيْدٌ بِنْتُ يَابِتٍ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتِبَةِ .

(۲۱۸۳۵) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ اگرچہ قاضی تھے لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بدل کتابت سے پہلے قرض ادا کریں گے۔

(۲۱۸۴۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتِبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيَهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌ بُدِيَ بِالْغُرَمَاءِ فَآخَذُوا دَيْنَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَتْ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَبْتَ مَكَاتِبَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مَكَاتِبَتِهِ كَانَ لَوَرَثَتِهِ .

(۲۱۸۳۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مکتب غلام اس حال میں فوت ہو کہ اُس پر قرض ہو تو اُس کے آقا کو قرض خواہوں کے ساتھ رکھیں گے، قسطوں میں سے جو واجب الاداء ہے وہ پہلے دیں گے اور اگر اُس پر فی الفور کوئی قسط لازم نہ ہو تو قرض خواہوں سے ابتداء کریں گے پس وہ اپنا قرض وصول کر لیں گے، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو وہ آقاوں کو ملے گا یہاں تک کہ بدل کتابت مکمل ہو جائے اور اگر بدل کتابت ادا کرنے کے بعد بھی کچھ بچ جائے تو وہ اُس کے ورثاء کے ملے گا۔

(۲۱۸۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضْرِبُ مَوْلَاهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نَجْوَمِهِ.

(۲۱۸۴۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس کے آقا کو قرض خواہوں کے ساتھ ملائیں گے قسطوں میں سے جو قسط واجب الاداء ہوئی ہو۔

(۲۱۸۴۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالذَّيْنِ.

(۲۱۸۴۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرض سے ابتداء کریں گے۔

(۲۱۸۴۹) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالذَّيْنِ. (بیہقی ۳۳۳)

(۲۱۸۴۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرض سے ابتداء کریں گے۔

(۲۱۸۵۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَ مِنْ مَكَاتِبِهِ، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نَجْوَمِهِ، وَمَا كَانَ لِعُرْمَانِهِ فَيَقْسَمُ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ.

(۲۱۸۵۰) حضرت شععی رضی اللہ عنہ اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر غلام پر قرض بھی ہو اور بدل کتابت بھی باقی ہو تو قسطوں میں سے جو قسط واجب الاداء ہوئی ہو اُس کو دیکھیں گے اور جو اُس کے قرض خواہوں کے لئے تھا اُس کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیں گے۔

(۲۱۸۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَسُفْيَانَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ: حَلَّ مَا عَلَيْهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمَكَاتِبِ.

(۲۱۸۵۱) حضرت حسن، حضرت سفیان اور حضرت ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر غلام فوت ہو جائے اور اُس پر قرض باقی ہو پھر جو کچھ اُس پر تھا وہ (فوراً) واجب الاداء ہو جائے گا، اور اُس کے آقا کو تمام مال مکتب میں قرض خواہوں کے ساتھ ملائیں گے۔

(۲۱۸۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يُبْدَأُ بِالذَّيْنِ.

(۲۱۸۵۲) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ اگرچہ قاضی تھے مگر انہوں نے غلطی کی ہے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ قرض سے ابتداء کریں گے۔

(۱۷۷) فِي الْبَيْئَةِ إِذَا اسْتَوَتْ

اگر دونوں طرف سے گواہی قائم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۸۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي : أَنَّ نَاسًا مِنْ فُهَيْمٍ خَاصَمُوا نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنَ لَهُمْ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، فَاسْتَوَتْ الشُّهُودُ فَافْرَعَ بَيْنَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَتْ .

(۲۱۸۵۳) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ فہم اور قبیلہ بنو سلیم کے لوگوں کے آپس میں ایک کان کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، وہ لوگ اپنا جھگڑالے کر مروان کے پاس چلے گئے، مروان نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں، جب فیصلہ کرنے لگے تو دونوں طرف سے گواہیاں برابر قائم ہو گئیں، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان قرعہ ڈالا اور دونوں طرف سے گواہیوں کے قائم ہونے کی وجہ سے قرعہ میں جس کا نام نکلا اُس کے حق میں فیصلہ فرمایا۔

(۲۱۸۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَوَتْ الْبَيْئَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي يَلْدِي فِي أَيَدِيهِمْ .

(۲۱۸۵۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے گواہیاں قائم ہو جائیں تو چیز پر جس کا قبضہ ہوگا اسی کا حق شمار ہوگا۔

(۲۱۸۵۵) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ إِذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدْلِ : فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ .

(۲۱۸۵۵) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں گواہوں کا اختلاف ہو جائے اور وہ گواہ تعدیل اور تعداد میں برابر ہو جائیں تو پھر مدعی علیہ پر قسم ہوگی۔

(۱۷۸) فِي تَلْقَى الْبَيْعِ

(۲۱۸۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ يَسَّابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تَحْفَلُوا ، وَلَا يَنْفِقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ .

(۲۱۸۵۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سامان تجارت والے قافلہ سے شہر سے باہر جا کر اُس سے ملاقات نہ کرو تا کہ تم کم قیمت میں خریدا کر آگے زیادہ میں بیچو، اور نہ ہی اونٹنی کے تھنوں میں اُس کو فروخت کرنے کے لئے دودھ جمع کرو، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی خاطر سامان کی قیمت کو بڑھاؤ۔

(۲۱۸۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَلْقُوا

الْبُيُوعَ بِأَقْوَاهِ السُّكُكِ.

(۲۱۸۵۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی کسان سے کم قیمت میں خرید کر آگے زیادہ قیمت میں فروخت مت کرو۔

(۲۱۸۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ دَعْفَلٍ ، قَالَ : قَبِرَاءَ عَلَيْنَا كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ .

(۲۱۸۵۸) حضرت ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حکم نامہ پڑھا گیا تو اس میں تحریر تھا کہ شہر سے باہر جا کر سواروں سے ملاقات نہ کرو (کم قیمت میں خرید کر زیادہ قیمت میں فروخت کرنے کے لئے)۔

(۲۱۸۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلَبِ ، فَإِنْ تَلَقَى رَجُلٌ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ الْمِصْرَ .

(۲۱۸۵۹) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہر سے باہر جا کر قافلہ والوں سے کم قیمت دے کر سامان خریدنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، پس اگر کوئی شخص اس ممانعت کے باوجود شہر سے باہر جا کر خرید لے تو جب اس سامان کا مالک شہر میں آجائے گا تو اس کو اختیار ہوگا۔ (اگر چاہے تو پہلی بیع فسخ کر سکتا ہے)۔

(۲۱۸۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ . (بخاری ۲۱۳۹۔ مسلم ۱۱۵۲)

(۲۱۸۶۰) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے شہر سے باہر جا کر قافلہ والوں سے سامان کم قیمت میں خرید کر شہر میں لا کر زیادہ قیمت میں فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۸۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ . (بخاری ۲۱۵۰۔ مسلم ۱۱۵۵)

(۲۱۸۶۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ شہر سے باہر جا کر کم قیمت میں سامان خریدنے کے لئے قافلہ والوں سے ملاقات مت کرو۔

(۲۱۸۶۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلْقَى . (ابن ماجہ ۲۲۰۶۔ ابویعلیٰ ۵۳۷)

(۲۱۸۶۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے شہر سے باہر جا کر کم قیمت میں سامان خرید کر شہر میں لا کر زیادہ قیمت میں فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۸۶۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَلْقَى الْبُيُوعَ مِنْ أَقْوَامِ الطَّرِيقِ. (طبرانی ۱۳- دارقطنی ۲۸۱)

(۲۱۸۶۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی کسان سے کم قیمت میں خرید کر آگے زیادہ قیمت میں فروخت مت کرو۔

(۱۷۹) فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَةِ الْوَدِيعَةِ

مضاربتہ، عاریتہ اور امانت کا بیان

(۲۱۸۶۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِىِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالَفَ.

(۲۱۸۶۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کرایہ پر لینے والا، کسی چیز کو عاریتہ دینے والا اور امانت رکھنے والا جب تک (طے شدہ شرائط کی) مخالفت نہ کریں ضامن نہ ہوں گے۔

(۲۱۸۶۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۱۸۶۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر امانت دار، عاریتہ لینے والا اور مستضع (سامان تجارت ہانے والا) اگر (طے شدہ شرائط کے) خلاف کریں تو ضامن ہوں گے۔

(۲۱۸۶۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَهَيْتَ مُضَارِبَكَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَنَاعٍ كَذًّا وَكَذَا فَاشْتَرَى ضَمِنَ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَنْصَلِقَانِ بِالرَّبْحِ.

(۲۱۸۶۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر آپ مضارب کو فلاں فلاں چیز کے خریدنے سے منع کرو اور وہ پھر بھی خریدے تو وہ ضامن ہوگا، حضرت حماد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو نفع ہوا ہے اس کو وہ دونوں صدقہ کریں گے۔

(۲۱۸۶۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَكَ.

(۲۱۸۶۷) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ مضارب امانت دار ہے اگر چہ وہ آپ کی مخالفت کرے۔

(۲۱۸۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارِبَةً.

(۲۱۸۶۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مضاربت کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو چار ہزار کا ضامن بنایا تھا۔

(۲۱۸۶۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ.

(۲۱۸۶۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مضارب اگر آپ (سے طے شدہ شرائط کی) مخالفت کرے تو وہ امانت دار ہے۔

(۲۱۸۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أُسْتُودِعْتُ سِتَّةَ آلَافٍ فَلَذَهَبْتُ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا قَالَ : فَضَمَّنِي .

(۲۱۸۷۰) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چھ ہزار امانت رکھوائی گئی وہ ضائع ہوگئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا: اُس کے ساتھ تیرا کچھ اور نقصان بھی ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو انہوں نے مجھے ضامن بنا دیا۔

(۲۱۸۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهْزَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ : لَا يَنْزِلُ بَطْنٌ وَادٍ ، فَنَزَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ .

(۲۱۸۷۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رب المال مضارب پر یہ شرط لگائے کہ تو تپن وادی میں نہیں اترے گا، پھر اگر وہ اتر جائے (اور اس کا مال ہلاک ہو جائے) تو وہ ضامن ہوگا۔

(۲۱۸۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرَّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

(۲۱۸۷۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منافع تقسیم کر دے اُس پر ضمان نہیں ہوتا۔

(۲۱۸۷۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينٌ .

(۲۱۸۷۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مضارب مال اگر (مطلوبہ شخص کے علاوہ) کسی اور کو دے دے تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ وہ امین ہے۔

(۲۱۸۷۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكَرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ .

(۲۱۸۷۴) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امانت اور کرایہ میں (طے شدہ شرائط کی) مخالفت کی جائے، تو وہ ضامن ہوگا۔

(۲۱۸۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : لَا تَجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ إِنْ جَاوَزَهُ .

(۲۱۸۷۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر رب المال مضارب کو کہہ دے کہ فلاں فلاں جگہ سے آگے مت جانا، اگر وہ پھر بھی چلا جائے تو وہ ضامن ہوگا۔

(۲۱۸۷۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ .

(۲۱۸۷۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۱۸۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَإِنِّي

أَخَافُ أَنْ يُخَالَفَ ، فَيُقْسِدَ عَلَيْكَ ، وَعَلَى نَفْسِهِ .

(۲۱۸۷۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مضارب پر کوئی شرط مت لگاؤ، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس کا فساد اس پر اور آپ پر پڑے گا۔

(۲۱۸۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ : أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَ مُضَارِبَةٍ ، وَقَالَ : لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

(۲۱۸۷۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس کو مضاربت کا مال دیا گیا ہے، اور اس کو کہا کہ شہر سے باہر مت نکلتا، وہ پھر چلا گیا، آپ نے فرمایا اس پر ضمان نہیں ہے۔

(۲۱۸۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : فِي الْمَضَارِبِ إِذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُجَاوِزَ ، فَجَاوَزَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ .

(۲۱۸۷۹) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اگر مضارب پر کچھ شرائط لگائی جائیں کہ ان سے تجاوز نہ کرنا، اگر وہ پھر بھی کر لے تو وہ ضامن ہوگا۔

(۲۱۸۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ مَعَاوِيَةَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ .

(۲۱۸۸۰) حضرت ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا۔

(۲۱۸۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ .

(۲۱۸۸۱) حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شہر سے باہر نکلنے سے منع کیا جائے اور وہ پھر بھی نکل جائے تو وہ ضامن ہوگا۔

(۲۱۸۸۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، وَمُعِيزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَبِيعَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ .

(۲۱۸۸۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امانت دار، عاریہ لینے والا اور مستضع (سامان تجارت بنانے والا) اگر طے شدہ شرائط کے خلاف کریں تو ضامن ہوں گے۔

(۲۱۸۸۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ .

(۲۱۸۸۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امانت میں ضامن نہیں بنایا تھا۔

(۲۱۸۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ : أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ عَمْرٌ .

(۲۱۸۸۴) حضرت عبد اللہ بن عکیم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو امانت دی وہ اس سے ہلاک ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے اُس کو ضامن نہیں بنایا۔

(۲۱۸۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يَتَّهَمَ. حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امانت رکھنے والے اور عاریتہ کسی چیز کو لینے والے پر ضمان نہیں ہے، ہاں اگر ان پر الزام لگ جائے (خود ہلاک کرنے کا) تو پھر ضمان ہے۔

(۱۸۰) فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدِي عَدْلٍ أَيْكُونُ مَقْبُوضًا؟

رہن اگر کسی عادل شخص کے قبضہ میں ہو تو کیا وہ مقبوضہ شمار ہوگا؟

(۲۱۸۸۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهْنِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدِي عَدْلٍ مَقْبُوضًا.

(۲۱۸۸۷) حضرت حارث اور حضرت حکم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی عادل شخص کے قبضہ میں ہو تو پھر اُس کے رہن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۸۸۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ رَهْنٌ. حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رہن ہے۔

(۲۱۸۸۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ.

(۲۱۸۸۸) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک اُس کا صاحب اُس پر قبضہ (وصول نہ ہو جائے) نہ کر لے وہ رہن شمار نہ ہوگا۔

(۲۱۸۸۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَرَأَهَا (فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً)، قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّهْنُ إِلَّا مَقْبُوضًا.

(۲۱۸۸۹) حضرت سعید نے قرآن پاک کی آیت قَرِهَانَ مَقْبُوضَةً کی تلاوت فرمائی اور فرمایا: جب تک وصول نہ ہو جائے رہن شمار نہ ہوگا۔

(۱۸۱) فِي الرَّجْلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجْلِ الْمَالَ مُضَارِبَةً

کوئی شخص کسی کو مال مضاربت دے

(۲۱۸۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالًا مُضَارِبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِصَاعَةٍ.

(۲۱۸۹۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اس کو نا پسند سمجھتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو اس شرط پر مال مضاربت دے کہ وہ اُس کو کوئی سامان

دے دے۔

(۲۱۸۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ .
(۲۱۸۹۱) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ بھی اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۸۹۲) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً ؟ أَنَّهُ كَرِهَهُ .
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .

(۲۱۸۹۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کسی شخص کو اس شرط پر مال مضاربت دینا کہ وہ سامان دے دے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ناپسند سمجھا۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۸۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا .

(۲۱۸۹۳) حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو مال مضاربت دے اور اس پر سامان کی یا کام کرنے کی شرط لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۸۲) فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا اسْقَطَتْ

ام ولد کی بیع کرنا جب اس کا جنین (نا تمام بچہ) گرجائے

(۲۱۸۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا .

(۲۱۸۹۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ام ولد کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کا بچہ اس کو آزاد کرادے گا اگرچہ وہ نا تمام بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

(۲۱۸۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دَرٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِبِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بَارِبَعَةَ آلَافٍ قَدْ كَانَتْ اسْقَطَتْ مِنْ مَوْلَاهَا سِقْطًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَاتَاهُ فَعَلَاهُ بِالذَّرْوَةِ ضَرْبًا ، وَقَالَ : بَعْدَ مَا اخْتَلَطْتُ لِحُومِكُمْ بِلِحُومِهِنَّ وَدِمَاؤِكُمْ بِدِمَائِهِنَّ بَعْتُمُوهُنَّ ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَمَانَهَا .

(۲۱۸۹۵) حضرت قارب ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک شخص سے چار ہزار درہم میں باندی خریدی، اس باندی کا اپنے آقا سے ایک (نا تمام) بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر پہنچی تو تشریف لائے اور اپنا ذرہ مارنے کے لئے بلند کیا اور فرمایا: تمہارا گوشت اس کے گوشت کے ساتھ ملنے کے بعد، اور تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملنے کے بعد تم اس کو

فروخت کرتے ہو؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے چربی فروخت کر کے اُس کی قیمت کو کھالیا۔
(۲۱۸۹۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا حَمَلَتِ الْأُمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ اسْقَطَتْ ، قَالَ : إِنَّ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِيَ أُمٌ وَلَدٌ ، لَا سَبِيلَ إِلَيَّ بَيْعِهَا .

(۲۱۸۹۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب باندی آقا سے حاملہ ہو جائے، پھر اُس کا بچہ ضائع ہو جائے اگر تو اُس بچے کی خلقت ظاہر ہو تو پھر وہ ام ولد ہے اُس باندی کو فروخت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

(۲۱۸۹۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا تَلَبَّسَ فِي الْخُلُقِ الرَّابِعُ ، فَكَانَ مُخَالَفًا أُعْتِقَتْ بِهِ الْأُمَةُ .
(۲۱۸۹۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پر معمولی خلقت ظاہر ہو جائے (گوشت وغیرہ آجائے تو) وہ بچہ شمار ہوگا اور اُس کی ماں آزاد شمار کی جائے گی۔

(۲۱۸۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا اسْقَطَتِ الْأُمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ .
(۲۱۸۹۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر باندی کا آقا سے بچہ ضائع ہو جائے تو وہ آزاد ہے۔

(۲۱۸۹۹) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَعْتَقُ أُمُّ الْوَالِدِ إِذَا اسْقَطَتْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ سَقَطًا .

(۲۱۸۹۹) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام ولد آزاد ہوگی جب اُس کا ناتمام بچہ ضائع ہو جائے جبکہ معلوم بھی ہو کہ وہ ناتمام ضائع ہوا ہے۔

(۲۱۹۰۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : فِي أُمِّ الْوَالِدِ إِذَا وَصَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ .
(۲۱۹۰۰) حضرت حماد ام ولد کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب وہ ناتمام بچہ جن دے تو باندی آزاد شمار ہوگی۔

(۱۸۳) فِي الرَّجُلِ يَبِضِعُ الرَّجُلَ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا

اگر کسی شخص کو سامان تجارت دے، پھر خود کو اس کی ضرورت پیش آجائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۹۰۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ : إِنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ فَنَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : إِذَا قَدِمْتَ اشْتَرَيْتَ لِأَصْحَابِهَا حَاجَتَهَا ، وَلَمْ تَحْسِبْهَا ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ .

(۲۱۹۰۱) راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ہم سامان تجارت لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، پھر راستے میں ہمیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آیا ہم اسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ تو لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں بیچو گے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ سامان والے

کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

(۲۱۹.۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دَفَعَتْ إِلَيْهِ دِرَاهِمٌ يَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إِلَى رَبِّهَا .

(۲۱۹.۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو کچھ دراہم دیئے گئے تاکہ وہ ان سے کوئی چیز خریدے، اس نے وہ دراہم اپنی ضرورت میں خرچ کر دیئے، پھر ان کو واپس کر دیا اور اس کے ساتھ وہی چیز خریدی جس کا اس کو کہا گیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک وہ مالک کے سپرد نہ کر دے وہ ضامن ہوگا۔

(۱۸۴) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَسْتَزِيدُ

آدمی کوئی چیز خریدتے وقت اس میں زیادتی طلب کرے

(۲۱۹.۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ ، عَنْ مَاهَانَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَيَّ رَجُلٍ يَزِنُ ذَرِيرَةً قَالَ : أُرْجِحُ ، فَقَالَ : أَقِمُّ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ فَرَدَّهُ مِنْ مَالِكٍ مَا بَشْتُ .

(۲۱۹.۳) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو برادہ تول رہا تھا، اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: کیا ترازو کو جھکا کر تو لو؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ترازو کی زبان کو برابر کرو، جب وہ برابر ہو جائے تو اپنی مرضی سے جو چاہو اضافہ کر دو۔

(۲۱۹.۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَدَيْلِ ، كَذَا قَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قَبَاءً ، فَاسْتَرَادَهُ حَبْلًا ، فَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُ ، فَرَأَيْتُ عَمَّارًا يَتَارَعُهُ أَيَّاهُ ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ .

(۲۱۹.۴) حضرت ابوالأحوص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قباء خریدتے ہوئے دیکھا، آپ رضی اللہ عنہ اس سے ایک ڈوری زیادہ مانگ رہے تھے اس نے زیادہ دینے سے انکار کر دیا، میں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ رضی اللہ عنہ اس سے جھگڑا کر رہے تھے، پھر مجھے نہیں معلوم اس جھگڑے میں کون غالب آیا۔

(۲۱۹.۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهَدَيْلِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، مِثْلَهُ .

(۲۱۹.۵) حضرت ابن ابی ہذیل رضی اللہ عنہ سے اسی بھی طرح مروی ہے۔

(۲۱۹.۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَهْدَلِ أَبِي الْوَصَّاحِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ اشْتَرَتْ لَحْمًا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ : زِدْهَا ، هُوَ أَعْظَمُ لِبَرَكَةِ النَّبِيِّ .

(۲۱۹.۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک باندی کے پاس سے گذرے جو گوشت خرید رہی تھی، اور باندی دوکان دار سے کبر رہی تھی کہ کچھ زیادہ ڈال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوکاندار سے فرمایا: اس کو کچھ زیادہ ڈال کر دو، بے شک یہ بیچ میں برکت کے لئے بہت

بڑا سبب ہے۔

(۲۱۹۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيدَ عَلَى الْبَيْعِ .

(۲۱۹۰۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیع میں کچھ زیادہ طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۹۰۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَبَاءً مِنْ رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلًا ، وَعَمَّارٌ يَقُولُ : زِدْنِي ، وَالْآخَرُ يَقُولُ : لَا .

(۲۱۹۰۸) حضرت ابو حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ایک شخص سے قباء خریدتے ہوئے دیکھا گیا، آپ اُس سے ایک ڈوری کی زیادتی پر جھگڑا فرما رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے زیادتی کر، وہ شخص کہہ رہا تھا کہ نہیں۔

(۲۱۹۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَهُ : إِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا فَلَا تَزِدْ دَانًا .

(۲۱۹۰۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گوشت خریدو تو اُس میں زیادتی مت کرو۔

(۱۸۵) فِي الْجَارِيَةِ مَتَى تَجُوزُ عَطِيَّتُهَا؟

عورت اور باندی کا عطیہ (ہدیہ) کب جائز ہے؟

(۲۱۹۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ أَبُو الشَّعْبَاءِ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرُوَاهَا .

(۲۱۹۱۰) حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے ہدیہ دینا جائز نہیں ہے جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے دے۔

(۲۱۹۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

(۲۱۹۱۱) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے خاوند کی اجازت کے بغیر عطیہ (ہدیہ) دینا جائز نہیں ہے۔

(۲۱۹۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَارًا لَهَا مَا صَنَعَتْ .

(۲۱۹۱۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت خاوند کے گھر میں ایک سال گزار لے تو وہ جو بھی تصرف کرے اُس کے لئے جائز ہے۔

(۲۱۹۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوْ وَلَدَتْ مِثْلَهَا جَارًا لَهَا هَبْتُهَا .

(۲۱۹۱۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب باندی بچہ جنم دے تو اُس کے لئے ہبہ کرنا جائز ہے۔

(۲۱۹۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهْدٌ إِلَى عُمَرَ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةً مَمْلُوكَةً حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا .

(۲۱۹۱۴) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم باندی کے ہبہ کو جائز (نافذ) قرار نہیں دیں گے جب تک کہ وہ گھر میں سال نہ گزار لے یا اُس کے بطن سے بچہ نہ ہو جائے۔

(۲۱۹۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : بِمِثْلِهِ .

(۲۱۹۱۵) حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

(۲۱۹۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلِكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيكَ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكَ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ طَلَبْتُ مِيرَاثَهَا فَوَدَّهَ عَلَيْهَا .

(۲۱۹۱۶) حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکتوب پڑھا گیا جس میں تحریر تھا کہ قریش کی ایک باندی سے اُس کے بھائی نے کہا کہ اپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے اپنے والد کی میراث میرے حوالے کر دے (مجھے صدقہ کر دے) اُس نے ایسا ہی کیا پھر اُس نے بھائی سے میراث طلب کیا تو اُس نے اُس کو واپس لوٹا دیا۔

(۲۱۹۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغَ إِنِّي ذَلِكَ .

(۲۱۹۱۷) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے بہہ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اُس کو سال نہ گزر جائے یا وہ بچہ نہ جنم دے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ بچہ جنم دے یا اتنا وقت گزار لے۔

(۲۱۹۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسْتُ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ .

(۲۱۹۱۸) حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر لڑکی بغیر شادی کے رہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کے لئے جائز نہیں ہے۔

(۲۱۹۱۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : لِلنِّسَمَةِ خِنَاقَانِ لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَمُضِيَ عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا .

(۲۱۹۱۹) حضرت عطاء اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما خنقاں کی تیممہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُس کے لئے اپنے مال سے بہہ کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بچہ جنم دے یا اپنے خاوند کے مکان میں ایک سال گزار لے۔

(۲۱۹۲۰) حَدَّثَنَا وَرِكْبَعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ لِي عُمَرُ : إِنِّي لَا أُجِيزُ عَطِيَّةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسْتُ يَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

(۲۱۹۲۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں باندی کے بہہ کرنے کو جائز نہیں قرار دیتا جب تک وہ گھر میں سال نہ گزار لے یا بچہ جنم دے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر لڑکی بغیر شادی کے کنواری رہے تو پھر کیا اُس کے لئے جائز ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں جائز ہے۔

(۱۸۶) فِی ثَمَنِ السَّنَوْرِ

بلی کی قیمت کا بیان

(۲۱۹۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهَرِّ .
(۲۱۹۲۱) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ بلی کی ثمن میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۹۲۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السَّنَوْرِ وَبَيْعَهُ وَأَكْلَ لَحْمِهِ وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِجَلْدِهِ .

(۲۱۹۲۲) حضرت مجاہد اور حضرت طاؤس رضی اللہ عنہما بلی کی قیمت کو اُس کے فروخت کرنے کو اُس کے گوشت کھانے کو اور اُس کی کھال سے نفع اٹھانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۹۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا عَنْ ثَمَنِ السَّنَوْرِ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۹۲۳) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۹۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَجُلٍ اشْتَرَى هَرًّا فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ ، وَكَرِهَ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ .

(۲۱۹۲۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اُس شخص کے متعلق فرمایا جس نے بلی خریدی آپ نے فرمایا اس کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بائع کے لئے اس کی قیمت مکروہ ہے۔

(۲۱۹۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۱۹۲۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۱۹۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : أَرَى أَبَا سَفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْهَرِّ .

(۲۱۹۲۶) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۹۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَذَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهَرِّ .

(۲۱۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بلی کو فروخت کر کے اُس کی قیمت کو وصول کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔

(۱۸۷) فی مکاتب مات وترک ولداً أحراراً

مکاتب آزاد کا چھوڑ کر فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۹۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيُّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مَكَاتِبِ مَاتٍ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْمَكَاتِبِ : إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمَكَاتِبَتَيْهِ يُدْعَى مَوَالِيَهُ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لَوَلَدِهِ .

(۲۱۹۲۸) حضرت مخارق سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کو مصر بھیجا، انہوں نے مصر سے آپ کو لکھا اور اس مکاتب کے متعلق دریافت کیا جو مال اور اولاد چھوڑ کر فوت ہو جائے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو مکاتب کے متعلق تحریر کیا: اگر تو بدل کتابت کے لئے مال چھوڑ کر فوت ہو تو اس کے آقا کو بلا کر ان کو بدل کتابت مکمل ادا کیا جائے گا۔ اور جو باقی بچ جائے وہ اس کی اولاد کے لئے میراث ہوگا۔

(۲۱۹۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي الْمَكَاتِبَ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا ، يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيِهِ مَا بَقِيَ مِنْ مَكَاتِبَتَيْهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ فَيَقَالَ : إِنْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ .

(۲۱۹۲۹) حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اس مکاتب کے متعلق جو مال اور اولاد چھوڑ کر فوت ہو جائے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ: جو بدل کتابت باقی رہ گیا ہے وہ اس کے آقا کو ادا کیا جائے گا، جو مال باقی بچ جائے وہ اس کی اولاد کو مل جائے گا، حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے۔

(۲۱۹۳۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَبْتِمَ مَكَاتِبَتُهُ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مَكَاتِبَتَيْهِ كَانَ لِرِوَالَتَيْهِ .

(۲۱۹۳۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مال بچ جائے تو وہ آقا کو ملے گا یہاں تک کہ بدل کتابت مکمل ادا ہو جائے۔ اور مال اس کے بعد بچ جائے وہ ورثاء کو ملے گا۔

(۲۱۹۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .

(۲۱۹۳۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل منقول ہے۔

(۲۱۹۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَزِيدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِنْ مَاتَ الْمَكَاتِبُ وَلَهُ مَالٌ ، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لَوَلَدِهِ شَيْءٌ .

(۲۱۹۳۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب مال چھوڑ کر فوت ہو جائے تو وہ مال آقا کو ملے گا اُس کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا۔

(۲۱۹۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَكَاتِبِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا ، قَالَ : يُؤَدَّى مَا بَقِيَ مِنْ مَكَاتِبِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلَوْ لَهُ .

(۲۱۹۳۳) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اُس مکاتب کے متعلق فرماتے ہیں جو مال اور آزاد اولاد چھوڑ کر مرے، فرماتے ہیں جو بدل کتابت باقی رہ گیا ہے اُس کو ادا کریں گے اور جو مال باقی بچ جائے وہ اُس کی اولاد کو ملے گا۔

(۱۸۸) فِي الرَّجُلِ يَعْتَقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ

کوئی شخص اپنا غلام آزاد کرے اُس (غلام) کے پاس اپنا مال بھی موجود ہو تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۹۳۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُيَسَّرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَعْتَقَهُ فَقَالَ : أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي ، وَلَكِنَّهُ لَكَ .

(عبدالرزاق ۱۵۶۵۵)

(۲۱۹۳۴) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلام آزاد کیا اور فرمایا: بے شک تیرا مال میرے لئے تھا، لیکن میں یہ تجھے عطا کرتا ہوں (یہ تیرے لئے ہے)۔

(۲۱۹۳۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَسْمَاَ سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَجَبَهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لَكَ .

(۲۱۹۳۵) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کے مال کے متعلق دریافت کیا؟ اس کے آپ کو اپنے مال کے بارے میں بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بھی آزاد اور تیرا مال بھی تیرے لئے ہے۔

(۲۱۹۳۶) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِذَا أَعْتَقْتَهُ وَكَمْ تَشْتَرِي مَالَهُ ، فَمَالَهُ لَهُ .

(۲۱۹۳۶) حضرت عبداللہ بن ابوملکیہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قوم میں ایک خاتون نے غلام آزاد کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اُس کے مال کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: اگر تو نے اُن کو آزاد کرتے وقت مال کی شرط نہیں لگائی تو اُن کا مال تیرے لئے ہے۔

(۲۱۹۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ : أَمَا إِنَّ الْمَالَ مَالِي ، وَلَكِنَّهُ لَكَ .

(۲۱۹۳۷) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلام آزاد کیا اور فرمایا: بے شک تیرا مال میرے لئے تھا، لیکن میں یہ تجھے عطا کرتا ہوں (یہ

تیرے لئے ہے۔

(۲۱۹۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لَكَ .

(۲۱۹۳۸) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اُس سے اُس کے مال کے متعلق دریافت فرمایا؟ اُس نے آپ کو بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بھی آزاد ہے اور تیرا مال بھی تیرے لئے ہے۔

(۲۱۹۳۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ .

(۲۱۹۳۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غلام کو آزاد کیا جائے گا تو اُس مال بھی اسی کو دے دیا جائے گا۔

(۲۱۹۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَالُ لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَتِيهَ السَّيِّدُ .

(۲۱۹۴۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام کا مال بھی اسی کو ملے گا ہاں اگر آقا مستثنیٰ کر دے تو پھر نہیں ملے گا۔

(۲۱۹۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ .

(۲۱۹۴۱) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غلام آزاد کیا جائے تو اُس کا مال بھی اسی کا ہوگا۔

(۲۱۹۴۲) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ .

(۲۱۹۴۲) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آدمی کو غلام آزاد کرے اور اُس کے پاس مال بھی ہو تو غلام کا مال غلام کو ہی ملے گا۔

(۲۱۹۴۳) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ .

(۲۱۹۴۳) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غلام کو آزاد کیا جائے تو اُس کا مال بھی اُس کے تابع ہوگا۔

(۲۱۹۴۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْإِذَى يَعْنِي الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يَبِينَ لَهُ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أَمْسِكُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ .

(۲۱۹۴۴) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو ایسا غلام آزاد کرے جس کے پاس اپنا مال بھی ہو، فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اُس سے بیان کر دیا جائے۔ اگر مال رکھنے کا ارادہ ہو اُس کو رکھ لیا جائے اور اگر غلام کو دینے کا ارادہ ہو تو اُس کو دے دیا جائے۔

(۲۱۹۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ .

(۲۱۹۴۵) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا غلام آزاد کرے جس کے پاس مال بھی ہو تو وہ مال غلام کو ملے گا۔

(۲۱۹۴۶) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَهُ فَالْمَالُ لِلْسَّيِّدِ .

(۲۱۹۴۶) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غلام آزاد کیا جائے تو اُس کا جو مال ہے وہ آقا کا ہوگا۔

(۱۸۹) فِي الرَّجُلِ يَسْلِمُ وَلَهُ أَرْضٌ

کافر اس حال میں مسلمان ہو کہ اُس کے پاس اپنی زمین ہو

(۲۱۹۴۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ أَبِي عَوْنِ النَّقْفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالَ إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَجَهَا .

(۲۱۹۴۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کافر مسلمان ہو جائے اور اُس کے پاس زمین بھی ہو، تو ہم اُس سے جزیہ ختم کر دیں گے اور اُس سے خراج لیں گے۔

(۲۱۹۴۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ : أَنَّ دِهْقَانَ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ : عَلِيُّ : إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلْتَ عَنْهَا فَتَحْنُ أَحَقُّ بِهَا .

(۲۱۹۴۸) حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایک کسان مسلمان ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس سے فرمایا: اگر تو اپنی زمین پر قائم رہتا ہے تو ہم تیرے اوپر سے جزیہ ختم کر دیں گے، اور تیری زمین سے (خراج) لیں گے، اور اگر تو اُس سے پھرتا ہے تو ہم لوگ اُس زمین کے زیادہ حقدار ہیں۔

(۲۱۹۴۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أَلَيْسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتِيَا عُمَرَ فَأَجْرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا ، فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ ، عَنْ رُؤُوسِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الطُّسُقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا .

(۲۱۹۴۹) حضرت حُصَيْن سے مروی ہے کہ اہل اَليْس میں سے دو شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مسلمان ہوئے، اور وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کے متعلق آپ کو آگاہ کیا، آپ نے اُن دونوں کے متعلق حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ ان سے جزیہ ختم کرو اور ان کی زمین سے خراج وصول کرو۔

(۲۱۹۵۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، فَقَالَ : عُمَرُ : ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُوَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ .

(۲۱۹۵۰) حضرت طارق سے مروی ہے کہ نہر ملک (بغداد) کا ایک کسان مسلمان ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اس کو زمین دے دو اور اس سے خراج وصول کرو۔

(۲۱۹۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَ أَسْلَمَتْ مِنْ نَهْرِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيْرَ وَهًا .

(۲۱۹۵۱) حضرت طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہر ملک کا ایک کسان مسلمان ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا: اس کو جزیہ اور خراج کے مابین اختیار دے دو۔

(۲۱۹۵۲) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ الرَّقِيلَ دَهْقَانَ النَّهْرِيِّنِ أَسْلَمَ ، فَقَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِيهِ الْفَيْنَ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُوَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ .

(۲۱۹۵۲) حضرت عامر سے مروی ہے کہ نہرین کا ایک کسان رقیل مسلمان ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے دو ہزار مقرر فرمایا اور اس سے جزیہ ختم فرمایا اور اس کو اس کی زمین دے دی اور اس سے خراج وصول فرمایا۔

(۲۱۹۵۳) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْوَةٌ فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قَرَأْتُ هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

(۲۱۹۵۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اہل عراق میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل عراق میں سے اگر وہ مسلمان ہو جو ہمارے ذمہ میں ہیں، تو اس کی زمین اور اس کا مال اسی کا ہوگا، اور وہ مسلمان ہو پر جو ہمارے ذمہ میں نہیں ہے جو زمین ہم نے جبراً (جہاد کر کے) فتح کی تھی تو تو وہ زمین مسلمانوں کے لئے ہوگی۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے مکتوب میں پڑھا تھا۔

(۲۱۹۵۴) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ .

(۲۱۹۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر اہل عراق میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے پھر اگر وہ اپنی زمین پر قائم رہے تو اس سے خراج وصول کیا جائے گا۔ اور اگر وہ اس زمین سے نکل جائے تو اس سے خراج نہیں وصول کیا جائے گا۔

(۱۹۰) فِي الْمَكَاتِبِ يَعِجُزُ وَقَدْ آدَى بَعْضَ مَكَاتِبَتِهِ

مکاتب کچھ بدل کتابت ادا کرنے کے بعد باقی سے عاجز آ جائے تو کیا حکم ہے؟

(۲۱۹۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مَكَاتِبًا لَهُ عَجِزَ قَرْدُهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ .

(۲۱۹۵۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا غلام بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا، تو آپ نے اس کو دوبارہ غلام بنا لیا اور جو اس سے وصول کیا تھا اس کو اپنے پاس روک لیا۔

(۲۱۹۵۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ .

(۲۱۹۵۶) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اُس سے وصول کیا ہے وہ آقا کے لئے ہوگا۔

(۲۱۹۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ .

(۲۱۹۵۷) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے مثل میں رکھیں گے۔

(۲۱۹۵۸) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مَكَاتِبِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي

الرِّقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ ، فَهُوَ لِمَوْلَاهُ .

(۲۱۹۵۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ جو مال لوگوں نے بدل کتابت کی ادائیگی میں مدد کے لئے عطا کیا تھا وہ

غلاموں کے لئے ہوگا اور جو مال اُس نے خود کمایا تھا وہ آقا کے لئے ہوگا۔

(۲۱۹۵۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ .

(۲۱۹۵۹) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے مثل میں رکھیں گے۔

(۲۱۹۶۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ لِمَوْلَاهُ

وَقَالَ سُفْيَانٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ .

(۲۱۹۶۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اُس کے آقا کے لئے ہوگا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اُس کے مثل (یعنی

مکاتب) کو دیں گے۔

(۱۹۱) فی المکاتبِ یسأل فیعطی

مکاتب بدل کتابت کے لئے سوال کرے تو اُس کو عطا کیا جائے گا

(۲۱۹۶۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثُرَوَانَ : أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى

ابْنِ النَّبَاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مَكَاتِبِهِ ، فَفَضَّلَتْ فَضْلَهُ ، فَجَعَلَهَا عَلَى فِي الْمَكَاتِبِينَ .

(۲۱۹۶۱) حضرت جعفر ابن ابی ثرؤان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابن النباح کی مالی مدد کی ترغیب دی۔ لوگوں

نے اس کے لئے اُس کے بدل کتابت سے زیادہ جمع کر دیا، بدل کتابت ادا کرنے کے بعد کچھ بیچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ دو

مکاتبوں کو دے کر اُن کا بدل کتابت ادا کروادیا۔

(۲۱۹۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَكَاتِبُ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ ، فَأُعْطِيَ عَطَاءً ،

فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ ، أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأَدْخَلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الْيَدَى سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

وَأَخَذَ الْفَضْلَ فَجَعَلَهُ فِي رَقَبَتِهِ ، أَوْ رِقَابٍ .

(۲۱۹۶۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مکاتب نے ایک یا دو لوگوں کی آزادی کے لیے سوال کیا، اُس کو عطا کیا گیا، جب وہ

حضرت ابو موسیٰؓ کی نظر میں کافی زیادہ ہو گیا، تو اُس کو بلایا، وہ جو اُس کو دیا گیا تھا وہ لے کر وہ حاضر ہوا، پھر آپ نے دیکھا، جتنے کے سوال کیا گیا تھا اُس کو عطا کیا اور جو باقی بچا وہ رکھ لیا اور اُس سے ایک یا کئی غلاموں کو آزاد کیا۔

(۲۱۹۶۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ صَبِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَتَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتِبِهِ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتِبَتَهُ، وَبَيَّعَتْ فَضْلَةً فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمَكَاتِبِينَ. حضرت صبیح سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے لوگوں کو مکاتب کا بدل کتابت ادا کرنے کے لئے ترغیب دی، لوگوں نے اُس کے لئے مال جمع کیا، اُس نے بدل کتابت ادا کیا اور کچھ مال بیچ گیا، تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے وہ مال دو مکاتبوں کو عطا کر دیا۔

(۱۹۲) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ قَمْرٌ عَلَى نَخْلِي

کسی سے باغ میں کام کروانے کے احکام

(۲۱۹۶۴) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنَّ يَعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا. حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر آدمی درخت (کھجور) میں کام کرے، اور ثلث یا ربع طے کرے، جب تک کہ وہ اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے۔

(۲۱۹۶۵) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(۲۱۹۶۵) حضرت حسنؓ اس کو ناپسند کرتے تھے جب تک کہ اجرت متعین اور معلوم نہ ہو۔

(۲۱۹۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْفَضِيلِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: فِي النَّخْلِ أَنْ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ.

(۲۱۹۶۶) حضرت سالمؓ درخت میں عمل کے متعلق فرماتے ہیں، جو اس میں عمل کرے اسی میں سے عطا کیا جائے گا۔

(۲۱۹۶۷) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ.

(۲۱۹۶۷) حضرت ابراہیمؓ ہر اُس معاملہ کو ناپسند کرتے تھے جس میں ثلث یا ربع عمل طے کیا جائے۔

(۲۱۹۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ.

(۲۱۹۶۸) حضرت زہریؓ فرماتے ہیں کہ اجیر ثلث یا ربع اجرت پر کوئی کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۹۶۹) حَدَّثَنَا عُقْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَادٍ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَقُولُ: لَكَ ثَلْثٌ أَوْ رُبْعٌ

مِمَّا يُخْرِجُ أَرْضِي هَذِهِ.

(۲۱۹۶۹) حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجیر (مزدور) اس طرح کام کرے کہ اُس کو کہا جائے کہ جو زمین سے پیداوار حاصل ہوگی اس کا ثلث یا ربع مجھے ملے گا یہ ناپسندیدہ (مکروہ) ہے۔

(۱۹۲) فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْحَائِكِ الثَّوْبَ

کپڑا بننے والے کو کپڑے میں سے اجرت دینا

(۲۱۹۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَاجِ الثَّوْبَ بِالثَّلْثِ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِالرُّبْعِ ، أَوْ بِمَا تَوَاصَى عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .

(۲۱۹۷۰) حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کپڑا بننے کی اجرت کے طور پر کپڑے کا ایک ثلث اور ایک درہم یا ایک ربع دے یا جس پر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو یہ کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

(۲۱۹۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَاجِ بِالثَّلْثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

(۲۱۹۷۱) حضرت شعبي، حضرت حکم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم ناپسند سمجھتے تھے کہ کپڑا بننے والے کو اجرت کے طور پر بنے ہوئے کپڑے میں سے ثلث کپڑا دیا جائے، راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۱۹۷۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالثَّلْثِ .

(۲۱۹۷۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کپڑا بننے والے کو ثلث کپڑا اجرت کے طور پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۹۷۳) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هَلَالٍ ، عَنْ قَنَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَاجِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ .

(۲۱۹۷۳) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ کپڑا بننے والے کو کپڑے کا ثلث یا ربع اجرت میں دیا جائے۔

(۲۱۹۷۴) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ إِلَى الْحَائِكِ ؟ قَالَ : شَرُطٌ بَغَيْرِ رَأْسٍ .

(۲۱۹۷۴) حضرت شہر بن حوشب سے دریافت کیا گیا کہ کپڑا بننے والے کو کپڑا دے کر ثلث یا ربع کپڑا اجرت ملے کر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ایسی شرط ہے جس کا کوئی سر نہیں ہے۔

(۲۱۹۷۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَبَّارِكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى الْحَائِكِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ .

(۲۱۹۷۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کپڑا بننے والے کو کپڑے میں سے ثلث یا ربع اجرت کے طور پر دینے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۹۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَاجِ بِالثَّلَاثِ وَالرُّبْعِ ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا .

(۲۱۹۷۶) حضرت ایوب رضی اللہ عنہ اور حضرت یعلیٰ بن حکیم سے دریافت کیا گیا کہ کپڑا بننے والے کو ثلث یا ربع کپڑا اجرت پر دینا کیسا ہے؟ آپ دونوں نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

(۱۹۴) فِي الرَّجُلِ يَضْطَرُّ إِلَى مَالِ الْمُسْلِمِ

اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے مال کو بغیر اجازت حاصل کرنے اور استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۲۱۹۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرُوا الرَّجُلَ يَضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ : يَأْكُلُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ : أَصَبْتُ ، إِنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إِذَا اضْطُرَّ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ .

(۲۱۹۷۷) حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ذکر چلا کہ اگر ایک آدمی مجبور ہو اور اس کے سامنے مردار اور مسلمان کا مال ہوں تو وہ کیا کھائے، میں نے کہا کہ مردار کھالے۔ حضرت عبد اللہ بن دینار نے فرمایا مسلمان کا مال کھالے، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ نے ٹھیک فرمایا جب آدمی مجبور ہو تو اس کے لئے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے لیکن مسلمان کا مال مجبوری میں بھی حلال نہیں ہوتا۔

(۲۱۹۷۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ ، فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ . (۲۱۹۷۸) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدمی مجبور ہو جائے حرام چیز کی طرف، تو جو اس پر حرام ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔

(۱۹۵) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ أَوْ يَعْتِقُهَا وَيَسْتَنْثِي مَا فِي بَطْنِهَا

کوئی شخص باندی کو فروخت یا آزاد اس طرح کرے کہ اس کے بطن میں جو بچہ ہے اس کو مستثنیٰ کر دے

(۲۱۹۷۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَنْثَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : نُبَاهُ فِيمَا قَدْ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقَهُ فَلَا نُبَاهُ لَهُ .

(۲۱۹۷۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حاملہ باندی کو فروخت کرے یا آزاد کر دے اور اس کے بطن میں جو

بچہ ہے اُس کو مستثنیٰ کر دے، آپ ﷺ نے فرمایا اگر بچے کی خلقت ظاہر ہوگئی تو استثناء ٹھیک ہے، اور اگر خلقت ظاہر نہ ہوئی تو استثناء ٹھیک نہیں۔

(۲۱۹۸۰) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : اَللّٰهُ كَانَ يُجِيزُ نُبْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْعِنُقِ .

(۲۱۹۸۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیع میں اگر استثناء کرے تو نافذ ہوگا، لیکن آزادی میں استثناء نافذ نہ ہوگا۔

(۲۱۹۸۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأُمَّةَ وَيَسْتَتِنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : نُبْيَاهُ .

(۲۱۹۸۱) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو اپنی باندی کو آزاد کرے اور اُس کے بطن کے بچے کا استثناء کر دے، آپ نے فرمایا اس کو استثناء کا حق ہے۔

(۲۱۹۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هُمَا حُرَّانِ .

(۲۱۹۸۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باندی اور اُس کا بچہ دونوں آزاد شمار ہوں گے۔

(۲۱۹۸۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : لَهُ نُبْيَاهُ .

(۲۱۹۸۳) حضرت عطاء، حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو استثناء کا حق ہے۔

(۲۱۹۸۴) حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عَمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأُمَّةَ وَيَسْتَتِنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَا : لَهُ ذَلِكَ .

(۲۱۹۸۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا کہ آدمی اگر باندی کو آزاد کرے اور اُس کے بطن میں جو بچہ ہے اُس کو مستثنیٰ کر دے؟ آپ دونوں نے فرمایا اس کو ایسا کرنے کا حق ہے۔

(۲۱۹۸۵) حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سَلِيمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَصَّالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأُمَّةَ وَيَسْتَتِنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : نُبْيَاهُ .

(۲۱۹۸۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آدمی اپنی باندی کو آزاد کرے اور اُس کے بطن میں جو بچہ اُس کو مستثنیٰ کر دے تو ایسا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کو استثناء کا حق ہے۔

(۱۹۶) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوْ الْغَلَامَ

کوئی شخص یا باندی خریدے

(۲۱۹۸۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ الذَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلًا مَا بَيْنَ الصَّحَّةِ وَالذَّاءِ ، وَيَجْعَلُ مَا أَخَذَ

فی مثله.

(۲۱۹۸۶) حضرت شعس بن یزید سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص غلام خرید کر اس کو آزاد کر دے پھر وہ غلام مجنون نکلے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بیماری معاملے سے پہلے کی تھی تو بائع مجنون غلام اور صحیح غلام کی قیمت میں سے جو فرق ہے وہ مشتری کو واپس کرے گا، اور جو اس نے لیا ہے اس کو اسی کے مثل میں رکھے گا۔

(۲۱۹۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ ذَاءٌ كَأَنَّ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا .

(۲۱۹۸۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہما اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو غلام خرید کر آزاد کر دے پھر اس کو پتہ لگے کہ اس میں بیماری ہے جو بائع کے پاس سے چلی آ رہی تھی، تو وہ غلام اس پر لینا واجب ہوگا اور بائع پر کچھ بھی واپس لانا واجب نہ ہوگا۔

(۲۱۹۸۸) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يُحْطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وَجِدَ بِهَا دَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

(۲۱۹۸۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہما عیب کی بقدر شن کم کرنے کے قائل تھے جبکہ اس کی موت کے بعد بیماری کا پتہ لگے۔

(۲۱۹۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا عَهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ .

(۲۱۹۸۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

(۱۹۷) مَنْ قَالَ الْقَرْضَ حَالًا

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفور ادا کرنا واجب ہے

(۲۱۹۹۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : الْقَرْضُ حَالًا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ .

(۲۱۹۹۰) حضرت حارث رضی اللہ عنہما اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفور ادا کرنا واجب ہے اگرچہ مدت (بعیدہ) کے لئے لیا ہو۔

(۱۹۸) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَتَلِدُ مِنْهُ

کسی شخص کی زوجیت میں باندی ہو پھر وہ اس سے بچہ جنم دے

(۲۱۹۹۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ، يَشْتَرِي بِهَا ، قَالَ : يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِدْ فِي مِلْكِهِ .

(۲۱۹۹۱) حضرت ابراہیم اور حضرت عامر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ آدمی باندی سے نکاح کرے پھر اُس سے اُس کا بچہ ہو جائے پھر وہ اُس کو خرید بھی لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں حضرات نے فرمایا: وہ اُس کو فروخت کر سکتا ہے جب تک اُس نے اُس کی ملکیت میں بچہ نہ بنا ہو۔

(۲۱۹۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَبِيعُهَا .

(۲۱۹۹۳) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ وہ اُس کو خرید (بیچ) سکتا ہے۔

(۲۱۹۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ أُمَّ وَالِدٍ .

(۲۱۹۹۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اُس کی ام ولد ہے۔

(۲۱۹۹۵) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمَّ الْوَالِدِ .

(۲۱۹۹۴) حضرت حماد فرماتے ہیں اُس کو نہ فروخت کرے وہ اُس کی ام ولد ہے۔

(۱۹۹) فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ مُضَارَبَةً

کوئی شخص کسی کو مضاربہ کوئی چیز دے

(۲۱۹۹۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، فَقَوْمَ الْمَتَاعِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِينَ ، قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ تِسْعِينَ .

(۲۱۹۹۵) حضرت حماد اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کو بطور مضاربہ کوئی سامان دے اور سامان کی قیمت ہزار درہم لگائے، پھر وہ اُس کو نو سو درہم میں فروخت کر دے، آپ نے فرمایا اس المال نو سو درہم ہوں گے۔

(۲۱۹۹۶) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً وَقَوْمَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ مَا قَوْمٌ بِهِ الْمَتَاعُ : وَكَيْسَ قِيمَتُهَا بِنَشِيءٍ .

(۲۱۹۹۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اُس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو بطور مضاربہ سامان دے اور وہ دونوں اُس کی قیمت لگائیں، آپ نے فرمایا جو سامان کی قیمت لگائی گئی ہے وہ اس المال شمار ہوگا، اور اُس کی اپنی قیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

(۲۱۹۹۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقَوْمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ فَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيَمَةِ .

(۲۱۹۹۷) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی دوسرے سامان کی قیمت لگائے اور پھر اُس قیمت پر اُس کو بطور مضاربہ دے دے۔

(۲۰۰) فی بیع ده دوازده

دس کی بیع بارہ کے ساتھ

(۲۱۹۹۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ دَهٍ دَوَاذِمًا ، وَقَالَ : بَيْعُ الْأَعْرَابِ .

(۲۱۹۹۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دس کی بارہ کے ساتھ بیع کو ناپسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ عجمیوں کی بیع ہے۔

(۲۱۹۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ دَهٍ دِيَاذِمًا وَدَهٍ دَوَاذِمًا ، قُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : قُلْ : أَخَذْتَهُ بَكْدًا ، وَأَبَيْعَهُ بَكْدًا وَكَدًّا .

(۲۱۹۹۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما دس کی گیارہ کے ساتھ اور دس کی بارہ کے ساتھ بیع کرنے کو ناپسند کرتے تھے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر میں کس طرح کروں؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تو کہہ: میں اس کو اتنے میں لیتا ہوں۔ اور اس کو اتنے اتنے میں فروخت کرتا ہوں۔

(۲۲۰۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَارِ الدَّهْنِيِّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍ : قَالَ : هُوَ رِبَاٌ .

(۲۲۰۰۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سود ہے۔

(۲۲۰۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمَسِيْبِ سَلَّ عَنْ بَيْعِ دَهٍ دَوَاذِمًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۲۰۰۱) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے بیع دہ دوازده (دس کی بارہ کے بدلے میں) کے متعلق سوال کیا گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۰۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَهُ بِأَسَاءٍ .

(۲۲۰۰۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو ناپسند کرتے تھے پھر ہم اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۲۰۰۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهٍ دَوَاذِمًا .

(۲۲۰۰۳) حضرت ابراہیم اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیع دہ دوازده میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۰۰۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ رِبَاٌ .

(۲۲۰۰۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سود ہے۔

(۲۲۰۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَارَ بَيْعَ دَهٍ دَوَاذِمًا .

(۲۲۰۰۵) حضرت جعد بن ذکوان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں قاضی شریح کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے اس بیع کو جائز قرار دیا۔

۲۲۰۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ دَهٍ دَوَاذِمَهُ ، قَالَ : يَقُولُ : اشْتَرَيْتَهُ بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبَاعَهُ بِكَذَا وَكَذَا .

(۲۲۰۶) حضرت مسروق! اس بیع کو ناپسند کرتے تھے، اور فرماتے کہ وہ یوں کہے: میں نے اتنے اتنے کا خریدا ہے اور اتنے کا فروخت کرتا ہوں۔

۲۲۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ حَرَامٌ .

(۲۲۰۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہما! اس کو ناپسند سمجھتے تھے اور حضرت عکرمہ فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔

۲۲۰۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ رِبَاٌ .

(۲۲۰۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما! فرماتے ہیں کہ یہ سود ہے۔

(۲۰۱) فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ام ولد کی بیع کرنا

۲۲۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أُمَّتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ مَنْهُ .

(ابن ماجہ ۲۵۱۵ - دارمی ۲۵۷۴)

(۲۲۰۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما! سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی باندی اُس سے بچہ جنم دے وہ اُس کے مرنے کے بعد آزاد ہے۔

۲۲۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ إِذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَرَيْتُ الْأُمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْتُ أَنَّ أُرِقَّهَا .

قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : رَأَى عُمَرَ وَعَلِيٌّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ فِي الْأَخْيَالَفِ .

(۲۲۱۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ام ولد کی بیع کے متعلق مشورہ طلب فرمایا۔ میری اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ جب ام ولد بچہ جنم دے تو وہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد کر دی جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اسی پر فیصلہ فرمایا: اور آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسی پر فیصلہ فرمایا، پھر جب ان کے بعد میں امیر المؤمنین بنا تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو باندی بنا دوں، حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن سیرین نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت

عبیدہ بن جریج سے عرض کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بنی شیبہ نے فرمایا علی بن ابی طالب نے اور اک اختلاف کے وقت جو قول اختیار کیا۔ اس سے زیادہ مجھے وہ رائے پسند ہے جو علی اور عمر کی مشترکہ رائے تھی صحابہ کے مشورہ میں۔

(۲۲۰۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا أَبَا بَرٍّ عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَ : تَرَكَنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَتَعْرِفَانِيهِ؟ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدْتُ مِنْهُ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ مُتَعَةٌ حَيَاتِهِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِءَ جَارِيَةً ، ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالصَّيغَةُ عَلَيْهِ .

(۲۲۰۱۱) حضرت نافع سے مروی ہے کہ اہل عراق میں سے دو اشخاص نے حضرت ابن عمر بنی شیبہ سے الأبواء مقام میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابن زبیر کو مکہ میں اس حال پر چھوڑا کہ وہ ام ولد کی بیع کر رہے تھے۔ حضرت ابن عمر بنی شیبہ نے ارشاد فرمایا لیکن کیا تم حضرت عمر بنی شیبہ کو جانتے ہو؟ آپ بنی شیبہ نے فرمایا تھا: جس کی باندی اُس سے حاملہ ہو کر بچہ جنم دے وہ اُس کے لئے اُس کی زندگی میں نفع کا سامان ہے اور اُس کے مرنے کے بعد وہ باندی آزاد ہے، اور جس شخص نے باندی سے ہمبستری کی اور بچہ ضائع کر دیا اور وہ بچہ اسی کا ہے اور بچہ ضائع کرنے کا وبال اُسی پر ہے۔

(۲۲۰۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَكَلِدٍ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَقْبَةَ يَبِيعُهَا ، فَاتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لَا بَدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوا مِنْهَا نَصِيبَ أَيْهَا .

(۲۲۰۱۲) حضرت زید بن وہب بنی شیبہ سے مروی ہے کہ حملہ میں ایک شخص فوت ہو گیا، اُس کی ایک ام ولد تھی، حضرت ولید بن عقبہ بنی شیبہ نے فرمایا اُس کو فروخت کر دو، ہم لوگ حضرت ابن مسعود بنی شیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بنی شیبہ سے دریافت کیا؟ آپ بنی شیبہ نے فرمایا: تم لوگ بے شک لازمی ایسا کرنا چاہتے ہو تو اُس باندی کو اُس کے بیٹے کے حصہ میں رکھ دو۔

(۲۲۰۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : بَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهِنَّ فِينَا ، حَتَّى رَدَّهِنَّ حَبَالَى مِنْ نُسْتَرٍ .

(۲۲۰۱۳) حضرت زید بن وہب بنی شیبہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بنی شیبہ نے ہماری ام اولاد کو فروخت کر دیا۔ پھر وہ ہمیں لٹا دی گئیں۔

(۲۲۰۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : آتَتْ عَلِيًّا أُمَّ وَكَلِدٍ فَقَالَ : إِنْ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ .

(۲۲۰۱۴) حضرت علی بنی شیبہ کے پاس ام ولد آئی، آپ بنی شیبہ نے فرمایا بے شک حضرت عمر بنی شیبہ نے ام ولد کو آزاد کیا تھا۔

(۲۲۰۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : فُتِيَ فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدَّ فِي عِقْطِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ

الَّذِي ذَاكَرَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ.

(۲۲۰۱۵) حضرت میمون بن مہران سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ عمر بن عبدالعزیز ام ولد کی بیچ کو جائز سمجھتے ہیں۔ پھر ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے اس بارے میں سوال کیا۔ تب معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز سوال کرنے والے آدمی سے بھی زیادہ سختی سے ام ولد کی آزادی کے قائل تھے اور نیز عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی یہی رائے تھی۔

(۲۲۰۱۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَيْكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لَا تَبَاعَ وَلَا تَوْهَبَ وَلَا تُورَثَ ، يَسْتَمْتَعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ .

(۲۲۰۱۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما ام ولد کی بیچ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے شاذ فرمایا کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کی بیچ نہ کی جائے، نہ اس کو ہبہ کیا جائے اور نہ ہی اس میں وارثت دہی ہوگی، اس کا آقا اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور اسکے مرنے کے بعد یہ آزاد ہے۔

(۲۲۰۱۸) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ : لَيْكِنَّ عُمَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ اعْتَفَاهُنَّ .

(۲۲۰۱۹) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ام ولد کی بیچ کا ذکر کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قوی بھی تھے اور امین بھی وہ ان کو آزاد کرتے تھے۔

(۲۲۰۲۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا وُلِدَتْ مِنْ سَيِّدَتِهَا .

(۲۲۰۲۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ام ولد کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جب وہ اپنے آقا سے بچہ جنم دے تو وہ آزاد ہے۔

(۲۲۰۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ وُلْدِهَا .

(۲۲۰۲۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ام ولد کو میراث میں بیٹے کے حصہ میں رکھا۔

(۲۰۲) إِذَا فَجَّرَتْ يَرْقُهَا أَمْ لَا ؟

ام ولد اگر فحش کام کرے تو کیا وہ دوبارہ غلامی میں آجائے گی یا نہیں؟

(۲۲۰۲۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا آتَتْ أُمَّ وُلْدٍ بِفَاحِشَةٍ لَا يَرْقُهَا ذَلِكَ ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا ، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ .

(۲۲۰۲۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ام ولد کوئی شخص کام کرے تو وہ دوبارہ غلامی میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنی حالت برقرار رہے گی۔ جب اُس کا آقا فوت ہوگا تو وہ آزاد شمار ہوگی۔

(۲۲۰۲۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا يَرِيَانِ أَنْ تَبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ بَعَثَ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تَبَاعَ .

(۲۲۰۲۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ام ولد کی بیع کو درست نہ سمجھتے تھے اگرچہ وہ کوئی شخص کام کرے، اور حضرت ابی سیرین اُس کی بیع کے قائل تھے۔

(۲۲۰۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُمَّ الْوَلَدِ هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِنْ بَعَثَ .

(۲۲۰۲۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا تھا کہ ام ولد اگرچہ کوئی شخص کام کرے وہ آزاد ہے۔

(۲۲۰۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُرْفَقُهَا الْحَدِيثُ .

(۲۲۰۲۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیا کام (حادثہ) ام ولد کو دوبارہ غلامی میں نہیں لائے گا۔

(۲۲۰۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هَالِلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا تَبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ فَجَّرَتْ فَحَجَرَتْ .

(۲۲۰۲۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگرچہ ام ولد کوئی شخص کام کرے پھر بھی اُس کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔

(۲۲۰۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَّرَتْ أَبِيهَا ؟ قَالَ : لَا ، فُجِّرُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَهِيَ أَمْرَأَةٌ حُرَّةٌ .

(۲۲۰۲۵) حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر ام ولد کوئی شخص کام کرے تو میں اُس کو فروخت کر سکتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اُس کا غلط کام اُس کے نفس پر ہے (وہ بال اُسی پر ہے) وہ آزاد ہے۔

(۲۲۰۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أَحْصَنَتْ وَأَسْلَمَتْ وَعَفَتْ عَنَّقَتْ ، وَإِنْ هِيَ فَجَّرَتْ وَكَفَّرَتْ وَزَنَتْ رَفَعَتْ .

(۲۲۰۲۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام ولد کے متعلق ارشاد فرمایا: اگر وہ پاکدامن اور مسلمان رہے تو وہ آزاد ہے، اور اگر اُس نے غلامی کیا ہے؟ کافر ہوگئی اور زنا کروایا تو وہ دوبارہ غلامی میں آجائے گی۔

(۲۰۳) فِي الْعَبْدِ يَدُسُّ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالِ فَيَشْتَرِيهِ

اس غلام کے بارے میں جو کسی شخص کو چوری چوری مال دے دے تاکہ وہ اس غلام کو خریدے

(۲۲۰۲۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ ؟ قَالَ

ظَهَرَ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَقَهُ فَلَهُ مَا أُحْذَ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أُعْتَقَهُ الَّذِي أُحْذَهُ ، أُحْذَ مِنَ الْبَدِي اشْتَرَاهُ سِوَى مَا قَدْ أُحْذَ فَأَعْتَقَ .

(۲۲۰۲۷) ابراہیم رضی اللہ عنہ سے اس غلام کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی دوسرے کو چوری چوری درابم دے تاکہ وہ اس کو خرید کر آزاد کر سکے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آقا غلام پر دوسرے آدمی کے آزاد کرنے سے قبل ہی قبضہ کر لے تو وہ غلام بھی لے لے گا اور اس کے ثمن بھی لے گا۔ اور اگر دوسرے آدمی کے آزاد کر دینے کے بعد قبضہ کیا ہے تو آزاد کر دینے کے بعد جتنی رقم پہنچتی ہے وہ مشتری سے معق (لے گا۔

(۲۲۰۲۸) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَأْخُذُ ثَمَنَهُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَيَصِيرُ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي أُعْتَقَهُ .

(۲۲۰۲۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا ثمن پھر وصول کرے گا اور غلام کی دلاء اس کو ملے گی جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔

(۲۲۰۲۹) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَسْرَاءُ لَهُ ، وَلَا عِتْقُ لَهُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ .

(۲۲۰۲۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ اس کا خریدنا معتبر ہے نہ اس کا آزاد کرنا، جو شخص ایسا کام کرے وہ فاسق ہے۔

(۲۲۰۳۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَأَشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَوْ أَخَذْتَهُ لَعَاقَبْتَهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً .

(۲۲۰۳۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے کا مال چھپا کر اس سے غلام خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اس شخص کو پکڑ لوں تو اس کو اس کام پر سخت سزا دوں۔

(۲۲۰۳۱) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي عَبْدٍ آتَى رَجُلًا فَأَعْطَاهُ مَالًا ، وَقَالَ : اشْتَرِنِي ، فَأَشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدُ .

(۲۲۰۳۱) حضرت حکم اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ غلام ایک شخص کے پاس آیا اور اس کو مال دیا اور کہا کہ مجھے خرید لے۔ اس شخص نے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر بعد میں وہ اس پر مطلع ہوا، آپ نے فرمایا بیع تو جائز ہے، اور وہ ثمن لے لیے جائیں گے جن کے بدلہ میں غلام خرید گیا تھا۔

(۲۲۰۳۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ : فِي عَبْدٍ أُعْطِيَ رَجُلًا مَالًا فَأَشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالُوا : لَا يَجُوزُ .

(۲۲۰۳۲) حضرت عامر، حضرت سالم، حضرت قاسم اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر غلام کسی شخص کو مال دے اور وہ شخص مال سے غلام کو خرید کر آزاد کر دے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

(۲۲۰۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ .

(۲۲۰۳۳) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور جو ایسا کرے اُس کو سزا دی جائے گی۔

(۲۲۰۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ فَاسِقٌ.

(۲۲۰۳۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرے وہ فاسق ہے۔

(۲۰۴) مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

شراب کی بیع کا بیان

(۲۲۰۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ فُلَانًا

يَبِيعُ الْخَمْرَ فَقَالَ: مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ، أَلَمْ يَعْلَمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ،

حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَجَمَلُوهَا، وَفَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَمْثَالَهَا. (بخاری ۲۲۲۳۔ مسلم ۱۲۰۷)

(۲۲۰۳۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خبر ملی کہ فلاں شخص شراب بیچتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا

ہو گیا اُس کو اللہ اُس کو ہلاک کرے۔ کیا اُس کو نہیں معلوم کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اُن پر چرچہ

حرام کی گئی، انہوں نے اس کو پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا اور اُس کے ثمن کو کھالیا۔

(۲۲۰۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لَيْتِمٍ لَنَا،

فَلَمَّا نَزَلَتِ آيَةُ النَّبِيِّ فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَهْرِيْقُوهُ.

(۲۲۰۳۶) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک یتیم بچہ کی شراب تھی۔ جب سورۃ المائدہ میں شراب کی حرمت

نازل ہوئی تو ہم نے حضور اقدس ﷺ سے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اُس کو گرادو۔

(۲۲۰۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبِّ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَاطَلَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَ

فِي الْخَمْرِ. (بخاری ۲۰۸۳۔ مسلم ۶۹)

(۲۲۰۳۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضور اقدس ﷺ منبر پر تشریف

ہوئے اور لوگوں کو آیات پڑھ کر سنائیں پھر شراب کی تجارت کو حرام قرار دے دیا۔

(۲۲۰۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ. (مسلم ۱۲۰۶۔ احمد ۶/۳۶)

(۲۲۰۳۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی کے مثل قول منقول ہے۔

(۲۲۰۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَوَكِيْعٌ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ بِيَانٍ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغْبِرِ

بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيَشْقِصِ الْخَنَازِيرَ.

(احمد ۴/ ۲۵۳۔ دارمی ۲۱۰۲)

(۲۲۰۳۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شراب کی بیع کرے وہ ایسا ہے گویا کہ اُس نے خنزیر کو ذبح کیا (کھانے کے لئے)۔

(۲۲.۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَدْنَى فِي بَيْعِ الْخَمْرِ، وَإِنَّ التَّجَارَةَ لَا تَصْلُحُ فِيمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ.

(۲۲۰۴۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ پہلا شخص ہے جس نے شراب کی بیع کی اجازت دی، جس چیز کا کھانا اور پینا حلال نہیں اُس کی تجارت بھی ٹھیک نہیں۔

(۲۲.۴۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ مِنبَرِ حُدَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، أَلَا إِنَّ بَايِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ، أَلَا وَمُقْتَنَى الْخَنَازِيرِ وَآكِلُهَا فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ.

(۲۲۰۴۱) حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا آپ اُس وقت مدائن میں تھے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا: اما بعد: لوگو! سن لو شراب کی تجارت کرنے والا اور شراب پینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اور خیر دار خنزیر کو پالنے والا اور اُس کا گوشت کھانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

(۲۲.۴۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: اكْسِرُوا كُلَّ آيَةٍ لَهُ، وَسَيِّرُوا كُلَّ مَا شِئْتُمْ لَهُ.

(۲۲۰۴۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص شراب کی تجارت سے مال دار ہوا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے تمام منگے توڑ دو اور شراب کے تمام جانوروں کو نکال دو۔

(۲۲.۴۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْرٌ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ، وَلَا شُرْبُهَا.

(۲۲۰۴۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کی بیع اور اُس کا پینا درست نہیں ہے۔

(۲۲.۴۴) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا حَرَّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْبِئْنَا فَنَنْتَفِعُ بِأَثْمَانِهَا، قَالَ: أَهْرِي قَوْلَهَا.

(۲۲۰۴۴) حضرت بکر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو ہم لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم اُس کو فروخت کر کے اُس کے ثمن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ساری شراب اٹھیل دو۔

(۲۲۰۶۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمَا ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهِ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبَاعِعِهَا ، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا ، وَآكِلِ لَحْمِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا . (ابوداؤد ۳۶۲۲ - أحمد ۲۵)

(۲۲۰۳۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شراب دس قسم کے آدمیوں پر ذریعہ لعنت ہے، شراب کے عین پر، اُس کے نچوڑنے والے پر، اُس کے فروخت کرنے والے پر، خریدنے والے پر، اُس کے اٹھانے والے پر، جس کے لئے اٹھایا جائے اُس پر، اُس کا ٹھن کھانے والے پر، اُس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر۔

(۲۲۰۶۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلَا شُرْبُهَا .

(۲۲۰۳۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کی بیع اور اُس کا پینا درست نہیں ہے۔

(۲۲۰۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ .

(۲۲۰۳۷) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن شراب کی بیع اور بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔

(۲۲۰۶۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جَهْمٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، قَالَ : وَرِثْتُ عَرَسًا ، قَالَ : بَعُهُ عِنَبًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَبِعُهُ عَصِيرًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَلَا تَبِعِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ .

(۲۲۰۳۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ مجھے وراثت میں انگور کی تیل ملی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اُس کے انگور فروخت کرو، اُس نے عرض کیا کہ اگر انگور کا خریدار نہ ملے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اُس کا شیرا بنا کر فروخت کر دے، اُس نے عرض کیا کہ اگر اُس کا بھی خریدار نہ ملے؟ آپ نے فرمایا پھر شراب بنا کر فروخت مت کرنا کیونکہ شراب کی بیع جائز نہیں ہے۔

(۲۰۵) فِي اللَّقْطَةِ مَا يَصْنَعُ بِهَا؟

پڑی ہوئی کوئی چیز ملے تو اُس کا کیا کرے؟

(۲۲۰۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : وَجَدْتُ عَشْرَةَ دَنَابِيرٍ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : عَرَفْتَهَا عَلَى الْحَجْرِ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرِفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ

صَاحِبِهَا فَخَيْرُهُ الْأَجْرُ ، أَوْ الْغَرْمُ .

(۲۲۰۴۹) حضرت رفیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیس دینار ملے، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اونچی جگہ اس کا ایک سال تک اعلان کرو، اگر کوئی نہ ملے تو صدقہ کر دو پھر اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو اختیار ہے۔ چاہے صدقہ کا اجر لے یا نقصان اپنالے۔

(۲۲۰۵۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا ، فَعَاقَبَ صَاحِبَهَا ، فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا ، أَوْ قَالَ : سَنَةً ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ قُلِّهِ ، فَإِنْ أَبِي فَعَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا أَفْعَلُوا بِاللُّقْطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ .

(۲۲۰۵۰) حضرت ابو وائل سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سات سو راہم میں باندی خریدی، باندی کا مالک غائب ہو گیا تو آپ نے ایک سال تک اس کی تشہیر کی پھر مسجد میں آئے اور وہ صدقہ کر دیئے اور فرمایا: اے اللہ! یہ اس کے لئے ہیں، اگر وہ انکار کر دے تو پھر میرے لئے ہیں۔ پھر فرمایا: گم شدہ اور ملی ہوئی شے کے ساتھ بھی اسی طرح کرو۔

(۲۲۰۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مَزِينَةَ يُسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةَ مِنَ اللَّقْطَةِ ؟ فَقَالَ : عَرَفَهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ . (ابو داؤد ۱۷۰۷ - احمد ۱۸۰)

(۲۲۰۵۱) حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے مزینہ کے ایک شخص کو حضور اقدس ﷺ سے سوال کرتے سنا کہ: جو پڑی ہوئی چیز ہمیں آباد (جہاں لوگوں کی آمد و رفت کثرت سے ہو) راستے میں ملے اس کا کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ایک سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس کا مالک مل جائے تو اچھا ہے اگر نہ ملے تو پھر وہ تیرے لئے ہے۔

(۲۲۰۵۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : التَّقَطْتُ دِينَارًا فَقَالَ : لَا يُؤْوَى الضَّالَّةُ إِلَّا ضَالًّا ، قَالَ : فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيُرْمِيَ بِهِ فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَعْرِفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ .

(۲۲۰۵۲) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے ایک دینار ملا ہے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ گم شدہ چیز کو گمراہ آدمی ہی ٹھکانہ دیتا ہے۔ وہ شخص اس کو مارنے کے لئے آگے بڑھا تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا ایسا مت کرو، اس نے دریافت کیا کہ پھر اس دینار کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کی تشہیر کرو، اگر مالک مل جائے تو اس کو لٹا دو، وگرنہ اس کی طرف سے صدقہ کر دو۔

(۲۲۰۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَمْرٍو ، عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ : ادْفَعَهَا إِلَى الْأَمِيرِ .

(۲۲۰۵۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے لفظ (گری پڑی ہوئی چیز) کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا امیر وقت کے حوالہ کر دو۔

(۲۲۰۵۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ ، قَالَ : التَّقَطُّ ثَلَاثٌ مِنْهُ دِرْهَمٌ فَعَرَفْتَهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ فَأَكْتَنَهَا حِينَ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَيْسَرْتُ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا فَقَالَ : عَرَفْتُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا وَإِلَّا فَخَيْرُهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تُغْرَمَهَا لَهُ .

(۲۲۰۵۳) حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی رُوَاس میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے تین سو درہم ملے، میں نے ان کی تموڑی سی تشبیہ کروائی میں ان دنوں خود محتاج تھا۔ تشبیہ کے بعد جب میں نے کسی کو نہ پایا تو میں نے وہ کھالیے، پھر بعد میں صاحب استطاعت ہو گیا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک سال تک ان کی تشبیہ کرو، اگر مالک آجائے تو اس کے حوالے کر دو، وگرنہ اس کی طرف سے صدقہ کر دو، اور اس کو اختیار ہے کہ اس کا اجر (صدقہ) لے لے یا تو اس کا نقصان پورا کر دے۔

(۲۲۰۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : عَرَفْتُهَا .

(۲۲۰۵۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

(۲۲۰۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرٍاءَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ أَنْ تُعْرَفَ اللَّقْطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا بِتَصَدَّقَ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيْرٌ .

(۲۲۰۵۶) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے لفظ (تقط) کے متعلق حکم فرماتے تھے کہ ایک سال تک اس کی تشبیہ کرو، اگر مالک آجائے تو ٹھیک وگرنہ اس کی طرف سے صدقہ کر دو، اگر پھر اس کا مالک آجائے تو اختیار ہے۔

(۲۲۰۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نُوفَلٍ بْنِ أَبِي عَقْرِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : التَّقَطُّ بَدْرَةٌ فَاتَيْتُ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعْنِيهَا عَنِّي ، فَقَالَ : وَافٍ بِهَا الْمُؤَيِّمُ فَوَافَيْتُ بِهَا الْمُؤَيِّمَ فَقَالَ : عَرَفْتُهَا حَوْلًا ، فَعَرَفْتُهَا ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَاتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ فَأَعْنِيهَا عَنِّي فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ سَبِيلِهَا ؟ تَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ الْمَالَ عَرِمْتَ لَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَكَ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَلَكَ مَا نَوَيْتَ .

(۲۲۰۵۷) حضرت ابو عرقب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے بیسوں کی ایک تھیلی ملی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ میری طرف سے ان کی حفاظت کرنے کے لئے نایب بن جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایام حج میں اعلان کرنا، میں نے ایام حج میں اعلان کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک سال تک تشبیہ کرو۔ میں نے تشبیہ کی لیکن مالک کو نہ پایا،

میں پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ میری طرف سے حفاظت کے لئے ناسب بن جائیں، آپ ﷺ نے فرمایا کیا تجھے ایک بہتر راستہ بتلاؤں، ان کو صدقہ کر دے، اگر پھر مالک آجائے اور مال مانگے تو نقصان کا ذمہ دار ہے، اور صدقہ کا اجر تجھے ملے گا، اور اگر وہ اجر کا طالب ہو تو اجراُس کو ملے گا اور تجھے وہی ملے گا جس کی تونیت کرے گا۔

(۲۳۰۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَعَرَّفْتُ اللَّفْقَةَ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَرَاءً ، وَقُلْ لَهُمْ : هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ جَاءَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ فَهِيَ صَدَقَةٌ عَلَيْكُمْ مِنْهُ .

(۲۳۰۵۸) حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ لفقہ کی ایک سال تشبیر کی جائے گی، اگر اُس کا مالک نہ ملے تو فقراء اہل بیت کو دے دے اور ان کو یہ کہہ دے کہ یہ تم پر اس کے مالک کی طرف سے قرض ہے اگر تو مالک آگیا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اگر وہ نہ آیا اُس کی طرف سے تم پر صدقہ ہے۔

(۲۳۰۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَذِيبِ انْقَطَعَتْ سَوْطًا ، فَقَالَ لِي : أَلْقِيهِ ، فَأَبَيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُمَّيْ بِنَ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : انْقَطَعَتْ مِنْهُ دِينَارٌ عَلَيَّ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : عَرَفْتُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّفْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عَدَدَهَا وَرِوَعَانَهَا وَرِوَعَانَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ كَسَبِيلِ مَالِكَ . (بخاری ۲۳۲۶ - مسلم ۱۰)

(۲۳۰۵۹) حضرت سويد بن غفله سے مروی ہے کہ میں، زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ سفر پر نکلے یہاں تک کہ مقام عذیب پر جب پہنچے تو میں نے ایک کوڑا اگرا ہوا اٹھالیا، اُن دونوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو پھینک دو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جب میں مدینہ آیا تو میں حضرت ابی بن کعبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اُس کے متعلق سوال کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں سودینار ملے تھے میں نے اُن کو ذکر جب حضور اقدس ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک سال تک اس کی تشبیر کرو، اگر مالک آجائے تو اُس کے حوالہ کر دو ورنہ ان دیناروں کی تعداد اور تھیلی، برتن وغیرہ کی اچھی طرح پہچان کر لو۔ پھر تو اس رقم کے مالک کے راستہ کی مانند ہے (یعنی پہلے وہ اس رقم کو راستہ سے اٹھالیتا لیکن اب وہ تیرے سے لے گا)۔

(۲۳۰۶۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ، عَنِ اللَّفْقَةِ فَقَالَ : عَرَفْتُهَا سَنَةً وَأَنْشُدُ ذِكْرَهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيْرُهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَاللَّفْقَةِ .

(۲۳۰۶۰) حضرت سعید بن مسیبؒ سے لفقہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایک سال تک تشبیر کرو، اور خوب

اُس کی مشہوری کرو، اگر مالک آجائے تو اُس کے حوالہ کر دو، وگرنہ اُس کے لئے صدقہ کر دو، پھر صدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو اُس کو اختیار ہے، صدقہ کا ثواب لے یا گم شدہ چیز۔

(۲۲۰۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّقْطَةِ: عَرَفَهَا، لَا أَمْرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا.

(۲۲۰۶۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما لفظ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُس کی تشہیر کرو، میں آپ کو کھانے کا مشورہ نہیں دوں گا، اگر آپ چاہو تو اُس کو مت اٹھاؤ۔

(۲۲۰۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَا عَدْلٍ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يَغْيِرْ وَلَا يَكْتُمُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. (ابوداؤد ۱۷۰۶۱-۱۷۰۶۲- احمد ۱۶۱/۳)

(۲۲۰۶۲) حضرت عیاض بن حمار سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کو لفظ ملے اُس کو چاہیے کہ اُس پر دو گواہ بنا لے، پھر نہ اُس کو تبدیل کرے نہ ہی چھپائے، اگر اُس کا مالک آجائے تو وہ زیادہ حق دار ہے، اور اگر مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال (نعت) ہے جس کو چاہے وہ عطاء کرے۔

(۲۰۶) مَا رَخِصَ فِيهِ مِنَ اللَّقْطَةِ

لقطہ میں جو رخصت دی گئی ہے

(۲۲۰۶۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبِغِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ: عَرَفَهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا. (بخاری ۹۱- مسلم ۱۳۳۶)

(۲۲۰۶۳) حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے لفظ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک سال تک اُس کی تشہیر کرو اگر مالک آجائے تو ٹھیک وگرنہ خود خرچ کر لو۔

(۲۲۰۶۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُرُوحِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا؟ فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ، قَالَ: وَالْحِذَاءُ؟ قَالَتْ: وَالْوِعَاءُ، قَالَ: وَالْحِذَاءُ؟ قَالَتْ: لَا أَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللَّقْطَةُ.

(۲۲۰۶۴) حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ایک شخص کو کوڑا ملتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس میں، اُس تک ایک مسلمان کا ہاتھ پہنچا ہے۔ اُس نے دریافت کیا کہ جو تاملتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جوتی بھی

(استعمال کرے)۔ اُس نے دریافت کیا برتن؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال نہیں کیا جائے گا۔ برتن میں لفظ کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

(۲۲۰۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا .

(۲۲۰۶۵) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو ایک کھجور ملی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر یہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا۔

(۲۲۰۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا .

(۲۲۰۶۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کھجور ملی انہوں نے اُس کو تناول فرمایا۔

(۲۲۰۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللَّقْطَةِ فِي السَّيْرِ ، وَالْعَصَا ، وَالسُّوْطِ .

(۲۲۰۶۷) حضرت سفیان، منصور اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم، کھجور، عصا اور کوڑے کے لفظ کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے تھے۔

(۲۲۰۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ ، وَالْعِصَى ، وَالسُّوْطِ .

(۲۲۰۶۸) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ میں یہ چیزیں ملیں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۰۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللَّقْطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ .

(۲۲۰۶۹) حضرت بشیر پانچ درہم سے کم قیمت کے لفظ کے استعمال کی اجازت دیتے تھے۔

(۲۲۰۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا .

(۲۲۰۷۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محتاج ہو تو اُس کو کھالے (استعمال کر لے)۔

(۲۲۰۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي اللَّقْطَةِ فِي دَرَاهِمٍ .

(۲۲۰۷۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک درہم کے لفظ کی اجازت دیتی تھی۔

(۲۲۰۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمُكْتَبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ

إِلَيْهَا لَا كَلْتَهَا.

(۲۲۰۷۲) حضرت ابو زین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لقطہ ملے اور میں محتاج ہوتا تو میں اُس کو کھالیتا۔

(۲۲۰۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا وَقَالَتْ : لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ .

(۲۲۰۷۳) حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا کو ایک کھجور ملی تو آپ رضی اللہ عنہما نے وہ تناول فرمائی اور فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔

(۲۲۰۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسْعَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمَّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاولَهَا مَسْكِينًا .

(۲۲۰۷۴) حضرت مسعر ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا آپ کو ایک کھجور ملی آپ اُس کو صاف کیا اور مسکین کو کھلا دیا۔

(۲۲۰۷۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَيْسِرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ : أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي اللَّقْطَةِ ؟ قَالَ : وَمَا اللَّقْطَةُ ؟ قَالَ : الْحَبْلُ وَالرِّزْمَامُ وَنَحْوُ هَذَا ، قَالَ : تَعْرِفُهُ ، فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ .

(۲۲۰۷۵) حضرت ميسره بن عميره کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ لقطہ کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کون سا لقطہ مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ڈوری اور لگام وغیرہ، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک سال تک اُس کی تشبیر کرو، اگر مالک مل جائے تو اُس کو لٹا دو، وگرنہ اس کو استعمال کر لو۔

(۲۲۰۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَ مُحتَاجًا إِلَيْهَا يَأْكُلُهَا .

(۲۲۰۷۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ محتاج ہو تو خود استعمال کر لے گا۔

(۲۲۰۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاؤُهَا ، دَعُوهَا ، إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : عَرَفْتُهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذَّنْبِ .

(۲۲۰۷۷) حضرت سالم بن عبد اللہ سے گم شدہ اونٹ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ سم اور مشک موجود ہیں (یعنی پانی کی بھی احتیاجی نہیں اور اپنے سموں سے وہ دور تک کا سفر بھی کر سکتی ہے)۔ لہذا تو اس کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر اس کے

مالک کا علم ہو تو اس کو دے دے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے گم شدہ بکری کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس کی تشبیر کرو۔ اگر مالک آجائے تو بہتر ہے وگرنہ یا تو وہ تیرے لئے ہے یا تیرے کسی بھائی کے لئے یا پھر بھڑیے کے لئے ہے۔

(۲۲۰۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذَّنْبِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَا تَرِيدُ بِهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِدَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الْمَرْعَى وَتَرُدُّ الْمَاءَ .

(۲۲۰۷۸) حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس ﷺ سے گم شدہ بکری کے متعلق سوال کیا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یا وہ تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے یا پھر بھیڑیے کے لئے ہے۔

اُس نے گم شدہ اونٹ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا تو اس سے کیا چاہتا ہے۔ اُس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور نعل موجود ہے۔ چراگاہ سے کھائے گا اور پانی پر جائے گا۔

(۲۲۰۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ : كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَاتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً ، فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ: عَرِّفِي وَاحِلِي وَاعْرِفِي ، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَسْأَلِينِي أَنْ أَمْرَكَ أَنْ تَذْبَحِيهَا ، أَوْ تَبِيعِيهَا ، فَلَيْسَ لِكَ ذَلِكَ .

(۲۲۰۷۹) حضرت العالیہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی کہ ایک خاتون آئی اور عرض کی اے ام المؤمنین! مجھے ایک گم شدہ بکری ملی ہے، آپ رضی اللہ عنہا کیا حکم دیتی ہیں میں اُس کا کیا کروں؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اُس کی تشہیر کرو، اُس کا دودھ نکالو اور اُس کو چارہ کھلاؤ، پھر وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور سوال کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا: تو مجھ سے اس امید پر سوال کر رہی ہے کہ میں تجھے ذبح یا فروخت کرنے کا حکم دوں گی؟ یہ تیرے لئے جائز نہیں ہے۔

(۲۲۰۸۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَلْمَى ، وَلَا أَرَاهَا إِلَّا ابْنَةَ كَعْبٍ ، قَالَتْ: وَوَجَدْتُ خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: تَمَتَّعِي بِهِ .

(۲۲۰۸۰) حضرت بنت کعب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ کے راستہ میں ایک انگٹھی ملی، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اُس سے فائدہ اٹھاؤ۔

(۲۲۰۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةٌ وَوَجَدْتُهَا؟ فَقَالَ: أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَأَنْشُدْ ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا؟ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو: مَا أَرَى عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ .

(۲۲۰۸۱) حضرت زید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے گم شدہ جانور ملا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہم نے فرمایا اس کی اصلاح کر کے اُس کو نفع بخش بناؤ، اور اُس کی تشہیر کرو، اُس نے دریافت کیا کہ اگر میں اس کا دودھ استعمال کروں تو مجھ پر رمضان ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا میرے خیال میں تجھ پر کچھ نہیں ہے۔

(۲۲۰۸۲) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْمَسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ وَالْعِصَى وَالنَّعْلَيْنِ .

(۲۲۰۸۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مسافر کو اجازت دی گئی جبکہ اس کو کوڑا، عصا اور جوتے اگر ملیں تو استعمال کر لے۔

(۲۲.۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يُحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَاتَيْتُ بِهَا عُمَرَ فَقَالَ : عَرَفْتُهَا سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ ؟ قَالَ : فَاسْتَمْتَعُ بِهَا .

(۲۲۰۸۳) حضرت بدر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتنی دینار ملے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک سال تک تشبیر کرو، میں نے عرض کیا اگر پھر بھی مالک نہ ملے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر نفع اٹھا لو۔

(۲۰۷) من كره أخذ اللقطة

جو حضرات لقطہ اٹھانے کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۲.۸۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَرَفَعُهَا مِنَ الْأَرْضِ ، فَلَسْتُ مِنْهَا فِي شَيْءٍ .
(۲۲۰۸۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے کوئی چیز مت اٹھاؤ کیوں کہ اس میں تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
(۲۲.۸۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهَرٌ ، فَلَمْ يَعْزِمَا لَهَا .

(۲۲۰۸۵) حضرت مجاہد اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ان دونوں نے ایک برتن پایا جس میں جواہرات تھے۔ ان دونوں حضرات نے اُس کی طرف توجہ نہ دی۔

(۲۲.۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرَيْيَةَ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ : أَنَّهُ كَرِهَ اخْتِذَاقَ اللَّقْطَةِ .
(۲۲۰۸۶) حضرت ربیع رضی اللہ عنہ لقطہ اٹھانے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲.۸۷) حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عَمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الدَّهَّانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللَّقْطَةِ أَخَذَهَا مِنَ الطَّرِيقِ ، فَكَفَرَهَا .

(۲۲۰۸۷) حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے لقطہ کے متعلق دریافت کیا گیا کہ راستہ سے اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا۔
(۲۲.۸۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ شَكَ مَنْصُورٌ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالذَّنَابِرِ فَلَا يَعْزِمُ لَهَا .

(۲۲۰۸۸) حضرت شریح رضی اللہ عنہ راہ چلتے ہوئے دینار کے قریب سے گزرے لیکن اُس کی توجہ ہی نہ فرمائی۔

(۲۲.۸۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا فَدَاسَهُ بِرِجْلِهِ حَتَّى آتَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الْإِمَامِ فَتَرَكَهُ .

(۲۲۰۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دینار دیکھا تو اُس کو اپنے پاؤں سے لڑھکا دیا یہاں تک کہ وہ امام کے مکان کے قریب آ گیا تو پھر آپ نے اُس کو وہیں چھوڑ دیا۔

(۲۲۰۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: تَرَكْتُ اللَّقْطَةَ خَيْرٌ، أَوْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: لَا، بَلْ تَرَكُهَا.

(۲۲۰۹۰) حضرت عطاء بن ابی رباح سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ لفظ کا اٹھانا بہتر ہے یا چھوڑ دینا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھوڑ دینا بہتر ہے۔

(۲۲۰۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: وَجَدْتُ لَقْطَةً، قَالَ: وَلِمَ أَخَذْتَهَا؟

(۲۲۰۹۱) حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ مجھے لفظ ملا ہے، آپ نے فرمایا اُس کو کیوں اٹھایا ہے؟

(۲۲۰۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: وَجَدْتُ دِينَارًا فَأَخَذْتَهُ، قَالَ: أَلَا ضَاعَ مَكَانَهُ، قَالَ: قَدْ ضَمِنْتَهُ.

(۲۲۰۹۲) حضرت طاووس سے ایک شخص نے دریافت کیا مجھے ایک دینار ملا ہے کیا میں اُس کو دوبارہ اسی جگہ رکھ دوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اُس کا ضامن بن چکا ہے۔

(۲۲۰۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الصَّحَّاحِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ أَبِي جَبْرِ، قَالَ: الضَّالَّةُ لَا يَأْخُذُهَا، أَوْ لَا يُؤْوِيهَا إِلَّا ضَالًّا. (ابوداؤد ۱۷۱۷-احمد ۳/۳۶۲)

(۲۲۰۹۳) حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گم شدہ چیز کو گمراہ ہی اٹھاتے ہیں۔

(۲۲۰۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً، فَهُوَ ضَالٌّ.

(۲۲۰۹۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبہ سے نیک لگائے بیٹھے تھے آپ نے فرمایا جو گم شدہ چیز اٹھائے وہ گمراہ ہے۔

(۲۲۰۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا يَضُمُّ الضَّالَّةُ إِلَّا ضَالًّا.

وَقَالَ عَلِيُّ: لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةُ إِلَّا ضَالًّا.

(۲۲۰۹۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: گم شدہ چیز کو گمراہ ہی اٹھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گم شدہ چیز کو گمراہ ہی کھاتا ہے۔

(۲۲۰۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَّاحِ، قَالَ: وَجَدْتُ بَعِيرًا فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ: عَرَفْتَهُ، فَعَرَفْتَهُ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ، فَأَتَيْتَهُ فَقُلْتُ: قَدْ شَغَلَنِي، قَالَ:

فَارْسِلُهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.

(۲۲۰۹۶) حضرت ثابت بن جبشہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اونٹ ملا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اُس کی تشہیر کرو، میں نے تشہیر کی لیکن کسی کو مالک نہ پایا میں اُن کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر جہاں سے پکڑا تھا وہیں چھوڑ دو۔

(۲۰۸) فِي اللَّقْطَةِ تَضِيْعٌ مِنَ الَّذِي أَخَذَهَا

جس نے لقطہ اٹھایا تھا اُس سے اگر ضائع ہو جائے

(۲۲۰۹۷) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُغْبِرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يَرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۲۰۹۷) حضرت حارث بن جبشہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے لقطہ اٹھائے اُس پر ضمان نہیں ہے۔

(۲۲۰۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا ضَاعَتِ اللَّقْطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ.

(۲۲۰۹۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لقطہ ہلاک ہو جائے تو اٹھانے والا ضامن ہوگا۔

(۲۲۰۹۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ ضَا

فَضَلَّتْ مِنْهُ، قَالَ: هُوَ أَمِينٌ.

(۲۲۰۹۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گم شدہ چیز اٹھائے وہ امین ہے۔

(۲۰۹) مَنْ رَخَّصَ فِي السَّلْمِ فِي الْحَيَوَانِ

جو حضرات حیوان میں سلم کی اجازت دیتے ہیں

(۲۲۱۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ فِي وَصْفَاءِ أَحَدِهِمْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلَانَا

(۲۲۱۰۰) حضرت قاسم بن شبیب سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے خادموں میں سلم کیا ان میں سے ایک ہمارے آقا ابو زائدہ

بھی تھے۔

(۲۲۱۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۱) حضرت عامر بن شبیب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۱۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۲) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۲۲۱۰۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلْمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

الشَّاءِ إِذَا سُمِّيَتْ الْآجَالُ وَالْأَسْنَانُ.

(۲۲۱۰۳) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بکریوں والوں کے نزدیک حیوان کی بیع سلم میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وقت متعین ہو اور عمر بھی مقرر ہو۔

(۲۲۱۰۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّمَ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَانًا مَسْمَاةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى .

(۲۲۱۰۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ حیوان کی بیع سلم میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے جبکہ عمر اور وقت متعین اور مقرر ہو۔

(۲۲۱۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَامِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ دُونَ شَرْطِهِ ، وَفَوْقَهُ مِنَ الْأَسْنَانِ إِذَا طَابَتْ بِذَلِكَ نَفْسُ الْمُعْطَى وَالْآخِذِ .

(۲۲۱۰۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ حیوان کی بیع سلم میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔ جبکہ آدمی شرط سے کم وصول کر لے اور اس سے اوپر بھی عمروں میں جبکہ لینے والا اور دینے والا دونوں راضی ہوں۔

(۲۲۱۰۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا وَكَذَا شِبْرًا .

(۲۲۱۰۶) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ خادموں میں بیع سلم کرتے تھے کہ وہ غلام اتنے اتنے باشت کا ہوتا چاہیے (لبائی و چوڑائی میں)۔

(۲۲۱۰۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَامٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ فِي الْحَيَوَانِ .

(۲۲۱۰۷) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حیوان کی بیع سلم میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۱۰۸) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جِرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَامِ فِي الْوُصَفَاءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ مَعْلُومٌ .

(۲۲۱۰۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہ غلاموں کی بیع سلم میں حرج نہیں سمجھتے تھے جب کہ اس کی عمر معلوم ہو۔

(۲۲۱۰۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا .

(۲۲۱۰۹) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۲۱۱۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَامِ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۲۱۱۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حیوان (خادموں) میں بیع سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

(۲۱۰) من کرهه

جو حضرات حیوان میں بیع سلم کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۳۱۱۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْرَهُ السَّلْمَ فِي الْحَيَوَانِ .

(۲۳۱۱۱) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حیوان کی بیع سلم کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۱۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عُمَرَ وَحَدِيفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ

كَانُوا يُكْرَهُونَ السَّلْمَ فِي الْحَيَوَانِ .

(۲۳۱۱۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حیوان کی بیع سلم کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۱۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَلِيدٍ

أَسْلَمَ إِلَى عَتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي فَلَانِصَ ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَكْرَهُ السَّلْمَ فِي الْحَيَوَانِ .

(۲۳۱۱۳) حضرت طارق سے مروی ہے کہ حضرت زید بن خلیدہ نے عتریس بن عرقوب کے ساتھ نو عمر غلاموں میں بیع سلم کیا، پھر

اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا؟ حضرت رضی اللہ عنہ نے حیوان کی بیع سلم کو ناپسند کیا۔

(۲۳۱۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرَّبَا أَرْبَعٌ

يُسَلَّمُ فِي سِنٍّ .

(۲۳۱۱۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرو الے جانوروں میں بیع سلم کرنا ربا میں سے ہے۔

(۲۳۱۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْبَةَ رَدَّ السَّلْمَ فِي الْحَيَوَانِ .

(۲۳۱۱۵) حضرت عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریبہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ رضی اللہ عنہ نے حیوان کی بیع سلم کو رد فرمایا۔

(۲۳۱۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يُكْرَهُ

السَّلْمَ فِي الْحَيَوَانِ .

(۲۳۱۱۶) حضرت سوید بن غفلہ حیوان میں بیع سلم کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۱۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَبُو لَيْنَةَ ، عَنِ الصَّحَّاحِ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّلْمِ فِي

الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ .

(۲۳۱۱۷) حضرت صحاح رضی اللہ عنہ نے پہلے حیوان میں بیع سلم کی اجازت دی تھی پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا۔

(۲۳۱۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ

إِلَى عَبْدِ اللَّهِ : لَا تُسَلِّمُ فِي الْحَيَوَانِ .

(۲۲۱۱۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حیوان میں بیع سلم نہ کرو۔

(۲۲۱۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّارِ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنِ السَّلْمِ فِي الْحَيَوَانَ ؟ فَتَنَهَى عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ بِأَذْرَبِجَانَ بَيْنَيْنِ أَوْ سَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، وَلَا نُنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنْشُرُ بَدْيَ عِنْدَ مَنْ لَا يُرِيدُهُ ، كَانَ حَدِيثَهُ بِنِ الْيَمَانِ يُنْهَى عَنْهُ .

(۲۲۱۱۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے حیوان میں بیع سلم کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے اُس سے منع فرمایا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ جب دو سال ملک آذربجان میں تھے تو آپ حیوان میں بیع سلم ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن آپ اس سے منع کیوں نہیں کرتے تھے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں اپنی رائے ایسے لوگوں میں رکھوں جو اس کی قدر ہی نہیں کرتے؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اس سے منع فرماتے تھے۔

(۲۲۱۲۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حَمِيدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبْنِ عُمَرَ : إِنَّ أُمَّرَأُونَ تَنَهَانَا عَنْهُ ، يَعْنِي السَّلْمَ فِي الْحَيَوَانَ فِي الْوُصَفَاءِ ، قَالَ : فَاطْعُ أَمْرَانِكَ إِنْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَأَمْرَأُوهُمْ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ الْحَكِيمِ الْغِفَارِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ .

(۲۲۱۲۰) حضرت ابو نصرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ہمارے امراء ہمیں حیوان میں بیع سلم سے منع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اگر تمہارے امراء اس سے منع کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کرو اور اُس وقت اُن کے امراء حضرت حکم غفاری اور حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ جیسے حضرات تھے۔

(۲۱۱) فِي الرَّجْلِ يَهَبُ الْهَبَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

کوئی شخص ہبہ دینے کے بعد واپس لینے کا ارادہ کرے

(۲۲۱۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هَبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثْبُثْ مِنْهَا .

(۲۲۱۲۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ذی رحم کو ہبہ دے تو وہ اُس کے لئے جائز ہے۔ اور جو غیر ذی رحم محرم کو ہبہ دے تو وہ اُس کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ اُس کا عوض نہ لیا ہو۔

(۲۲۱۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ ، فَاتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَاذِرٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَهَبْتُ لَهُ بَاذِرِي رَجَاءً أَنْ يُشِينِي ، وَأَخَذَ بَاذِرِي وَأَمَّ يَشِينِي ، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ : وَهَبْ لِي بَاذِرَهُ ، مَا سَأَلْتَهُ ، وَلَا تَعَرَّضْتُ لَهُ ، فَقَالَ : رُدَّ عَلَيْهِ بَاذِرَهُ ، أَوْ آئِبُهُ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النَّسَاءِ وَأَشْرَارِ الْأَقْوَامِ .

(۲۲۱۲۲) حضرت عبد اللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں حضرت فضالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمی ایک باز کے متعلق جھگڑتے ہوئے آئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے اس کو اس امید سے باز ہبہ کیا تھا کہ یہ مجھے عوض دے گا، اور اس نے باز لے لیا اور مجھے عوض نہ دیا، اور دوسرے نے کہا کہ اس نے از خود باز ہبہ کیا ہے میں نے اس سے مانگایا اصرار نہیں کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو باز واپس کر دیا اس کو عوض دو، بے شک ہوں میں رجوع کرنے والے عورتیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں۔

(۲۲۱۲۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَفْرَيقِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يَتَّبِعْ عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ .

(۲۲۱۲۳) حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہبہ دے اور اس پر عوض نہ لے اور وہ اُس سے رجوع کرنا چاہتا ہو تو سب کے سامنے رجوع کرے چھپ کر نہ کرے۔

(۲۲۱۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يَتَّبِعْ مِنْهَا .

(۲۲۱۲۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے ہبہ کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ اس بدلہ میں اس کو کوئی چیز نہ دی گئی ہو۔ (یعنی اگر وہ موہو ہو بے شک کسی کو دینی ہو تو واہب ہی کو واپس کر دینا زیادہ بہتر ہے)۔

(۲۲۱۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يَتَّبِعْ مِنْهَا . (ابن ماجہ ۲۳۸۷- دارقطنی ۱۸۰)

(۲۲۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی اپنے ہبہ کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ اُس نے اُس پر عوض نہ لیا ہو۔

(۲۲۱۲۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَوْضَ مِنْهَا .

(۲۲۱۲۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی ہبہ کا زیادہ حق دار ہے جب تک وہ اس کو قبول کرے۔

(۲۲۱۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صَلَاةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَعْرُوفٍ ، أَوْ حَقٍّ ، فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَعْزِرُ يَتَابُ مِنْ هَيْبَتِهِ ، أَوْ تَرَدُّ عَلَيْهِ .

(۲۲۱۲۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی، قرابت داری یا اچھے طریقے سے یا کسی کے حق کی وجہ سے عطاء کرے تو اُس کا عطیہ (ہبہ) جائز ہے۔ اور جانب مستعز کو یا تو ثواب مل جاتا ہے یا پھر اپنا عطیہ واپس مل جاتا ہے۔ (جانب مستعز ایک اصطلاح ہے۔ یعنی دو ہبہ کرنے والوں کو جو باہمی ہبہ کر رہے ہوں تو ان میں سے جس کو زیادہ چیز حصہ میں آجائے وہ جانب مستعز ہے۔

(۲۲۱۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَوْجِبُ

الثَّوَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ.

(۲۲۱۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو ثواب کے لئے ہبہ دے اگر اُس کو واپس بھی لٹا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۱۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُشِبَّهُ.

(۲۲۱۹) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو غیر ذی رحم محرم کو ہبہ دے اُس پر عرصہ نہ وصول کرے اُس کو واپس لینے کا اختیار ہے۔

۱ (۲۲۱۳) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَطْرِفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ ، فَإِذَا أَعْطَاهَا ، فَقَدْ جَازَتْ.

(۲۲۱۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی کو ہبہ دے تو وہ اُس کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ وہ اُس کے قبضہ میں ہے پھر جب اُس نے اُس کو عطاء کر دیا تو اب وہ نافذ ہو گیا۔

(۲۱۲) من كره الرجوع في الهبة

جو حضرات ہبہ دے کر رجوع کرنے کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۲۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطَى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ . (ترمذی ۱۴۹۹۔ ابوداؤد ۳۵۳۳)

(۲۲۱۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہبہ دے کر واپس لے، جو ایسا کرے اُس کی مثال اُس کتے کی ہے جو پہلے خوب کھائے جب اُس کا پیٹ بھر جائے تو قے کر دے پھر اپنی قے کو چاٹ لے۔

(۲۲۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ ، الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . (بخاری ۲۱۲۲۔ ترمذی ۱۴۹۸)

(۲۲۱۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہمارے لئے برون کی مثال نہیں ہے (کہ ان کی پیروی کریں) ہبہ دے کر واپس لینے والا اُس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اُس کو چاٹ لے۔

(۲۲۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .

(۲۲۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہبہ دے کر رجوع کرے اُس کی مثال اُس کتے کی ہے جو پیٹ بھرنے کے بعد تے کر دے پھر اپنی تے کو دوبارہ چاٹ لے۔

(۲۲۱۳۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هَبَّتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ . (بيهقی ۱۷۹ - نسائی ۶۵۳۵)

(۲۲۱۳۴) حضرت طاووس سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کے لئے ہبہ دے کر رجوع کرنا حلال نہیں ہے سوائے اپنے بیٹے سے۔

(۲۲۱۳۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . (بخاری ۲۶۲۳ - احمد ۱ / ۵۴)

(۲۲۱۳۵) حضرت اسلم سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہبہ دے کر واپس رجوع کرے اُس کی مثال اُس کتے کی ہے جو تے کر کے اُس کو چاٹ لے۔

(۲۲۱۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَثَلُ الْذِي يَعُودُ فِي هَبَّتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . (نسائی ۶۵۳۶)

(۲۲۱۳۶) حضرت طاووس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہبہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اُس کتے کی ہے جو تے کر کے پھر اُس کو چاٹ لے۔

(۲۲۱۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ . (بخاری ۲۶۲۱ - مسلم ۱۱۴۴)

(۲۲۱۳۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہبہ دے کر واپس لینے والا تے کر کے چاٹنے والے کا طرح ہے۔

(۲۱۳) فِي شِرَاءِ السَّكَرَانِ وَبَيْعِهِ

نشئی آدمی کا خرید و فروخت کرنا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْهَقِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمُ بِهِ السَّكَرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ . (۲۲۱۳۸)

(۲۲۱۳۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشئی آدمی جس چیز کے بارے میں کلام کرے وہ اُس پر نافذ ہو جائے گا۔

(۲۲۱۳۹) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكَرَانِ : أَمَا يَبْعُهُ وَيَشْرَاؤُهُ فَلَا

يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ .

(۲۲۱۳۹) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشئی آدمی کا خرید و فروخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے وہ بے وقوف کے منزلہ میں ہے۔

(۲۲۱۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يُجِيزُ بَيْعَهُ ، وَلَا شِرَائَهُ .

(۲۲۱۴۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نشئی آدمی کی خرید و فروخت درست نہیں۔

(۲۱۴) فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِي كَانِ فِي السَّلْعَةِ فَتَقُومُ عَلَى أَحَدِهِمَا بَعْشَرَةٌ وَعَلَى الْآخَرِ تِسْعَةٌ

دو آدمی کسی سامان کے مالک ہوں ان میں سے ایک کو دس درہم اور دوسرے کو نو درہم میں ملے ہوں
(۲۲۱۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي تَوْبِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بَعْشَرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بَعْشَرَةٌ ، قَالَ : إِنْ بَاعَاهَا مُسَاوَمَةً ، أَوْ مَرَابَحَةً ، فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا .

(۲۲۱۴۱) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک کپڑا دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھا، ان میں سے ایک نے نصف بیس درہم میں اور دوسرے نے نصف دس درہم میں خریدا۔ فرمایا اگر وہ دونوں اُس کو مساومت اور مرابحتہ فروخت کریں تو منافع اُن کے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔

(۲۲۱۴۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بَعْشَرِينَ ، وَاشْتَرَى الْآخَرَ نِصْفَهَا بَعْشَرَةً ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ بَاعَاهَا مَرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوَمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .

(۲۲۱۴۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت حکم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمیوں نے مل کر ایک سامان خریدا، ایک نے آدھا بیس درہم میں اور دوسرے نے آدھا دس درہم میں خریدا، حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اُس سامان کو مرابحتہ فروخت کریں تو نفع رأس المال کے اعتبار سے ہوگا اور اگر وہ بیع مساومت کے اعتبار سے فروخت کریں تو منافع نصف نصف ہوگا۔ اور حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں منافع آدھا آدھا ہوگا۔

(۲۲۱۴۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ بَاعَاهَا مَرَابَحَةً فَالرُّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوَمَةً ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۲۲۱۴۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اُس کو مرابحتہ فروخت کریں تو منافع رأس المال کی بقدر ہوگا، اور اگر بیع مساومت کے ساتھ فروخت کریں تو منافع آدھا آدھا ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔

(۲۲۱۴۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَيْلَ حَمَادٍ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَقُومُ

عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرِ مِمَّا تَقَوُّمٌ عَلَى الْآخِرِ ، قَالَ : الرَّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا .

(۲۲۱۳۳) حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کہ ایک سامان دو شخصوں کے درمیان مشترک ہے۔ ایک کو دوسرے سے زیادہ قیمت میں پڑا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا نفع رأس المال کی بقدر ملے گا۔

(۲۱۵) فِي الرَّهْنِ يُقَالُ لِصَاحِبِهِ إِنْ لَمْ نَجِبْ بِفِكَائِكِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ

کوئی شخص کسی کے پاس رہن رکھواتے ہوئے یوں کہے کہ اگر میں تیرے پاس رہن

چھڑوانے نہ آیا تو یہ چیز تیری

(۲۲۱۴۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ أَجْنُكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

(۲۲۱۳۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص دوسرے کے پاس رہن رکھواتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اگر میں تیرے پاس اتنے اتنے نہ لے کر آیا تو یہ تیری؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ اس کی نہیں ہوگی۔

(۲۲۱۴۶) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : الرَّهْنُ لَا يَغْلُقُ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعَهُ وَاقْتَضَى الْإِلْدَى لَكَ ، قَالَ : لَا يَكُنْ أَمِينًا نَفْسِهِ ، وَلَا بَيْعَهُ .

(۲۲۱۳۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس رہن رکھواتے ہوئے یوں کہے کہ اگر میں تیرے پاس اتنے اتنے نہ لے کر آیا تو یہ چیز تیری۔ آپ نے فرمایا: مقررہ چیز ادا نہ کر سکنے کی صورت میں مرہن اس کا مالک نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ رہن رکھتے وقت یوں کہہ دے کہ اگر میں تیرے پاس اتنے اتنے نہ لے کر آیا تو اس کو فروخت کر کے جتنے تیرے بنتے ہیں وہ پورے کر لے۔ آپ نے فرمایا: اپنے نفس کا امین نہیں ہوگا۔ وہ اس کو فروخت نہ کرے۔

(۲۱۶) الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ

غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو، ان میں سے ایک شخص اپنا حصہ آزاد کر دے

(۲۲۱۴۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ نَصِيبًا ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُسْتُسِعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ .

(۲۲۱۳۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے، تو اُس پر لازم ہے کہ اگر اُس کے پاس مال ہے تو ساتھی کو مال دے کر اُس کو پورا آزاد کر دے، اگر اُس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام سے اس قیمت کے بدلہ میں کام لیا جائے گا۔ اُس پر مشقت ڈالے بغیر۔

(۲۲۱۴۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ مَوْسِرًا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ . (مسلم ۱۱۳۹۔ ابوداؤد ۳۹۳۹)

(۲۲۱۳۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ شخص مالدار ہو تو ضامن ہوگا۔ اور اگر مالدار نہ ہو تو جو اُس نے حصہ آزاد کیا ہے وہ آزاد شمار ہوگا۔

(۲۲۱۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ . (۲۲۱۳۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اگر اُس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے ساتھی کے لئے قیمت کا ضامن ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ مال دار نہیں ہے تو غلام خود اپنی بقیہ قیمت کے لئے کوشش کرے گا۔

(۲۲۱۵۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ أُمَّتَا غُلَامٌ لَدَى شَهِدِ الْقَادِسِيَّةِ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا عِتْقَهُ وَكُنْتُ صَغِيرًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَسْوَدُ لِعُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : أَعْتَقُوا أَنْتُمْ ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيْبِهِ حَتَّى يَرْعَبَ فِي مِثْلِ مَا رَعَيْتُمْ فِيهِ ، أَوْ يَأْخُذَ نَصِيْبَهُ .

(۲۲۱۵۰) حضرت عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت الاسود اور ہماری والدہ کے درمیان ایک غلام مشترک تھا۔ وہ غلام جنگ قادسیہ میں شریک ہوا اور خوب بہادری دکھائی۔ اُن سب نے اُس کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا، میں اُس وقت کم عمر تھا۔ حضرت اسود نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: تم اپنا حصہ آزاد کر دو، اور عبدالرحمن کے لئے اُس کا حصہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کی بھی اس بات میں رغبت ہو جائے جس میں عیس ہوئی (یعنی آزادی) یا پھر وہ اپنا حصہ وصول کر لے۔

(۲۲۱۵۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَهُ ، فَاتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا تُفْسِدْ عَلَيَّ شَرَّكَانِكَ فَتَضْمَنَ ، وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشْتَرَا .

(۲۲۱۵۱) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک غلام مشترک تھا، میں نے اُس کو آزاد کرنے کا

ارادہ کیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُن سے ذکر کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اپنے شریکوں کی شرارت میں فسادت ڈال ورنہ تو ضامن ہوگا۔ تو اُن کے بڑے ہونے کا انتظار کر۔

(۲۲۱۵۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ .

(۲۲۱۵۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۱۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : كَانَ فَلَانُونَ مِنْ

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْمَنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا .
(۲۲۱۵۳) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی مالدار ہونے کی صورت میں اگر مشترک غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے تو میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ وہ ساتھی کے لئے ضامن ہوگا۔

(۲۲۱۵۴) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنْ يَقَوْمَ عَلَيْهِ أَعْلَى الْقِيَمَةِ .

(۲۲۱۵۴) حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک تھا، ان میں سے ایک نے اُس کو آزاد کر دیا، اُس کا ساتھی سواری پر سوار ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا: اس کے لئے غلام کی اعلیٰ قیمت لگا کر ضمان ادا کر۔

(۲۲۱۵۵) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مِعْبِرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لِحَبْسِهِ بِهِ .

(۲۲۱۵۵) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شریح قاضی ہوتے تو اس کو ضرور اس کام پر قید کرتے۔

(۲۲۱۵۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ

أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ .

(۲۲۱۵۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر ایک غلام دو بندوں کے درمیان مشترک ہو پھر ان میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دے، تو اگر اُس کے پاس مال ہے تو ساتھی کے لئے ضامن ہوگا اور اگر مال نہیں ہے تو غلام اپنی باقی قیمت کے لئے کوشش کرے گا۔

(۲۲۱۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ سَلِيمَانَ بْنَ يَسَارٍ فَقَالَ : مِثْلُ

ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ؟ فَقَالَ : السُّنَّةُ .

(۲۲۱۵۷) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سلیمان بن یسار سے سوال کیا؟ انہوں نے اسی طرح کہا، میں نے عرض

کیا کہ وہ تو چھوٹا ہے انہوں نے کہا کہ سنت یہی ہے۔

(۲۲۱۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيْبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ

شِرْكٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْمِيَ الْعَبْدُ .

(۲۲۱۵۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام میں کوئی نقص اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لئے اس میں حصہ ہے، تو وہ باقی حصہ کا بھی ضامن ہوگا اگر وہ مال دار ہے اور اگر مال دار نہیں ہے تو غلام اپنی باقی قیمت کے لئے خود کوشش کرے گا۔

(۲۲۱۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدَهُمَا نَصِيْبَهُ ، فَقَالَ : هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيْبِ صَاحِبِهِ .

(۲۲۱۵۹) حضرت عروہ سے مروی ہے کہ اگر غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دے تو وہ اپنے ساتھی کے حصہ کا ضامن ہوگا۔

(۲۲۱۶۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيْبَهُ ، قَالَ : يَتِمُّ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْمِيَ الْعَبْدُ فِي النُّصْفِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ .

(۲۲۱۶۰) حضرت عامر سے مروی ہے کہ ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھا ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، آپ نے فرمایا پورا آزاد ہو گیا ہے اگر اُس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام باقی نصف قیمت کے لئے کوشش کرے گا۔ اور غلام کی ولایت آزاد کرنے والے کو ملے گی۔

(۲۲۱۶۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيْبَهُ ، قَالَ : فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ فِيهِ عُنَيْمَةً لَهُ . (مسند ۱۵۱۳)

(۲۲۱۶۱) حضرت ابوجلز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھا، ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اُس کو روک رکھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے بدلے میں اپنی ایک چھوٹی بکری بیچی۔

(۲۲۱۶۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدَهُمَا نَصِيْبَهُ ، قَالَ : هُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيَمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ .

(۲۲۱۶۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام جو دو آدمیوں کے درمیان ہو پھر ان میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دے، آپ نے فرمایا جس نے آزاد کیا ہے اُس کے مال سے آزاد شمار کیا جائے گا، اور آزاد کرتے وقت جتنی قیمت تھی اُس کا اپنے ساتھی کے لئے ضامن ہوگا۔

(۲۱۷) مَا الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ ؟

مسلمانوں میں عدالت کیا ہے؟

(۲۲۱۶۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُطْعَمْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ ، وَلَا فَرَجٍ .

(۲۲۱۶۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں عدل یہ ہے کہ اُس پر ظاہر و باطن میں طعن نہ ہو۔

(۲۲۱۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُثَيْبٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُبْصَرْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمَ عَلَيْهِ خَرَبَةٌ فِي دِينِهِ .

(۲۲۱۶۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی پر حد نہ لگی ہو یا اُس کے دین میں کوئی عیب نہ معلوم ہو اُس کی گواہی دینا ٹھیک ہے۔

(۲۲۱۶۵) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ .

(۲۲۱۶۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نمازی آدمی کی گواہی کو جائز سمجھتے تھے۔ الا یہ کہ اس کا خصم کوئی ایسی علت لے آئے جس سے عدالت میں پر جرح ہو سکتی ہو۔

(۲۲۱۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَ عَمْرُؤَ رَجُلًا ، عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ : عَمْرُؤُ : حَسْبُكَ .

(۲۲۱۶۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے شخص کے متعلق دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو خیر ہی دیکھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہی تعدیل تمہارے لئے کافی ہے۔

(۲۲۱۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : اذَّعْ وَأَكْثِرْ وَأَطْبُبْ وَأَبْ عَلَيَّ ذَلِكَ بِشُهُودِ عَدْلٍ ، فَإِنَّا قَدْ أَمَرْنَا بِالْعَدْلِ ، وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِن قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمٌ . يَفْرُقُونَ أَنْ يَقُولُوا : هُوَ مُرِيبٌ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ ، فَإِن قَالُوا : هُوَ مَا عَلِمْنَا عَدْلَ مُسْلِمٍ ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَلِكَ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ .

(۲۲۱۶۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے دعویٰ کرو پھر اس میں زیادتی کرو اور خوب زیادتی طلب کرو، اور پھر اس پر عادل گواہ قائم کرو، بے شک ہمیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان سے سوال کریں، اگر وہ لوگ کہیں کہ اللہ اعلم، تو اللہ زیادہ جانتے والا ہے، اور وہ اگر الگ الگ ہو کر یوں کہیں کہ وہ سبکی ہے (شک میں ہے) تو شک والے کی گواہی معتبر نہیں، اور اگر وہ کہیں کہ: ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں مگر یہ عادل اور مسلمان ہے تو پھر وہ ان شاء اللہ اسی طرح ہے اور اُس کی گواہی معتبر ہے۔

(۲۱۸) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ

کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدے کہ اس کو فروخت یا ہبہ نہیں کرے گا

(۲۲۱۶۸) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : ابْتِعت جَارِيَةً وَشَرَطْتُ عَلَيَّ أَهْلِهَا أَنْ لَا أُبِيعَ ، وَلَا أُهَبَ ،

وَلَا أَمَهَرَ ، فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلَتِ الْحَكَمَ بْنَ عَتِيْبَةَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

وَسَأَلَتْ مَكْحُولًا ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . فَقُلْتُ : تَخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : بَلَى ، أَرَجُ لَكَ فِيهِ أَجْرَيْنِ .
وَسَأَلَتْ عَطَاءً ، أَوْ سَيْلَ ؟ فَكَرِهَهُ .

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَسَأَلَتْ
عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ؟ فَقَالَ : هَذَا فَرَجٌ سَوْءٌ .

وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرَنِي : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنْ امْرَأَتِهِ عَلَيَّ أَنَّهُ إِنْ
بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : لَا تَطَّأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِيُغَيِّرَكَ .

(۲۲۱۶۸) حضرت اوزاعی سے مروی ہے کہ میں نے ایک باندی خریدی اور اس کے اہل نے مجھ پر شرط لگائی کہ میں اس کو فروخت نہیں کروں گا، اور نہ ہی بہہ کروں گا اور نہ ہی مہر میں دوں گا، اگر میں مر جاؤں تو وہ آزاد ہے، میں نے حضرت حکم بن عتیبہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میں نے حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میں نے عرض کیا: آپ کو مجھ پر اندیشہ ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، میں آپ کے لیے دو اجروں کی امید کرتا ہوں۔ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا؟ تو انہوں نے اس کو ناپسند سمجھا۔

حضرت اوزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیع کرنا جائز ہے اور یہ شرط لگانا باطل ہے، میں نے حضرت عبدہ بن ابولبابہ سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: یہ بُری شرمگاہ (چیز) ہے۔ میں نے زہری سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے خط کے ذریعہ اس باندی کا حکم پوچھا جو انہوں نے اپنی بیوی سے اس شرط پر خریدی تھی کہ اگر میں اس کو بیچوں تو اس کی قیمت کی حق دار تم ہوگی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تو ایسی فرج سے بہستری نہیں کر سکتا جس میں غیر کا بھی حق ہو۔

(۲۲۱۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ مِنْ مَالِكَ مَا كَانَ فِيهِ
مُشْتَوِيَةٌ لِيُغَيِّرَكَ .

(۲۲۱۶۹) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: وہ تیرے مال میں سے نہیں ہے، جس میں تیرے غیر کا بھی دوہرا حصہ ہو۔

(۲۲۱۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ
الْجَارِيَةُ بِشَرْطٍ أَنْ لَا تُبَاعَ .

(۲۲۱۷۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہیں کہ باندی کو اس شرط کے ساتھ فروخت کیا جائے کہ اس کو آگے فروخت نہیں کریں گے۔

(۲۲۱۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبُ ، قَالَ : لَا يَقْرُبُهَا .

(۲۲۱۷۱) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدتا ہے کہ اس کو فروخت یا ہبہ نہیں کرے گا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔

(۲۲۱۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَهَا .

(۲۲۱۷۲) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۲۱۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ .

(۲۲۱۷۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسی شرمگاہ میں بہستری نہ کرو جس میں کوئی شرط ہو۔

(۲۲۱۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۲۲۱۷۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدے کہ اس کو فروخت یا ہبہ نہیں کرے گا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

(۲۲۱۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبَ ، وَلَا يَمْهَرُ ، قَالَ : وَوَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُهَا فَاشْتَرَيْتُهَا بِهَذَا الشَّرْطِ وَأَشْتَرِطُ لَهُمْ أَنَّهُمْ عَتِيقٌ إِذَا مِتَّ .

(۲۲۱۷۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدے کہ اس کو فروخت یا ہبہ یا مہر میں نہیں دے گا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پالوں، میں اس کو شرط کے ساتھ خرید لوں گا، اور ان کے لئے شرط لگاؤں گا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ آزاد ہے۔

(۲۲۱۷۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أُسْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ .

(۲۲۱۷۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شرط جو بیع میں لگائی جائے وہ اس کو گرا دیتی ہے سوائے عتاق کے، اور ہر وہ شرط جو نکاح میں لگائی جائے اس کو نکاح گرا دیتا ہے سوائے طلاق کے۔

(۲۲۱۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : بَاتَتْ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي أُشْتَرِيَتْ عَلَيَّ أَنْ لَا تَبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُكَ عَلَيَّ شَرْطُهَا .

(۲۲۱۷۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ایک عورت نے کہا: ابنتی کو خرید لیا گیا ہے کہ اس کو فروخت نہیں کیا

(۲۲۱۷۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کیا کہ میری بیٹی کو اس شرط پر خرید لیا گیا ہے کہ اس کو فروخت نہیں کیا

جائے گا، آپ ﷺ نے فرمایا تیری بیٹی کی شرا کی شرط پر ہے (یعنی جو شرط شرا کے وقت لگائی ہے اسی پر ہوگی)۔

(۲۲۱۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنْ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَأَشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا فَبِيَّ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ فَوَكَرَهُ أَنْ يَطَّأَهَا .

(۲۲۱۷۸) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے باندی خریدی، اُس نے آپ پر شرط لگا دی کہ اگر اس کو فروخت کیا تو وہ اُس کے ثمن کی زیادہ حق دار ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس سے ہمبستری کرنے کو ناپسند کیا۔۔

(۲۲۱۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَمِيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : لَا تَقْرُبْهَا .

(۲۲۱۷۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اُس کے قریب مت جاؤ۔

(۲۱۹) فِي الرَّجُلِ يَعْتَقُ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

اس شخص کے بارے میں جو اپنا غلام آزاد کر دے اور اس کی اس غلام کے علاوہ کوئی

جائیداد یا مال وغیرہ نہ ہو

(۲۲۱۸۰) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَكَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ . (عبدالرزاق ۱۶۷۶۶)

(۲۲۱۸۰) حضرت ابو یحییٰ الاعرج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ غلام کو اُس کے آقا نے اپنی وفات کے وقت آزاد کر دیا اور اُس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال بھی نہیں ہے اور اُس پر (مالک پر) دین بھی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے حکم فرمایا کہ وہ غلام اپنے آقا کے قرض کے لئے کوشش کرے۔

(۲۲۱۸۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَكَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيَمَةِ .

(۲۲۱۸۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنا غلام آزاد کر دیا اور اُس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں ہے اور اس پر قرض بھی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آزاد ہو جائے گا لیکن اپنی قیمت کی بقدر کوشش کرے گا۔

(۲۲۱۸۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَعْتَقْتُ امْرَأَةً جَارِيَةً لَهَا ، لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا فَقَالَ

عَبْدُ اللَّهِ: تَسَعَى فِي قِيَمَتِهَا.

(۲۲۱۸۲) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے اپنی باندی آزاد کر دی اُس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا مال بھی تھا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: وہ اپنی قیمت میں کوشش کرے گی۔

(۲۲۱۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ يَسَعَى فِي قِيَمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسَعَى لِلْفَرَمَاءِ فِي دَيْنِهِمْ ، وَنَظَرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ وَلَهُ ثَلَاثَةٌ.

(۲۲۱۸۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے مرض الوفا میں اپنا غلام آزاد کیا پھر فوت ہو گیا اور اُس پر دین بھی ہو اور اُس غلام کے علاوہ اُس کے پاس مال بھی نہ ہو، فرماتے ہیں وہ اپنی قیمت کی بقدر کوشش کرے گا، اگر اُس کی قیمت قرض سے زیادہ ہو تو وہ قرض خواہوں کے لئے اُن کے قرض کی کوشش کرے گا، جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس میں غور کیا جائے گا، پھر ورثاء کا اس میں دو تہائی ہوگا اور اس کا ایک تہائی حصہ ہوگا۔

(۲۲۱۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: يَقُومُ قِيَمَةَ عَبْدٍ ، ثُمَّ يَسَعَى فِي قِيَمَتِهِ.

(۲۲۱۸۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الوفا میں غلام آزاد کر دے اور اُس کے پاس اُس کے علاوہ دوسرا مال نہ ہو، تو ایک عادل شخص اُس غلام کی قیمت لگائے گا اور پھر وہ غلام اُس قیمت میں کوشش کرے گا۔

(۲۲۰) الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ

کوئی شخص مرض الوفا میں غلام آزاد کر دے

(۲۲۱۸۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ: أُجِيزُهُ بِرِمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لَا أَرَدُهُ . وَقَالَ شَرِيحٌ : أُجِيزُ ثَلَاثَةً وَأَسْتَسْعِيهِ فِي ثَلَاثِهِ .

(۲۲۱۸۵) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے مرض الوفا میں اپنا غلام آزاد کر دیا اور اُس کے پاس اُس کے علاوہ دوسرا مال بھی نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس کا یہ فیصلہ کل پر نافذ ہوگا، جس چیز کو اُس نے اللہ کے لئے آزاد کیا میں اُس کو رد نہیں کر سکتا، اور حضرت شرح رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس کے ایک ٹمٹ پر نافذ ہوگا اور وہ باقی دو ٹمٹ میں کوشش کرے گا، (مال دے کر آزاد ہوگا)۔

(۲۲۱۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: قَوْلُ مَسْرُوقٍ .

أَعْجَبَهُمَا إِلَىٰ فِي الْفُتُوى ، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الْقَضَاءِ .

(۲۲۱۸۶) حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبیؓ سے عرض کیا کہ: دونوں میں سے کون سا قول آپ کو زیادہ پسند ہے؟ آپؓ نے فرمایا: حضرت مسروقؓ کا قول فتویٰ میں مجھے پسند ہے۔ اور حضرت شریحؓ کا قول قضاء میں مجھے زیادہ پسند ہے۔

(۲۲۱۸۷) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَعْتَقُ ثَلَاثَةً .

(۲۲۱۸۷) حضرت ابن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں اُس کا ثلث آزاد شمار ہوگا۔

(۲۲۱۸۸) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَكَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَعْتَقُ ثَلَاثَةً وَيَسْعَىٰ فِي ثُلَاثِهِ .

(۲۲۱۸۸) حضرت ابراہیمؓ ایسے شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو مرض الوقات میں اپنا غلام آزاد کر دے اور اُس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا مال بھی نہ ہو، اُس کا ثلث آزاد شمار ہوگا، اور باقی دو ثلث میں وہ کوشش کرے گا؟

(۲۲۱۸۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعَتِقِ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَهُوَ مِنَ الثَّلَاثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلَاثِ يَسْعَىٰ فِيمَا زَادَ .

(۲۲۱۸۹) حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت کرے تو وہ وصیت ثلث مال میں نافذ ہوگی، اگر غلام کی قیمت ثلث سے زائد ہو تو جو زائد رقم ہے اُس کے لئے غلام کوشش کرے گا۔

(۲۲۱۹۰) إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ فِي مَرَضِهِ

جن حضرات نے مرض الوقات میں اپنا غلام آزاد کیا

(۲۲۱۹۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : يَعْتَقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيَسْتَسْعَىٰ فِيمَا بَقِيَ .

(۲۲۱۹۰) حضرت یونسؓ سے مروی ہے کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ حضرت حسنؓ نے اُس شخص کے متعلق فرمایا تھا جس نے مرض الوقات میں اپنا بعض غلام آزاد کر دیا تھا، آپ نے فرمایا جتنا اُس نے آزاد کیا ہے اتنا آزاد شمار ہوگا، اور جو حصہ باقی ہے اُس کی قیمت کے لئے اس غلام سے کوشش کرائی جائے گی۔

(۲۲۱۹۱) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَ عِبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : يَقَامُ فِي ثُلَاثِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتَسْعَى الْعَبْدَ .

(۲۲۱۹۱) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں جس نے اپنا ثلث غلام مرض الوقات میں آزاد کر دیا، فرمایا: وہ ثلث مال

میں نافذ ہوگا، اور اگر اُس نے وصیتوں میں اُس کی وصیت بھی کی تھی تو غلام سے قیمت کی کوشش کروائی جائے گی۔

(۲۲۱۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ بَعْضُ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كَلَّهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلَاثِ سَعَى فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۱۹۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الوفا میں اپنا بعض غلام آزاد کر دے، تو پورا غلام آزاد شمار ہوگا۔ اگر غلام کی قیمت ثلث مال سے زائد ہو تو ثلث مال سے جتنا زیادہ ہے اُس کے لئے غلام کوشش کرے گا۔

(۲۲۱۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : سِئِلَ هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَ فِي ثَلَاثِهِ ، لَا يَعْدُو ذَلِكَ .

(۲۲۱۹۳) حضرت ہشام رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے مرض الوفا میں اپنے غلام کے کچھ حصے آزاد کر دیے، پھر آپ نے حضرت حفص بن سلیمان سے روایت بیان کی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ ثلث مال میں سے آزاد ہوگا۔

(۲۲۲) فِي شَهَادَةِ السَّمْعِ أَلِهَ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا ؟

کیا صرف سن کر گواہی دینا درست ہے؟

(۲۲۱۹۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ عَبْدِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ .

(۲۲۱۹۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سن کر گواہی دینا جائز ہے۔

(۲۲۱۹۵) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِيَ فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا .

(۲۲۱۹۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جماعت سے کوئی بات سن لے پھر وہ قاضی کے پاس آئے تو یوں کہے کہ انہوں نے مجھے گواہ تو نہیں بنایا لیکن میں نے ایسے ایسے سنا ہے۔

(۲۲۱۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ فَرَاتٍ ، قَالَ : تَكَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَذَهَبَتْ اتِّقَاضًا وَرَجُلٌ يَسْمَعُ ، فَقُمْتُ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَحَدَّثَنِي فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنْتُكَ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ كَمَا يَسْمَعُ وَهُوَ مُقَرَّبِي ، فَقَالَ : ادْعُ بِهِ ، فَدَعَوْتُ بِهِ فَشَهِدَ ، فَقَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ .

(۲۲۱۹۶) حضرت فرات سے مروی ہے کہ میرے پچاس درہم کسی شخص کے اوپر تھے، میں اُس کے پاس گیا، اُس سے قرض کا مطالبہ کیا، اور ایک شخص یہ سب کچھ سن رہا تھا، میں اُس کو حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر حاضر ہوا، اس نے میرا انکار کر دیا، حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تیرے گواہ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: ایک شخص یہ سب کچھ سن رہا تھا جبکہ اس نے میرے درہموں کا اقرار نہ کیا، آپ نے فرمایا اُس شخص کو بلاؤ، میں نے اُس کو بلایا اور اُس نے گواہی دی، حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اُس شخص سے فرمایا کھڑے

جاؤ اور اُس کو اس کا حق ادا کرو۔

(۲۲۱۹۷) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حَمِيدٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُثَيْبِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِيٍّ .

(۲۲۱۹۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ مجبوظ الاحواس شخص کی گواہی کو قبول نہ فرماتے تھے۔

(۲۲۱۹۸) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ بَيَّانِ أَبِي بَشْرٍ ، قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِيٍّ .

(۲۲۱۹۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ مجبوظ الاحواس شخص کی گواہی کو قبول نہ کرتے تھے۔

(۲۲۱۹۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَبِيِّ .

(۲۲۱۹۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجبوظ الاحواس شخص کی گواہی معتبر نہیں ہے۔

(۲۲۲۰۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ الْفَاجِرِ .

(۲۲۲۰۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ مجبوظ الاحواس شخص کی گواہی کو معتبر نہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمرو بن حرث فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ ظالم

خائن کی گواہی کے ساتھ کیا جائے گا۔

(۲۲۲۰۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكِّمُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ

بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تَعُدُّهُ إِلَى غَيْرِهِ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ .

(۲۲۲۰۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے پاس مشرکین آئیں اور تمہارے مسلمانوں کے فیصلہ کے مطابق اپنا فیصلہ مقرر

کر لیں تو ان کو غیر اسلام کے فیصلہ کی طرف مت لے جا، یا پھر ان کے اور ان کے اہل دین کے درمیان سے ہٹ جا اور ان سے

اعراض کر لے۔

(۲۲۲) فِي الْحُكُومَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

یہود و نصاریٰ کے درمیان فیصلہ کرنا

(۲۲۲۰۲) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا

تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا؟ فَقَالَ : أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِكَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

(۲۲۲۰۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ یہودی و نصاریٰ کے درمیان کیسے فیصلہ کیا جائے، جب وہ اپنا فیصلہ ہمارے

پاس لائیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان کے درمیان مسلمانوں کی طرح فیصلہ کرو، ان میں بھی وہی امور جائز ہیں جو مسلمانوں میں

جائز ہیں۔

(۲۲۲.۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلَوْا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ .

(۲۲۲.۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور ان کے فیصلوں کو چھوڑ دو، جب وہ فیصلہ لے کر خود تمہارے پاس آئیں تو ان کے مابین اپنی کتاب (یعنی قرآن پاک) کے مطابق فیصلہ کرو۔

(۲۲۲.۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَّ بِنُصْرَانِيَّةٍ ؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ : أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنُّصْرَانِيَّةِ ، وَارْفَعْ النُّصْرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاءُوا .

(۲۲۲.۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو مصر کا حاکم بنا کر بھیجا، حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحریر کیا اور دریافت فرمایا کہ ایک مسلمان نے نصرانیہ عورت سے زنا کیا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب تحریر فرمایا کہ جس مسلمان نے نصرانیہ کے ساتھ زنا کیا ہے اس پر حد جاری کرو، اور نصرانیہ خاتون کو نصاریٰ کے حوالہ کر دو وہ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کریں۔

(۲۲۲.۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ﴿أَحْكُم بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ . (طبری ۳۳۵)

(۲۲۲.۵) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ منسوخ ہو گئی ہے قرآن کی آیت ﴿أَحْكُم بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ سے۔

(۲۲۲.۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكَمْ . حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو فیصلہ کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔

(۲۲۲.۷) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْهِ يَهُودٌ مَعَ يَهُودِيٍّ وَمَنَافِقٍ . (ابوداؤد ۴۳۳۹)

(۲۲۲.۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس یہودی کو رجم فرمایا تھا جس کو یہود نے ایک یہودی اور منافق کے ساتھ بھیجا تھا۔

(۲۲۲.۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً . (ترمذی ۱۳۳۷ - احمد ۹۱/۵)

(۲۲۲.۸) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی مرد اور خاتون کو رجم فرمایا۔

(۲۲۲.۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ : عَنِ الْبُرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا. (مسلم ۱۳۲۷۔ ابوداؤد ۴۴۴۴)

(۲۲۲۰۹) حضرت براء بن خزیمہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی کو رجم فرمایا۔

(۲۲۲۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. (مسلم ۱۳۲۸۔ ابوداؤد ۴۴۴۸)

(۲۲۲۱۰) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی مرد اور خاتون کو رجم فرمایا۔

(۲۲۲۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. (مسلم ۱۳۲۶۔ ابوداؤد ۴۴۴۳)

(۲۲۲۱۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو یہودیوں کو رجم فرمایا۔ میں بھی اُن لوگوں میں سے ہوں

جنہوں نے ان کو رجم کیا تھا۔

(۲۲۲) شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ تَقْبَلُ أَمْ لَا ؟

شرابی آدمی کی گواہی قبول کریں گے کہ نہیں؟

(۲۲۲۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَ فِي الْخَمْرِ ،

فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.

(۲۲۲۱۲) حضرت کردوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان کو شراب کی وجہ سے حد لگائی گئی، پھر اُس نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے

پاس گواہی دی، انہوں نے اُس کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا؟ میں نے عرض کیا ہمارے نوجوانوں میں سے اچھا ہے۔ تو آپ

نے اُس کی گواہی کو قبول فرمایا۔

(۲۲۲۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ : إِنْ تَابَ فَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ.

(۲۲۲۱۳) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت ام موسیٰ کو تحریر فرمایا کہ شرابی اگر توبہ کر لے تو اُس کی گواہی قبول کر لو۔

(۲۲۲۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ .

(۲۲۲۱۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کی گواہی قبول فرمائی جس کو شراب کی وجہ سے حد لگائی گئی تھی۔

(۲۲۵) فِي شَهَادَةِ الْأَخْرِ لِأَخِيهِ

بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں

(۲۲۲۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ

الأخ لأخیه.

(۲۲۲۱۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں قبول فرمائی۔

(۲۲۲۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو فَيْضِلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خِصْمَةٌ ، فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لِأَخِيهِ وَأُمُّهُ عِنْدَ شَرِيحٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنْتَ أَخُوهُ ، قَالَ : فَهَلْ لَكَ مِنَ الَّذِي تَشْهَدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ لِخِصْمِهِ : فَبِأَيِّ شَيْءٍ أُرِدُ شَهَادَتَهُ ؟

(۲۲۲۱۷) حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محلہ کے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ان میں سے ایک کے لیے اس کے بھائی نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی، دوسرے شخص نے کہا کہ تو اُس کا بھائی ہے، حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ: کیا تیرے لئے کوئی چیز ہے اُس شخص سے کہ تو اُس پر گواہی دے؟ اُس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے خصم سے فرمایا پھر کس چیز کی وجہ سے تو اُس کی گواہی کو رد کر رہا ہے؟

(۲۲۲۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قَالَ : ادْنَى مَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ . (۲۲۲۱۷) حضرت شعبي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے قریبی رشتہ دار کہ جس کی گواہی جائز ہے وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے گواہی ہے۔

(۲۲۲۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ .

(۲۲۲۱۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں قبول (معتبر) سمجھتے تھے۔

(۲۲۲۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ عَثْمَانَ الْبَتِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : بِمِثْلِهِ .

(۲۲۲۱۹) حضرت شعبي رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۲۲۰) حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ ، عَنْ مِزَاحِمِ بْنِ أَبِي مِزَاحِمٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي يَزِيدٍ ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ :

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ .

(۲۲۲۲۰) حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھائی کی گواہی کو بھائی کے حق میں معتبر قرار دیا۔

(۲۲۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ .

(۲۲۲۲۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں معتبر سمجھتے تھے۔

(۲۲۲۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شَرِيحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا .

(۲۲۲۲۲) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر عادل ہو تو اُس کی گواہی بھائی کے حق میں معتبر ہے۔

(۲۲۲۲۳) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ شَرِيحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ

أَخٍ لِأَخِيهِ .

(۲۲۲۲۳) حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں قبول فرمائی۔

(۲۲۲۲۶) الرَّجُلُ يُحْلَفُ فَيَنْكُلُ عَنِ الْيَمِينِ

آدمی سے قسم اٹھوائی جائے وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے

(۲۲۲۲۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أُحْلِفُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَضَائِي .

(۲۲۲۲۳) حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے سامنے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا، اُس شخص نے عرض کیا کہ میں قسم اٹھا تا ہوں، حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا فیصلہ اب ہو چکا ہے۔

(۲۲۲۲۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ فَالْتَزَمَهَا ذَلِكَ .

(۲۲۲۲۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک خاتون سے قسم اٹھانے کا کہا، اُس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے وہ قسم اس کو لازم کر دی۔ (یعنی بغیر قسم کے اس کے حق فیصلہ نہیں کیا جائے گا)

(۲۲۲۲۶) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِشَمَانِيَّةٍ دِرْهَمًا ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ : عُثْمَانُ : بَعْنَهُ بِالْبِرَائَةِ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ عَلَيْهِ .

(۲۲۲۲۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آٹھ سو درہم کا ایک غلام فروخت فرمایا۔ مشتری نے اس میں عیب پایا، وہ جھگڑالے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ: آپ نے عیب سے بری ہو کر فروخت کیا تھا؟ انہوں نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلام اُن کو واپس لٹا دیا۔

(۲۲۲۲۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَابْنِ شُبْرَمَةَ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ غُلَامًا لِامْرِئٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ حَمَّ الْغُلَامُ ، فَجَاءَ لِيُرِدَ الْغُلَامَ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : بَيِّنْتُكَ أَنَّهُ ذَلَسَ لَكَ عَيْبًا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ ذَا دَاءٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْيَمِينَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ بِالْيَمِينِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنْ تَحْلِفَ وَإِلَّا جَاَزَ عَلَيْكَ الْغُلَامُ .

(۲۲۲۲۷) حضرت مغیرہ اور حضرت شبرمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ نے ایک غلام خریدا، جب اُس کو لے کر مکان پر پہنچے تو غلام کو بخار ہو گیا، وہ غلام کو واپس کرنے کے لئے لے کر آئے، جھگڑا حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ سے فرمایا: اس پر گواہ پیش کرو کہ اس نے تیرے سے غلام کے عیب کو چھپایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس گواہ نہیں ہیں،

حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے دوسرے شخص سے فرمایا: آپ قسم اٹھاؤ کہ آپ نے غلام بیماری کی حالت میں فروخت نہیں کیا۔ اُس شخص نے کہا کہ میں قسم کو عبد اللہ پر لٹاتا ہوں، حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے اُن پر قسم اٹھانے کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا: آپ قسم اٹھاؤ وگرنہ آپ پر غلام لازم ہو جائے گا۔

(۲۲۲۷) فِي الْقَاضِي يَأْخُذُ الرِّزْقَ

قاضی کا تنخواہ (اجرت) لینا

(۲۲۲۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَأْخُذُ عَلَيَّ الْقَضَاءَ أَجْرًا .
(۲۲۲۲۸) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قضاء پر اجرت لیتے تھے۔

(۲۲۲۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ الْقَضَاءَ أَجْرًا .
وَذَكَرَ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، أَوْ شَاءَ هَذَا مَعْنَاهُ .
(۲۲۲۲۹) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ قضاء پر اجرت نہیں لیتے تھے۔

(۲۲۲۳۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَيَّ الْقَضَاءَ أَجْرًا .

(۲۲۲۳۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قضاء پر اجرت لینے کو ناپسند کرتا ہوں۔

(۲۲۲۳۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلَا صَاحِبٍ مَعْنِهِمْ .

(۲۲۲۳۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے قاضی کے لئے اجرت لینا مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اُن کے مال غنیمت والے کے لئے۔

(۲۲۲۳۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِي رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

(۲۲۲۳۲) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ قاضی بیت المال سے اجرت وصول کرے۔

(۲۲۲۳۳) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَلَّغْنَا ، أَوْ قَالَ : بَلَّغَنِي ، أَنَّ عَلِيًّا رَزَقَ شَرِيحًا خَمْسِمِئَةً .

(۲۲۲۳۳) حضرت ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کی پانچ سو درہم اجرت (تنخواہ) مقرر فرمائی تھی۔

(۲۲۲۸) فی بیع الثمرۃ متى تباع؟

پھلوں کی بیع کا بیان (اُن کو کب فروخت کیا جائے گا؟)

(۲۲۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْعَمَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .

(۲۲۲۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پھلوں کی بیع سے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ پک کر کھانے کے قابل ہو جائیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب پک کر ظاہر ہو جائیں تو بیع جائز ہے۔

(۲۲۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ وَكَيْعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرَّبَا أَنْ تَبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مَعْصُفَةٌ لَمْ تَطْبُ .

(۲۲۲۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پکنے سے قبل پھلوں کی بیع کرنا سود ہے۔

(۲۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : لَا تُسَلِّمُ لِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَ ، أَوْ يَحْمَرَ ، وَلَا فِي فِرَاحِ زُرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرٌ حَتَّى يُسْبَلَ .

(۲۲۲۶) حضرت الاسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور میں بیع سلم مت کر یہاں تک کہ وہ زرد یا سرخ نہ ہو جائے، اور اسی طرح چھوٹی کھیتی میں، اس حال میں کہ وہ سرسبز ہو، یہاں تک کہ اُس کا پھول آجائے۔

(۲۲۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . (بخاری ۲۱۸۳ - مسلم ۱۱۶۷)

(۲۲۲۷) حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے قبل بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۲۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِعْبَرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ وَتَوَمَّنَ عَلَيْهِ الْآلَةُ .

(۲۲۲۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک کھجور کی گٹھلی سخت نہ ہو جائے اور وہ آفت سے محفوظ نہ ہو جائے اُس کی بیع نہیں کریں گے۔

(۲۲۲۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا .

(۲۲۲۹) حضرت خارجه بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پھلوں کے درخت کی بیع فرمادیتے تھے جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا تھا۔ (یہ اُس کے پکنے کی علامت ہوتی)

(۲۲۲۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . (مسلم ۸۶ - احمد ۳ / ۳۸۱)

(۲۲۲۶۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے پھلوں کو پکنے سے قبل بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۲۶۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ : لَا تَبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتَوْمَنَ عَلَيْهَا الْآفَةُ .

(۲۲۲۶۱) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھلوں کی بیع مت کرو یہاں تک کہ وہ نشوونما پالیں اور آفت سے محفوظ ہو جائیں۔

(۲۲۲۶۲) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، قِيلَ لَأَنَسٍ : وَمَا بَدُوَ صَلَاحُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ ، أَوْ تَصْفَرُّ . (بخاری ۲۱۹۸ - مسلم ۱۱۹۰)

(۲۲۲۶۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بدو صلاح سے قبل پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا بدو صلاح سے کیا مراد ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھل سرخ یا زرد ہو جائے۔

(۲۲۲۶۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يَبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ . (۲۲۲۶۳) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور جب تک سرخ یا زرد نہ ہو جائے اس کی بیع نہیں کی جائے گی۔

(۲۲۲۶۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَحْمَرَ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ . (۲۲۲۶۴) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کھجور کا بعض حصہ پک کر سرخ ہو جائے تو پھر اس کی بیع میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۲۶۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشِيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَتَى يَبَاعُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : إِذَا أَحْمَرَ ، أَوْ اصْفَرَ .

(۲۲۲۶۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ کھجور کی بیع کب کی جائے گی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ پک کر سرخ یا زرد ہو جائے۔

(۲۲۲۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثَّرِيَاءُ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثَّرِيَاءِ .

(عبد الرزاق ۱۳۳۱۶)

(۲۲۲۶۶) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ثابت فرماتے ہیں کہ جب تک ثریا ستارہ طلوع نہ ہو جائے پھلوں کو مت خریدو۔ حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک آفت بھی ثریا کے طلوع

ہونے کے بعد آتی ہے۔

(۲۲۲۴۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبْرِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ شِرَاءِ الثَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا .

(۲۲۲۴۷) ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پھلوں کی بیع کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے بَدُو صَلاَح سے قبل پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۲۴۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَ ، أَوْ يَصْفَرَ .

(۲۲۲۴۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک کھجور سرخ یا زرد نہ ہو جائے اُس کی بیع نہیں کی جائے گی۔
(۲۲۲۴۹) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا .

(۲۲۲۴۹) حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے عمال کو تحریر فرمایا کہ بَدُو صَلاَح سے قبل پھلوں کی بیع نہ کی جائے۔

(۲۲۲۵۰) حَدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقْرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ .

(ابوداؤد ۳۳۶۳ - احمد ۳۸۷ / ۲)

(۲۲۲۵۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ ہر عارض (آفت سے) محفوظ ہو جائیں۔

(۲۲۲۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا . (طبرانی ۷۵۹۲)

(۲۲۲۵۱) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بَدُو صَلاَح سے پہلے (پکنے سے قبل) پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۲۵۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَبَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، قَالُوا : وَمَا بَدُو صَلاَحُهَا ؟ قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ غَاثَتُهَا وَيَخْلُصَ طَيْبُهَا .

(۲۲۲۵۲) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بَدُو صَلاَح سے قبل پھلوں کی بیع مت کرو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بَدُو صَلاَح سے کیا مراد ہے؟ آپ رضی اللہ عنہم نے ارشاد فرمایا: یہاں تک کہ وہ آفت سے محفوظ ہو جائے اور

اُس کی خوشبو خالص اور کھری اور صاف ہو جائے۔

(۲۲۲۵۲) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . (مسلم ۵۶۔ احمد ۲/۲۶۲)

(۲۲۲۵۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی صلاح سے پہلے (پکنے سے قبل) پھلوں کی بیع سے منع

فرمایا ہے۔

(۲۲۹) الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ

آقا کا غلام یا باندی کا مال استعمال کرنا

(۲۲۲۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ .

(۲۲۲۵۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا اپنے مملوک کے مال میں سے جو چاہے لے سکتا ہے۔

(۲۲۲۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ السَّمَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : لَا

أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ .

(۲۲۲۵۵) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آقا غلام کے مال میں سے لے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اُس

کو احسان میں سے نہیں سمجھتا۔ (مناسب نہیں ہے)۔

(۲۲۲۵۶) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا : مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا

أَعْطَاهُمَا شَيْئًا .

(۲۲۲۵۶) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص

کا غلام خراج دیتا ہو یا باندی جس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہو اُس آقا کے لئے جائز نہیں ہے جو اُن کو عطا کیا ہے اُس میں سے کچھ

وصول کرے۔

(۲۳۰) الْقَاضِي يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ

قاضی کا مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا

(۲۲۲۵۷) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ

يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ .

(۲۲۲۵۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عمال کو تحریر فرمایا کہ قاضی فیصدہ کے لئے مسجد میں نہ بیٹھے اُس کے پاس مشرک بھی آئیں گے جبکہ وہ ناپاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾۔

(۲۲۲۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ .

(۲۲۲۵۸) حضرت ثنی بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت زرارہ بن اوفی رضی اللہ عنہ کو مسجد سے باہر کشادہ زمین پر فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا۔

(۲۲۲۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ .

(۲۲۲۵۹) حضرت عبدالرحمن بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا۔

(۲۲۲۶۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمَ مَطِيرٍ قَضَى فِي دَارِهِ .

(۲۲۲۶۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ بارش والے دن اپنے گھر میں فیصلے فرماتے۔

(۲۲۲۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ .

(۲۲۲۶۱) حضرت ابن ابوفنیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مسجد میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا۔

(۳۳۱) فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ يَشْهَدُ

یہودی، نصرانی اور غلام کی گواہی دینا

(۲۲۲۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، قَالَ : أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ ، فَاسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ رُدَّتْ وَهُمْ كَذَلِكَ .

(۲۲۲۶۲) حضرت زہری اور قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب، غلام اور بچہ گواہ ہوں پھر اہل کتاب مسلمان ہو جائے اور غلام آزاد ہو جائے اور بچہ بڑا ہو جائے تو اُن کی گواہی دینا درست ہے، ہاں اگر اُن کی پہلی والی حالت میں گواہی رد کر دی گئی ہو تو پھر جائز نہیں۔

(۲۲۲۶۳) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَرْدٌ ، ثُمَّ يَعْتَقُ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ .

(۲۲۲۶۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام اگر غلامی میں گواہی دے اور اُس کی گواہی رد کر دی جائے پھر وہ آزاد ہو جائے تو

پھر اُس کی گواہی (اُسی معاملہ میں جس میں پہلے رد کردی گئی تھی) درست نہیں ہے۔

(۲۲۲۶۴) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذَّمَمِيِّ إِذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا ، أَوْ أَسْلَمَ هَذَا : إِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا .

(۲۲۲۶۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام اور ذمی اگر گواہی دیں اور اُن کی گواہی رد کردی جائے پھر غلام آزاد ہو جائے اور ذمی مسلمان ہو جائے تو اُن کی گواہی درست ہے۔

(۲۲۲۶۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ .

(۲۲۲۶۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام گواہی دے اور اُس کی گواہی رد کردی جائے، پھر وہ آزاد ہو جائے، تو پھر اُس کی وہ گواہی معتبر نہیں، جبکہ حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اُس کی گواہی درست ہے۔

(۲۲۲۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ .

(۲۲۲۶۶) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ غلام اگر گواہی دے اور اُس کی گواہی رد کردی جائے پھر آزاد ہو جائے تو اُس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔

(۲۲۲۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ .

(۲۲۲۶۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام گواہی دے اور اُس کی گواہی رد کردی جائے پھر وہ آزاد ہو جائے تو اُس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔

(۲۲۲۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يَقِيمُوا حَتَّى يُعْتَقَ وَيَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ .

(۲۲۲۶۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی، نصرانی اور غلام کی گواہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی گواہی دی جس کو وہ قائم نہ کر سکے (یعنی دوہو گئی) یہاں تک کہ غلام آزاد ہو گیا اور یہودی اور نصرانی مسلمان ہو گئے تو ان کی گواہی جائز ہوگی تو اُن کی گواہی

درست ہے۔

(۲۳۲) فِي الْإِشْهَادِ يَشْهَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

نوٹس دیتے وقت دو یا زیادہ لوگوں کو گواہ بنایا جائے گا

(۲۳۲۶) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ سُرَّاقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لِأَهْلِ دُبُرِ طَلِيَا : إِنِّي أَمْتَكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تَحْرَبَ ، أَوْ تُكْسِرَ مَا لَمْ تُحَدِّثُوا ، أَوْ تُؤَوُّوا مُحَدِّثًا مَعِيْلَةً ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحَدْتُمْ ، أَوْ أَوَيْتُمْ مُحَدِّثًا مَعِيْلَةً ، فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْكُمْ الدِّمَةُ ، وَإِنَّ عَلَيَّكُمْ إِزْوَالَ الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ دِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعْرَةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ وَشُرْحَبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ وَقُضَاعِيُّ بْنُ عَامِرٍ وَكَتَبَ . (سعید بن منصور ۲۶۰۵)

(۲۳۲۶) حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دیر طلیا کے لوگوں کو لکھا کہ میں نے تمہارے خون، اموال اور عبادت گاہوں کو امان دی ہے کہ ان کو برباد نہ کیا جائے اور نہ توڑا جائے، جب تک کہ تم لوگ کوئی نیا کام نہ کیے جاو یا تم کسی قاتل کو ٹھکانہ دو، پس اگر تم نے کوئی کام کیا یا کسی قاتل کو ٹھکانہ دیا تو پھر میں تمہارے ذمہ سے بری ہوں، تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم مہمان کی تین دن مہمان نوازی کرو، بے شک ہم لشکر کی غلطی، لغزش سے بری ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت شرحبیل بن سہ رضی اللہ عنہ اور قضاعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے گواہی دی (گواہ بنے) اور اس کو لکھ لیا گیا۔

(۲۳۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْسَى ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَرَّ عَمْرٌو بْنُ النُّخَطَابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهَدُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ مَرَّ بَعْدَ فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتَكَ . وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ : شَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْدَمِ وَمُعَيْقِبٌ . وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَكَتَبَ . (۲۳۲۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے درمیان بیٹھا لکھ رہا تھا۔ اور وہ دو سے زیادہ گواہ بنا رہا تھا، پھر رضی اللہ عنہ نے اس کو منع فرمایا، پھر کچھ دیر بعد گزرے (تو وہ وہی کام کر رہا تھا) آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ شخص نے کہا: میں نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی نافرمانی۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صدقہ کے متعلق تھا، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت معقیب رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدقہ کے متعلق فلاں بن فلاں نے گواہی دی تھی۔ اور نے تحریر کیا۔

(۲۳۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجَلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَتَيْتِي امْرَأَةً بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الْإِذِيَّ أَعْتَقَ أَبُوهَا : هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، اشْتَرَى مِنْهُ فَنَاهُ دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمًا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْجَبْدِ وَالطَّيِّبِ وَالْحَسَنِ ، وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ التَّمَنَّ وَأَعْتَقَهُ لِرُؤُوسِهِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ ، فَشَهِدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَزِيَادٌ .

(۲۲۲۷۱) حضرت موسیٰ بن سالم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حجاج نے اہل علاقہ کو جلا وطن کیا، میرے پاس ایک خاتون کمتوب نہ کرائی، اُس کا خیال تھا کہ اُس کا والد آزاد کیا گیا ہے۔ (کہنے لگی) یہ وہ ہے جس کو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے فلان بن فلان سے خرید اُس نے ایک نوجوان سے دینار یاد رہم کے بدلے میں خرید پانچ سو درہم کے بدلے میں جو جید، عمدہ اور اچھے تھے۔ اور اُس کو ٹھہر بھی دے دیا، اور اُس کو اللہ کے لئے آزاد کر دیا، پھر کسی کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ولاء کے راستے کے۔ پس گواہی دی کہ بن عوام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عامر اور زیاد نے۔

(۲۲۲۷۲) الرَّجُلُ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ وَبِهَا عَيْبٌ

کوئی شخص سامان خریدے اور اس میں عیب ہو

(۲۲۲۷۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَّ بِهَا عَيْبٌ آخَرٌ ، قَالَ : أَبْطَلَ الْآخَرَ الْأَوَّلَ .

(۲۲۲۷۲) حضرت حفص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی باندی خریدے جس میں عیب ہو، اور مشتری کے پاس آ کر اس ایک اور عیب پیدا ہو جائے تو دوسرا عیب پہلے عیب کو باطل کر دے گا (اُس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے)۔

(۲۲۲۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا حَدَّثَكَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرَ الَّذِي دُلُّسَ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الدَّاءُ مِنْ نَمِيهِ .

(۲۲۲۷۳) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی نئی بیماری پیدا ہو جائے جو اُس کے علاوہ ہو جو اُس سے چھپائی گئی تو بیماری کی وجہ سے جتنے پیسے کم کیے جاتے ہیں وہ کم کر دے گا۔

(۲۲۲۷۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدَّ الدَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَادَّ عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ .

(۲۲۲۷۴) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیماری کو بیماری کے بدلے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر نیا عیب پیدا ہو جائے تو مشتری کے مال میں شمار ہوگا، اور بائع مشتری کو عیب کی قیمت واپس کرے گا۔

(۲۲۲۷۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ ، قَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ .

(۲۲۲۷۵) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مشتری کے مال میں سے شمار ہوگا اور بائع عیب کی قیمت واپس کرے گا۔

(۲۳۴) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِكَذَا وَكَذَا يَبِيعُهُ مَرَابِحَةً فَيَزِدَادُ

کوئی شخص اتنے اتنے کی چیز خریدے اور اُس کو پھر مَرَابِحَةً فروخت کرے، پس وہ زیادہ وصول کر لے
 (۲۳۲۷۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي يَسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ تَوْبٌ ، أَرَاهُ قَالَ : بُرْدٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : بَيْعُكُمْ ابْتِغَتْ ؟ أَرَاهُ قَالَ : هُوَ بِيْزَادَةٍ عَلَى
 نَمِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَذَبْتُ ، وَفِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْتِغَيْتَ بِكَذَا
 وَكَذَا بَدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقْ بِالْفَضْلِ . (ابو داؤد ۱۶۳)

(۲۳۲۷۶) حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ایک شخص ایک قوم کے پاس سے گذرا جن میں آپ ﷺ بھی
 تشریف فرما تھے، اُس کے پاس کپڑا تھا، جس کی قیمت اُس نے حقیقی قیمت سے زائد بتلائی، راوی کہتے ہیں کہ وہ چادر تھی۔ قوم
 کے لوگوں میں سے بعض نے اُس سے پوچھا: کتنے کا فروخت کر رہا ہے؟ میرا گمان ہے اُس نے قیمت سے زائد بتلایا۔ پھر اُس
 نے کہا کہ میں نے تھوٹ بولا ہے۔ اُن میں رسول اکرم ﷺ بھی موجود تھے۔ پھر وہ لونا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ!
 میں نے اِس کو اتنے اتنے کا فروخت کیا جتنے کا یہ تھا اُس کے علاوہ میں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو زیادہ وصول کیا ہے اُس کو
 مددہ کر دے۔

(۲۳۵) السَّلْمُ فِي اللَّحْمِ وَالرَّؤُوسِ

گوشت اور سری میں بیع سلم کرنا

(۲۳۲۷۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلْمَ فِي اللَّحْمِ .

(۲۳۲۷۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ گوشت میں بیع سلم کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۲۷۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلْمِ فِي الرَّؤُوسِ إِذَا أَرَاهُ قَدْرًا مَعْلُومًا .

(۲۳۲۷۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سریوں کی مقدار معلوم ہو تو بیع سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۲۷۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْقَلْبِيدِ نَسِيمَةً .

(۲۳۲۷۹) حضرت طاووس گوشت کی ادھار بیع اُس گوشت کے ساتھ (جس کو نمک لگا کر دھوپ میں خشک کیا گیا ہو) ناپسند
 سمجھتے تھے۔

(۲۳۲۸۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلْمِ

فِي اللَّحْمِ إِذَا كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْلَمُ .

(۲۲۲۸۰) حضرت عطاء بن یشیہ فرماتے ہیں کہ گوشت کی بیع مسلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اُس کی مقدار (حد) معلوم ہو۔

(۲۲۲۶) التَّجَارَةُ فِي السَّابِرِيِّ

سابری کپڑے کی بیع کا حکم

(۲۲۲۸۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالتَّجَارَةَ فِيهِمَا .

(۲۲۲۸۱) حضرت طاووس رضیم اور باریک کپڑے کے پہننے اور اُس کی خرید و فروخت کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۲۸۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَرْهَرَ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْخُمْرِ الرَّقَاقِ فَكَرِهَهَا .

(۲۲۲۸۲) میں نے ازہر کو عطاء سے باریک پردہ کی بیع کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا آپ یشیہ نے اُس کو ناپسند کیا۔

(۲۲۲۸۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الْحَرِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السَّابِرِيِّ .

(۲۲۲۸۳) حضرت عطاء بن یشیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سابری کپڑے (باریک کپڑے) سے بہتر ہے ریشم پہن لیا جائے۔

(۲۲۲۷) الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَعْتَقُهُ أَحَدُهُمَا

غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھر اُن میں سے ایک اُس کو آزاد کر دے

(۲۲۲۸۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّانِعِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتَقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ .

(۲۲۲۸۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھر اُن میں سے ایک اُس کو آزاد کر دے

فرماتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ باقی غلام کو بھی آزاد کرے (خرید کر) اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو غلام اپنی گردن کے بدلے میں کرے۔ پھر وہ دونوں اُس غلام کی ولاء میں شریک ہوں گے۔

(۲۲۲۸۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِينَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ

مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا .

(۲۲۲۸۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آزاد کرنے والا مالک اگر مالدار ہے تو ساتھی کے لئے قیمت کا ضامن ہوگا اور غلام

ولاء اُس کو ملے گی۔ اور اگر وہ غریب ہے تو غلام خود کوشش کرے گا (بقیہ قیمت کی) اور ولاء اُن دونوں کو ملے گی۔

(۲۲۲۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَائِظٍ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ .

(۲۲۲۸۶) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام دوسرے مالک کے لئے قیمت میں خود کوشش کرے گا، اور ولاء اُس کو ملے گی جس

نے اس کو آزاد کیا ہے۔

(۲۲۲۸۷) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إِذَا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ .

(۲۲۲۸۷) حضرت حماد سے مروی ہے کہ اگر غلام دو مالکوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک اُس کو آزاد کر دے تو غلام دوسرے کے لئے قیمت میں کوشش کرے گا اور ولاء دونوں کو ملے گی۔

(۲۲۲۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِلَّذِي أُعْتِقَ سَعَى الْعَبْدُ ، أَوْ لَمْ يَسَعْ .

(۲۲۲۸۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غلام قیمت میں کوشش کرے یا نہ کرے ولاء اُسی کو ملے گی جس نے آزاد کیا ہے۔

(۲۲۲۸۸) فِي الْحَبْسِ فِي الْكِفَالَةِ

کفالت میں کفیل کو قید کرنا

(۲۲۲۸۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ الْبَدِيِّ كَانَ يَقُومُ عَلَيَّ رَأْسِ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ فِي كِفَالَةِ لِرَجُلٍ كَفَّلَ لَهُ بِنَفْسِهِ .

(۲۲۲۸۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے حبیب کے بیٹے عبد اللہ کو ایک شخص کی کفالت میں جس کے لئے وہ کفیل بنس بنا تھا قید کر دیا تھا۔

(۲۲۲۹۰) فِي الرَّجُلِ يَقَاطِعُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرْبِ

کوئی شخص اپنے غلام سے علیحدگی اختیار کر لے اُس مال پر جو وہ مقرر حصہ ادا کرتا ہے

(۲۲۲۹۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْعَلَامُ فِي الضَّرْبِ فَاسْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ وَقَالَ حَمَادٌ : إِذَا أذن مَوْلَاهُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَفِي رَقَبَتِهِ .

(۲۲۲۹۰) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام ایسا ہو تو جو خراج کا مقرر حصہ ادا کرتا ہے وہ کوئی بیع کرے تو وہ معاملہ اُسی کی گردن پر ہے۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک نے اُس کو بیع کی اجازت دی ہے تو پھر آقا کی گردن میں ہے۔

(۲۲۲۹۱) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرْبِ ، فَقَدْ أذَنَ لَهُ .

(۲۲۲۹۱) حضرت حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک غلام سے مقررہ خراج پر علیحدگی اختیار کر لے تو یہ اُس کو بیع کی اجازت دینا ہے۔

(۲۴۰) فِی الْمَدْبَرِ مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟

مدبر کتنے مال سے آزاد شمار ہوگا

(۲۲۲۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : الْمَدْبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۲۹۳) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدبر ثلث مال میں سے آزاد شمار ہوگا۔

(۲۲۲۹۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : الْمَدْبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۲۹۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۲۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْمَدْبَرِ مِنَ الثَّلَاثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۲۹۴) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے مدبر کو ثلث مال میں سے آزاد شمار فرمایا۔

(۲۲۲۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَرْرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الثَّلَاثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : هُوَ فَارِغٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۲۹۵) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ثلث مال میں سے آزاد شمار ہوگا، اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جمع مال میں سے آزاد ہوگا۔

(۲۲۲۹۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمَدْبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۲۹۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدبر ثلث مال میں سے آزاد ہوگا۔

(۲۲۲۹۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَدْبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ . (عبدالرزاق ۱۶۶۵۷)

(۲۲۲۹۷) حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مدبر ثلث مال سے آزاد ہوگا۔

(۲۲۲۹۸) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمَدْبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۲۹۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدبر ثلث مال سے آزاد ہوگا۔

(۲۲۲۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمَدْبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۲۹۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۳۰۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۰۰) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدبر جمع مال سے آزاد ہوگا۔

(۲۲۳۰۱) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْمُدْبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۰۱) حضرت حماد سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۳۰۲) حَدَّثَنَا شاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ وَالنُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : الْمُدْبَّرُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۳۰۲) حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدبر ثلث مال سے آزاد ہوگا۔

(۲۲۳۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُدْبَّرُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۳۰۳) حضرت عامر سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۴۱) مَنْ قَالَ الْكُفْنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کفن جمع مال میں سے دیا جائے گا

(۲۲۳۰۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ مَهْجَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الْكُفَنِ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۳۰۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کفن جمع مال میں سے دیا جائے گا ثلث مال میں سے نہیں۔

(۲۲۳۰۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكُفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۰۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۳۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَمِنْ الثَّلَاثِ .

(۲۲۳۰۶) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ اگر مال زیادہ ہو تو پھر کفن جمع مال میں سے ہوگا اور اگر مال قلیل ہو تو ثلث مال میں سے ہوگا۔

(۲۲۳۰۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : الْكُفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۰۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد فرماتے ہیں کفن جمع مال میں سے ہوگا۔

(۲۲۳۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْكُفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۰۸) حضرت مجاہد سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۳۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصِيلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْكُفْنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَا مِنَ الثَّلَاثِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ .

(۲۲۳۰۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ کفن جمع مال میں سے دیا جائے گا۔ ثلث یا اس کے علاوہ سے نہیں۔

(۲۲۳۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ ، قَالَا : الْكُفْنُ مِنْ

جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۰) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کفن جمع مال میں سے دیا جائے گا۔

(۲۲۳۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيْبِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : الْكَفْنُ مِنَ الثَّلَاثِ .

وقال سعيد بن المسيب : من جميع المال .

(۲۲۳۱۱) حضرت خلاص فرماتے ہیں کہ کفن ثلاث مال سے دیا جائے گا۔ اور حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جمع مال میں

سے دیا جائے گا۔

(۲۲۳۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۱۲) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفن جمع مال میں سے دیا جائے گا۔

(۲۲۳۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۱۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفن جمع مال سے دیا جائے گا۔

(۲۲۳۱۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَيْسَى ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۱۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۳۱۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۱۵) حضرت ابو قلابہ سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۳۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيْبِهَا .

(۲۲۳۱۶) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ عورت کا کفن اس کے حصہ کے مال سے دیا جائے گا۔

(۲۲۳۱۷) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۱۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفن جمع مال میں سے دیا جائے گا۔

(۲۲۳۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

(۲۲۳۱۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے۔

(۲۲۳۱۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : تُكْفَنُ مِنَ الثَّلَاثِ .

(۲۲۳۱۹) حضرت خلاص فرماتے ہیں کہ کفن ثلاث مال سے دیا جائے گا۔

(۲۴۲) مَنْ قَالَ اللَّقِيطُ حُرٌّ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ راستہ میں پڑا ہوا نولود بچہ اگر ملے تو وہ آزاد شمار ہوگا

(۲۲۳۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرِ الْعَبْسِيِّ : أَنَّ رَجُلًا النُّقَطُ لِقِيطًا فَاتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَعْتَقَهُ .

(۲۳۳۲۰) حضرت زبیر سے مروی ہے کہ ایک شخص کو نومولود بچہ پڑا ہوا ملا وہ اُس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آیا آپ رضی اللہ عنہ نے اُس کو آزاد فرما دیا۔ (اُس کو غلام شمار نہیں فرمایا)

(۲۳۳۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدْتُ مَسْبُودًا فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ ، فَأَتَيْتَهُ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَرِضَاعُهُ عَلَيْنَا . (امام مالک ۱۹)

(۲۳۳۲۱) حضرت سنین ابو جمیلہ فرماتے ہیں مجھے ایک بچہ ملا۔ میرے واقف کار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: وہ آزاد ہے اور اُس کی ولایت تمہارے لئے ہے اور اُس کی پرورش ہمارے ذمہ ہے۔

(۲۳۳۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اللَّقَيْطِ ، قَالَ : زَيْتُهُ إِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ .

(۲۳۳۲۲) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر اٹھانے والے نے آزادی کی نیت کی ہو تو وہ آزاد ہے اور اگر غلامی کی نیت کی ہو تو وہ غلام ہے۔

(۲۳۳۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّقَيْطُ حُرٌّ . (۲۳۳۲۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نومولود بچہ اگر ملے تو وہ آزاد شمار ہوگا۔

(۲۳۳۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اللَّقَيْطُ حُرٌّ . (۲۳۳۲۴) حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(۲۳۳۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اللَّقَيْطُ لَا يُسْتَرْقَى . (۲۳۳۲۵) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہیں گرا ہوا بچہ ملے تو اس کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔

(۲۳۳۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اللَّقَيْطُ حُرٌّ . (۲۳۳۲۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نومولود بچہ اگر پڑا ہوا ملے تو وہ آزاد شمار ہوگا۔

(۲۳۳۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ لَقَيْطًا .

(۲۳۳۲۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نومولود بچہ جو پڑا ہوا ملا تھا اُس کو آزاد فرما دیا۔

(۲۳۳۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا عَنِ اللَّقَيْطِ ؟ فَقَالَا : هُوَ حُرٌّ . قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ .

(۲۳۳۲۸) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے نومولود بچہ جو پڑا ہوا ملے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے فرمایا وہ آزاد شمار ہوگا۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے پوچھا کہ یہ کس سے مروی ہے

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسن بصری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔

(۲۲۳۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهَلِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ تَيْمِيمِ بْنِ مُسَيْحٍ ،

قَالَ : خَرَجْتُ مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ ، فَوَجَدْتُ لَقِيطًا فَاتَيْتُ بِهِ عَيْتًا فَالْحَقَّهُ فِي مَائِهِ . (عبدالرزاق ۱۳۸۴۱)

(۲۲۳۲۹) حضرت تميم بن سح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا میری کوئی اولاد نہ تھی مجھے نومولود بچہ پڑا ہوا ملا۔ میں اُس کو حضرت

علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اُس کو محلہ والوں کے ساتھ ملا دیا۔

(۲۲۳۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :

هُمْ مَمْلُوكُونَ .

(۲۲۳۳۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غلام شمار ہوں گے۔

(۲۲۳۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ وَلَدًا زَانَاً الْحَقَّهُ عَلِيٌّ فِي مَائِهِ .

(۲۲۳۳۱) حضرت موسیٰ الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے راستہ میں ولد الزنا پڑا ہوا دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کو محلہ والوں کے

ساتھ ملا دیا۔

(۲۲۳۳۲) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ : أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ .

(۲۲۳۳۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو تحریر فرمایا: نومولود بچہ جو پڑا ہوا ملے وہ آزاد شمار ہوگا۔

(۲۴۳) فِي الْمَوَاصِفَةِ فِي الْبَيْعِ

غیر موجود چیز کی صرف صفت اور کیفیت بیان کر کے فروخت کرنا

(۲۲۳۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُوكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ

بِالسَّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ .

(۲۲۳۳۳) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی سامان کا وصف بیان کر کے اُس کو فروخت کرے جو اُس

کے پاس نہیں ہے۔

(۲۲۳۳۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمَوَاصِفَةَ .

(۲۲۳۳۴) حضرت حسن رضی اللہ عنہ وصف بیان کر کے بیع کرنے کو ناپسند کرتے تھے جبکہ چیز غیر موجود ہو۔

(۲۲۳۳۵) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَرِهَهَا .

(۲۲۳۳۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس بیع کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۳۳۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرَيْتَ هَذَا الْبَيْعَ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَكَّرِيهِ .

(۲۲۳۳۶) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ ایک شخص یوں کہتا ہے: تو اس بیع کو خرید لے میں اس کو خریدوں گا تجھ سے۔ (تو ایسا کرنا کیسا ہے؟) آپ رضی اللہ عنہما نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۲۲۳۳۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْمَوْزِيَةِ يَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَيَقُولُ : اشْتَرِيهِ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْكَ ؟ فَكَّرِيهِ ، وَقَالَ : هَذِهِ الْمَوَاصِفَةُ .

(۲۲۳۳۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ رشیم کاریٹ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رشیم میرے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے: اس کو خرید لے یہاں تک کہ میں اس کو تجھ سے خرید لوں گا؟ آپ نے اس بیع کو ناپسند فرمایا اور فرمایا یہ بیع مواصفہ ہے۔

(۲۲۳۳۸) حَدَّثَنَا عَائِدَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرِهِ بِأَسَا .

(۲۲۳۳۸) حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما اس بیع میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۲۳۳۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُوسِ : الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِي السَّلْعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدِي فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِي مِنْكَ ، وَلَوْ لَا مَكَانَهُ مَا اشْتَرَيْتَهَا ؟ فَكَّرِيهِ طَاوُوسٌ .

(۲۲۳۳۹) حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے دریافت کیا: ایک شخص نے مجھ سے ایسے سامان کی قیمت لگائی جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے اس کو خرید لے میں تجھ سے خرید لوں گا۔ اور اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں اس کو نہ خریدتا؟ حضرت طاؤس نے اس بیع کو ناپسند فرمایا۔

(۲۲۳۴۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِي هَذَا الْبُرَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَكَّرِيهِ .

(۲۲۳۴۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے یوں کہے: تو اس کپڑے کو خرید لے میں اس کو تجھ سے خرید لوں گا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما نے اس بیع کو ناپسند فرمایا۔

(۲۴۴) بِيَعِ اللَّبْنِ فِي الضَّرْوِعِ

تھنوں میں دودھ کی بیع کرنا

(۲۲۳۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَبْتَاعُوا الصُّوفاَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلَا اللَّبْنَ فِي الضَّرْوِعِ .

(۲۲۳۳۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں بھیر کی پشت پر اون کی بیع مت کرو (یعنی پہلے اس کو اتار لو) اور تھنوں میں دودھ کی بیع مت کرو۔

(۲۲۳۳۲) حَدَّثَنَا مُلَاذِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زُفَرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْوِعِ ؟ فَتَهَايَ عَنْهُ .

(۲۲۳۳۲) حضرت یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تھنوں میں موجود دودھ کی خریداری کے متعلق دریافت کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اس سے منع فرمایا۔

(۲۲۳۳۳) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَصْعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ .

(۲۲۳۳۳) حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جانوروں کے پیٹ میں موجود بچہ کی بیع سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور تھنوں میں موجود دودھ کی بیع سے منع فرمایا مگر وزن کر کے۔

(۲۲۳۳۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَارُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضَّرْوِعِ إِلَّا كَيْلًا .

(۲۲۳۳۴) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ تھنوں میں موجود دودھ کی بیع کو ناپسند سمجھتے تھے جب تک ان کو نکال کر کیل نہ کر لیا جائے۔

(۲۲۳۳۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضَّرْوِعِ الشَّاءِ .

(۲۲۳۳۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہ بکری کے تھنوں میں موجود دودھ کو خریدنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۳۳۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقَبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الْبَنَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، ثُمَّ يَبْتَاعُونَهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَصْلُحُ إِلَّا بَدَا بَيْدٍ .

(۲۲۳۳۶) حضرت وہب بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے اس قوم کے مقررہ دنوں تک کے دودھ کو خرید کر اس کو آگے فروخت کر دیتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیع تب ہی درست ہوگی جب ہاتھوں ہاتھ ہو۔

(۲۲۳۳۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قُرُوحٍ الْقَتَّابِ ، سَمِعَهُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبْنٍ . (ابوداؤد ۱۸۳ - دارقطنی ۳۵)

(۲۲۳۳۷) حضرت عکرمہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے تھنوں میں دودھ کی بیع اور دودھ میں گھی کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۳۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّبْنَ فِي ضَرْعِ الشَّاءِ .

(۲۲۳۳۸) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بکری کے تھنوں میں موجود دودھ کی بیع کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۲۳۳۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارُوسِ

وَمُجَاهِدٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضَّرْوَعِ.

(۲۲۳۴۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما، حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم میں دودھ کی بیع کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۴۵) فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

امام عادل (عادل بادشاہ) کا بیان

(۲۲۳۵۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْمُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلاَفِ بَابٍ، لَا يَسْكُنُهُ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ.

(۲۲۳۵۰) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔ اُس کے ارد گرد محل میں ہے اور بزرگ ہے، اُس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اُس میں نبی، صدیق، شہید اور عادل بادشاہ کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔

(۲۲۳۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقْمِهِنَّ إِلَّا مَنَافِقٌ بَيْنَ نِفَاقِهِ: إِمَامٌ مُقْسِطٌ، وَمُعَلَّمٌ الْخَيْرِ، وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ. (طبرانی ۷۸۱۹)

(۲۲۳۵۱) حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگوں کے حق کی ادائیگی میں استخفاف صرف کھلامناق ہی کر سکتا ہے۔ ایک امام عادل، دوسرا بھلائی کا درس دینے والا (استاد) اور تیسرے وہ جو اسلام کی حالت میں بوزھا ہو گیا ہو۔

(۲۲۳۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ بِسِتِّينَ سَنَةً.

(۲۲۳۵۲) حضرت قیس بن عباد سے مروی ہے عادل بادشاہ کا ایک دن کا عمل تمہارے ساٹھ سال کے عمل سے بہتر ہے۔

(۲۲۳۵۳) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

(۲۲۳۵۳) حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ کے احترام اور اکرام میں سے ہے، بوزھے مسلمان کا احترام کرنا، اور اُس حال قرآن کا احترام جو حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو اور اُس کی تلاوت کو ترک کرنے والا بھی نہ ہو اور عادل بادشاہ کا اکرام کرنا۔

(۲۲۳۵۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَيْنِيُّ، عَنْ سَعْدِ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي مُدَلَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تَرُدُّ دَعْوَتَهُ.

(ابن ماجہ ۱۷۵۲۔ احمد ۲/۳۰۴)

(۲۲۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔

(۲۴۶) الرَّجُلُ يَحْفِرُ الْبِنْرِ فِي دَارِهِ

کوئی شخص اپنے گھر میں کنواں کھود لے

(۲۲۳۵۵) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُعِيبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا فِي دَارِهِمْ حُشًا أَوْ حَمَامًا ، قَالَ : يَمْلِكُهُمْ يَصْنَعُونَ فِيهِ مَا شَاءُوا .

(۲۲۳۵۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو اپنے گھروں میں باغ اور حمام بنانا چاہتے ہوں کہ ”یہ جگہ ان کی ملک ہے وہ اس میں جو چاہے کر سکتے ہیں“۔

(۲۲۳۵۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَسْوَعٍ : أَنَّهُ سَدَّ بِنْرًا حَفَرَهَا جَارُهُ خَلْفَ حَائِطِهِ .

(۲۲۳۵۶) حضرت ابن اسوع نے وہ کنواں بند کر دیا جس کو ان کے پڑوسی نے ان کی دیوار کے پیچھے کھود دیا تھا۔

(۲۲۳۵۷) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ أَبَا .

(۲۲۳۵۷) حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کے گھر کی دیوار کے بارے میں فرمایا: (تمہاری دیوار ہے) اگر صاحب دار چاہے تو اس میں ایک دروازہ بنا سکتا ہے۔

(۲۲۳۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصَارُوا فِي الْحَفْرِ . (ابوداؤد ۳۰۸ - بیہقی ۱۵۶)

(۲۲۳۵۸) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کنواں کھود کر ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ۔

(۲۴۷) فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ إِنْ فَارَقْتَ غَرِيْبِي فَأَنْتَ حُرٌّ

کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے: اگر تو میرے قرض خواہ سے علیحدہ ہو تو، تو آزاد ہے

(۲۲۳۵۹) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : الزَّمْ فَلَانًا فَإِنْ فَارَقْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ فَارَقْتَهُ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ فَأَجَازَ عَقْبَهُ ، قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى ذَلِكَ .

(۲۲۳۵۹) حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا، فلاں کے ساتھ رہ اور اگر تو اس سے جدا ہو گیا تو آزاد ہے، غلام نے کہا گواہ رہو میں اس سے جدا ہو گیا تھا۔ معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو اس وقت مکہ کے امیر تھے۔ آپ نے اس کی آزادی کا فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا: حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

(۲۳۳۶۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا يَعْتَقُ .
(۲۳۳۶۰) حضرت یحییٰ بن سعید ڑھنڈی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے وہ غلام آزاد نہ ہوگا۔

(۲۴۸) الرَّجُلُ يَدْعِي شَهَادَةَ الْقَاضِيِ أَوْ الْوَالِيِ

اگر کوئی شخص (مدعی یا مدعی علیہ) قاضی سے گواہی دینے کا مطالبہ کریں

(۲۳۳۶۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ وَبْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ادَّعِيَا شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ : إِنْ شِئْتُمَا شَهِدْتُمْ وَلَمْ أَقْضِ
بَيْنَكُمَا ، وَإِنْ شِئْتُمَا قَضَيْتُمْ وَلَمْ أَشْهَدْ .

(۲۳۳۶۱) حضرت ضحاک سے مروی ہے کہ دو آدمی اپنا جھگڑا حضرت عمر ڑھنڈی کی خدمت میں لے کر گئے، دونوں نے اُن سے گواہی کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر ڑھنڈی نے اُن سے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں گواہی دیتا ہوں مگر پھر میں فیصلہ نہیں کروں گا، اور اگر تم چاہو کہ میں فیصلہ کروں تو پھر میں گواہی نہیں دوں گا۔

(۲۳۳۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَاتَتْهُ بِشَاهِدٍ ،
قَالَ : انْتَبِئِي بِشَاهِدٍ آخَرَ ، قَالَتْ : أَنْتَ شَاهِدِي ، فَاسْتَحْلَفَهَا وَقَضَى لَهَا .

(۲۳۳۶۲) حضرت عبدالاعلیٰ سے مروی ہے کہ ایک خاتون حضرت شریح ڑھنڈی کے پاس ایک گواہ لے کر حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا ایک گواہ اور لاؤ۔ عورت نے کہا آپ میرے گواہ ہیں۔ آپ نے اُس خاتون سے قسم لی اور اُس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

(۲۳۳۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا
وَشَاهِدًا .

(۲۳۳۶۳) حضرت شعبی ڑھنڈی فرماتے ہیں کہ میں دونوں کو اکٹھا نہیں کرتا کہ میں قاضی بھی بنوں اور گواہ بھی۔

(۲۳۳۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ ابْنِ شُرْمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَاشْهَدَ عَلَيْهِ
شَاهِدَيْنِ ، فَاسْتَقْضَى أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ ، فَجَاءَ
الْآخَرَ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ : أَنْتَ تَشْهَدُ لِي ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَنْتِ الْأَمِيرَةُ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ . (بیہقی ۱۰)

(۲۳۳۶۴) حضرت شعبی ڑھنڈی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کا مال دوسرے کے ذمہ تھا۔ اُس نے دو گواہ پیش کر دیئے۔ پھر دو گواہوں میں سے ایک سے فیصلہ کروانا چاہا؟ پھر دوسرا شخص آیا اُس کے ساتھ ایک گواہ تھا، اُس نے حضرت شریح ڑھنڈی سے کہا: آپ میرے حق میں گواہی دیں، حضرت شریح ڑھنڈی نے فرمایا: امیر کو بلا کر لاؤ۔ تاکہ میں گواہی دے سکوں (یعنی پھر میں قاضی یا فیصلہ نہیں بنوں گا)

(۲۴۹) فِي شِرَاءِ تَرَابِ الصَّوَاغِينِ

زرگروں کی مٹی کی بیع کا بیان

(۲۲۳۶۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَرَابَ الصَّوَاغِينَ ، يَعْنِي : شِرَاءَهُ .

(۲۲۳۶۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (زرگر کی مٹی) کی بیع کو ناپسند سمجھتے تھے۔

(۲۳۳۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ تَرَابِ الصَّوَاغِينَ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى تَرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتَرَابِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ .

(۲۳۳۶۶) حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ زرگر کی مٹی کی بیع کو ناپسند سمجھتے تھے۔ مگر یہ کہ سونے کی مٹی کو چاندی کے ساتھ اور چاندی کی مٹی کو سونے کے ساتھ فروخت کیا جائے۔

(۲۳۳۶۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ تَرَابِ الصَّوَاغِينَ ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْمَعْرُوضِ .

(۲۳۳۶۷) حضرت محمد بن ابوجعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہما سے زرگر کی مٹی کے خریدنے سے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے اس کی بیع کو ناپسند فرمایا اور فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے والد اس کو سامنے کے بدلے فروخت کرتے تھے۔ (بیع کرتے تھے)

(۲۳۳۶۸) حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى تَرَابُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتَرَابُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ .

(۲۳۳۶۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، سونے کی مٹی کی بیع چاندی کے ساتھ اور چاندی کی مٹی کی سونے کے ساتھ بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۵۰) رَجُلٌ يَبِيعُ الطَّعَامَ ، عَلِيٌّ مِنْ يَكُونُ أَجْرَ الْكَيْيَالِ؟

کوئی شخص کھانا (گندم) خریدے، تو کیل کرنے والے کی اجرت کس پر ہوگی

(۲۳۳۶۹) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ، عَنْ بَرْدَانَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ : كُنْتُ بَعْتُ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجْرَ الْكَيْيَالِ ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَعْطِيهِ أَنْتَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْكَ .

(۲۳۳۶۹) حضرت بردان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو گندم فروخت کی اس شخص نے کیل کرنے والے کی اجرت خود سے

دی، میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا اجرت تم ادا کرو، بے شک اُس کی ادائیگی تم پر ہے۔

(۲۵۱) جعل الآبیق

بھگوڑے غلام کی مزدوری

(۲۲۳۷۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِيقِ يُوَجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمًا .

(۲۲۳۷۰) حضرت ابن ابی ملیکہ اور حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بھاگے ہوئے غلام کے بارے میں جو کہ حرم سے باہر پکڑا جائے ایک دینار یا دس درہم کا فیصلہ فرمایا ہے۔

(۲۲۳۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا بَعْرَيْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .

(۲۲۳۷۱) حضرت ابو عمرو الشیبانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک شخص کو بھگوڑا غلام عین التمر میں ملا، وہ اُس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس میں چالیس درہم متعین کیے۔

(۲۲۳۷۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِيقِ دِينَارًا ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .

(۲۲۳۷۲) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھگوڑے غلام کی مزدوری ایک دینار یا بارہ درہم بنائے۔

(۲۲۳۷۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَثَلَّةٌ .

(۲۲۳۷۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۳۷۴) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِيقِ إِذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةٍ ثَلَاثَ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرٍ .

(۲۲۳۷۴) حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اُس بھگوڑے غلام کی مزدوری جس کو تین دن کی مسافت سے پکڑا ہو تین دینار ہیں۔

(۲۲۳۷۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْغَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِيقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .

(۲۲۳۷۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھگوڑے غلام کی مزدوری کے بارے میں چالیس درہم کا فیصلہ کیا۔

(۲۲۳۷۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُرَيْسٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ

بِجْعَلِ الْآبِقِ .

(۲۳۳۷۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھگوڑے غلام کو پکڑنے کی مزدوری دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۳۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ .

(۲۳۳۷۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان (بھگوڑے غلام کو پکڑ کر) مسلمان کو واپس لوٹا دے گا۔

(۲۳۳۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أُعْطِيَتِ الْجُعْلُ لِي زَمَنٍ مَعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .

(۲۳۳۷۸) حضرت ابواسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نے چالیس درہم مزدوری دی۔

(۲۳۳۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ

عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ فَعَشْرَةٌ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ فَارْبَعُونَ دِرْهَمًا .

(۲۳۳۷۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام شہر کے اندر پکڑا جائے تو دس درہم اور اگر شہر سے باہر پکڑا جائے تو چالیس

درہم مزدوری ہے۔

(۲۳۳۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْآبِقِ : يُؤْخَذُ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ .

(۲۳۳۸۰) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھگوڑا غلام اگر پکڑا جائے، تو مسلمان بغیر مزدوری کے مسلمان کو واپس کر دے۔

(۲۳۳۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا جِيَءَ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا .

(۲۳۳۸۱) حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی ﷺ بھاگے ہوئے غلام کی مزدوری جب کہ

وہ خارج حرم سے پکڑا کر لایا گیا ہو تو ایک دینار مقرر کی ہے۔

(۲۳۳۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ : أَتَجْعَلُ فِي الْآبِقِ :

قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لَا .

(۲۳۳۸۲) حضرت عبدالکریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: کیا آپ بھگوڑے غلام کی

مزدوری دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا اور آزادی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔

(۲۳۳۸۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ لُدَّ

يُعْطَى جُعْلًا فَلْيُرْسَلْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ .

(۲۳۳۸۳) حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اُس کو پکڑنے کی مزدوری نہ دے تو اُس کو جہاں سے پکڑا ہے وہیں پر چھوڑ آؤ۔

(۲۵۲) فی الوالی والقاضی یرہدی الیهما

قاضی اور والی کا ہدیہ وصول کرنا

(۲۲۳۸۴) حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْقَاضِي إِذَا أَخَذَ هَدِيَّةً ، فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتِ ، وَإِذَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ .

(۲۲۳۸۳) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قاضی اگر ہدیہ وصول کرے تو اس نے حرام کھایا اور اگر وہ رشوت لے تو کفر تک پہنچ گیا۔
(۲۲۳۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : حَظَبَ عَلِيُّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فَقَالَ : مَا أَصَبْتُ بِهَا مِنْدُ دَخَلَتْهَا إِلَّا هَلْدَةٌ ، أَهْدَاهَا إِلَيَّ دِهْقَانٌ .

(۲۲۳۸۵) حضرت معاذ بن العلاء اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں خطبہ دیا اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جب سے ظلیفہ بنا ہوں مجھے صرف یہ ایک ہدیہ ملا ہے جو مجھے ایک دہقان نے بھیجا ہے۔

(۲۲۳۸۶) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : أَهْدَى الْأَصْبَهَنِيُّ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَ يُهْدِي لَكَ وَأَنْتَ بِالْعَجِيزَةِ فَاقْبَلْهَا مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاحْسِبْهَا لَهُ مِنْ خَوَاجِهِ .

(۲۲۳۸۶) حضرت یوسف بن مہاجر سے مروی ہے کہ لشکر کے قائد نے عبدالحمید کو چالیس ہزار یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ ہدیہ بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو تحریر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا: اگر آپ کو ہدیہ اُس وقت ملا ہے جب جزیرہ میں تھے تو پھر قبول کرو، وگرنہ میں اس کو اُس کی طرف سے خراج شمار کروں گا۔

(۲۲۳۸۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقَالُ : الرِّشْوَةُ لِي الْحُكْمِ سُحْتٌ .

(۲۲۳۸۷) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رشوت کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔

(۲۲۳۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا كُلُّهُمَا النَّاسُ : الرِّشَا ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ .

(۲۲۳۸۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرام کے دو دروازے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، ایک رشوت اور زانیہ کے مہر کی کمائی۔

(۲۲۳۸۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ : الرِّشَا .

(۲۲۳۸۹) حضرت عبداللہ بن عمرو بن مرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ

سے حرام کے متعلق دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ رشوت ہے۔

(۲۲۳۹۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : هَدَايَا الْأَمْرَاءِ غُلُولٌ .

(۲۲۳۹۰) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امراء کے ہدایا خیانت ہیں۔

(۲۲۳۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : سَيْلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَدَايَا الْأَمْرَاءِ

فَقَالَ : هِيَ فِي نَفْسِي غُلُولٌ .

(۲۲۳۹۱) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے امراء کے ہدایا کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ میرے خیال میں

خیانت ہے۔

(۲۲۳۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هِيَ سُحْتٌ .

(۲۲۳۹۲) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔

(۲۲۳۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقٍ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اذْفَعُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : وَلِمَ اذْفَعُ إِلَيْهِ رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَأَنْصَرَفَ إِلَيَّ مَنْزِلُهُ وَأَمَّ يَدْفَعُهُمْ

فَبَاتَ لَيْلَتَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ ، فَذَفَعَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا بَدَا لَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُنِي فِيمَا يَرَى

النَّائِمُ كَأَنِّي إِلَى نَارِ أَهْوَى إِلَيْهَا ، فَأَخَذْتُ بِحُجْرَتِي فَمَنْعْتَنِي مِنْ دُخُولِهَا ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّقِيقُ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُمْ لَكَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَيَّ مَنْزِلُهُ قَامَ يُصَلِّي فَرَأَاهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَقَالَ : لِمَنْ تُصَلُّونَ

فَقَالُوا : لِلَّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ .

(۲۲۳۹۳) حضرت شقیق سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمن سے غلاموں

لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: یہ غلام کو دے دو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے غلام ان کو کیوں دے دوں؟ پھر

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور غلاموں کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں لے کر گئے۔ انہوں نے رات گزار کر

پھر جب اگلی صبح ہوئی تو انہوں نے غلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دیئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا: آپ رضی اللہ عنہ پر کیا ظاہر

ہوئی جو آپ نے ایسا کیا؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے خود کو خواب میں دیکھا کہ آگ میرے قریب ہے اور میں اس میں

دھکیلا جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے مجھے ازار بند کی جگہ سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچالیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب ان غلاموں کی وجہ

سے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: یہ سب غلام تمہارے ہیں۔ پھر جب حضرت معاذ گھر تشریف لائے تو نماز پڑھنے کے

لئے کھڑے ہوئے، غلاموں کو دیکھا کہ وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کس کے لئے نماز

پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے لئے، حضرت معاذ نے فرمایا: جاؤ تم اللہ کے لئے آزاد ہو۔

(۲۲۳۹۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ النَّبِيِّ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّهِمْ أُمُورًا وَمَا وَلَائُهَا اللَّهُ ، فَيَجِيءُ أَحَدُكُمْ لِيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِي إِلَيَّ ، أَفَلَا يَجْلِسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هِدْيَةٌ إِنْ كَانَ صَادِقًا . (بخاری ۱۵۰۰ - مسلم ۱۳۶۳)

(۲۳۳۹۳) حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن العتبیہ کو بنی سلیم کے صدقات پر عامل بنایا۔ جب وہ آئے تو کہا یہ تمہارے لئے ہے اور یہ میرے لئے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء فرمائی اور پھر فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ان کو کسی کام کا والی (مگر ان) بنایا جاتا ہے ان امور میں سے جن کا اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ: یہ تمہارے لئے ہے اور یہ میرے لئے ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتا کہ یہ ہدیہ اس کے پاس وہیں آجائے؟

(۲۳۳۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَلْدَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِطًا ، فَمَا قَوْلُهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذًا وَكَذًا ، قَالَ : فَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ . مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى . (مسلم ۳۰ - ابوداؤد ۳۵۷۶)

(۲۳۳۹۵) حضرت عدی بن عمیرہ الکندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے کسی کو کسی کام پر عامل مقرر کیا جائے پھر وہ اس میں سے سوئی یا اس سے زائد کچھ چھپالے۔ تو یہ خیانت ہے جو بروز قیامت سامنے لائی جائے گی۔ انصار میں سے ایک سیاہ شخص اس حال میں کھڑا ہوا گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے جو کام مجھے سونپا تھا اس کو واپس لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے آپ کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس طرح اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اب اس کو پھر کہتا ہوں۔ تم میں سے کسی کو کسی کام پر عامل مقرر کر دیا جائے اس کو چاہیے کہ اس کے تھوڑے اور زیادہ کو ہمارے پاس لائے۔ جو اس میں سے دیا جائے اس کو لے لے اور جس سے روکا جائے اس سے منع ہو جائے۔

(۲۳۳۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّلَاطِي ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ : ضَبْعَةُ بْنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بْنُ ضَبْعَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أُهْدِي إِلَيْكَ فِي عَمَلِي أَشْيَاءَ وَقَدْ أَتَيْتُكَ بِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا أَكَلْتُهَا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَتَيْتُكَ بِهَا ، فَقبَضَهَا عَلِيٌّ وَقَالَ : لَوْ حَبَسْتَهَا كَانَ غُلُولًا .

(۲۲۳۹۶) حضرت علی ابن ربیعہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنو اسد میں سے ایک شخص کو عامل بنایا۔ جس کا نام ضبیعہ بن زہیر یا زہیر بن ضبیعہ تھا، جب وہ واپس آیا تو کہا: اے امیر المؤمنین! مجھے کافی ہدیے دیئے گئے۔ میں وہ سب آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر تو وہ میرے لئے حلال ہیں تو میں اُس سے کھالوں۔ وگرنہ میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس سے لے لئے اور فرمایا: اگر تو اُن کو اپنے پاس رکھتا تو یہ خیانت ہوتی۔

(۲۲۳۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ ثُوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا .

(احمد ۵/۲۷۹ - بزار ۱۳۵۳)

(۲۲۳۹۷) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان کے مابین جو معاونت کا ذریعہ بنے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔

(۲۲۳۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ .

(ترمذی ۱۳۷ - ابوداؤد ۳۵۷۵)

(۲۲۳۹۸) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

(۲۲۳۹۹) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهَدُوا لَهُ قَرْدَةً وَقَالَ : هُوَ سُحْتٌ .

(۲۲۳۹۹) حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ﷺ نے حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیجا تو انہوں نے اُن کو ہدیے دیئے۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ واپس کر دیئے اور فرمایا یہ حرام ہے۔

(۲۲۴۰۰) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُؤُ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّ لَنَا هَذَا يَأْكُلُونَا .

(۲۲۴۰۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق والوں کو لکھا: ہمارے چوبدریوں اور زمینداروں کے ہدایا ہمارے لیے ہیں (یعنی ہمیں بھیجو اور خود اپنے پاس مت رکھو)۔

(۲۲۴۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَعَنَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ .

(۲۲۴۰۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت کی گئی ہے۔

(۲۵۲) فَبِی الرَّجُلِ یَهْدِی إِلَى الرَّجُلِ أَوْ یُبْعَثُ إِلَیْهِ

کوئی شخص کسی کو ہدیہ دے یا اُس کی طرف ہدیہ بھیجے

(۲۲۶.۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حُدَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُلْقَمَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَقَيَّفٌ ، فَأَهْدُوا إِلَيْهِ هَدِيَّةً ، فَقَالَ : هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ قَالُوا : هَدِيَّةٌ ، قَالَ : إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطَلَّبُ بِهَا وَجْهَ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ يُسْتَعَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ، قَالُوا : لَا ، بَلْ هَدِيَّةٌ ، فَاقْبَلْهَا مِنْهُمْ ، وَشَغَلُوهُ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّاهَا مَعَ الْعَصْرِ .

(نسائی ۶۵۹۳۔ ابو عیید ۱۷۷۰)

(۲۲۳۰۴) حضرت عبدالرحمن بن علقمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں ثقیف کا وفد حاضر ہوا۔ انہوں نے کچھ ہدیہ آپ ﷺ کو دیا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ انہوں نے عرض کیا ہدیہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک ہدیہ سے اللہ کے رسول کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے اور حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اور صدقہ سے اللہ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں یہ ہدیہ ہی ہے۔ آپ ﷺ نے اُن سے قبول فرمایا۔ اور انہوں نے حضور کو ظہر کے تمام وقت مشغول رکھا (یعنی پاس بیٹھے رہے) یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھا۔

(۲۲۶.۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُشِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا . (بخاری ۲۵۸۵۔ ابو داؤد ۳۵۳۰)

(۲۲۳۰۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ ہدیہ قبول فرماتے اور اُس سے بدلہ میں دیتے۔

(۲۲۶.۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْدِ لِمَنْ لَا يَهْدِي لَكَ ، وَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ .

(۲۲۳۰۳) حضرت ایوب بن ميسره سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اُس شخص کو ہدیہ دو جو تمہیں ہدیہ نہیں دیتا۔ اور اُس کی عیادت کرو جو تمہاری عیادت نہیں کرتا۔

(۲۲۶.۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا آتَى الْمَدِينَةَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، قَالَ : إِنِّي لَا أَكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ آتَاهُ مِنَ الْعِدِّ بِمِثْلِهَا فَقَالَ : مَا هَذَا؟ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا . (ترمذی ۲۱۔ حاکم ۱۶)

(۲۲۳۰۵) حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدینہ حاضر ہوئے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں

ایک پلیٹ میں ہدیہ لے کر حاضر ہوئے، اُس کو آپ ﷺ کے سامنے رکھا، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب پر صدقہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں صدقہ نہیں کھاتا۔ انہوں نے وہ ہدیہ اٹھوایا (یعنی واپس کر دیا) پھر اگلے دن اسی طرح لے کر آئے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا آپ ﷺ کے لئے ہدیہ ہے۔ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کھاؤ۔

(۲۳۵.۶) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِيهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَإِنَّمَا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِنَّمَا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلَا مُشْرِفٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا تَتَّبِعُهُ نَفْسُكَ . (بخاری ۱۳۷۳ - مسلم ۷۴۳)

(۲۳۳۰۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے مجھے کچھ عطا فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو عطاء فرمادیں۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم لے لو، یا تم اس کو جمع کرتے جاؤ یا پھر اس کو صدقہ کر دو۔ جو مال تم کو بغیر سوال کیے اور بنا طلب مل جائے تو اس کو لے لیا کرو اور جو بنا مانگے نہ ملے تو اس کے پیچھے مت پڑا کرو۔

(۲۳۴.۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أُرْسِلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَرَدَدْتَهُ ، فَلَمَّا جِئْتَهُ بِهِ ، قَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكَ ، قَالَ : قُلْتُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَلَّا تَأْخُذَ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَ اللَّهُ .

(۲۳۳۰۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے میرے لئے کچھ مال بھیجا جو میں نے واپس کر دیا۔ پھر جب میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: جو مال میں نے تمہارے طرف بھیجا تھا اُس کو واپس کرنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا: تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ تم لوگوں سے کچھ مت لینا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ اُس وقت ہے جب تم خود لوگوں سے سوال کرو۔ جو تمہارے پاس بغیر سوال کے آئے وہ اللہ کا عطاء کردہ رزق ہے جو اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔

(۲۳۴.۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ : أَنَّ الْأَسْوَدَ أَهْدَى إِلَى شُرَيْحٍ نَاقَةً فَقَبِلَهَا .

(۲۳۳۰۸) حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کو ایک اونٹنی ہدیہ دی جو انہوں نے قبول فرمائی۔

(۲۳۴.۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ شُرَيْحًا أَهْدَى لِلْأَسْوَدِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَحْوَكُ أَمْكَرَمَكَ ، أَرَى أَنْ تَقْبِلَهَا ، فَقَبِلَهَا .

(۲۲۳۰۹) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے حضرت اسود رضی اللہ عنہ کو اونٹنی ہدیہ دی۔ انہوں نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے اُس کے متعلق دریافت فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے بھائی نے تمہارا اکرام کیا ہے میرے خیال میں تم قبول کر لو۔ حضرت اسود نے وہ قبول فرمایا۔

(۲۲۴۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: رَبَّمَا أَهْدَى أَبُو الْهَيْثِمِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْجَمَلَةَ مِنَ الْقَصَبِ فَيَقْبُلُهَا. (۲۲۳۱۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابوالہیثم حضرت ابراہیم کمانے/بائس کی لکڑی کا گٹھ ہدیہ میں دیتے جن کو وہ قبول فرمالتے۔

(۲۲۴۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: أَهْدَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ طِلَاءً، فَكَانَ حُلُومًا، فَنَبَذَهُ. (۲۲۳۱۱) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو ایک شیرہ ہدیہ دیا گیا جو کہ میٹھا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اُس کو پھینک (گرا) دیا۔

(۲۲۴۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوا تَذْهَبِ السَّخِيمَةُ، تَصَافِحُوا يَذْهَبِ الْغُلُّ.

(۲۲۳۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہدیہ دیا کرو اس سے حسد ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپس میں مصافحہ کیا کرو اس سے کینہ اور بغض ختم ہوتا ہے۔

(۲۲۴۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ يُسَيْرٍ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَوْيسًا الْقُرَيْبِيَّ عَرَى فُكْسَاهُ أَبِي، فَقَبِلَهُ.

(۲۲۳۱۳) حضرت قیس بن یسیر بن عمرو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی بے لباس تھے، میرے والد نے اُن کو کپڑے ہدیہ دیئے۔ انہوں نے قبول فرمالیے۔

(۲۲۴۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْزَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ: سَهْمِ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ تِجَارَةٍ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ إِعْطَاءٍ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ، أَوْ مِيرَاثٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

(۲۲۳۱۴) حضرت محمد بن واسع الازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار صورتوں کے علاوہ مال حلال نہیں ہے۔ مسلمانوں کی غنیمت کا مال یا حلال تجارت ہو، یا کوئی مسلمان بھائی ہدیہ دے، یا اللہ کی کتاب کے مطابق میراث کا حصہ ہو۔

(۲۲۴۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَالًا، أَحَدُهُمَا أَخٌ مُسْلِمٍ، وَالْآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلْطَانِ، مِنْ أَيِّهِمَا يَقْبَلُ؟ قَالَ: مِنَ الْقَرَابَةِ.

(۲۲۳۱۵) حضرت مجاہد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو دو آدمی مال دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسلمان بھائی ہے اور دوسرا بادشاہ کا رشتہ دار، وہ کس کا قبول کرے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رشتہ دار سے۔

(۲۲۴۱۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صَلَاتَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَلْيَنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْنِيًا عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ .

(۲۲۴۱۶) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو تمہارا کوئی بھائی ہدیہ دے تو اس کے ہدیہ کو قبول کر لو۔ پھر اگر وہ محتاج ہو تو اس کو خرچ کرے۔ اور اگر وہ مستغنی ہے (مال دار ہے) تو کسی ضرورت مند کو دے دے۔ (اس پر خرچ کر دے)

(۲۲۴۱۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : وَلَدَّتْ امْرَأَةٌ لِلْمَسِيبِ غُلَامًا ، فَاشْتَرَى لَهُ خَيْمَةً ظَنَرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ .

(۲۲۴۱۷) حضرت امش سے مروی ہے کہ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے بچہ جنا۔ حضرت خیمہ نے اُن کے لئے ایک دایہ اور اگر مجھے پائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔

(۲۲۴۱۸) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِيسِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ . (بخاری ۲۵۶۸ - احمد ۳۷۹/۲)

(۲۲۴۱۸) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہدیہ کو رد نہ کرو اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، اور مسلمانوں کو مت مارو۔

(۲۲۴۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَهْدَى إِلَيَّ ذِرَاعَ لَقَبْلَتِهِ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ .

(۲۲۴۱۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے ایک ذراع (کپڑا) ہدیہ دیا جائے تو میں اُس کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اور اگر مجھے پائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔

(۲۲۴۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ كُرَاعًا فَأَقْبَلُوهُ .

(۲۲۴۲۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ کے لئے سوال کرے اُس کو عطاء کرو۔ اور جو تمہیں بکری کی پنڈلی بھی ہدیہ دے اُس کو قبول کرو۔

(۲۲۴۲۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَقَالَ : لِأَصْحَابِيهِ : كُلُوا . (احمد ۳۳۸/۵ - طبرانی ۶۱۵۵)

(۲۲۴۲۱) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں پلیٹ میں ہدیہ لے کر حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کھاؤ۔

(۲۲۴۲۲) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ

الشَّيْءُ الْهُدْيَةُ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاجَةِ. (طبرانی ۲۹۰۳)

(۲۲۳۲۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بہترین چیز۔ بوقت ضرورت ہدیہ کرنا ہے۔

(۲۵۴) الرَّجُلُ يَصَانِعُ عَنِ نَفْسِهِ

آدمی کا اپنے آپ کو بچانے کے لئے رشوت وغیرہ دینا

(۲۲۴۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : لَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَنَا شَيْئًا أَنْفَعَنَا مِنْ الرَّشَا.

(۲۲۳۲۳) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں ہم اس زمانے میں اپنے لئے کوئی چیز رشوت سے زیادہ نفع مند نہیں سمجھتے۔

(۲۲۴۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خَلَى سَبِيلَهُ.

(۲۲۳۲۳) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب حبشہ تشریف لائے تو ان کو کسی معاملہ میں (تاق) پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے دو دینار دیئے۔ یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔

(۲۲۴۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلْ مَالَكَ جُنَّةً دُونَ دِينِكَ ، وَلَا تَجْعَلْ دِينَكَ جُنَّةً دُونَ مَالِكَ.

(۲۲۳۲۵) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے مال کو اپنے دین کے لیے اوپر ڈھال بناؤ۔ اور اپنے دین کو مال کے لیے ڈھال نہ بناؤ۔

(۲۲۴۲۶) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ.

(۲۲۳۲۶) حضرت جابر بن زید اور حضرت شعبي رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو اپنے نفس اور مال پر ظلم کا خوف ہو تو جان بچانے کے لئے کچھ پیسے دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۴۲۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۳۲۷) حضرت حسن سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۴۲۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا يَصُونُ بِهِ عَرَضَهُ.

(۲۲۳۲۸) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لئے اگر اپنے مال میں سے کچھ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۵۵) أَكَلِ الرَّبَا وَمَا جَاءَ فِيهِ

سود کی حرمت کا بیان

(۲۲۴۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَكَلِ الرَّبَا وَمُؤْكَلُهُ سَوَاءٌ .

(۲۲۴۲۹) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سود کھانے والا اور کھلانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

(۲۲۴۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، قَالَ : لَأَنْ أَرَى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكَلِ دِرْهَمٍ رَبًّا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتَهُ وَهُوَ رَبًّا . (احمد ۵ / ۲۲۵)

(۲۲۴۳۰) حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تینتیس بار زنا کروں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں سود کا ایک درہم کھاؤں۔ جب میں وہ سود کھاتا ہوں تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں۔

(۲۲۴۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَكَلِ الرَّبَا وَمُؤْكَلُهُ سَوَاءٌ ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَائِسَةُ وَالْمُسْتَوِشِمَةُ لِلْحَسَنِ ، وَلَا وَى الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۲۲۴۳۱) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سود خور اور سود کھلانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اور سودی معاملات لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا جب وہ اُس کے بارے میں جانتے ہوں، اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی اور گودوانے والی خاتون اور صدقہ کو غلط استعمال کرنے والا۔ اور اعرابیوں میں سے جو ہجرت کے بعد مرتد ہوا اُس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے۔

(۲۲۴۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عُلِّقَتْ عَلَيْكُمْ أَبْوَابُ الرَّبَا فَأَنْتُمْ تَلْتَمِسُونَ مَحَارِبَ مَهَا .

(۲۲۴۳۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں تم پر سود کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں۔ پس تم لوگ اُس کی حرمت کو چاہتے ہو۔ (طلب کرتے ہو۔)

(۲۲۴۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لِيُنْ أَكَلِ الرَّبَا وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ .

(۲۲۴۳۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اُس کے

معاملات لکھنے والے پر اور گواہوں پر لعنت کی گئی ہے۔

(۲۲۴۲۴) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَرْثَةَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌ: فَلَا تَلَانَ يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُنَّ لَنَا أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالرَّبَابَا.

(ابن ماجہ ۲۴۲۷۔ حاکم ۳۰۳)

(۲۲۴۳۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کو اگر رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے بیان فرمادیتے تو یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ میرے لئے پسندیدہ ہوتا، ایک خلافت دوسری کلالہ (یعنی ایسی میت کہ جس کی نسا اولاد ہو اور نہ ہی والدین) اور تیسری چیز ہے سود۔

(۲۲۴۳۵) حَدَّثَنَا وَرْكَعٌ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا، عَنْ عَلْمِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهْوَى بِإصْبَعِهِ إِلَى أذُنِهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرُغَى حَوْلَ الْجَمِيِّ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

(بخاری ۵۲۔ مسلم ۱۲۲۰)

(۲۲۴۳۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کو خطبہ دیتے ہوئے سنا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں داخل کی ہوئیں تھیں، فرمایا میں نے نبی اکرم ﷺ سے (ان کانوں سے خود) سنا آپ ﷺ نے فرمایا: حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جو شخص مشتبہات سے بچ گیا اُس نے اپنے دین اور عزت کو صاف اور بری کر دیا۔ اور جو شخص مشتبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑا، جیسے چرواہا اگر چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرائے تو وہ کبھی نہ کبھی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اُس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سو وہ انسان کا دل ہے۔

(۲۲۴۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لِدِرْهُمْ رَبًّا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ سِتِّ وَتَلَايِينِ زَنْبِيَّةٍ.

(۲۲۴۳۶) حضرت علی رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔

(۲۲۴۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الرَّبَابَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرَّبَابَا اسْتَطَالَةُ الرَّجُلِ فِي

عَرَضِ أَحْيِهِ. (بخاری ۲۳۹)

(۲۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سود کے ستر گناہ ہیں، ان میں سب سے کم درجہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا (نکاح) کرے اور بڑا سودیہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی آبرو میں دست درازی کرے۔

(۲۳۳۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ أَهْلِ نَجْرَانَ فَوَجَدْتُ فِيهِ إِنَّ أَكَلْتُمُ الرِّبَا فَلَا صَلَاحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصَالِحُ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا .

(۲۳۳۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے اہل نجران کے مکتوب میں پڑھا اُس میں لکھا تھا، اگر تم لوگ سود کھاؤ گے تو تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی صلح نہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سود خوروں کے ساتھ صلح نہیں فرماتے تھے۔

(۲۳۳۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ قَالَ : يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُحْنَقُ . (ابن جریر ۱۰۲)

(۲۳۳۹) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی آیت ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اُن لوگوں کو قیامت کے دن مجنون اٹھایا جائے گا اور ان کا گلا گھونٹا جائے گا۔

(۲۳۴۰) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ . (بخاری ۲۰۸۶)

(۲۳۴۰) حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خود اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

(۲۳۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ وَدَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَعَلَّهَا لَا تَصْلِحُ لَكُمْ ، وَنَنْهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ لَعَلَّهَا تَصْلِحُ لَكُمْ ، وَإِنَّ آخِرَ مَا عَهَدَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَاتُ الرِّبَا ، فَقَبِضْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبِينْهُنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيْبَةُ ، فَدَعُوا مَا يَرِيحُكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيحُكُمْ .

فكان الشعبي إذا سئل عن الشيء قال : إنما هو الرِّبَا والرِّيْبَةُ ، فَدَعُوا الرِّبَا وَالْمَرِيْبَاتِ . (احمد ۱/۳۶)

(۲۳۴۱) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا: بے شک میں تمہیں کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہوں شاید کہ وہ تمہارے لئے فائدہ مند نہیں ہیں اور تمہیں کچھ چیزوں سے روکتا ہوں شاید کہ وہ تمہارے لئے فائدہ مند ہیں، بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عہد ہم سے لیا وہ آیت رب پر تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے اور ہمیں اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائیں۔ بے شک یہ سود بھی ہے اور مشکوک بھی۔ لہذا مشکوک شے کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار کرو۔ حضرت شعیب کسی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود اور مشکوک بھی ہے، لہذا سود اور مشک میں میں ڈالنے

والی اشیاء کو چھوڑ دو۔

(۲۲۴۴۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِمْسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَقَدْ خِفْتُ أَنْ نَكُونَ قَدْ زِدْنَا فِي الرُّبَا عَشْرَةَ أَضْعَافِهِ مَخَافَةً .

(۲۲۴۴۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہم کہیں سود سے بچتے بچتے اس میں مزید س گناہ آگے نہ نکل جائیں۔

(۲۲۴۴۳) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى غَلَامٍ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، فَلِحَقِّ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَ حَتَّى صَارَتْ عِشْرِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ كَانَ يُقَارِفُ الرُّبَا ، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ .

(۲۲۴۴۳) حضرت عبد اللہ بن یزید انصاری نے اپنے غلام کو چار ہزار درہم دے کر بھیجا، وہ اصحمان گیا اور اُس نے تجارت کی یہاں تک کہ اُس کے پاس بیس ہزار درہم ہو گئے، پھر وہ غلام فوت ہو گیا، حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ وہ غلام تجارت میں سود کی آمیزش کرتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے صرف چار ہزار واپس لئے اور باقی پیسے چھوڑ دیئے، نہیں لئے۔

(۲۲۴۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الرُّبَا بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشَّرْكَ مِثْلُ ذَلِكَ .

(۲۲۴۴۴) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں اور شرک بھی اسی کے مثل ہے۔

(۲۵۶) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الرَّجُلِ الْحَدَّ أَوْ الْأَرْضَ

کوئی شخص کسی کی زمین چرائے

(۲۲۴۴۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَعْلى يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كَلَّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمُحْشَرِ .

(احمد ۴/۱۷۲ - ابن حبان ۵۱۶۴)

(۲۲۴۴۵) حضرت یحییٰ بن ابی زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لے تو اُس کو قیامت کے دن اُس زمین کی ساری مٹی اٹھانے پر مجبور کیا جائے گا۔

(۲۲۴۴۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَطْوِقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ .

(بخاری ۳۱۹۸ - مسلم ۱۴۳۱)

(۲۲۴۴۶) حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: کوئی شخص زمین کا ایک کترا

ناحق لے لے، اُس کو قیامت کے دن سات زمینوں کے برابر کر کے اُس کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔

(۲۲۴۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْرِدُ أَرْضًا يَكُونُ لَهُ تَوْبَةٌ مَا وَجَدَ أَرْضًا يَحْفَرُهَا .

(۲۲۴۴۷) حضرت ابو عمرو الشیبانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ بے شک نہیں ہے کوئی شخص جو کوئی زمین چرائے اُس کے لئے توبہ ہوگی، نہیں پائی کوئی زمین جو اُس کے لئے کھودی جائے۔

(۲۲۴۴۸) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْ أَرْضِينَ . (مسلم ۴۳۔ احمد ۲/۳۸۸)

(۲۲۴۴۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ناحق زمین کا ٹکڑا لے لے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا اُس کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔

(۲۲۴۴۹) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَاتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ .

(بخاری ۱۷۔ احمد ۱/۱۱۸)

(۲۲۴۴۹) حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ راز کی باتیں بتائی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ میں آگئے اور فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسی کوئی سرگوشی نہیں فرمائی جس کو لوگوں سے چھپایا ہو، سوائے اس کے کہ مجھے چار کلمات سکھائے ہیں، اُس نے عرض کی کیا وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس پر اللہ کی لعنت جو والدین پر لعنت کرے، اور اُس پر اللہ کی لعنت جو غیر اللہ کے نام پر رزق کرے، اُس پر اللہ کی لعنت جو فسادی کو ٹھکانہ دے، اور اُس پر اللہ کی لعنت جو زمین کی ملکیت کو تبدیل کر دے۔

(۲۲۴۵۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَايَةَ بْنِ يَسَّارٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْظَمُ الْعُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَالْبَجَارَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَرْضُ فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَيَطْوِقُهُ مِنْ سَبْ أَرْضِينَ . (احمد ۳۳۱۔ طبرانی ۳۴۶۳)

(۲۲۴۵۰) حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے نزدیک قیامت کے دن

سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوگا کہ کسی شخص کی کچھ زمین دوسرا چرالے، اور دو پڑوسیوں کے درمیان زمین مشترک ہو اور ان میں سے ایک ساتھی کی زمین پر قبضہ کر لے، پس ایسے شخص کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

(۲۲۴۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً : مَنْ مِنْ أَهْلِ لَيْعٍ اللَّهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَمَنْ عَقَى وَالِدَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِهِ فِي أَرْضِهِ .

(۲۲۴۵۱) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے چار آدمیوں پر لعنت فرمائی، جو غیر اللہ کے نام پر قربانی کرے، جو فسادی کو ٹھکانہ دے، جو والدین کی نافرمانی کرے، اور جو منار کو چوری کرے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ منار سے کیا مراد ہے؟ جو اپنے بھائی کی زمین لے کر اپنی زمین میں شامل کر لے۔

(۲۲۴۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَطَوَّقَتْهُ ذَوَاتُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحْمِلْهُ .

(۲۲۴۵۲) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جو شخص ناحق زمین پر قبضہ کر لے تو قیامت کے دن ماکان زمین اس کو طوق پہنا میں گے، جس کو وہ اٹھانہ سکے گا۔

(۲۲۴۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ كَرِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَضَ شَيْئًا مِنْ تَحْوِمِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ .

(احمد ۱/ ۲۱۷۔ ابن حبان ۳۴۱۷)

(۲۲۴۵۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اُس پر لعنت ہے جو بغیر حق کے زمین کی گھاس وغیرہ میں سے کچھ کمی کر دے۔

(۲۵۷) مَنْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

اس شخص کے بیان میں جو اس بات کا قائل ہے کہ مسلمان اپنی طے شدہ شروط کے مطابق

معاملات کریں گے

(۲۲۴۵۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ . (ترمذی ۱۳۵۲۔ ابوداؤد ۳۵۸۹)

(۲۲۴۵۴) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمان اپنی شروط کے مطابق معاملہ کریں گے۔

(۲۲۴۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَبَّاحٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ

يَقُولُ: الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ.

(۲۳۳۵۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی شرط کے موافق معاملہ کرے گا۔

(۲۳۳۵۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ اللَّهُ .

(۲۳۳۵۶) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی شرط کے موافق معاملہ کرے گا جب تک کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔

(۲۳۳۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ ، سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ .

(۲۳۳۵۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لئے اپنی شرط پر عمل کرنا ضروری ہے۔

(۲۳۳۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بَيْعَتْ عَلَى شَرْطٍ أَنْ لَا تَبَاعَ ، قَالَ : ابْنُكَ عَلَى شَرْطِهَا .

(۲۳۳۵۸) حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت شعبی رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آئی اور عرض کیا: میری بیٹی نے اس شرط پر بیع کی ہے کہ اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا، آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی اپنی شرط پر ہے۔ (اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے۔)

(۲۳۳۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نَسِيبِ بْنِ ذَعْلُوقِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدِ الْأَشْجَعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَاسْتَنْشَى الْبَائِعُ جِلْدَهُ فَبَرِيءَ الْبَعِيرُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَمْرٍو فَأَرْسَلَهُمَا إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ عَلِيٌّ : يَقُومُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ فَيَكُونُ لَهُ شُرُوقٌ جِلْدِهِ .

(۲۳۳۵۹) حضرت عمرو بن راشد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی سے اونٹ خرید اوہ اونٹ بیمار تھا، بائع نے اونٹ کی کھال کا استثناء کر دیا، پھر اونٹ بعد میں ٹھیک ہو گیا، وہ دونوں اپنا جھڑا لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان دونوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہما کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: بازار میں اونٹ کی قیمت لگائی جائے اور اس کو کھال کی مثل دیا جائے۔

(۲۳۳۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَهُ شُرُوهَا .

(۲۳۳۶۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔

(۲۳۳۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : شَرَوْى الرَّأْسِ .

(۲۳۳۶۱) حضرت زید سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کسی کو اونٹ فروخت کیا اور سری کی شرط لگا دی، آپ نے فرمایا اس کو سری کے مثل دیا جائے گا۔

(۲۳۳۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا مَرِيضًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ

وَمَسْكُهُ ، فَبِرَاءِ الْبَيْعِ فَلَمْ يَنْحَرَّهُ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَعْطَاهُ شُرَوَاهُ ، فَذَكَرْتَهُ لِعَامِرٍ فَقَالَ : قَضَى عَلَيَّ وَشُرَيْحٌ بِالشَّرْوَى .

(۲۲۳۶۲) حضرت محمد ﷺ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو بیمار اونٹ فروخت کیا اور اُس کی سری اور کھال کی شرط لگا دی (مستثنیٰ کر دیا) اونٹ ٹھیک ہو گیا اور اُس شخص نے اُس کو ذبح نہ کیا، حضرت شرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس کو اُس کا مثل دیا جائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت شرت رضی اللہ عنہ دونوں نے مثل کا فیصلہ فرمایا ہے۔

(۲۲۴۶۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ .

(۲۲۳۶۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: مسلمان اپنی شرطوں کے موافق معاملہ کرتے ہیں۔

(۲۲۴۶۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو ،

قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ مَقَاتِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْوَطِ .

(۲۲۳۶۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: حقوق کا خاتمہ شرط کے موافق ہونا چاہیے۔

(۲۵۸) الدَّجَشُ فِي الْبَيْعِ

خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور چیز کی قیمت کو ویسے ہی بڑھانا تاکہ لالچ میں آ کر دوسرا اُس کو خرید لے

(۲۲۴۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا .

(بخاری ۴۰۸۔ احمد ۵۰۱/۲)

(۲۲۳۶۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا بڑھ چڑھ بولی نہ لگاؤ (جب کہ خریدنا نہ ہو)

آپس میں بغض نہ رکھو، اور آپس میں حسد مت کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔

(۲۲۴۶۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتَهُ يَقُولُ :

النَّاجِشُ أَكَلُ الرَّبَا حَائِنٌ .

(۲۲۳۶۶) حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر قیمت بڑھانے والا سود خور اور خائن ہے۔

(۲۲۴۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَثَلَهُ .

(۲۲۳۶۷) ابن ابی اوفی سے اس طرح مروی ہے۔

(۲۲۴۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا. (بخاری ۲۳۳۰- مسلم ۵۱)

(۲۳۳۶۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو قیمت کو مت بڑھاؤ۔
(۲۳۳۶۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَهَاجِرٍ ، أَنَّ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : النَّجَشُ لَا يَحِلُّ .
(۲۳۳۶۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ کسی کی قیمت پر قیمت لگانا جائز نہیں ہے۔

(۲۵۹) من كره أكل ربح مالٍ يضمن

جو حضرات ربح مالِ يضمن کے تناول کرنے کو ناپسند کرتے ہیں یعنی ایسے سامان کو فروخت کرنا جو اس نے خریدا تو ہو لیکن اُس پر قبضہ نہ کیا ہو تو ایسی بیع درست نہیں ہے اور ایسا نفع حلال نہیں ہے
(۲۳۳۷۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْكِي : حَدَّثَنِي حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابُ الرِّبَا ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ شَيْءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانَةٌ .
(۲۳۳۷۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے عرض کیا کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جس میں آپ نے میرے لیے ربا کی اقسام کو جمع کیا ہے۔ جو آپ نے میرے لئے جمع کی ہو، آپ نے فرمایا کسی ایسی چیز کے نفع کو ہرگز مت کھانا جس کے نقصان کا تو ضامن نہ ہو۔

(۲۳۳۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَابَ بْنَ أَبِي سَيْدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ : تَدْرِي إِلَى أَيِّنَ بَعَثْتُكَ ؟ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَّهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .
(ابوداؤد ۳۳۹۸- نسائی ۶۲۲۷)

(۲۳۳۷۱) حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا اور فرمایا: تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کہاں بھیجا ہے؟ میں نے تمہیں اللہ والوں کے پاس بھیجا ہے، پھر فرمایا اُن کو چار چیزوں سے منع کرنا، بیع اور قرض سے، ایک بیع میں دو شرطیں لگانے سے، اور اس شے کے نفع کو استعمال کرنے سے جس کے نقصان کا بھی وہ ضامن نہ ہو یعنی جب تک نفع و نقصان دونوں میں شرکت نہ ہو تو نفع بھی استعمال نہیں کر سکتے) سے اور اُس چیز کی بیع سے جو پاس نہ ہو۔

(۲۳۳۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةَ نَهَاهُمْ ، عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ .

(۲۳۳۷۲) حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ اُن کے دادا جب تجارت کا سامان بھیجتے تو اُن کو منع کرتے بیع اور قرض سے،

ایک بیع میں دو شرطیں لگانے سے، اور اس شے کے نفع کو استعمال کرنے سے جس کے نقصان کا بھی وہ ضامن نہ ہو یعنی جب تک نفع و نقصان دونوں میں شرکت نہ ہو تو نفع بھی استعمال نہیں کر سکتے)۔

(۲۶۰) مَنْ رَخَّصَ فِي الْعَيْنَةِ

جنہوں نے ادھار زیادہ قیمت پر بیچنے کی اجازت دی ہے

(۲۲۴۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْفُعْفَاعِ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتَسَلَفَ حَرِيرًا فِي غَرْمٍ أَصَابَهُمْ .

(۲۲۴۷۳) حضرت جابر بن زید نے ریشم ادھار لیا۔ اس تاوان کے بدلہ میں جو ان کو پہنچا۔

(۲۲۴۷۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْعَيْنَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصَّحَةِ .

(۲۲۴۷۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ادھار بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر صحت کی شرائط پوری ہوں۔

(۲۲۴۷۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ بِالْعَيْنَةِ .

(۲۲۴۷۵) حضرت ابراہیم، حضرت شعبی اور حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ ادھار مہنگا بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۴۷۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْعَيْنَةِ ؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مَتَاعَهُ إِلَى السُّوقِ ، فَيَبِّعُ بِالنَّقْدِ وَيَبِّعُ بِالنَّسِيئَةِ .

(۲۲۴۷۶) حضرت ابن سیرین سے بیع عینہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا جب آدمی اپنا سامان بازار میں لے کر جاتا ہے، تو وہ کچھ سامان نقد فروخت کرتا ہے اور کچھ سامان ادھار۔

(۲۲۴۷۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ عَبِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَضَعُهُ ، فَإِنْ وَجَدَ رَبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رَبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ .

(۲۲۴۷۷) حضرت ابن سیرین سے ریشم کی بیع (ادھار) کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: جب آدمی سامان فروخت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سامان رکھتا ہے پھر اگر اس کو نفع نقد مل رہا ہو تو بھی فروخت کر دیتا ہے اور نفع ادھار میں مل رہا ہو پھر بھی فروخت کر دیتا ہے۔

(۲۲۴۷۸) حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْجَنْطَةَ وَالزَّيْتِ وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ ذَلِكَ ، أَوْ عَرَفْتَهُ فَاشْتَرَيْتَهُ ، ثُمَّ أَيْعُهُ أَيَّاهُ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

(۲۲۴۷۸) حضرت افلح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت کیا کہ: ایک شخص مجھ سے گندم اور زیتون طلب کرتا ہے

اور میرے پاس یہ دونوں نہیں ہیں لیکن میں ان کا بھاد جانتا ہوں اور ان کے متعلق جانتا ہوں میں خرید لیتا ہوں پھر میں اسی کو ایک مدت کے بعد فروخت کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔

(۲۶۱) الرَّهْنُ فِي الْعَيْنَةِ

ادھار بیع میں رہن رکھنا

(۲۳۴۷۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خُذْ رَهْنًا فِي الْعَيْنَةِ .

(۲۳۴۷۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ادھار بیع میں رہن طلب کرو۔

(۲۳۴۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ حُوَيْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعَيْنَةِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۳۴۸۰) حضرت شعبی سے بیع عینہ میں رہن کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۴۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَرْزُوقِ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الرَّهْنِ فِي الْعَيْنَةِ : تَوَفَّى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَعُهُ مَرْمُونَةٌ .

(۲۳۴۸۱) حضرت ابراہیم بیع عینہ میں رہن کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے اس حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ

رہن رکھی ہوئی تھی۔

(۲۳۴۸۲) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۳۴۸۲) حضرت ضحاک اس کو ناپسند کرتے ہیں۔

(۲۶۲) بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَيَبِعُ الْأَجَامِ

پانی میں مچھلی کی بیع کرنا، اور جھاڑیوں کی بیع کرنا

(۲۳۴۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنِ الْمُسَبِّبِ بْنِ رَافِعِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا

تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ .

(۲۳۴۸۳) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں پانی میں مچھلی کی بیع مت کرو یہ دھوکا ہے۔

(۲۳۴۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ ضَرْبَةَ النَّالَةِ .

(۲۳۴۸۴) حضرت ابراہیم جال پھینک کر بیع کو ناپسند سمجھتے تھے۔ (جال پھینکنے سے پہلے ہی یہ کہہ کر بیع کرنا کہ اس میں جتنی مچھلیاں

آئیں اُن کی بیع کرتا ہوں)۔

(۲۳۴۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ ضَرْبَةَ الْقَانَصِ .

(۲۲۳۸۵) حضرت ابراہیم سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۳۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْأَجَامِ .

(۲۲۳۸۶) حضرت جابر، عامر اور حضرت عطاء بن یساف جھاڑیوں کی بیع کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۳۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْأَجَامِ .

(۲۲۳۸۷) حضرت ابراہیم جھاڑیوں کی بیع کو ناپسند سمجھتے تھے۔

(۲۲۳۸۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْأَجَامِ .

(۲۲۳۸۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جھاڑیوں کی فروخت کی اجازت (رخصت) دی تھی۔

(۲۶۳) ببيع خدمة المدبر

مدبر غلام کی خدمت کی بیع

(۲۲۳۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَّبَّرِ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ .

(۲۲۳۸۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کی خدمت کی بیع مت کرو، مگر اپنے لئے۔ (آقا خود خرید سکتا ہے۔)

(۲۲۳۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيْبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِدْمَةِ الْمُدَّبَّرِ ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُهُ .

(۲۲۳۹۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کی خدمت کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت زہری بھی یہی

فرماتے تھے۔

(۲۲۳۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا

بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَّبَّرِ مِنْ نَفْسِهِ .

(۲۲۳۹۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کی خدمت کو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اپنے لئے

فروخت کرے۔

(۲۲۳۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ ، عَنْ يُونُسَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُمَا مَا عَاشَا ،

فَأَشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَهُ بِأَسَا .

(۲۲۳۹۲) حضرت یونس سے مروی ہے کہ دو آدمیوں کا ایک غلام تھا، انہوں نے اُس کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ اُن کی خدمت

کرے گا جب تک زندہ رہیں، پھر اُن میں ایک نے اپنے ساتھی کا حصہ خرید لیا، پھر حضرت ابن سیرین سے اس کے متعلق دریافت

کیا گیا آپ نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

(۲۲۴۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ مَذْبُورٍ . (بيهقي ۳۱۲)

(۲۲۴۹۳) حضرت ابو جعفر سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مدبر غلام کی خدمت کو فروخت فرمایا۔

(۲۶۴) من كره شراء السرقة

جو حضرات چوری والے مال (چیز) کے خریدنے کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۲۴۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْتَرِ مَا وَجَدْتَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ خِيَانَةٌ ، أَوْ سَرِقَةٌ .

(۲۲۴۹۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم بازار جاؤ تو جو ملے اس کو خرید سکتے ہو جب تک تم کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ شے چوری یا خیانت کی ہے (تب نہ خریدنی چاہیے)۔

(۲۲۴۹۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِنَّمَاهَا .

(حاکم ۳۵۔ بیہقی ۳۳۵)

(۲۲۴۹۵) حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے، جس شخص کو معلوم ہو کہ یہ چوری کا مال ہے پھر بھی اُس کو خرید لے تو وہ اُس کی چوری اور گناہ میں شریک ہے۔

(۲۲۴۹۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : أَشْتَرِي السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِي الْخِيَانَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِي نَيْلَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ ؟

(۲۲۴۹۶)

(۲۲۴۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ .

(۲۲۴۹۷) حضرت عبیدہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۶۵) فِي أَجْرِ السَّمْسَارِ

کمیشن ایجنٹ کا اجرت لینا

(۲۲۴۹۸) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ السَّمْسَارِ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ .

(۲۲۳۹۸) حضرت حماد کیشن ایجنٹ کا اجرت لینے کو ناپسند کرتے تھے ہاں مگر اجرت متعین ہو۔

(۲۲۴۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ سِمْسَارًا .

(۲۲۳۹۹) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ شہری دیہاتی کو کیا کچھ نہیں بیچ سکتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دلال (ایجنٹ) نہیں بن سکتا۔

(۲۲۵۰۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ .

(۲۲۵۰۰) حضرت حکم، حضرت ابراہیم اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر نقد خریدے تو کیشن ایجنٹ کی اجرت دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۵۰۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا . (۲۲۵۰۱) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے کیشن دینے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۵۰۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ السَّمْسَرَةَ .

(۲۲۵۰۲) حضرت سفیان کیشن کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۶۶) مَنْ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحَيَوَانِ شَفْعَةً

جو حضرات حیوان میں شفعہ کو درست نہیں سمجھتے

(۲۲۵۰۳) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شَفْعَةٌ ؟ قَالَا : لَا .

(۲۲۵۰۳) میں نے حماد اور حکم سے پوچھا کہ غلام میں شفعہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں شفعہ نہیں ہے۔

(۲۲۵۰۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رِفِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . (ترمذی ۱۳۷۱)

(۲۲۵۰۴) حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہر چیز میں شفعہ کا فیصلہ (حکم) فرمایا۔

(۲۲۵۰۵) حَدَّثَنَا مَعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شَفْعَةٌ .

(۲۲۵۰۵) حضرت حسن فرماتے تھے کہ حیوان میں شفعہ نہیں ہے۔

(۲۲۵۰۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قَالَ عَثْمَانُ: لَا شُفْعَةَ فِي بَشَرٍ، وَلَا فَحْلٍ وَالْأَرْفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. (مالك ۷۱۷۔ عبدالرزاق ۱۳۳۲۶)
 (۲۲۵۰۶) حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ کنویں میں اور محل (زرگجور کا درخت) میں شفعہ نہیں ہے اور دو زمینوں کی درمیانی حد قائل تمام باہمی شفعوں کو ختم کر دیتی ہے۔

(۲۲۵۰۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: فِي الثُّوبِ شُفْعَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(۲۲۵۰۷) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کپڑے میں شفعہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

(۲۶۷) الْكَيْسُ يَدْعِيهِ رَجُلَانِ

پرس (ہٹوا) پر دو شخص دعویٰ کریں

(۲۲۵۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُرَيْمَةَ وَرَبِيعَةَ الرَّائِي، قَالُوا: فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكَيْسُ، فَيَقُولُ هَذَا لِي بِبَعْضِهِ، وَيَقُولُ هَذَا لِي بِكُلِّهِ. قَالَ ابْنُ شُرَيْمَةَ: لِلَّذِي قَالَ: هُوَ لِي كُلُّهُ، نِصْفُهُ خَالِصًا، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثَانُ.

وَقَالَ رَبِيعَةُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

(۲۲۵۰۸) حضرت ابن ابی لیلی، حضرت ابن شبرمہ اور حضرت ربیعہ الرائی ایسے دو اشخاص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کے پاس ایک برس ہو ان میں ایک آدھے کا اور دوسرا تمام بٹوے کا دعویٰ کر رہا ہو۔ حضرت ابن شبرمہ نے فرمایا جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے آدھا تو خالص اُس کا ہے، اور باقی آدھا اُن دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا، حضرت ابن ابی لیلی نے فرمایا: ایک کو ایک تہائی اور دوسرے کو دو تہائی ملے گا، اور حضرت ربیعہ نے فرمایا وہ پورا دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔

(۲۲۵۰۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ: فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ، فَادْعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ، وَادْعَى الْآخَرُ الثَّلَاثِينَ. قَالَ: يُعْطَى صَاحِبَ الثَّلَاثِينَ نِصْفَ الْمَالِ، لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِيَءَ مِنَ النِّصْفِ، وَيُعْطَى الْآدَى يَدْعَى النِّصْفَ الثَّلَاثَ، لِأَنَّ صَاحِبَ الثَّلَاثِينَ قَدْ بَرِيَءَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَيَقَى سُدُسٌ فِكُلَاهُمَا يَدْعِيهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(۲۲۵۰۹) حضرت حارث سے مروی ہے کہ دو شخصوں کے درمیان مال مشترک تھا، ان میں سے ایک نے نصف مال کا دعویٰ کیا، اور دوسرے نے دو تہائی کا، فرمایا: دو تہائی والے کو نصف مال ملے گا، کیونکہ جس نے نصف کا دعویٰ کیا ہے وہ دوسرے نصف سے بری ہو گیا ہے، اور جس نے آدھے کا دعویٰ کیا تھا اُس کو ثلث دیں گے، کیونکہ دو ثلث والا ایک ثلث سے بری ہے، اور باقی چھٹا حصہ رہ گیا ہے، لہذا یہ دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔

(۲۶۸) مَنْ قَالَ لَا يِبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ

جو یہ فرماتے ہیں کہ رہن کو بادشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا

(۲۲۵۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَا يِبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ.

(۲۲۵۱۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ رہن بادشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا۔

(۲۲۵۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى إِيَّاسَ بْنِ مَعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا زَهْنًا قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَفْسُدَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُبِيعَهُ.

(۲۲۵۱۱) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے مجھے ایاس بن معاویہ کے پاس بھیجا جو کہ قاضی تھے، اور فرمایا ان سے کہو: میرے پاس رہن میں رکھوایا ہوا سوت (اون وغیرہ) ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (رکھا رکھا) خراب ہو جائے گا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اُس کو فروخت کر دوں۔

(۲۶۹) مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِكْرَةِ لِمَا لَا يَضُرُّ بِالنَّاسِ

جو حضرات اس چیز کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت دیتے ہیں کہ جس عوام کا نقصان نہ ہو

(۲۲۵۱۲) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتِ.

(۲۲۵۱۲) حضرت سعید بن المسیب زیتون کو جمع فرمایا کرتے تھے۔

(۲۲۵۱۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْخُبَّاطِ، قَالَ: كُنْتُ أَتْبَعُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ النَّوَى، وَالْعَجَمَ، وَالْخَيْطَ فَيَحْتَكِرُهُ.

(۲۲۵۱۳) حضرت مسلم الخياط فرماتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب کے لیے کھجور کی کٹھلی، چھوڑے کی کٹھلی اور خشک پتے خرید لیا کرتا تھا اور وہ ان کو جمع کر لیا کرتے تھے۔

(۲۷۰) الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کر سکتی ہے

(۲۲۵۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَفِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مَفْسُودَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْوَهِهِمْ شَيْئًا. (بخاری ۱۳۲۵- مسلم ۷۱۰)

(۲۲۵۱۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اگر عورت خاوند کے گھر سے صحیح طریقہ سے صدقہ کرے تو اُس کا اجر اُس کو ملے گا، اور خاوند کو کمائی کی مثل اور عورت کو خرچ کرنے کے مثل، اور خازن کو بھی اُسی کے مثل اجر ملے گا، اور حضرت ابو معاویہ کی روایت میں اس کا اضافہ ہے کہ اُن کے اجر میں کمی کیے بغیر۔

(۲۲۵۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عُنْكُرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ امْرَأَةً فَقَالَتْ: يَا أَيُّ الْمُسْكِينِ أَفَاتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَكَبَّرْتُهُ، وَقَالَ لَهَا: اللَّهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ.

(۲۲۵۱۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک خاتون نے دریافت کیا کہ! میرے پاس مسکین آتا ہے کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر اُس کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا: اور اُس کو کہا: کیا تو اپنے شوہر کو اجازت دے گی کہ وہ تیرا زیور تیری اجازت کے بغیر صدقہ کر دے؟

(۲۲۵۱۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةَ إِلَّا مِنْ قَوْرَتِهَا، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا.

(۲۲۵۱۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون اپنی غذا (خوراک) کے علاوہ صدقہ نہ کرے، اور خاوند کے مال میں بغیر اجازت کے صدقہ کرنا حلال نہیں، اور (اگر کر دیا تو) ثواب دونوں کو ملے گا۔

(۲۲۵۱۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أُمِّ صَالِحٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَتْ: مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبْتُ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقْتُ.

(۲۲۵۱۷) حضرت ام صالح سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: کیا عورت خاوند کے گھر سے اُس کی اجازت کے بغیر کچھ اٹھا سکتی ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں ہے خواہ اس طرح کر لے یا اپنے پڑوسی کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لے۔ (یعنی خاوند کا بلا اجازت استعمال کرنا اور پڑوس کے گھر میں چوری کرنا ایک برابر ہے)

(۲۲۵۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هُنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: تُخَذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (بخاری ۲۲۱۱- احمد ۳۹/۶)

(۲۲۵۱۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ہند حضور اقدس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول رضی اللہ عنہ! ابوسفیان خلیل انسان ہے اور مجھے اتنا نہیں دیتا جو میرے اور بچوں کے لئے کافی ہو، پھر میں اُس کے مال میں

سے اُس کی اجازت کے بغیر کچھ نکال لیتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: جو تیرے اور بچوں کے لئے کافی ہوتا اچھے طریقے سے لے لیا کرو۔

(۲۲۵۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَاسُ بْنُ دَعْقَلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ صَاحِبَتِي؟ قَالَ: وَأَتَى أَمْرُكُمَا؟ قَالَ: تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إِفْرَاقٍ، قَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعْتَهَا؟ قَالَ لَهَا مَا أَحْتَسَبْتِ، وَلَكَ مَا بِيَحْتَلُ بِهِ. (عبدالرزاق ۱۶۶۱۶)

(۲۲۵۱۹) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرا اور میری خاتون کا حکم (معاملہ) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دونوں کا کون سا معاملہ؟ اُس نے عرض کیا کہ وہ میرے گھر سے میری اجازت کے بغیر صدقہ کرتی ہے، آپ نے فرمایا ثواب دونوں کو ملے گا، اُس نے عرض کیا کہ اگر میں اُس کو اس سے روک لوں؟ آپ نے فرمایا اُس کو اس کا ثواب ملے گا جو اُس نے ارادہ کیا اور تیرے لئے (وبال ہے) جو جو نے بخل سے کام لیا۔

(۲۲۵۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَانَتْهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا، فَمَا يَجْعَلُ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: الرِّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتَهْدِينَهُ. (ابوداؤد ۱۶۸۳ - حاکم ۱۱۳۳)

(۲۲۵۲۰) حضرت سعد سے مروی ہے کہ جب آپ ﷺ نے خواتین سے بیعت لی تو ایک خاتون کھڑی ہوئی گویا کہ وہ مضر میں سے تھی، عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ! سب کچھ ہمارے والدین، شوہروں اور بیٹوں کے لئے ہے، ان اموال میں سے ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر وہ چیز (جس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے) اُس کو کھاؤ بھی اور ہدیہ بھی کرو۔

(۲۲۵۲۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشَ، عَنْ شُرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ: لَا تَنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

(۲۲۵۲۱) حضرت ابوامامہ باہلیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو حجۃ الوداع میں فرماتے ہوئے سنا: کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کے گھر سے اُس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ﷺ! کھانا بھی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ تو سب سے افضل مال ہے۔

(۲۷۱) بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ فِي شَرِكْتِهِ

شریک کا اپنی شرکت میں بیع کرنا جائز ہے

(۲۲۵۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدَ وَشُرَيْحَ، قَالَ: بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنَّهَ.

(۲۲۵۲۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اور محمد بن یحییٰ اور حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شریک کا بیع کرنا جائز ہے جب تک منع نہ کیا گیا ہو۔
 (۲۲۵۲۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ لِي بِشُرْكَهِ جَائِزٌ إِلَّا شَرِيكَةً فِي مِيرَاثٍ .
 (۲۲۵۲۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شریک کے لئے اپنی شرکت والی چیز کو فروخت کرنا جائز ہے، سوائے میراث والی شے کے۔

(۲۷۲) الرَّجْحَانُ فِي الْوِزْنِ

وزن کرتے ہوئے کچھ زیادہ دینا

(۲۲۵۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ سَمَاعِكٍ ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعُبَيْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدَنَا وَرَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا وَرَّانُ زِنْ وَأَرْجِعْ . (ترمذی ۱۳۰۵ - ابو داؤد ۳۳۲۹)
 (۲۲۵۲۳) حضرت سوید بن قیس کہتے ہیں کہ میں اور مخرفہ عبدی مقام ہجر سے کپڑا لائے۔ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور کپڑا خریدنا چاہا۔ ہمارے پاس ایک وزن کرنے والا تھا جو اجرا کا وزن کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ وزن کرو اور زیادہ دو۔

(۲۲۵۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا ، فَوَزَنَ لِي ثَمَنَهُ ، وَأَرْجِعْ لِي . (بخاری ۳۰۸۹ - احمد ۳/۳۰۲)
 (۲۲۵۲۵) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے اونٹ خریدا اور میرے لئے ثمن کو تولاد اور کچھ زائد عطا کیا۔

(۲۲۵۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَسْعَرٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي . (بخاری ۳۳۳ - احمد ۳/۳۱۹)

(۲۲۵۲۶) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ذمہ میرا کچھ قرض تھا، آپ نے وہ بھی اور کچھ زائد ادا فرمایا۔
 (۲۲۵۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ ، فَاتَيْتَهُ اتِّقَاضَهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَرَتِ الْحِجَاءُ بِأُظْفَارِهِ وَجَارِيَةٌ لَهُ تَحُكُّ الْحِجَاءَ عَنْهُ بِقَارُورَةٍ ، فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ دَرَاهِمٌ فَقَالَ : خُذْ هَذَا ، فَقُلْتُ : هَذَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّي ، قَالَ : خُذْهُ ، فَأَخَذْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَزِيدُ عَلَيَّ حَقِّي بِسِتِّينَ ، أَوْ سَبْعِينَ دِرْهَمًا .

(۲۲۵۲۷) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کے ذمہ میرا قرض تھا، میں ان کے پاس وصول کرنے آیا وہ اُس وقت

حمام سے نکل رہے تھے، اور مہندی کے اثرات ان کے ناخنوں پر تھے، اور ان کی باندی بوتل سے ان کی مہندی کو صاف (کھرچ) کر رہی تھی۔ آپ نے برتن نمائیلی منگوائی جس میں درہم تھے، اور مجھ سے فرمایا یہ لے لو، میں نے عرض کیا کہ یہ تو میرے حق سے زیادہ ہے، آپ نے فرمایا رکھ لو، میں نے وہ رکھ لئے اور اس میں میں نے اپنے حق سے ساٹھ یا ستر درہم زائد پائے۔

(۲۲۵۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِي الرَّجْحَانِ فِي الْوِزْنِ .
(۲۲۵۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وزن میں زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۷۳) الرَّاشِي وَالْمَرْتَشِي

رشوت دینے اور لینے والا

(۲۲۵۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ ، وَالْمَرْتَشِيَّ ، وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمِشِي بَيْنَهُمَا .
(۲۲۵۲۹) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور جو ان کے درمیان ذریعہ رشوت بنے۔

(۲۲۵۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمَرْتَشِيَّ .
(۲۲۵۳۰) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

(۲۲۵۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الرَّاشِيَّ ، وَالْمَرْتَشِيَّ ، وَالْمُفْتَرِيَّ .
قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي الْمُفْتَرِيَّ الَّذِي يَقُولُ : ارْتَشَى الْقَاضِيَّ .

(۲۲۵۳۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، اور قاضی کو رشوت دینے والے پر (لعنت ہوئی ہے)۔

(۲۲۵۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زُرَّابِ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : السُّحْتُ الرَّشُوءُ .

(۲۲۵۳۲) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السُّحْتُ سے مراد رشوت ہے۔

(۲۷۴) الرَّاهِنُ يَرَهْنُ الْعَبْدَ فِيمَعْتَقَهُ

کوئی شخص غلام کو رہن رکھوا کر پھر اُس کو آزاد کر دے

(۲۲۵۳۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ،

قَالَ: عَتَقَ الْعَبْدُ جَانِزًا وَيَتَّبِعُ الْمُرْتَهِنَ الرَّاهِنَ.

(۲۲۵۳۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر راہن غلام کو رہن رکھ کر پھر آزاد کر دے تو غلام آزاد ہو جائے گا اور مرتہن راہن کے پیچھے لگ جائے گا۔

(۲۲۵۳۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ وَشَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَرُهْنُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهُ؟ قَالَ: لَا: يَعْتِقُهُ جَانِزًا.

وَقَالَ شَرِيكٌ: يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُرْتَهِنِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ.

(۲۲۵۳۳) یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن صالح اور حضرت شریک سے دریافت کیا کہ ایک شخص غلام راہن رکھوا کر پھر اُس کو آزاد کر دے؟ آپ نے فرمایا اُس کا آزاد کرنا جائز ہے، اور حضرت شریک فرماتے ہیں غلام مرتہن کے قرض کے لئے کوشش کرے گا، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مرتہن کے لئے کوشش غلام کے ذمہ نہیں ہے۔

(۲۲۵۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا قَلَّمَ يَقْبِضُهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ، قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، أَوْ يَنْقُدَهُ.

(۲۲۵۳۵) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے سے غلام خریدا ہے پھر اُس سے قبضہ کرنے سے قبل اُس کو آزاد کر دیا، آپ نے فرمایا کہ قبضہ کرنے سے پہلے اُس کو آزاد کرنا درست نہیں ہے۔

(۲۲۵۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا دَبَّرَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَتْ أُمَّةٌ فَوَاطِنَهَا فَجَانَتْ يَوْلَدٍ خَرَجَتْ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا اتَّبَعَ الْمُرْتَهِنُ السَّيِّدَ بِالرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى هَوْلًا فِي الْأَقْلَ مِنْ قِيَمَتِهِمُ وَالرَّهْنِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ: يُرْجِعُ بِمَا سَعَى فِيهِ عَلَى الْمَوْلَى إِذَا أَيْسَرَ، وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرُ لَا يَرْجِعَانِ عَلَى مَوْلَاهُمَا بِشَيْءٍ لِأَنَّ خِدْمَتَهُمَا لِلْمَوْلَى.

(۲۲۵۳۶) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کر دے تو وہ رہن سے نکل جائے گا، اور اگر مدبر بنا دے تو بھی رہن سے نکل جائے گا، اور اگر باندی ہو اور اُس سے ہم بستری کر لے اور اُس کا بچہ ہو جائے تو وہ بھی رہن سے نکل جائے گی، اور پھر اگر آقا مال دار ہو تو مرتہن آقا کو پکڑے گا اور اگر آقا غریب ہو تو یہ لوگ (غلام اور باندی) قیمت اور رہن میں جس کی قیمت کم ہے اُس کے لئے کوشش کریں گے، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ پھر اس غلام سے جتنی سعی کی ہے اس کا اپنے آقا سے رجوع کرے گا (یعنی اس سے اتنے پیسے یا قیمت وصول کرے گا) لیکن ام ولد اور مدبر آقا سے رجوع نہیں کریں گے کیونکہ اُن کی خدمت آقا کے لئے ہوتی ہے۔

(۲۷۵) الرَّجْلَانِ يَشْتَرِ كَانٍ فِي جِيءِ هَذَا بِدَنَائِيرٍ وَهَذَا بِدِرَاهِمٍ

دو شخص مشترک ہوں (شرکت کر لیں) اور ان میں سے ایک دینار اور دوسرا درہم لے آئے

(۲۲۵۲۷) حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِ كَانٍ فِي جِيءِ هَذَا بِدَنَائِيرٍ وَالْآخَرَ بِدِرَاهِمٍ ، وَقَالَ : الدَّنَائِيرُ عَيْنُ كُلَّةٍ ، فَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَفْتَرِقَا أَخَذَ صَاحِبُ الدَّنَائِيرِ دَنَائِيرًا ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ دَرَاهِمًا ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرَّبِيْعَ .

قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمٌ وَدَرَاهِمٌ ، وَدَّنَائِيرًا وَدَّنَائِيرًا .

(۲۲۵۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمی شرکت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک دینار اور دوسرا درہم لے آئے، فرمایا: دینار سارے کا سارا عین ہے پھر جب الگ ہونے کا ارادہ کریں تو دینار والا دینار لے لے اور درہم والا درہم لے لے اور پھر جو نفع ہے اس کو تقسیم کر لیں۔

حضرت محمد ﷺ پسند فرماتے تھے کہ درہم، درہم کے ساتھ ہوں اور دینار دینار کے ساتھ۔

(۲۷۶) فِي الْقَاضِي هَلْ يَجَالِسُهُ أَحَدٌ عَلَى الْقَضَاءِ

قاضی کے پاس قضا پر کوئی بیٹھ سکتا ہے

(۲۲۵۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سُرَيْحًا يَقْضِي وَعِنْدَهُ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَأَشْيَاخٌ نَحْوَهُ يَجَالِسُونَهُ عَلَى الْقَضَاءِ .

(۲۲۵۳۸) حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کے پاس ابو عمرو الشیبانی اور ان جیسے دوسرے شیوخ تشریف فرما تھے۔

(۲۲۵۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَارِبَ بْنَ دَنَارٍ وَحَمَادًا وَالْحَكَمَ وَأَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، يَنْظُرُ إِلَى الْحَكَمِ مَرَّةً ، وَإِلَى حَمَادٍ مَرَّةً ، وَالْحُصُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ .

(۲۲۵۳۹) حضرت ادريس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محارب بن دنار، حضرت حماد اور حضرت حکم کو دیکھا، ایک آپ کے دائیں جانب اور دوسرے آپ کے بائیں جانب تھے، وہ کبھی حضرت حکم اور کبھی حضرت حماد کی طرف دیکھتے اور جھگڑا کرنے والا آپ کے سامنے تھا۔

(۲۲۵۴۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ لِي الْقَاسِمُ : اجْلِسْ إِلَيَّ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ .

(۲۲۵۴۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت قاسم نے فرمایا: میرے پاس بیٹھ، اور اس وقت وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ

فرما رہے تھے۔

(۲۷۷) الشراء بالعرض الإبل ونحوها

سامان کے بدلے میں اونٹ وغیرہ خریدنا

(۲۲۵۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِيَسْتِ مِنْ تَمْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فَأَوْفَتْهُ ، وَقَالَ : خِيَارُكُمْ الْمُؤْفُونَ الْمُطْبِيُّونَ .

(احمد ۶/۲۶۸)

(۲۲۵۳۱) حضرت عروہ بن عروہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک اعرابی سے ایک وسق کھجوروں کے بدلے میں اونٹ خریدا، آپ ﷺ نے خولہ بنت حکیم کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے ایک وسق مکمل بھر کر اور پورا پورا کر کے دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو پورا پورا دے اور اچھا دے۔

(۲۲۵۴۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْرًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ بِمِئَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَقُلْ لَهُمْ : تَاكُلُونَ حَتَّى تَشْبَعُوا ، وَتَكْتَالُونَ حَتَّى تَسْتَوْفُوا . يَعْنِي : الْكَيْلَ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَحْكُ بِمِرْفَقَيْهِ . يَعْنِي : يَشْتَدُّ . (ابوداؤد ۱۶۹)

(۲۲۵۳۲) حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک اعرابی سے سو صاع کھجور کے بدلے ایک مہرا خریدا، آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے فرمایا: لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ پیٹ بھر کر کھاؤ اور جب تک وزن پورا نہ ہو جائے کیل کرتے رہو (یعنی کوئی چیز دینی ہو تو مکمل وزن کر کے دیا کرو) وہ شخص اس حال میں نکلا کہ اس نے کہنیوں کو ملایا ہوا تھا۔

(۲۲۵۴۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا فِدَسَتْ أُمَّةٌ لَا يُعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَّعِعٍ . (ابو یعلیٰ ۱۰۹۱)

(۲۲۵۳۳) حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ امت پاک نہیں کی جاتی جس میں ضعیف کو اس کا حق بغیر مال منول کے نہ دیا جائے۔

(۲۷۸) القوم يشهدون للرجل بالشيء

کچھ لوگ کسی شخص کے لئے گواہی دیں

(۲۲۵۴۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدَتِ الْقَائِسَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَاصِمٌ إِلَيْهِ رَجُلٌ

عَامِلًا مِنْ عُمَّالِ الْحِجَاجِ عَصَبَهُ طَعَامًا كَانَ لَهُ ، فَسَأَلَهُ الْقَاسِمُ الْبَيْتَةَ ، فَجَاءَ بَيْتَةً فَشَهِدُوا أَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا لَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَقَالَ لَهُمُ الْقَاسِمُ : كُمْ الطَّعَامَ الَّذِي أَخَذَهُ ؟ قَالُوا : لَا نَدْرِي مَا كَيْلُهُ ، قَالَ : فَإِنِّي لَا أَقْضِي لَهُ بَشِيءَ حَتَّى تُخْبِرُونِي بِكَيْلِ مَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ .

(۲۲۵۳۳) حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم بن عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس ایک شخص حجاج کے عمال سے جھگڑا کرتے ہوئے آیا کہ اُس کا کھانا اُس نے غصب کیا ہے، حضرت قاسم نے اُس سے گواہ کا مطالبہ کیا، وہ گواہ لے آیا، انہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس کے گھر سے کھانا اٹھایا ہے، حضرت قاسم نے فرمایا کہ کتنا کھانا تھا جو اُس نے اٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہمیں نہیں معلوم، آپ نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ مجھے اُس کے وزن کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں فیصلہ نہیں کروں گا۔

(۲۷۹) الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّابَّةَ

کوئی شخص کسی سے جانور خریدے

(۲۲۵۴۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : شَهِدْتُهُ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ دَابَّةً ، فَقَالَ لِلْقَاسِمِ : مَرَّةً فَلْيُعْطِنِي كَيْفِيًّا إِنْ أَدْرَكْنِي فِي هَذِهِ الدَّابَّةِ دَرَكًا ، فَقَالَ : هَلْ كُنْتَ اشْتَرَطْتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ .

(۲۲۵۳۵) حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم کے پاس حاضر تھا کہ آپ کے پاس دو شخص جھگڑا کرتے ہوئے آئے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے جانور خریدا تھا، اس نے حضرت قاسم سے کہا کہ اس کو حکم دیں کہ مجھے کوئی ضامن دے کہ اگر اس گھوڑے کو معاملہ میں مجھ پر کوئی تاوان آ گیا تو وہ کیل اس تاوان کو بھرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے بیع کرتے وقت اس کی شرط لگائی تھی؟ اُس نے کہا: نہیں آپ نے فرمایا، پھر تمہارے لئے ایسا کرنا نہیں ہے۔

(۲۸۰) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَذُوقُهُ

کوئی شخص خریدنے کے لیے کوئی چیز چکھ کر دیکھے

(۲۲۵۴۶) حَدَّثَنَا خَالْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَرَّ بِصَاحِبِ صَبْرٍ ، يَعْنِي صَحْنَاءَ ، فَأَخَذَ مِنْهُ فَذَاقَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ هَذَا ؟

(۲۲۵۳۶) حضرت جمیل بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبد اللہ کو دیکھا کہ آپ ایک مچھلی والے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس میں سے چکھا اور پھر پوچھا کس طرح فروخت کر رہے ہو؟

(۲۲۵۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا يُعْنَى يَذْوُقُهَا .

(۲۲۵۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی پھل خریدتے وقت پہلے اس میں سے چکھ لے۔

(۲۲۵۴۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذْوُقَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ .

(۲۲۵۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی چیز خریدنے سے پہلے اس کو چکھ لے۔

(۲۸۱) الرَّجُلُ يَبِيعُ السَّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

کوئی شخص پیسوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھر اس سامان کو خرید لے

(۲۲۵۴۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ . وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَسُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السَّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقْلٍ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَّقِدَ فِكْرَةَ ذَلِكَ .

(۲۲۵۴۹) حضرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص پیسوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھر اس سے کم پیسوں میں اسی سامان کو خرید لے، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۲۲۵۵۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَهُ .

(۲۲۵۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب سامان کو پیسوں کے بدلے فروخت کرے اور جتنے میں فروخت کیا ہے اس سے کم میں خرید لے جب کہ برابر برابر کیا ہو۔

(۲۸۲) مَنْ قَالَ الْكِفَالَةَ وَالْحَوَالَةَ سَوَاءٌ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کفالہ اور حوالہ دونوں ایک جیسے (برابر) ہیں

(۲۲۵۵۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : الْكِفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ .

(۲۲۵۵۱) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کفالہ اور حوالہ دونوں برابر ہیں۔

(۲۸۳) الْقَوَارِيرُ الصَّاحِحَةُ بِالمَكْسُورَةِ

درست شیشے کوٹوٹے شیشے کے بدلے فروخت کرنا

(۲۲۵۵۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْقَوَارِيرِ الصَّاحِحَةِ بِالْوِازِنَةِ

الْمُكْسُورَةَ ، إِذَا كَانَتْ أَفْضَلَ مِنَ الصَّحَاحِ .
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا وَزْنًا بَوِزْنَ .

(۲۲۵۵۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ درست شیشے کو ٹوٹے ہوئے شیشے کے بدلے فروخت کیا جائے جب کہ وہ درست سے افضل ہو، اور حضرت ابن سیرین اس کو ناپسند فرماتے تھے مگر یہ کہ برابر برابر ہو۔

(۲۸۴) اللَّبْنُ يَغِشُّ بِالْمَاءِ

دودھ میں پانی ملانا

(۲۲۵۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَشَابَهُنَّ لَبْنٌ لَبِيعٌ . (عبدالرزاق ۷۷۰)

(۲۲۵۵۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: دودھ کو فروخت کرنے کے لئے اس میں (پانی وغیرہ) نہیں ملایا جائے گا۔

(۲۸۵) الرَّجُلُ يَكْسِرُ الدَّرْهَمَ عِنْدَ الْبِقَالِ

کوئی شخص سبزی فروش کے پاس پیسے توڑوے

(۲۲۵۵۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكْسِرَ الدَّرْهَمَ عِنْدَ الْبِقَالِ فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ .

(۲۲۵۵۳) حضرت ابراہیم سبزی فروش سے پاس دراہم توڑوانے ناپسند کرتے تھے، کہ اس کے پاس دراہم توڑوے اور جو اس نے اس میں لیا ہے اس کے علاوہ لے۔

(۲۲۵۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَعْجِيلَ الدَّرْهَمِ لِلْبِقَالِ ، وَسُنْبُلَ عَنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا بَلَغَ مِنَّا هَذَا .

(۲۲۵۵۵) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سبزی فروش کو جلدی درہم دینے کو ناپسند کرتے تھے، پھر حضرت حسن سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بخدا ہم تک یہ نہیں پہنچا۔

(۲۲۵۵۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ إِلَى الْبِقَالِ الدَّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ .

(۲۲۵۵۶) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سبزی فروش کو درہم دے تو فرمایا وہ نہ لے لے لے جو سپرد کیا گیا، اور اگر اسی

کے پاس رکھا جائے تو جب چاہے وصول کر لے۔

(۲۲۵۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَقَالَ الدَّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَمَّ دِرْهَمُ أُعْطَاهُ .

(۲۲۵۵۷) حضرت محمد ﷺ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ سبزی فروش کو درہم دیا جائے اور اُس سے بیچ (بیچ) لیا جائے، لیکن اُس سے سامان لے لیا جائے جب ایک درہم کا سامان ہو جائے تو پھر اس کو درہم دیا جائے۔

(۲۸۶) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمُحْفَلَةَ فِي حَلِيبِهَا

کوئی شخص مُحفَلہ بکری خرید لے پھر وہ اس کا دودھ استعمال کر لے

(۲۲۵۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اشْتَرَى مُصْرَاءً ، فَهُوَ لِي بِهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ .

(بخاری ۲۱۳۸۔ ابوداؤد ۳۴۳۶)

(۲۲۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص مصراۃ بکری خریدے (ایسی بکری جس کے مالک نے اُس کو فروخت کرنے سے کچھ دن پہلے اُس کا دودھ نکالنا چھوڑ دیا ہوتا کہ خریدار کو اس کا دودھ زیادہ لگے) اُس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ بکری واپس کر دے اور جو دودھ اُس نے استعمال کیا ہے اُس کے بدلے میں ایک صاع کھجور دے دے۔

(۲۲۵۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اشْتَرَى مُصْرَاءً فَهُوَ لِي بِهَا بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . (احمد ۳ / ۳۱۳)

(۲۲۵۵۹) حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو مصراۃ بکری خریدے اُس کو دو باتوں کا اختیار ہے، اگر اُس کو واپس کرنا ہے تو ساتھ ایک صاع کھجور یا ایک صاع گندم دے دے۔

(۲۲۵۶۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُسْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ اشْتَرَى مُحْفَلَةً فَرَدَّهَا فَلْيُرَدَّ مَعَهَا صَاعًا .

(۲۲۵۶۰) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مُحفَلہ بکری خریدے تو وہ اُس کو واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع گندم وغیرہ

(۲۸۷) الخَصُّ يَدْعِيهِ أَهْلُ الدَّارِينَ

لکڑی کی چھت جس کا دو گھروں والے دعویٰ کریں

(۲۲۵۶۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُصِّ يَدْعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَهْلُ هَذِهِ ، قَالَ : هُوَ لِلَّذِي يَلِيهِمُ الْقِمْطُ . وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِطِ الَّذِي يَدْعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ ، وَأَهْلُ هَذِهِ ، قَالَ : هُوَ لِلَّذِي يَلِيهِمُ الْأَنْصَافُ .

(۲۲۵۶۱) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ لکڑی کی چھت جس کا دو گھروں والے دعویٰ کریں؟ آپ نے فرمایا وہ اُس کے لیے ہے جس کی رسی اُس کے ساتھ ملی ہو اور اُن سے اینٹوں کی دیوار کے متعلق سوال کیا جس کا یہ گھر والا دعویٰ کرے اور وہ بھی دعویٰ کرے؟ فرمایا: وہ اُس کے لئے ہے جس کا نصف اُس کے ساتھ ملا ہو۔

(۲۲۵۶۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : تَقَدَّمْتُ مَعَ أَبِي إِلَى سُرَيْحٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْضِي بِالْخُصِّ إِلَى مَنْ كَانَتْ إِلَيْهِ الْقِمْطُ .

(۲۲۵۶۲) حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت شرحبیل کے پاس گیا، میں نے سنا آپ نے لکڑی کی چھت کا فیصلہ فرمایا کہ جس کی رسی اُس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

(۲۸۸) مَنْ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ

جو حضرات ادھار کی ادھار کے ساتھ بیع کرنے کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۲۵۶۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ كَالِنَا بِكَالٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ .

(۲۲۵۶۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ادھار کی ادھار کے ساتھ بیع کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۵۶۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ .

(۲۲۵۶۴) حضرت حکم بھی اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۵۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ .

(۲۲۵۶۵) حضرت عطاء بھی اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۵۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ كَالِيٌّ بِكَالِيٍّ ، يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ . (دارقطنی ۷۱ - حاکم ۵۷)

(۲۲۵۶۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ادھار کی ادھار کے ساتھ بیع کرنے سے منع فرمایا۔

(۲۸۹) فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

انگور کے رس (شیرہ) کی بیع کرنا

(۲۲۵۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ التَّقْفِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ .

(۲۲۵۶۷) حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ کے والد انگور کے شیرہ کی بیع کرتے تھے۔

(۲۲۵۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ شُعْبَةُ : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : سُوَيْلُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكُرْمِ ؟ فَقَالَ : زَبَبُوهُ ، ثُمَّ يَبِعُوهُ .

(۲۲۵۶۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انگوروں کی بیع کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: اس کو سکھا لو پھر اس کی بیع کرو۔

(۲۲۵۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ صَاحِبَ ضَيْعَةِ سَعْدٍ أَنَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الْأَعْنَابَ قَدْ كَثُرَتْ ، فَقَالَ : اتَّخِذْهُ زَبِيًّا ، بَعُهُ عِنَبًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ سَعْدٌ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَأَمَرَ بِهَا ففَلِعَتْ ، وَقَالَ لِقَهْرَمَانِيهِ : لَا أَتَمْنِكُ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا .

(۲۲۵۶۹) حضرت مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زمین والا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا: انگور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو سکھا کر کشمش بنا لو، اُس نے عرض کیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود زمین کی طرف تشریف لے گئے اور اُن کو اکھاڑنے کا حکم دیا اور وہ اکھاڑ دی گئی، پھر آپ نے اپنے وکیل سے کہا کہ اس کے بعد میں تجھ کو پر کسی معاملہ میں بھروسہ نہیں کروں گا۔

(۲۲۵۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ أَبَا عَبِيدَةَ كَانَ لَهُ كُرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِرُؤُوسِ كَلَابِيهِ : يَبِعُوهُ عِنَبًا ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَفْ فَيَبِعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَعْصِرُونَهُ .

(۲۲۵۷۰) حضرت ابو عبیدہ کے انگور تھے، آپ نے اپنے وکلا سے کہا ہوا تھا اس کو انگور ہونے کی حالت میں فروخت کرو، اور اگر نہ خریدے جائیں تو پھر جس وقت ان کا شیرہ نکالا جائے تو شیرہ نکال کر فروخت کر دو۔

(۲۲۵۷۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يُغْلَ .

(۲۲۵۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ انگور کے شیرے کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں نشہ نہ ہو۔

(۲۲۵۷۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَمْرًا ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرٍ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَمْرًا ، وَإِنْ بَاعَهُ فَلَا بَأْسَ .

(۲۲۵۷۲) حضرت عطاء نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو انگور ایسے شخص کو فروخت کر رہا تھا جو اُس کی شراب بنا تا تھا، آپ نے فرمایا

کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ یہ ایسے شخص کو فروخت کیا جائے جو شراب نہ بنا تا ہو، اور اگر شراب والے شخص کو بھی فروخت کر دے تو بھی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۵۷۳) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : بَعُهُ مَا كَانَ حُلُومًا .

(۲۲۵۷۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے انکور کے شیرے کی بیع کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا جب تک میٹھا ہو فروخت کر دو۔

(۲۲۵۷۴) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكُرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ .

(۲۲۵۷۴) حضرت حکم سے مروی ہے کہ ایک شخص کے انکور تھے وہ ان کا شیرہ نکال کر فروخت کرتا تھا، آپ نے فرمایا: اس کو انکور ہونے کی حالت میں فروخت کرو یا شیرہ بنا کر دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۵۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي طَلُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَبِيعِ الْعِنَبَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا .

(۲۲۵۷۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو انکور فروخت نہ کرو جو اس کی شراب بنا تا ہو۔

(۲۲۵۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ : بَيْعُ الْحَلَالِ مِمَّنْ شِئْتَ .

(۲۲۵۷۶) حضرت سفیان سے انکور کے شیرے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا حلال چیز کو جس طرح چاہو فروخت کر دو۔

(۲۲۵۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَبِيعِ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا .

(۲۲۵۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو انکور فروخت نہ کرو جو اس کی شراب بنا تا ہو۔

(۲۹۰) الرَّجُلُ يَهَبُ الْهَبَةَ

کوئی شخص موہوبہ چیز کو ہبہ کرے

(۲۲۵۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بِهَيْمَةَ فَوَلَدَتْ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقِيَمَةِ يَوْمَ وَهَبَ .

(۲۲۵۷۸) حضرت زہری سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس نے ایک شخص کو جانور ہبہ کیا تھا اور اس جانور نے بچہ جن دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی قیمت واپس لے لے۔ جس دن اس نے ہبہ کیا تھا اس دن کے اعتبار سے۔

(۲۲۵۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهَبَةِ فِي الْقِيَمَةِ يَوْمَ وَهَبَ ، وَكَتَبَ ، إِنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهَبِ لَهُ .

(۲۲۵۷۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا: جس دن ہبہ کیا اس دن کی قیمت پر ہبہ پر رجوع کرے گا، اور مزید تحریر فرمایا کہ

موہوبہ چیز اگر بڑھ جائے (مثلاً بچہ جن دے وغیرہ) تو وہ زیادتی موہوبہ کے لیے ہے۔

(۲۹۱) الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھالے

(۲۲۵۸۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ، قَالَ : فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَقَ ، فِي وَاللَّهِ نَزَلَتْ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ حُصُومَةٌ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَيْكَ يَمِينَةٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلَيْكَ يَمِينَةٌ ، فَقُلْتُ : إِذَا يَحْلِفُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ فَذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَزَلْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ . (بخاری ۲۳۵۶ - مسلم ۲۲۰)

(۲۲۵۸۰) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس لیے قسم اٹھائے تاکہ کسی مسلمان کا مال ہتھیائے اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو تو وہ شخص اس حال میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوں گے۔

حضرت اشعث بن قیس آئے اور دریافت کیا کہ ابو عبد الرحمن نے تم سامنے کیا بیان کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ یہ فرمایا کہ انہوں نے سچ فرمایا ہے، خدا کی قسم میرے متعلق اللہ کا ارشاد بھی نازل ہوا ہے۔ میرے اور ایک یہودی کے بیچ جھگڑا تھا، ہم اپنا جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا: پھر اس کو قسم اٹھانا پڑے گی، میں نے عرض کیا کہ تب تو یہ قسم اٹھالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جھوٹی قسم اٹھائے گا، پھر آپ نے حضرت عبد اللہ کی روایت کے متعلق بیان فرمایا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ .

(۲۲۵۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يَحْدِثُ ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِيسِرِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكَ مِنْ أَرْأِكَ . (مسلم ۲۱۹ - احمد ۵ / ۲۶۰)

(۲۲۵۸۱) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جھوٹی قسم سے کسی مسلمان کا مال قطع (ہڑپ) نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر

جنت کو حرام اور جہنم واجب فرمادیتے ہیں، لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر چہ وہ ملکی (معمولی) شئی ہو؟ آپ نے فرمایا اگر چہ وہ پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔

(۲۲۵۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نِسْطَاسٍ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ ، وَلَا عَلَى سِوَاكِ أَحْضَرَ ، إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ أُوجِبَ لَهُ النَّارُ . (ابو داؤد ۳۲۳۱۔ ابن ماجہ ۳۲۲۵)

(۲۲۵۸۲) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا اگر وہ زرد مسواک کے متعلق ہی کیوں نہ ہو اس کا ٹھکانا جہنم میں بنا دیا جاتا ہے اور اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔

(۲۲۵۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ . (بخاری ۷۳۳۵۔ مسلم ۱۱۳)

(۲۲۵۸۳) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص مسلمان کا مال جھوٹی قسم کے ساتھ ہڑپ کر جائے اس کی ملاقات اللہ سے اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔

(۲۲۵۸۴) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ كَانَ مِثْلَ مَنْ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (احمد ۳/۳۹۳)

(۲۲۵۸۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر جھوٹی قسم کے ساتھ مال پر قبضہ کرے، تو یہ ان میں سے ہوگا کہ جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

(۲۲۵۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَمَاطٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لِيَلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ . (مسلم ۱۲۳۔ ابو داؤد ۳۲۳۹)

(۲۲۵۸۵) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: قسم اٹھائے تاکہ مال کو ظلماً کھائے تو اللہ کی اس کے ساتھ اس حال میں ملاقات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کئے ہوں گے۔

(۲۲۵۸۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سَلِيمَانَ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ كُرْدُوسِ التَّحَلِبِيِّ ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمٌ . (ابو داؤد ۳۲۳۸۔ احمد ۵/۲۱۲)

(۲۲۵۸۶) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص جھوٹی قسم اٹھائے تاکہ کسی کا مال قبضہ کر لے، تو اس کی ملاقات اللہ کے ساتھ

اس حال میں ہوگی کہ وہ دم کو زردہ ہوگا۔

(۲۲۵۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عُلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَيَّ يَمِينٍ غَيْبٍ أَصَابَ فِيهَا مَائِمًا صَدَقَ فِيهَا ، أَوْ فَجَرَ .

(۲۲۵۸۷) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غائب پر قسم اٹھائے اُس کو گناہ ملے گا، خواہ اُس قسم میں سچا ہو یا جھوٹا۔

(۲۲۵۸۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينٍ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

(ترمذی ۳۰۲۰۔ احمد ۳/۳۹۵)

(۲۲۵۸۸) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص قسم اٹھائے اور اس میں کبھی کے پر کے برابر بھی اپنی طرف سے آمیزش کر دے تو قیامت کے دن اُس کے دل پر ایک (سیاہ) دھبہ ہوگا۔

(۲۲۵۸۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَيَّ يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (ابوداؤد ۳۲۲۰۔ احمد ۳/۳۲۶)

(۲۲۵۸۹) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم مال کمانے کے لیے اٹھائے اُس کو اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھ لینا چاہیے۔

(۲۲۵۹۰) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَيَّ يَمِينٍ أَمْرٍ مُسْلِمٍ لِيَقْتَطِعَهُ لَمْ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ .

(احمد ۱/۱۸۸۔ ابو یعلیٰ ۹۵۱)

(۲۲۵۹۰) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص مسلمان کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے جھوٹی قسم اٹھائے اُس کے لئے اُس مال میں برکت نہیں دی جائے گی۔

(۲۹۲) فِي رَجُلٍ رَأَى جَارِيَةً تَبَاعَ فَقَالَتْ إِنِّي مَسْرُوقَةٌ

کوئی شخص باندی دیکھے جو فروخت ہو رہی ہو اور وہ باندی کہے میں چوری شدہ ہوں

(۲۲۵۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى جَارِيَةً فِي السُّوقِ تَبَاعُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي مَسْرُوقَةٌ ، فَقَالَ : تَشْتَرِي ، وَلَا تَصَدَّقْ ، وَسَأَلَتْ فَنَادَتْ فِكْرَةَ ذَلِكَ .

(۲۲۵۹۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے بازار میں باندی دیکھی جو بک رہی تھی، اور اُس باندی نے کہا کہ میں چوری شدہ ہوں، آپ نے فرمایا خرید لو اُس کی تصدیق مت کرو۔
پھر میں نے حضرت قتادہ سے دریافت کیا تو آپ نے اِس کو ناپسند فرمایا۔

(۲۹۳) الرَّجُلُ يَكْتَابُ الْمَكَاتِبَ

کوئی شخص غلام کو مکاتب بنائے

(۲۲۵۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُغَيَّرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَاتَبَ عَبْدُهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَهُوَ مِنْ مَّكَاتِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَكَتَمَهُمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

(۲۲۵۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے غلام کو مکاتب بنا لے اور اُس کے غلام اور باندی اور بھی موجود ہو، تو وہ اُس کے مکاتب میں ہوگا، اور اگر اُس کے بچے ہوں اور وہ اُن کو چھپالے تو اُس پر کچھ نہیں ہے۔

(۲۲۵۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ .

(۲۲۵۹۳) حضرت ابراہیم سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۵۹۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطِعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ : رَاقِيًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : هُوَ لِلْعَبْدِ .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسَلِيمَانُ بْنُ مُوسَى .

(۲۲۵۹۴) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا، اُس نے اپنا مال چھپا دیا، تو غلام، یا عین یا مال وغیرہ کس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ غلام کے لئے ہوگا۔

(۲۲۵۹۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أُمٌّ وَلَدَهُ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مَّكَاتِبِهِ .

(۲۲۵۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ام ولد اور اُس کی اولاد سب مکاتب میں داخل ہوں گے۔

(۲۹۴) الرَّجُلُ يَكْتَابُ الْمَكَاتِبَ وَيَشْتَرِطُ مِيرَاثَهُ

کوئی شخص غلام کو مکاتب بنا لے اور اُس کی میراث کی شرط لگا دے کہ وہ میں وصول کروں گا

(۲۲۵۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ وَاشْتَرِطَ وَلَانَهُ وَمِيرَاثَهُ وَدَارَهُ ، فَلَمَّا أَدَّى مَّكَاتِبَهُ عَتَقَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ أَوْلِيَاؤُهُ فِي مِيرَاثِهِ ، فَأَبْطَلَ سُرِيحَ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْمُؤَلَّى :

فَمَا يُعْنِي عَنِّي شَرْطِي مِنْدُ عِشْرِينَ سَنَةً ؟ فَقَالَ سُرِيحٌ : شَرِطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ مِنْدُ خَمْسِينَ سَنَةً .

(۲۲۵۹۶) حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنالیا، اور اُس کی ولاء، میراث اور گھر کی اپنے لیے شرط لگا دی، جب غلام نے بدل کتابت ادا کیا تو وہ آزاد ہو گیا، پھر اُس کا انتقال ہو گیا، اُس کی وفات کے بعد اُس کے اولیاء کا میراث کے بارے میں جھڑا ہو گیا، حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے اس کو باطل کر دیا، اُس کے آقا نے کہا کہ مجھے اس میں سال سے لگائی ہوئی شرط کا کیا فائدہ ہوا؟ حضرت شریح نے فرمایا: اللہ کی شرط تجھ سے پہلے پچاس سال سے ہے، اور اُس کا زیادہ حق ہے۔

(۲۲۵۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّ عَدِيًّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ كَتَبَ غُلَامًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ شَرُطٌ يَنْقُصُ أَوْ يَنْتَقِصُ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ .

(۲۲۵۹۷) حضرت عدی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا ہے، اور اُس نے میراث میں سے ایک حصہ کی اپنے لئے شرط لگائی ہے، حضرت عمر نے جواب تحریر فرمایا کہ: کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شرط لگا کر اللہ کے فرائض میں سے کسی کر دے۔

(۲۲۵۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنْ لَنَا سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِكَ ؟ قَالَ : لَا ، شَرُطَ اللَّهُ قَبْلَ شَرِطِهِمْ .

(۲۲۵۹۸) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا ایک شخص نے غلام کو مکاتب بنایا اور اُس کے اہل نے یہ شرط لگا دی کہ تیری میراث میں سے ایک حصہ ہمارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں! اللہ تعالیٰ کی شرط اُس کی شرط سے پہلے مقرر ہے۔

(۲۲۵۹۹) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : بِنَحْوِ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ .

(۲۲۵۹۹) حضرت عطاء سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۹۵) فِي أَجْرِ الْمُغْنِيَةِ وَالنَّائِحَةِ

گاناگانے والی اور نوحہ کرنے والی کی اجرت

(۲۲۶۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ كَرَةَ أَجَرَ الْمُغْنِيَةِ ، زَادَ فِيهِ عَبْدَةُ : وَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَكْمَلَهُ .

(۲۲۶۰۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے گاناگانے والی کی اجرت کو ناپسند کرتے تھے، اور حضرت عبدہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ میں اسے کھانے کو بھی ناپسند سمجھتا ہوں۔

(۲۲۶۰۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ كَرَةَ أَجَرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغْنِيَةِ .

(۲۲۶۰۱) حضرت حسن گاناگانے والی اور نوحہ کرنے والیوں کی اجرت کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۶۰۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ كَرَةَ أَجَرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغْنِيَةِ وَالْكَاهِنِ .

(۲۲۶۰۲) حضرت ابراہیم گانا گانے والی، نوحہ کرنے والی اور کاہن کی اجرت کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۶۰۳) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ (وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ) قَالَ : مَهْرُ الْبُعْهِ ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ الْكَاهِنُ عَلَى كَهَانَتِهِمْ .

(۲۲۶۰۳) حضرت عبداللہ بن ہبیرہ ”واکلمہم السحت“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے زانیہ کی اجرت مراد ہے، اور جو کچھ کاہن اپنی کہانہ سے حاصل کرے۔

(۲۹۶) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ

کوئی شخص کپڑوں کے بدلے چیک دستاویز خرید لے

(۲۲۶۰۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الصَّكَّ بِالْبُرِّ عَلَى الرَّجُلِ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ .

(۲۲۶۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آدمی اگر چیک کے بدلے میں کپڑے خرید لے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۶۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ صَكًّا فِيهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ بَنُوبٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ .

(۲۲۶۰۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کپڑوں کے بدلے میں دستاویز خرید لیا ہے جس میں تین دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ درست نہیں۔

(۲۲۶۰۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ غَرٌّ .

(۲۲۶۰۶) حضرت شعبی اس کو ناپسند کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ دھوکا ہے۔

(۲۲۶۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاؤُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إِفْلَاسُهُ فَعَتَاؤُهُ جَائِزٌ .

(۲۲۶۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا افلاس ظاہر ہو جائے تو اس کے لئے غلام آزاد کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس پر دین ہو، اور اگر اس کا افلاس ظاہر نہ ہو تو اس کے لئے غلام آزاد کرنا جائز ہے۔

(۲۹۷) إِنظَارُ الْمَعْسِرِ وَالرَّفْقُ بِهِ

تنگ دست کو مہلت دینا اور اس کے ساتھ نرمی کرنا

(۲۲۶۰۸) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَبِيعِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْيَسْرِ ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ: أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِيهِ.

(مسلم ۷۴ - حاکم ۲۸)

(۲۲۶۰۸) حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تنگ دست کو مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطاء فرمائے گا۔

(۲۲۶۰۹) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْيَسْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . (طبرانی ۳۷۴)

(۲۲۶۰۹) حضور اقدس ﷺ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۶۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عَمِيرٍ ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَدَايِنُ النَّاسَ وَيَبَايِعُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ وَمُنْتَجَازِي ، فَبَايَعَهُ الْمُعْسِرُ وَالْمُسْتَنْظِرُ فَيَقُولُ: كُلُّ وَأَنْظِرُ وَتَجَاوَزَ الْيَوْمَ ، يَتَجَاوَزُ عَنَّا ، قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهَ وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا غَيْرَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

(۲۲۶۱۰) حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرضہ دیتا اور ان کے ساتھ بیع کرتا تھا، اس کا ایک کاتب اور ایک قرضہ وصول کرنے والا تھا، اس کے پاس جب کوئی تنگ دست آتا تو اپنے کاتب سے کہتا کہ تول کر دے دو اور کچھ مہلت بھی دے دو۔ آجکے دن درگزر کرو۔ اس کے بدلہ میں اللہ ہم سے درگزر کرے گا۔ وہ شخص اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس عمل کے علاوہ اس نے کوئی بھی اچھا عمل نہیں کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔

(۲۲۶۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوَجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا يَخَالِطُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِعِلْمَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ ، فَقَالَ: اللَّهُ لِمَلَأَ كَيْبَتِي: فَتَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ.

(مسلم ۳۰ - ترمذی ۱۳۰۷)

(۲۲۶۱۱) حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلے ایک شخص کا حساب لیا گیا اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ مال دار شخص تھا اور لوگوں سے معاملات کرتا تھا، اس نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ دست کو مہلت دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں اس سے زیادہ اس بات کا مستحق ہوں، تم اس سے تجاوز کرو (معاف کرو، مہلت دو)۔

(۲۲۶۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِنَحْوِهِ مِنْهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ.

(۲۲۶۱۲) حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۶۱۳) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْحَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ ، كَانَ فِي

ظِلُّ الْعُرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ۵/ ۳۰۰۔ عبد بن حمید ۱۹۵)

(۲۲۶۱۳) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اپنے مقروض کو آسودہ حال کرے یا اس کو معاف کر دے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔

(۲۲۶۱۴) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَبِيعِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحَدِيثِيَّةَ : حَدَّثَنِي بَشِيرٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : انْظُرْ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَجَازِفُ النَّاسَ وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ الْمُعْسِرَ وَاتَّجَاوَزُ عَنِ الْمُؤْسِرِ ، فَأَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ عُقْبَةُ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ . (مسلم ۱۱۹۵)

(۲۲۶۱۳) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے ایک شخص تھا، فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا، اور اس سے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی نیک عمل ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اس نے کہا غور کر، اس شخص نے کہا اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ میں بیع میں لوگوں کو مہلت دیتا تھا، پس میں تنگ دست کو مہلت دیتا اور میرے تجاوز کرتا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمادیا۔

(۲۲۶۱۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ سَهْلًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ أَطَّلَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .

(۲۲۶۱۵) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ کی راہ میں مجاہد کی مدد کرے، مقروض کو تنگ دستی میں مہلت دے اور مکاتب کی مدد کرے اللہ پاک اس کو اس دن (اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا) جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

(۲۹۸) فِي السُّومِ فِي الْبَيْعِ

بیع میں قیمت مقرر کرنا

(۲۲۶۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَارٍ ، عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا فَقَالَ : عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السُّومَةِ ، أَوْ بِأَوَّلِ السُّومِ فَإِنَّ الرِّبَاحَ مَعَ السَّمَّاحِ . (ابوداؤد ۱۶۷)

(۲۲۶۱۶) حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: تم پر پہلی قیمت لازم ہے، بے شک نفع سہولت اور مہلت دینے کے ساتھ ہے۔

(۲۲۶۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدُ السَّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسُّومِ . (ابوداؤد ۱۶۶)

- (۲۲۶۱۷) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: سامان کا مالک قیمت لگانے کا زیادہ حق دار ہے۔
 (۲۲۶۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أُرْتِمَ أَنْفُهُ بِالسُّومِ .
 (۲۲۶۱۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: جانور (گھوڑا وغیرہ) کی ناک پر قیمت چسپاں کر دیا کرو۔

(۲۹۹) فِي التَّجَارَةِ وَالرَّغْبَةِ فِيهَا

تجارت اور اُس کی فضیلت میں

- (۲۲۶۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : انظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ فِي الْحِلَافَةِ فَأَبْعَثُوا بِهِ إِلَى الْحَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْتَحِلُّهُ ، وَقَدْ كُنْتُ أَصَبْتُ مِنَ الْوَدَّيْكَ نَحْوًا مِمَّا كُنْتُ أَصَبْتُ مِنَ التَّجَارَةِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا مَاتَ نَظَرْنَا ، فَإِذَا عَبْدٌ نُوْبِيُّ يَحْمِلُ صَبِيَانَهُ وَنَاصِحٌ كَانَ يَسْقِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَبَعَثْنَا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ ، قَالَتْ : فَأَخْبَرَنِي جَدِّي ، أَنَّ عُمَرَ بَكَى وَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدْ آتَعَبَ مِنْ بَعْدِهِ تَعَبًا شَدِيدًا .
 (۲۲۶۱۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرض الوفات قریب آیا، آپ نے فرمایا: میرے مال میں دیکھو خلافت میں آنے کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور وہ میرے بعد والے خلیفہ کو بھیج دو، بے شک میں اُس کو حلال سمجھتا تھا، جتنا مال میں نے تجارت میں کمایا ہے تقریباً اتنی ہی مالیت کے جانور بھی میرے پاس موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو ایک نوبی غلام (یعنی جس کی آنکھیں درست نہ ہوں اور وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہ سکتا ہو) تھا۔ جس نے اپنے بچے اٹھائے ہوئے تھے اور ایک اونٹنی تھی جس پر پانی لایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ سب عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے میرے دادا نے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے انہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔

- (۲۲۶۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا هَذِهِ الْيُوعُ صِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ .

(۲۲۶۲۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خرید و فروخت نہ ہوتی تو تم لوگوں پر بوجھ بن جاتے۔

- (۲۲۶۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِبَلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَتَجَرَ قَرِيْشٍ .

(۲۲۶۲۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش میں سب سے بڑے تاجر تھے۔

- (۲۲۶۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْمَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَرْدَاءِ : كُنْتُ تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ التَّجَارَةِ وَالْعِبَادَةِ فَلَمْ يَسْتَقِمْ لِي ، فَتَرَكْتُ التَّجَارَةَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْعِبَادَةِ .

(۲۲۶۲۲) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تجارت کیا کرتا تھا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں نے تجارت اور عبادت کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ میرے لئے نہ ہو سکا، تو میں نے تجارت چھوڑ دی اور عبادت پر لگ گیا۔

(۲۲۶۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَيْتُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ كَانَ أَتَجَرَ قُرَيْشٍ .

(۲۲۶۲۳) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر دی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے تاجر تھے۔

(۲۲۶۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : لِدَرَاهِمٍ مِنْ تِجَارَةِ أَحَبِّ إِلَيَّ مِنْ عَشْرَةٍ مِنْ عَطَانِي .

(۲۲۶۲۴) حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجارت سے حاصل کیا گیا ایک درہم مجھے تحفے میں ملے ہوئے دس درہموں سے زیادہ پسند ہے۔

(۲۲۶۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فَرَاغَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْقَفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعِيَ عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطَّفَ عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مَكَاثِرًا مَرَاتِبًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ . (عبد بن حمید ۱۳۳۳- بیہقی ۹۸۹۰)

(۲۲۶۲۵) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص حلال دنیا جمع کرے۔ سوال سے بچنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی کفایت کرنے کے لیے اور اپنے بڑوسی پر مہربانی اور نرمی کرنے کے لیے۔ ایسا شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور جو شخص کثرت مال اور ریا کاری کی نیت سے حلال مال جمع کرے گا تو ایسا شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

(۲۲۶۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْسَى أَبُو نَعَامَةَ سَمِعَهُ أَوْ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِثُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : كُنَيْتٌ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةٌ أَسْفَارُ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالرَّجُلُ يَسْعَى بِمَالِهِ فِي وَجْهِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، أَيْتَغَى بِمَالِي مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي ، وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهَا شَهَادَةٌ ، لَرَأَيْتُ أَنَّهَا شَهَادَةٌ .

(۲۲۶۲۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے تین سفر لکھ دیئے گئے ہیں، حج اور عمرہ کے لئے، اللہ کے راستہ میں

جہاد کے لئے، اور آدمی کا تجارت کرنا اس طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر، اپنے مال سے اللہ کے فضل سے تلاش کرنا مجھے اہم بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے بستر پر مروں، اور اگر میں کہتا کہ یہ شہادت ہے تو البتہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ شہادت ہے۔

(۲۲۶۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عُمَرُو ، أَسُدُّدُ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَرِيَابَكَ وَأَنْتَبِي ، قَالَ : فَشَدَدْتُ عَلَيَّ سِلَاحِي وَرِيَابِي ، ثُمَّ آتَيْتَهُ فَوَجَدْتَهُ يَتَوَضَّأُ ، فَصَعَّدَنِي فِي الْبَصْرِ وَصَوَّبَهُ فَقَالَ : يَا عُمَرُو ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا يُسَلِّمُكَ اللَّهُ وَيَغْنَمُكَ ، وَأَزْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأُسَلِّمُ رَغْبَةً فِي الْمَالِ ، إِنَّمَا أَسَلَّمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْفُونَةِ مَعَكَ ، قَالَ : يَا عُمَرُو ، نَعِمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ . (بخاری ۲۹۹ - احمد ۳ / ۲۰۲)

(۲۲۶۲۷) حضور اقدس ﷺ نے حضرت عمرو بن العاصؓ سے فرمایا: اے عمرو! اپنے کپڑے پہن کر اور اپنا اسلحہ باندھ کر میرے پاس آؤ حضرت عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اسلحہ باندھا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو وضو کرتا ہوا پایا، حضور نے اوپر سے نیچے تک میرا کھل جائزہ لیا، پھر نگاہ کو جھکایا، پھر فرمایا کہ میں تم کو ایسی جگہ بھیجنا چاہتا ہوں جہاں تم کو اللہ تعالیٰ سلامتی بخورے اور مال غنیمت بھی عطا کرے گا۔ میں تم کو اس میں سے کچھ مال بھی دوں گا۔ حضرت عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے مال کی رغبت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو جہاد اور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام قبول کیا، حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے عمرو بن العاصؓ! پاکیزہ مال نیک شخص کے لئے بہت اچھا ہے۔

(۲۲۶۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ : سَهْمٍ فِي الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةً مِنْ حَلَالٍ ، أَوْ عَطَاءً مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرٍ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

(۲۲۶۲۸) حضرت محمد بن واسع الازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مال صرف چار صورتوں میں ہی حلال ہے، مسلمانوں کے غنیمت میر سے حصہ ہو، اور حلال مال کی تجارت سے ہو، یا کوئی مسلمان بھائی اپنی خوشی سے عطیہ دے، یا اللہ کے مقررہ کردہ میراث کے حصہ میر سے ہو۔

(۲۲۶۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَمِيرَ آلِهِ الْمَدِينَةَ ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَرِيحَ أَوْاقِيٍّ ، فَفَقَسَمَهَا فِي أَرْبَعِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ : لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ . (ابوداؤد ۳۳۷ - احمد ۱ / ۲۳۵)

(۲۲۶۲۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مدینہ میں فحروں کا ایک قافلہ آیا جس پر سامان تجارت تھا، آنحضرت ﷺ نے اس میں خرید اور کچھ چاندی زاد بیچ گئی، آپ ﷺ نے اس کو بنی عبدالمطلب کے مساکین میں تقسیم فرمایا اور فرمایا: میں اس کو

چیز نہیں خریدنا جس کی قیمت میرے پاس نہ ہو۔

(۲۲۶۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَلَابَةَ يُحْتَنِي عَلَى الْاِحْتِرَافِ وَالطَّلَبِ ، وَقَالَ أَبُو قَلَابَةَ : الْغِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ .

(۲۲۶۳۰) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ پیشہ اختیار کرنے پر ابھارتے تھے، اور فرماتے مال داری عافیت میں سے ہے۔

(۲۲۶۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ، قَالَ : النَّجَارَةُ .

(۲۲۶۳۱) حضرت مجاہد قرآن پاک کی آیت ﴿ اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تجارت ہے۔

(۲۰۰) مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْحَلْفِ

بلاوجہ قسم اٹھانے کے ممانعت

(۲۲۶۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ : إِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ مَنْفَقَةً لِلْسُّلْعَةِ مَمْحَقَةً لِلْكَسْبِ . (بخاری ۲۰۸۷ - مسلم ۱۱۳۱)

(۲۲۶۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک جھوٹی قسم ساز و سامان کے زوال کا اور کمائی میں بے برکتی کا سبب ہے۔

(۲۲۶۳۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ .

(احمد ۵ / ۲۹۷ - ابن ماجہ ۲۲۰۹)

(۲۲۶۳۳) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زیادہ قسم اٹھانے سے بچو، بے شک اس کی وجہ سے شروع میں مال کچھ بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے۔

(۲۲۶۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ .

(۲۲۶۳۴) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیع میں زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو، بے شک اس کی وجہ سے پہلے مال بظاہر بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے۔

(۲۲۶۳۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ زَادَانَ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي السُّوقَ فَيَسْلَمُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ ، يَاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِيفِ لِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ السَّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْبُرْكَهَ .

(۲۲۶۳۵) حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار آتے تو سلام کرتے اور فرماتے، اے تاجرو! بیع میں زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو، بے شک اس کی وجہ سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔

(۲۲۶۳۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَحِي سَلِيمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْإِيمَانُ لِقَاحِ الْبُيُوعِ وَتَمَحُّقِ الْكُتُبِ .

(۲۲۶۳۶) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم اٹھانا بیوع کو بڑھانے اور کتب کو ختم کرنے کا سبب ہے۔

(۲۲۶۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، قَالَ : كُنَّا بِنَتَاعِ الْأَوْسَاقِ بِالْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَسْمَى أَنْفُسَنَا السَّمَايِرَةَ ، فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا كُنَّا نَسْمَى بِهِ أَنْفُسَنَا ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضِرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِيفُ فَشُوبُهُ بِالصَّدَقَةِ .

(ترمذی ۱۴۰۸۔ ابوداؤد ۳۴۱۹)

(۲۲۶۳۷) حضرت قیس بن شیبہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تجارت کرتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو سامر کے نام سے پکارتے تھے، پھر آنحضرت ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں اُس سے اچھے نام سے پکارا جس سے ہم اپنے آپ کو پکارتے تھے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے تاجرو! اس کاروبار میں لغو کام اور قسم اٹھائی جاتی ہے، پس اُس کی تلافی صدقہ کے ساتھ کرو۔

(۲۲۶۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ . (بيهقي ۳۸۴۸)

(۲۲۶۳۸) حضور اقدس ﷺ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۶۳۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلِيفُ حِنْتُ ، أَوْ نَدْمٌ .

(۲۲۶۳۹) حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے قسم اٹھانا حانث ہونے یا نادم ہونے کا سبب ہے۔ (ان دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا)۔

(۲۲۶۴۰) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ خَرَّشَةَ بْنِ الْحَرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثًا لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الْمَنَانُ وَالْمَسْبِلُ ، وَالْمُنْفِقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلِيفِ الْكَاذِبِ . (مسلم ۱۷۱۔ ابوداؤد ۳۰۸۳)

(۲۲۶۴۰) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کو

گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا، احسان جتانے والا، شلوار کٹنوں سے نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسم اٹھا کر سامان فروخت کرنے والا۔

(۲۳۶۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَمِّعِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : الْكُذْبُ مِلْحُ الْبَيْعِ : يَنْفِقُ السَّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكُسْبَ .
(۲۳۶۶۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جھوٹ بیع کو خوشنما اور تیز کرتا ہے، سامان کو بکوادیتا ہے لیکن کسب کو ختم کر دیتا ہے۔

(۲۰۱) من کرہ أن یکتب عبده إن لم یکن له حرفة

جو حضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ غلام کے پاس اگر کوئی پیشہ نہ ہو اور پھر اس کو

مکاتب بنایا جائے

(۲۳۶۶۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حِرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ : أَمَا بَعْدُ : فَإِنَّهُ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَانَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ .
(۲۳۶۶۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے عمیر بن سعد کو لکھا مابعد: اپنے پاس مسلمانوں کو منح کرو کہ وہ اپنے غلاموں کو لوگوں کے سوال پر مکاتب بنائیں۔

(۲۳۶۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ .

(۲۳۶۶۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ غلام کو بغیر پیشہ کے مکاتب بنالیا جائے۔

(۲۳۶۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ ، فَجَانَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ : كُنْتُ أَسْأَلُ وَأَعْمَلُ ، قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْ سَاخَ النَّاسِ ؟ أَنْتَ حُرٌّ وَلَكَ نَجْمُكَ هَذَا .

(۲۳۶۶۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا تو وہ آپ کے پاس بدل کتابت کی قسط لے کر حاضر ہوا جب آپ تشریف لائے، آپ نے دریافت کیا کہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ غلام نے کہا کہ میں نے لوگوں سے سوال کیا اور کچھ کام کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تو مجھے لوگوں کے مال کی میل کھلانا چاہتا ہے؟ جا تو آزاد ہے، اپنی قسط بھی لے جا۔

(۲۳۶۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، أَنَّ سَلْمَانَ أَرَادَ أَنْ يُكَاتِبَ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : أَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْ سَاخَ النَّاسِ ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ .

(۲۲۶۳۵) حضرت سلمان نے اپنے غلام کو مکاتب بنانے کا ارادہ کیا، پھر اُس سے پوچھا مال کہاں سے لائے گا؟ اُس نے کہا کہ لوگوں سے مانگ کر، آپ نے فرمایا: کیا تو مجھے لوگوں کی میل کھانا چاہتا ہے؟ پھر اُس کو مکاتب بنانے سے انکار کر دیا۔

(۲۳۶۶۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا شَاءَ كَاتِبٌ عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَكْتَابِهِ.

(۲۲۶۳۶) حضرت عامر بن شیبہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو مکاتب بنا لو اور اگر چاہو تو نہ بناؤ۔

(۲۳۶۶۷) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَاتِبٌ عَبْدًا لَهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِلَّا يَسْتَكِدَّ النَّاسَ.

(۲۲۶۳۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا اور اُس پر شرط لگا دی کہ لوگوں سے سوال نہ کرے گا۔

(۲.۲) مَنْ قَالَ إِذَا فَرَضْتَ فَخَذْ مَا فَرَضْتَ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرض وغیرہ دو تو جو دیا ہے اُسی کے مثل لو

(۲۳۶۶۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا فَرَضْتَ عَدَدًا فَخَذْ عَدَدًا، وَإِذَا فَرَضْتَ وَزْنًا فَخَذْ وَزْنًا.

(۲۲۶۳۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم گن کر دو تو گن کر لو، اور اگر وزن کر کے دو تو پھر وزن کر کے لو۔

(۲۳۶۶۹) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلَّفَ عَدَدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا.

(۲۲۶۳۹) حضرت محمد بن شیبہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کسی کو قرض عدد دے اور اُس سے وزن وصول کرے۔

(۲۳۶۷۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ بَازِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَيَّاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَوَلِيَّ سَكْرَةَ بَيْتِي، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ الْقَصَبَ وَزْنًا وَيُوَدُّهُ وَزْنًا. (بخاری ۱۹۸۹)

(۲۲۶۵۰) حضرت بازام فرماتے ہیں کہ میں نے ایاس بن معاویہ کو جو سکر ہش کے ولی تھے اُن کو دیکھا، سونے کی کیا وغیرہ وزن قرض لیتے تھے اور وزن واپس کرتے تھے۔

(۲۳۶۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ اقْتَرَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ عَدَدًا بَارِضٍ فَجَارَتْ بِوَزْنِهَا أَيُّضِيهِ وَزْنًا فَكِرَهَا ذَلِكَ وَقَالَا: لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مِثْلَ دَرَاهِمِهِ.

(۲۲۶۵۱) حضرت حسن اور حضرت محمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے زمین کے بدلے گن کر دراہم قرض لیے، کیا وہ قرض کی ادائیگی وزن کے ساتھ کر سکتا ہے؟ آپ دونوں حضرات نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ وہ اسی کے مثل کے ساتھ قرض ادا کرے۔

(۲۳۶۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مِبْرَارٍ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَيَّ رَجُلٍ أَلْفَ لَبَنَةٍ مِنْ لَبَنِ كِبَارٍ، وَالْكَبَارُ تَبَاعٌ مِثَّتَيْنِ بَدْرُهُمْ، وَالصَّغَارُ خَمْسِينَ وَمِثَّتَيْنِ، قَالَ: نَقَصَهُ مِنْ

حَقِّهِ ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ .

(۲۲۶۵۲) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ایک شخص کی دوسرے پر ہزار بڑی اینٹیں قرض تھیں، بڑی اینٹ ایک درہم کے بدلہ میں دو سولتی ہیں جب کہ چھوٹی اینٹ ایک درہم کے بدلہ میں اڑھائی سولتی ہیں۔ پس وہ چاہے تو اس کو مباح کر سکتا ہے۔
(۲۲۶۵۲) حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ .
(۲۲۶۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وزن کی (ادائیگی اور واپسی) وزن کے ساتھ اور عدد کی عدد کے ساتھ۔

(۲۰۲) فِي الرَّجُلِ يَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَيَأْخُذُ بِيضًا

کوئی شخص سیاہ درہم قرض دے کر سفید وصول کرے

(۲۲۶۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا بِقِضَاءِ الدَّرَاهِمِ الْبَيْضِ مِنَ الدَّرَاهِمِ السُّودِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا .
(۲۲۶۵۳) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ سیاہ درہم کے بدلے سفید درہم وصول کئے جائیں، جب کہ اس کی شرط نہ لگائی ہو۔

(۲۲۶۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرِي بِذَلِكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا ، أَوْ يَتَى .

(۲۲۶۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی شرط لگائی ہو اور اس کی نیت بھی نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۴) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْتِيهِ مِنْهُ

کوئی شخص باندی خریدے اور وہ اس کے پاس سے بھاگ جائے

(۲۲۶۵۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْتِيهِ مِنْهُ ، فَإِنْ ذَلَّسَتْ لَهُ أَوْ غَدَرَتْ رَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ وَاطْلُبُ جَارِيَتِكَ ، قَالَ : وَكَانَ شَرْيْحًا يَقُولُ : رُدَّهَا بِذَاتِهَا .

(۲۲۶۵۶) حضرت شعبی فرماتے ہیں جو باندی خریدے اور وہ اس کے پاس سے بھاگ جائے، اگر اس کو فروخت کرتے وقت عیب چھپایا جائے یا اس کو دھوکہ دیا جائے تو اس کو ٹھن واپس کرے گا اور اپنی باندی طلب کرے گا، اور حضرت شرح فرماتے تھے اس باندی کو ہی واپس کرے گا۔

(۲۰۵) فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ

فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

کوئی شخص کسی کو سامان فروخت کرے ایک مقررہ وقت کے لئے اور شرط لگا دے کہ اگر

اُس مدت سے قبل فروخت کیا تو وہ اُس کا زیادہ حق دار ہے

(۲۲۶۵۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ أَبِي الدَّبَّالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُذَهُ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .

(۲۲۶۵۷) حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دو ماہ کے لئے سامان فروخت کر دیا اور مشتری پر شرط لگا دی کہ اگر اس کو دو ماہ سے قبل ہی بیچنا پڑے تو مجھ کو ہی واپس بیچ دے گا، آپ نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

(۲۲۶۵۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ ، قَالَ : بَعْتُ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ تَبِعْتَهَا نَفْسِي ، قَالَ : فَتَبِعْتَهَا نَفْسِي ، فَحَاصَمْتَهُ إِلَى شُرَيْحٍ لَقَالَ : لَقَدْ أَفْرَدْتَ بِالْبَيْعِ فَيَسْتَكُ عَلَى الشَّرْطِ .

(۲۲۶۵۸) حضرت عبدالعزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو باندی فروخت کی، اور اُس پر شرط لگا دی کہ اس کو مجھے فروخت کرے گا، پھر اس نے اُس کو مجھے فروخت کر دیا، میں اس جھگڑے کو حضرت شریح کے پاس لے گیا، آپ نے فرمایا: تو نے بیچ کے ساتھ اقرار کیا ہے، پس تجھے شرط پر گواہ لانے پڑیں گے۔

(۲۲۶۵۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ ، عَنْ شَرِيحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ لِبِضْعَةٍ عَشْرَ يَوْمًا .

(۲۲۶۵۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے چند دنوں کے لئے شرط کو جائز (نافذ) قرار دیا۔

(۲۰۶) فِي الْمَكَاتِبِ يَقُولُ لِمَوَالِيهِ أَعْجَلْ لَكَ وَتَضَعُ عَنِّي

مکاتب اپنے آقا کو یوں کہے: تو بدل کتابت کم کر دے میں جلدی ادا کروں گا

(۲۲۶۶۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُبْتَائِبُ لِمَوْلَاهُ : حَطَّ عَنِّي وَأَعْجَلْ لَكَ .

(۲۲۶۶۰) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب اپنے آقا کو یوں کہے کہ کچھ بدل کتابت کم کر میں جلدی ادا کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۶۶۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ

لِمُكَاتِبِهِ: عَجَّلْ لِي وَأَضِعْ عَنْكَ.

(۲۲۶۶۱) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے مکاتب سے یوں کہے کہ: جلدی ادا کر میں بدل کتابت کم کر دوں گا۔

(۲۲۶۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِمُكَاتِبِهِ: أَضِعْ عَنْكَ وَعَجَّلْ لِي ، فَكَرِهَهُ .
(۲۲۶۶۳) حضرت شعبیؒ سے مروی ہے کہ آدمی کا اپنے مکاتب کو یوں کہنا: میں کچھ کمی کر دوں گا تو جلدی ادا کر، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۲۲۶۶۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ كَانَ يُكَاتِبُ غَلَامَهُ عَلَى دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ: عَجَّلْ لِي وَأَضِعْ عَنْكَ لَمْ يَرَبَأْسًا ، قَالَ: وَلَمْ أَرَأْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْرُضَ .

(۲۲۶۶۳) حضرت زہریؒ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے غلام کو مقررہ مدت کے لئے کچھ دراہم پر مکاتب بنائے، پھر وقت مقررہ سے پہلے اس کو کہے کہ جلدی ادا کر میں بدل کتابت میں کمی کر دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے حضرت ابن عمرؓ کے اور کسی کو نہیں دیکھا جو اس کو ناپسند کرتا ہو، بے شک اس کو ناپسند کرتے تھے البتہ سامان کے بدلہ میں جائز سمجھتے تھے۔

(۲۲۶۶۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتِبِ أَنْ يَقُولَ: عَجَّلْ لِي وَأَضِعْ عَنْكَ .

(۲۲۶۶۳) حضرت حسن اور ابن سیرینؒ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ مکاتب سے یہ کہا جائے کہ وقت مقررہ سے جلدی ادا کر میں کچھ کمی کر دوں گا۔

(۲۲۶۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمُكَاتِبِهِ: عَجَّلْ لِي وَأَضِعْ عَنْكَ ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ .

فَأَلَّ وَكِيعٌ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُهُ فِي الْمُكَاتِبِ وَالذَّيْنِ .

(۲۲۶۶۵) حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنے مکاتب سے یوں کہتا ہے کہ جلدی ادا کر میں کچھ کم کر دوں گا، آپ نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان دین اور مکاتب میں اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۳۰۷) مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَكَاتِبِ عَرُوضًا

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مکاتب سے سامان لینے میں کوئی حرج نہیں

(۲۲۶۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَكَاتِبِهِ عَرُوضًا .

(۲۲۶۶۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مکاتب سے سامان وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۶۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَكَاتِبِهِ عَرُوضًا .

(۲۲۶۶۷) حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا کہ آدمی اپنے مکاتب سے سامان بھی لے سکتا ہے۔

(۲۲۶۶۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقَاتِعَ مَكَاتِبَهُ عَلَى ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : لَا إِلَّا بِعَرُوضٍ .

(۲۲۶۶۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے مکاتب کو سونے اور چاندی اپنے پر ہی مجبور کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر ساتھ میں سامان بھی ہو تب جائز ہے۔

(۲۲۶۶۹) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا يَنْهَاهُمُ عَنْ مَقَاتِعَةِ الْمُكَاتِبِينَ ، قَالَ : وَهَذَا لَا تَرَى بِهِ بَأْسًا ، يَعْنِي : طَاوُؤًا .

(۲۲۶۶۹) حضرت حسن بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ یا اہل مکہ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو لکھا کہ ان کے مکاتبوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنے سے روکا، اور راوی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت طاوؤس اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

(۳۰۸) مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْقَرْضِ وَالْمِنِيحَةِ

قرض اور عطیہ دینے پر ثواب کا بیان

(۲۲۶۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَدْنَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ سَمِعَتْهُ يَقُولُ : لِأَنَّ أَقْرَضَ رَجُلًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَهُ مَرَّةً . (ابن ماجہ ۲۳۳۰)

(۲۲۶۷۰) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں کسی شخص کو دو مرتبہ قرض دوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی کو ایک

مرتبہ کوئی ہدیہ دوں۔

(۲۳۶۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقٍ ، أَوْ مَنِيحَةً لَبَنٍ ، أَوْ هَدَى زُقَافًا كَانَ لَهُ كَيْفَتِي رَقَبَةٍ . (ترمذی ۱۹۵۷ - احمد ۳۰۰ / ۳)

(۲۳۶۷۱) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص کسی کو کچھ درہم قرض دے، یا کچھ دودھ قرض دے، یا تنگ دست کو ہدیہ دے اُس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ غلام آزاد کرنا۔

(۲۳۶۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لِأَنْ أَفْرَضَ مَالًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً .

(۲۳۶۷۲) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دو مرتبہ قرضہ دوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک مرتبہ صدقہ کروں۔

(۲۳۶۷۳) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَوْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنَحَ وَرِقًا ، أَوْ لَبَنًا ، أَوْ هَدَى زُقَافًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدْلٌ رَقَبَةٍ .

(۲۳۶۷۳) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص کسی کو کچھ درہم قرض دے، یا کچھ دودھ قرض دے، یا تنگ دست کو ہدیہ کر دے اُس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ غلام آزاد کرنا۔

(۲۳۶۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَرْضُ مَرَّتَيْنِ كَأَعْطَاءِ مَرَّةٍ .

(۲۳۶۷۴) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ کسی کو قرض دینا ایک مرتبہ عطیہ دینے کے برابر ہے۔

(۲۳۶۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً لَبَنٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَلْبَةِ عَشْرٍ حَسَنَاتٍ عَزْرَتْ ، أَوْ بِكَأْتٍ .

(۲۳۶۷۵) حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو دودھ تھفہ میں پیش کرے تو اس کے لئے ہر دھار کے بدلہ میں دس نیکیاں ہوں گی۔ خواہ وہ دھار کثیر دودھ والی ہو یا کم دودھ والی۔

(۲۳۶۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ مَنَحَ لَبَنًا ، أَوْ أَرْضًا كَانَ لَهُ أَجْرٌ .

(۲۳۶۷۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو شخص دودھ یا زمین قرضہ میں دے اُس کے لئے اجر ہے۔

(۲۳۶۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تَحْمِلُ عَلَى نَجِيحِهَا وَتَعْبِيرُ أَدَانِهَا وَتَمْنَعُ غَزِيرَتَهَا وَتَحْلِبُهَا

يَوْمَ وَرَدَهَا فِي أُعْطَانِهَا . (عبدالرزاق ۶۸۶۰ - احمد ۳۳۶ / ۲)

(۲۲۶۷۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین اونٹ تیس ہیں۔ ان میں سے مضبوط اور پھرتیلے اونٹوں پر سواری کی جائے۔ اور جو زراختہ حال ہوں ان کو اجرت پر دیا جائے اور جو کثرت سے دودھ دیتی ہوں ان کو کسی کو تحفہ کے طور پر دے دیا جائے۔ اور جب وہ اپنے باڑے میں آئیں تو ان کا دودھ دوہا جائے۔

(۲۲۶۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : أَنْ تُنَمَّحَ الْغَزِيرَةَ ، وَأَنْ تُعْطَى الْكَرِيمَةَ ، وَيُطْرَقَ الْفُحْلَ .

(۲۲۶۷۸) حضرت علقمہ بن زبیر قان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اونٹ کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ زیادہ دودھ والی کا دودھ تحفتاً کسی کو دیا جائے اور شریف آدمی ک وسواری کے لیے دیا جائے اور اُس کو نفی کے لئے چھوڑا جائے۔

(۲۲۶۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَيَّاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لِأَنْ أُقْرِضَ مِنْتِي دِرْهَمَ مَرَّتَيْنِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً .

(۲۲۶۷۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دو سو درہم قرض دوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اُن کو ایک مرتبہ صدقہ کروں۔

(۲۲۶۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ سُنَّةٌ عَلَى أَجْرُهُنَّ ، يَعْنِي مِنْ عِظْمِهِ : الْمَيْبِحَةُ ، وَالْأُضْحِيَّةُ ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ .

(۲۲۶۸۰) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین کاموں کا اجر میرے ذمہ ہے، یعنی بڑے عظیم کام ہیں، تحفہ دینا، قربانی کرنا، اور آدمی کا دوسرے شخص کی طرف سے حج کرنا جبکہ اُس نے خود بالکل حج نہ کیا ہو۔

(۲۲۶۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا أَقْرَضَ رَجُلًا رَجُلًا قَرْضًا مَيْبِحَةً ، وَلَا مَالًا إِلَّا كَانَ الْمُقْرَضُ أَفْضَلَهُمَا ، وَإِنْ قَضَى فَأَحْسَنُ .

(۲۲۶۸۱) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرض نہیں دیتا اور نہ ہی مال دیتا ہے مگر قرض ان دونوں سے افضل ہوتا ہے، اور اگر ادا کرے تو اچھا ادا کرنا ہے۔

(۲۲۶۸۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : لِأَنْ أَقْرِضَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا ، إِنِّي إِذَا أَقْرَضْتَهُمَا وَرَدًّا عَلَيَّ فَاتَصَدَّقْتُ بِهِمَا فَيَكُونُ لِي أَجْرَانِ .

(۲۲۶۸۲) حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دو دینار قرض دوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان دونوں کو صدقہ کروں، بے شک میں جب ان کو صدقہ کروں گا پھر وہ مجھے واپس ملیں گے پھر میں اُن کو صدقہ کروں گا تو مجھے دو گنا اجر ملے گا۔

(۳۰۹) فی بیعِ الأصنامِ

بتوں کی بیع کرنا

(۲۳۶۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَ الْفُتْحِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ وَالْمَيْتَةِ .

(۲۳۶۸۳) حضور اقدس ﷺ نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا: بے شک اللہ اور اُس کے رسول ﷺ نے شراب، خنزیر، بتوں اور مردار کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔

(۲۳۶۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالسُّلَيْبِ بِتَمَائِيلَ مِنْ صُفْرٍ تَبَاعُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَقُ لَصَرَبْتُهَا ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يُعَذِّبَنِي فَيَفْتَنِي ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَيُّ الرَّجُلَيْنِ؟ رَجُلٌ قَدْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ آيَسَ مِنْ آخِرَتِهِ فَهُوَ يَتَمَتَّعُ مِنَ الدُّنْيَا .

(۲۳۶۸۳) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق مقام سلسلہ میں ایک مقام سے گزرے جہاں پتیل کے بت فروخت کیے جا رہے تھے۔ حضرت مسروق نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے تو میں انہیں توڑ دیتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں لوگ مجھے ستائیں گے اور تکلیف دیں گے۔ بخدا! میں نہیں جانتا کہ دو آدمیوں میں سے کون سا برا ہے؟ ایک وہ جس کے لیے اس کا برائے عمل مزین کیا گیا اور دوسرا وہ جو آخرت سے ناامید ہو کر دنیا سے ہی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔

(۲۳۶۸۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ جَوْرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلًا وَرَثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرٍ وَخَمْرًا ، فَسَأَلَ عَنْهَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا فِضَّةً وَكُلُّهُمْ نَهَاَهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ .

(۲۳۶۸۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو وراثت میں چاندی کے بت، خنزیر اور شراب ملی، اُس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے اُس کے متعلق دریافت کیا، اُن سب نے اُس کو حکم دیا کہ بتوں کو توڑ کر چاندی بنا لے اور پھر فروخت کر اور سب نے شراب اور خنزیر کی بیع سے منع فرمایا۔

(۳۱۰) فی کسبِ الأُمّةِ

(۲۳۶۸۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلْجِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ جَدَّهُ تَوَفَّى وَتَرَكَ

أُمَّةٌ تَعْبُلُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَّرَهُ كُتُبُ الْأُمَّةِ، وَقَالَ: لَعَلَّهَا لَا تَجِدُ فَتَبِيحِي بِنَفْسِهَا.

(ابوداؤد ۳۴۱۹- طبرانی ۳۴۰۸)

(۲۲۶۸۶) حضرت عباہ بن رفاعہ فرماتے ہیں کہ اُن کے دادا کا انتقال ہوا اور انہوں نے ایک باندی چھوڑی جو کمائی کرتی تھی۔ اس بات کا حضور ﷺ سے ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے باندی کی کمائی کو مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ شاید اس کے پاس کوئی راستہ نہیں اس لیے وہ ایسا کرتی ہے۔

(۲۲۶۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُتُبِ الْأُمَّةِ. (بخاری ۲۲۸۳- ابوداؤد ۳۴۱۸)

(۲۲۶۸۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے باندی کی کمائی سے منع فرمایا۔

(۲۲۶۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: لَا تُكَلَّفُوا الصَّيِّرَ الْكُتُبَ فَيَسْرِقَ، وَلَا تُكَلَّفُوا الْجَارِيَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعِ فَتُكْسِبَ بِفَرْجِهَا وَاعْتَقُوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللَّهُ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَكَايِبِ بِمَا طَابَ لَكُمْ.

(۲۲۶۸۸) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کو کمائی کرنے کا مکلف نہ بناؤ ورنہ وہ چوری کرے گا، اور باندی کو کمائی کا مکلف نہ بناؤ ورنہ اپنی شرمگاہ سے کمائی حاصل کرے گی، اور پاک دامن رہو جب اللہ نے تمہیں پاک دامن رکھا ہے، اور تمہارے لئے وہ منافع ہیں جو تمہارے پاک اور حلال ہیں۔

(۲۲۶۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خُرَاجِ الْأُمَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي عَمَلٍ وَاصِبٍ. (طبرانی ۸۰۳۸)

(۲۲۶۸۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے باندی سے خراج وصول کرنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ وہ مستقل عمل کرتی ہو۔

(۳۱۱) الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالذِّينَارِ الْكُوفِيِّ

شامی دینار کو کوفی دینار کے بدلے فروخت کرنا

(۲۲۶۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَكِيمِ: فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالذِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَقَضِيَ الشَّامِيُّ فِضَّةً، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۶۹۰) حضرت حکم سے دریافت کیا گیا کہ شامی دینار کو کوفی دینار کے بدلے فروخت کرنا اور شامی دینار کا ایک چاندی کا اضافہ ہونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۶۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۶۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ
الْكُوفِيِّ وَقَطْلُهُ فِئْصَةً ؟ فَكَّرَهُ .

(۲۳۶۹۳) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ شامی دینار کو کوئی دینار کے بدلے فروخت کرنا
اور اس میں ایک چاندی کا اضافہ ہو تو کیسا ہے؟ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۲۳۶۹۴) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِئَةِ مِثْقَالٍ بِمِئَةِ دِينَارٍ وَعَشْرَةَ
دَرَاهِمَ ؟ فَكَّرَهُ .

(۲۳۶۹۵) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا گیا کہ سو مِثْقَال کو سو دینار اور دس درہم کے بدلے فروخت کرنا کیسا ہے؟ انہوں
نے اس کو ناپسند کیا۔

(۲۳۶۹۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ دِينَارٌ شَامِيٌّ بِدِينَارٍ كُوفِيٍّ وَدِرْهَمٍ ، وَلَا بَأْسَ إِذَا
كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ كُوفِيٌّ فَيُعْطِيكَ دِينَارًا شَامِيًّا وَيَشْتَرِي الْفُضْلَ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَفْتَرِقَا إِلَّا وَقَدْ
تَصَرَّفَ مَا بَيْنَهُمَا .

(۲۳۶۹۷) حضرت ابراہیم ناپسند کرتے تھے کہ شامی دینار کو کوئی دینار اور ایک درہم کے بدلے فروخت کیا جائے، اور اس میں کوئی
حرج نہیں ہے جبکہ کسی شخص کے ذمہ کوئی دینار ہوں، اور وہ آپ کو شامی دینار دے دے، اور زیادتی کے بدلے کوئی چیز خرید لے، اور
وہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپس کا معاملہ ختم نہ کر لیں۔

(۲۳۶۹۸) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا قُلْتُ : دِينَارٌ ثَقِيلٌ بِدِينَارٍ أَخْفَ مِنْهُ وَدِرْهَمٌ ؟
قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۳۶۹۹) حضرت موسیٰ بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاووس سے دریافت کیا کہ ایک دینار وزنی کو ایک دینار ہلکا اور
ایک درہم کے بدلے فروخت کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۱۲) الرَّجُلُ يَصْرِفُ الدِّينَارَ فَيَفْضِلُ الْقَيْرَاطَ

کوئی شخص دینار میں بیع صرف کرے اور قیراط زیاد ہو جائے

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَهُْيُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ :
(۲۳۶۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ عِنْدَ

الرَّجُلِ الدَّنَائِرِ فَيُفْضِلُ الْقِيرَاطُ ذَهَبٌ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ كَذَا كَذَا وَرُحْمًا .

(۲۲۶۹۶) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے پاس دیناروں میں بیع صرف کر دے اور ایک قیراط سونا بیچ جائے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ اتنے اتنے درہم کر کے وصول کرے۔

(۲۲۶۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الذَّهَبَ بِالذَّرَاهِمِ ، فَيَزِنُ الدَّنَائِرَ فَيَزِيدُ ، فَيَأْخُذُ بِفَضْلِهَا فَضَةً ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ : خُذْ بِهِ أَجْمَعَ ذَهَبًا .

(۲۲۶۹۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے سونے کو درہم کے بدلے خریدے، اور دیناروں کا وزن کرے تو ان کو زیادہ پائے اور زائد کے بدلے چاندی وصول کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور حضرت ابن سیرین نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، فرمایا: سب کس سب سونا وصول کرو۔

(۲۲۶۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِ الدَّنَائِرِ ذَهَبًا ، وَيَنْصِفُهَا فِضَّةً .

(۲۲۶۹۸) حضرت ابراہیم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ آدھے دیناروں کے بدلے سونا اور آدھے کے بدلے چاندی لے۔

(۲۲۶۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْوِازِنَةَ .

(۲۲۶۹۹) حضرت ابن سیرین دونوں کو برابر کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۷۰۰) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَائِرَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

(۲۲۷۰۰) حضرت ابراہیم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دینار کی بیع کرے اور بعض کے بدلے سونا اور بعض کے بدلے چاندی لے، اور حضرت حکم اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۲۷۰۱) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ : أَشْتَرِي الدَّنَائِرَ الْيُسِيرَةَ وَأَقُولُ ، أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ وَرَثَتِهَا ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .

(۲۲۷۰۱) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، میں نے دینار خریدے اور میں نے کہا کہ تو ان کے وزن سے بری ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

(۲۱۳) فِي أَجْرِ الْقَسَامِ

تقسیم کرنے والے کی اجرت

(۲۲۷۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتٌ

الْمَالِ فَاضْرَطَ بِهِ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أُمْسِي وَفِيكَ دِرْهَمٌ ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ : ااقْسِمُهُ ، فَاقْسَمَهُ حَتَّى أُمْسِيَ ، فَقَالَ النَّاسُ : لَوْ عَوَّضْتَهُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنَّهُ سُحَّتْ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لَنَا فِي سُحَّتِكُمْ .

(۲۲۷۰۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال میں داخل ہوئے، پس ہلکا سمجھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم میں نہیں رات کروں گا جبکہ تجھ پر ایک درہم بھی ہو، پھر آپ نے بنو اسد کے ایک شخص کو بلایا، اور اس سے فرمایا کہ تقسیم کرو، وہ تقسیم کرتا رہا یہاں تک کہ شام ہوگئی، لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس کا عوض دیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے، لیکن یہ ناجائز ہے، فرمایا ہمیں تمہارے حرام اور ناجائز چیز کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲۲۷۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا ، فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ .

(۲۲۷۰۳) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ ہر وہ حساب جس کو کر کے اس پر اجرت وصول کی جائے تو وہ احسان کرنے والا نہیں ہے۔ (بے فائدہ ہے)۔

(۲۲۷۰۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : مَا تَرَى فِي كَسْبِ الْقَسَامِ ؟ فَكَرِهَهُ ، قُلْتُ : إِنِّي أَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يُعْرَقَ جِسْمِي ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي فِيهِ .

قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ كَسْبَهُ .

قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبِيثًا فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ .

(۲۲۷۰۴) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے کہا: تقسیم کرنے والے کی اجرت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا: اس کو ناپسند کیا، میں نے عرض کیا کہ میں تقسیم کرتا ہوں یہاں تک کہ میری پیشانی پر پسینے آجاتے ہیں، انہوں نے میرے لئے اس میں نرمی اور اجازت نہیں دی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس کی کمائی کو ناپسند کرتے تھے، حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ خمیٹ نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔

(۲۲۷۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتِمِنُهُ النَّاسُ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا .

(۲۲۷۰۵) حضرت سعید بن ابی الحسن فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے کہ لوگوں نے اسے امانت دار سمجھا یہاں تک کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ اس پر اجرت وصول کرتا ہے۔

(۲۲۷۰۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي الْحَصِينِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا .

(۲۲۷۰۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے قاضی اور غنیمت تقسیم کرنے والوں کے اجرت وصول کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۷۰۷) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : اَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ اَجْرٌ : قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَالْاَذَانُ ، وَالْقَضَاءُ ، وَالْمَقَاسِمُ .

(۲۲۷۰۷) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی اجرت نہیں وصول کی جائے گی، قرآن کی تلاوت پر، اذان پر، قضاء پر اور تقسیم کرنے پر۔

(۲۱۴) فِي اَجْرِ الْكَسَاحِ

صفائی کرنے والے کی اجرت

(۲۲۷۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سِئِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكُتَّاحِ ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُونَ اِيَّاهُمْ ؟ دَعْوَاهُمْ ، فَلَوْلَاهُمْ لَسِيلٌ بِكُمْ .

(۲۲۷۰۸) حضرت حسن سے صفائی کرنے والی کی اجرت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ ان کو چھوڑ دو۔ اگر وہ نہ ہوں تو گندگی تمہیں بہا لے جائے۔

(۲۲۷۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : اِنَّهُمْ كَانُوا يَكْسُحُونَ لَهُمْ فَيَعْطَوْنَهُمْ اُجُورَهُمْ .

(۲۲۷۰۹) حضرت محمد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صفائی کرنے والے اسلاف کے لیے صفائی کیا کرتے تھے اور انہیں اس کی اجرت ملتی تھی۔

(۲۲۷۱۰) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : اِنَّهٗ كَانَ يَكُوْرُهٗ اَجْرَ الْكُتَّاحِ .

(۲۲۷۱۰) حضرت حسن صفائی کرنے کے اجرت وصول کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۷۱۱) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عِيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو : اَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : اَصْبَتَ مَا لَا مِنْ كُنْسِ هَذِهِ الْحُشُوشِ ؟ فَقَالَ فِيْهِ قَوْلًا شَدِيْدًا .

(۲۲۷۱۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے ان بیت الخلاء کی صفائی سے یہ مال پایا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے متعلق سخت الفاظ استعمال فرمائے۔

(۲۲۷۱۲) حَدَّثَنَا وَرِكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ الْاَزْرَقِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : اِنَّهٗ كَرِهَ اَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ غُلَامَهٗ كَسَاحًا .

(۲۲۷۱۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما نے ناپسند کیا کہ آدمی اپنے غلام کے سپرد صفائی کرے۔

(۲۲۷۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ ، عَنْ اَبَانَ بْنِ يَرِيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الشَّقْرِيُّ : اَنَّ ابْنَ عَمْرٍو سِئِلَ عَنْ كَسْبِ

الْكُتَّاسِ ؟ فَقَالَ : خَبِيْثٌ ، كَسْبٌ خَبِيْثٌ ، اَكْلٌ خَبِيْثٌ ، نَبْسٌ خَبِيْثٌ .

(۲۲۷۱۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صفائی کرنے کی اجرت کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: خبیث ہے، کمالی خبیث

ہے، اس کا پہننا خبیث ہے اور کھانا خبیث ہے۔

(۲۱۵) مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَةِ

جو حضرات بیع منابذہ اور ملامسہ سے منع کرتے ہیں

(۲۲۷۱۴) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَةِ . (بخاری ۲۱۳۳ - مسلم ۳)

(۲۲۷۱۳) حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بیع منابذہ اور بیع ملامسہ سے منع فرمایا۔

(۲۲۷۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَةِ .

(مسلم ۱۱۵۲ - ابن ماجہ ۲۱۶۹)

(۲۲۷۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے بیع منابذہ اور ملامسہ سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۷۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَةِ . (نسائی ۲۱۰۷)

(۲۲۷۱۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۷۱۷) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمِثْلَهُ .

(مسلم ۱۱۵۱ - ترمذی ۱۳۱۰)

(۲۲۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل مروی ہے۔

(۲۱۶) الرَّجُلُ يَسْلِمُ فِي الطَّعَامِ

کھانے میں بیع سلم کرنا

(۲۲۷۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُؤَمَّرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَحِلُّ الْأَجَلَ فَيَجِيءُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ : هَذَا طَعَامُكَ قَدْ كُنْتَهُ فَخُذْهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ .

(۲۲۷۱۸) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ کھانے میں بیع سلم کی، جب مقررہ وقت آیا تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا یہ تیرا کھانا ہے میں نے اس کو کیل کر لیا ہے تو اس کو وصول کر لے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ دوبارہ کیل نہ کرے وصول نہیں کرے گا۔

(۲۲۷۱۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضَابِيُّ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ إِلَى الْمَدَاسَةِ فَيَأْخُذُهُ وَيَقُولُ : اشْتَرَيْتَنِي ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ خَادَعِ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ .

(۲۲۷۱۹) حضرت ضابی بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبد اللہ سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ کھانے میں بیعِ سلم کی، پھر وہ کہنے والی جگہ پر آیا اور اس کو وصول کیا اور کہنے لگا یہ مجھ سے خرید لو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جو چاہے اپنے آپ کو دھوکا دے دے، فرمایا قبضہ کرے پھر اگر چاہے تو فروخت کر دے۔

(۳۱۷) فِي جَرِيْبِ أَرْضِ بَجْرِيْبِي أَرْضِ

زَمِيْنِ كَيْ اِيْكَ جَرِيْبِ كِي بِيْعِ دُو جَرِيْبِ كَيْ سَاتْه

(۲۲۷۲۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيْبِ أَرْضِ بَجْرِيْبِي أَرْضِ وَذِرَاعِ أَرْضِ بِنِيْرَاعِيْ أَرْضِ ؟ فَكَّرَهَا .

(۲۲۷۲۰) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ زمین کی ایک جریب کی بیع دو جریب کے ساتھ اور زمین کے ایک ذراع کی بیع دو ذراع کے ساتھ کیسی ہے؟ انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۲۲۷۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ خَمْسَةِ عَشَرَ جَرِيْبًا أَرْضًا بَعْشَرِينَ جَرِيْبًا أَرْضًا ؟ فَلَمْ يَرِهِ بِأَسَا .

(۲۲۷۲۱) حضرت حکم سے دریافت کیا گیا کہ زمین کے پندرہ جریب کی بیع زمین کے بیس جریب کے ساتھ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

(۳۱۸) فِي غَزْلِ الْكَتَّانِ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ

كَاتِيْ هُوَيْ اُوْنِي كِيْطْرِي كِي بِيْعِ كَرْنَا بَغِيْر كَاتِي هُوَيْ اُوْنِي كِيْطْرِي كَيْ سَاتْه

(۲۲۷۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ وَزَنَا بَوْزَنٍ ؟ فَكَّرَهَا .

(۲۲۷۲۲) حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کہ اون کے کاتے ہوئے کپڑے کو نہ کاتے ہوئے کپڑے کے بدلہ میں دینا۔ ہم وزن کر کے کیا یہ جائز ہے؟

(۲۲۷۲۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ وَزَنَا بَوْزَنٍ ؟ فَكَّرَهَا .

(۲۲۷۲۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ اون کے کاتے ہوئے کپڑے کونہ کاتے ہوئے کپڑے کے بدلہ میں دینا۔ جب کہ ان کا وزن بھی ایک ہو تو جائز ہے؟ انہوں نے اس کو ناپسند سمجھا۔

(۳۱۹) الرَّجُلُ يَمُرُّ بِرَقِيقٍ عَلَى الْعَاشِرِ

کوئی شخص اپنے غلام لے کر عشر وصول کرنے والے کے پاس سے گذرے

(۲۲۷۲۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِرَقِيقٍ عَلَى عَاشِرٍ ، فَقَالَ : هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ حَمَادٌ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْتُقُوا .

(۲۲۷۲۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا کہ ایک شخص غلام لے کر عاشر کے پاس سے گذرا اور کہا کہ یہ سب آزاد ہیں؟ حضرت حکم نے فرمایا یہ کہنا کچھ نہیں ہے، اور حضرت حماد فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۲۷۲۵) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ . قَالَ : كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَعْتِقَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَهُ .

(۲۲۷۲۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص غلام لے کر عاشر کے پاس سے گذرے اور کہے کہ یہ آزاد ہے، فرمایا اس طرح کہنے سے غلام آزاد نہ ہوگا، اور اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۷۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ : هُمْ أَحْرَارٌ - يَنْبُو مِنَ الْعَمَلِ - قَالَ : لَا يَعْتُقُونَ .

(۲۲۷۲۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو غلام لے کر عاشر کے پاس سے گذرا اور کہنے لگا کہ یہ آزاد ہیں، اور نیت یہ کرتا ہے کہ خدام کام کاج سے آزاد ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ غلام آزاد نہ ہوں گے۔

(۳۲۰) الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالَ مُضَارَبَةً

کوئی شخص کسی کو مال مضاربت کے طور پر دے

(۲۲۷۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَرَكِبَ الْبُحْرَ فَكُسِرَ بِهِ ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانٌ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ ، فَتَجَرَ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ فَأَصَابَ مَالًا ، كَيْفَ يَفْتَسِمَانِ ؟ قَالَ : لَا يَفْتَسِمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، ثُمَّ يَفْتَسِمَانِ الرَّبْحَ بَعْدُ .

(۲۲۷۲۷) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے کو تین ہزار درہم بطور مضاربت دیئے، وہ کشتی میں سوار ہوا

اور وہ نوٹ گئی تو اس کے دو ہزار ضائع ہو گئے اور ایک ہزار باقی بچ گیا، اُس شخص نے ایک ہزار میں تجارت کی اور کچھ نفع کمایا تو اب وہ نفع کس طرح تقسیم کریں گے؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ تین ہزار نہ ہو جائیں وہ تقسیم نہیں کریں گے پھر اُس کے بعد نفع تقسیم کریں گے۔

(۲۲۷۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأْسُ مَالِ الْمُضَارِبِ الْفِ دَرَاهِمَ ، وَيُقْتَسَمَانِ الرِّبْحَ كَمَا اشْتَرَطَا .

(۲۲۷۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مضارب کا راس المال ایک ہزار درہم ہے، اور نفع کو اسی طرح تقسیم کریں گے جس طرح انہوں نے شرط لگائی ہے۔

(۲۲۷۲۹) حَدَّثَنَا زَوَادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُمَيْيَةَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ ، فَقَالَ : أَذْهَبُ فَأَعْمَلُ بِمَا بَقِيَ . قَالَ الرَّبُّحُ عَلَى خُمْسَةِ الْآلِفِ يُقْتَسَمَانِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشْرَةُ آلَافٍ وَيُقْتَسَمَانِ مَا زَادَ .

(۲۲۷۲۹) حضرت حکم بن عمیہ سے کہا گیا؟ فرمایا اگر وہ اپنے ساتھی کی طرف لوٹے اور اُس کو معلوم ہو کہ اُس کو مال میں نقصان ہوا ہے، فرمایا تو چلا جا اور جو باقی بچا ہے اس میں عمل کر، پس نفع جب پانچ ہزار ہو جائے تو تقسیم کرو، اگر ایسا نہ ہو تو اُس کو کہو کہ آدمی کا راس المال دس ہزار ہے اور جو اس کے علاوہ زائد ہے وہ تقسیم کر لو۔

(۲۲۷۳۰) حَدَّثَنَا عِمْسِيُّ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : الرَّبُّحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنْ انْقَسَمُوا الرَّبُّحَ كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْتَسَمُوا رُدَّ الرَّبُّحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ .

(۲۲۷۳۰) حضرت ابراہیم مضارب کے متعلق فرماتے ہیں کہ نفع وہ ہے جس پر وہ صلح کر لیں اور نقصان مال پر ہوگا، اور اگر وہ نفع کو تقسیم کر لیں تو نقصان راس المال پر ہوگا، اور اگر وہ تقسیم نہ کریں تو نفع کو راس المال پر لٹا دیں گے۔

(۲۲۷۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رِبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، ثُمَّ رِبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، قَالَ : الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ ، أَوْ حِسَابًا بِالْقَبْضِ .

(۲۲۷۳۱) حضرت ابن سیرین سے مضارب کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جب نفع ہو پھر نقصان ہو پھر نفع ہو پھر نقصان ہو؟ فرمایا کہ پہلے راس المال پر حساب ہوگا، مگر یہ کہ اُس سے پہلے ان دونوں نے مال پر قبضہ کر لیا ہو، یا پھر قبضہ کے ساتھ حساب ہوگا۔

(۲۲۷۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، قَالَ : هُمَّا عَلَى أَصْلِ شَرِكَيْهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا .

(۲۲۷۳۲) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اصل شرکت پر ہیں یہاں تک کہ وہ دونوں حساب کر لیں۔

(۲۲۷۳۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : مُضَارِبٌ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارِبَةٌ عَلَى النِّصْفِ فَدَفَعَهُ

إِلَى غَيْرِهِ عَلَى النُّصْفِ ، قَالَ : لِلْآخِرِ النُّصْفُ وَلِلصَّاحِبِ الْمَالِ النُّصْفُ .
وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : لِلْآخِرِ النُّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسْطِ .

(۲۲۷۳۳) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مضارب کو مال مضاربت نصف پر دیا گیا پھر اس نے غیر کو نصف پر دے دیا؟ فرمایا دوسرے کو نصف ملے گا اور مال والے کے لئے بھی نصف ہی ہے، حضرت ابو ہاشم نے فرمایا دوسرے کے لئے نصف ہے اور جو باقی بچ جائے وہ مال والے اور درمیان والے کے لئے ہے۔

(۲۲۱) مَنْ قَالَ لَا يَحْتَسِبُ الشَّرِيكَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا

جب تک دونوں شریک جمع نہ ہو جائیں حساب نہیں کریں گے

(۲۲۷۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الشَّرِيكَينِ
يَشْتَرِ كَانِ ، قَالَ : لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا .

(۲۲۷۳۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما دو شریکوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب تک دونوں جمع نہ ہوں حساب نہیں کریں گے۔

(۲۲۲) مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ

جو حضرات بیع مراہمہ کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۲۷۳۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ
الْمُشَاقَّةِ يَعْنِي الْمُرَابَحَةَ .

(۲۲۷۳۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیع مراہمہ کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۳) مَنْ قَالَ إِذَا اسْتَهْلَكْتَ الْهَبَةَ فَلَا رَجُوعَ فِيهَا

جب ہبہ ہلاک ہو جائے تو رجوع نہیں ہے

(۲۲۷۳۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهْلَكْتَ الْهَبَةَ فَلَا رَجُوعَ فِيهَا .

(۲۲۷۳۶) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہبہ ہلاک ہو جائے تو پھر رجوع نہیں ہے۔

(۲۲۷۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَشِبْ
مِنْهَا ، أَوْ يَسْتَهْلِكَهَا ، أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا .

(۲۲۷۳۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بہہ کا زیادہ حق دار ہے جب تک بدلہ وصول نہ کر لے یا موہو بہہ چیز ہلاک ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی قوت ہو جائے۔

(۲۲۷۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي جَبْرِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِذَا اسْتَهْلَكْتَ الْهَيْمَةَ ، أَوْ أُنَيْبَ مِنْهَا ، أَوْ وَهَبْتَ لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ .

(۲۲۷۳۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا جب بہہ ہلاک ہو جائے اور بدلہ وصول کر لیا جائے، یا ذی رحم محرم کو بہہ کر دیا جائے تو پھر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔

(۲۲۷۴) الْخِيَّاطُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ يَخْتَلِفَانِ

درزی اور کپڑا سلوانے والے میں اگر اختلاف ہو جائے

(۲۲۷۳۹) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخِيَّاطِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : أَمْرَتُكَ بِقُرْطُقٍ ، فَيَقُولُ الْخِيَّاطُ : أَمْرَتُنِي بِقَمِيصٍ ، قَالَ : هُوَ قَوْلُ الْخِيَّاطِ .

(۲۲۷۳۹) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے درزی کو کپڑے دیے، اور کہا کہ میں نے تجھے جبہ سینے کا کہا تھا، اور درزی کہنے لگا کہ تو نے مجھے قمیص سینے کو کہا تھا؟ فرمایا درزی کی بات معتبر ہوگی۔

(۲۲۷۵) الْقَوْمُ يَمْرُونَ بِالْإِبِلِ

لوگ اونٹوں کے پاس سے گزریں

(۲۲۷۴۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْتَلِبَ الْمَوَاشِيَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَقَالَ : أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَوْتِيَ مَشْرِبَتَهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيَكْسِرَ بَابَهَا فَيَنْتَشِلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ ، أَلَا فَلَا يَحِلُّ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا . (مسلم ۱۳۵۲ - احمد ۲ / ۵۷)

(۲۲۷۴۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مویشیوں کا دودھ بغیر اجازت نکالنے سے منع فرمایا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اُس کے کمرے میں آئے جس میں اُس کا سامان خوراک موجود ہو اور اُس کا دروازہ توڑے اور جو کچھ اس میں ہے اُس کو لے جائے؟ بے شک جو کچھ جانوروں کے تھنوں میں ہے وہ تمہارے کمروں کی طرح ہے، پس بغیر اجازت کے جو کچھ تھنوں میں ہے اُس کا استعمال حلال نہیں ہے۔

(۲۲۷۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي الْإِبِلِ فَنَادُوا :

يَا رَاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ فَاتُوهَا فَحَلُّوْهَا وَاشْرَبُوا ، ثُمَّ صَرُّوْهَا .

(۲۲۷۴۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے اونٹوں کے پاس سے گذرو تو چرواہے کو تین بار اے چرواہے کہہ کر پکارو، اگر وہ تمہاری پکار کا جواب دے کر آجائے تو اُس سے دودھ طلب کرو، اور اگر وہ پکار کا جواب نہ دے تو تم خود دودھ نکال کر استعمال کر کے اُس کے تھنوں کو باندھ دو۔

(۲۲۷۴۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَضْرُورَةً إِلَّا يَأْذِنُ صَاحِبِهَا ، إِلَّا إِنْ خَاتَمَهَا صِرَارًا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيَأْذِ الرَّاغِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيُشْرَبُوا . (احمد ۳/۳۶۰ - بیہقی ۳۶۰)

(۲۲۷۴۳) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کی اونٹنی کا دودھ بغیر اجازت استعمال کرے جس اونٹنی کے تھنوں کو باندھا گیا ہو، بے شک اس کے تھنوں کو باندھنا اس کی مہر ہے (یعنی اب اس میں سے استعمال نہیں کر سکتے) اور اگر لوگ (قوم) زادراہ ختم کر کے مفلس ہو جائیں تو پھر چرواہے کو تین بار پکارو، اگر وہ تمہاری پکار کا جواب دے تو اُس سے لے کر پی لو، وگرنہ دودھ اُس کو پکڑیں اور دودھ نکال کر پی لیں۔

(۲۲۷۴۴) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنْتُ غَلَامًا يَا فَعَا أُرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَقَدْ قَرَأَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : يَا غَلَامُ ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تَسْقِينَا ، فَقُلْتُ : ابْنِي مُؤْتَمَنٌ ، لَسْتُ سَاقِيكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَدَعَةٍ لَمْ يَنْزُرْ عَلَيْهَا الْفَعْلُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاتِيهُمَا بِهَا ، فَاعْتَقَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ الصَّرْعَ وَذَعَا ، ثُمَّ آتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ ، فَاحْتَلَبَ فِيهَا فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ وَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِلصَّرْعِ : اِقْلُصْ ، فَقَلَّصَ .

(ابو یعلیٰ ۳۹۲۳ - ابن حبان ۷۰۶۱)

(۲۲۷۴۳) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں قریب البلوغ لڑکا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، حضرت محمد ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے، وہ دونوں مشرکین مکہ سے بھاگ رہے تھے، اُن دونوں نے کہا، اے لڑکے! تیرے پاس دودھ ہے جو ہمیں پلائے؟ میں نے عرض کیا میں امانت دار ہوں تم کو نہیں پلاؤں گا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے پاس کوئی ایسی اونٹنی ہے جس پر نراونٹ کو نہ چھوڑا گیا ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ہے، میں اُس اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا تو آنحضرت ﷺ نے اُس کی ٹانگ کو باندھ دیا اور اُس کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر دعا فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پتھر کا پیالہ (نما) لے کر حاضر ہوئے پھر اُس میں دودھ نکالا اور خود پیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیا اور میں نے پیا، پھر آپ ﷺ نے تھنوں کو مخاطب کر کے فرمایا: تو دوبارہ سکل جا! وہ تھن دوبارہ سکل گئے۔

(۲۲۵) السَّلْفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

گندم اور کھجور میں بیع سلم کرنا

(۲۲۷۴۴) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُهَالِبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّمُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَّ وَالْعَامِينَ وَالثَّلَاثَةَ ، فَقَالَ : مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . (بخاری ۲۲۳۰ - مسلم ۱۴۷)

(۲۲۷۴۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں میں ایک سال، دو اور تین سال کے لئے سلم کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کھجور میں بیع سلم کرتے تو اس کو چاہیے کہ کیل اور وزن معلوم اور وقت مقررہ تک کے لئے بیع سلم کرے۔

(۲۲۷۴۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا سَمَّيْتَ فِي السَّلْمِ قَفِيْزًا وَأَجَلًا فَلَا بُاسَ . (۲۲۷۴۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سلم میں مقدار اور وقت متعین کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۷۴۶) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، مِثْلَهُ . (۲۲۷۴۶) حضرت الاسود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۷۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبُهْرَانِيِّ يَحْيَىٰ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا بُاسَ بِالسَّلْمِ فِي الطَّعَامِ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . (۲۲۷۴۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سلم میں مقدار اور وقت متعین ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۷۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلْمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : لَا بُاسَ بِهِ ، كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . (۲۲۷۴۸) حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے گندم میں بیع سلم کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا مقدار اور وقت مقرر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۷۴۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلْمِ : لَا تَوْخَرُ عَنْهُ لِتَزِدَّادَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَجَّلُ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ . (۲۲۷۴۹) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیع سلم میں متعینہ مدت سے دیر نہ کرو اور نہ ہی جلدی کرو۔ تاکہ تم اپنے ساتھی سے زیادہ رقم وصول کر سکیا وہ تم کو کم رقم دے۔

(۲۲۷۵۰) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُاسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ . (۲۲۷۵۰)

(۲۲۷۵۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور شاذ فرماتے ہیں کہ گندم میں مقررہ مقدار مقررہ وقت کے ساتھ بیع سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ گندم کھتی میں نہ ہو (یعنی گندم کاٹ لینے کے بعد ہی سلم کرنی چاہیے) اور کھجور میں بدو صلاح سے قبل بیع سلم کرنا درست نہیں۔

(۲۲۷۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كُنَّا نَسَالِفُ نَبْطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّرْبِيبِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا .

(۲۲۷۵۱) حضرت ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شام والوں کے ساتھ گندم اور کشمش میں بیع سلم کرتے تھے جبکہ آنحضرت ﷺ ہمارے درمیان موجود تھے۔

(۲۲۷۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : اللَّهُ قَالَ فِي السَّلْمِ فِي السَّمَنِ ، قَالَ : سَمٌ كَيْلًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا .

(۲۲۷۵۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گھی میں سلم مقدار مقررہ اور وقت مقررہ کے ساتھ ہے۔

(۲۲۷۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُسَلِّمُ فِي الْحِنْطَةِ .

(۲۲۷۵۳) حضرت ابو میسرہ گندم میں بیع سلم کرتے تھے۔

(۲۲۷۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ كَلْبِ بْنِ وَاثِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ يَسْتَسْلِفُنِي دَرَاهِمَ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى : كُلُّ جَرِيْبٍ حِنْطِيَّةٍ بَدْرَهُمْ وَجَرِيْبِي شَعِيرٍ بَدْرَهُمْ ، قَالَ : حَسَنٌ .

(۲۲۷۵۴) حضرت کلب بن واثل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ ہمارے پاس ایک شخص آ کر ایک درہم گندم کی بیع سلم کرتا ہے مقررہ وقت کے لئے کہ ہر گندم کا جریب (بیانہ) ایک درہم اور جو کے دو جریب ایک درہم کا ہے (تو کیسا ہے؟) فرمایا بہت اچھا ہے۔

(۲۲۷۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَتَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلْمِ إِذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

(۲۲۷۵۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور شاذ فرماتے ہیں کہ اگر کیل اور وقت مقرر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۷۵۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَشَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَبْرَى بِالسَّلْمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ .

(۲۲۷۵۶) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کسی بھی چیز میں مقررہ وقت کے لئے بیع سلم کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، سوائے حیوان کے۔

(۲۲۷۵۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِيدِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أَبُو بَرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ

شَدَادٍ فِي السَّلْمِ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرْبِيبِ

عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَدْرِي عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟

(بخاری ۲۳۳۳۔ ابوداؤد ۳۳۵۹)

(۲۲۷۵۷) حضرت محمد بن ابی الجہاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوربدہ اور حضرت عبداللہ بن شداد میں بیع سلم کے متعلق اختلاف ہوا، آپ نے مجھے ابن ابی اوفیٰ کے پاس بھیجا، میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا: ہم لوگ حضرت محمد ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں گندم، جو اور کشمش میں بیع سلم کرتے تھے، اور ہم کسی صحابی سے بھی ہاں یا ناں نہیں جانتے۔

(۲۲۷۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ .

(۲۲۷۵۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں بیع سلم ایک وقت مقررہ کے لئے مضمون بالقیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اُس کو حلال کیا اور اُس کی اجازت دی، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ .

(۲۲۷) مَنْ كَرِهَ النَّهْبَةَ وَنَهَىٰ عَنْهَا

جو حضرات لوٹ مار کو ناپسند کرتے ہیں اور اُس کی ممانعت

(۲۲۷۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ يَسْمَاقٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكِّمِ ، قَالَ : أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعُدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفَنْتُ وَقَالَ : لَا تَحِلُّ النَّهْبَةُ . (ابن حبان ۵۱۶۹۔ حاکم ۱۱۳۳)

(۲۲۷۵۹) حضرت ثعلبہ بن حکم فرماتے ہیں کہ ہمیں دشمن کی کچھ بکریاں ملیں تو ہم نے ان کو اٹھالیا (لوٹ لیا) آنحضرت ﷺ نے دیکھیں کوالتانے کا حکم دیا تو ہم نے ہانڈیوں کو اٹھالیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا لوٹ مار حلال نہیں ہے۔

(۲۲۷۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثَلَّةِ . (بخاری ۵۵۱۶۔ احمد ۳/۳۰۷)

(۲۲۷۶۰) حضرت عبداللہ بن یزید سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لوٹ کھسوٹ اور مشلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۷۶۱) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْبَةِ ، وَقَالَ : مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا . (احمد ۳/۱۳۰۔ طحاوی ۳۹)

(۲۲۷۶۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے لوٹ مار سے منع فرمایا اور فرمایا جو لوٹ کھسوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

(۲۲۷۶۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُليبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَتْنا مَجَاعَةٌ ، فَأَصَبْنَا عَنَّا فَأَنْتَهَبْنَاهَا قَبْلَ أَنْ تُقَسَمَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسِهِ حَتَّى أَتَانَا عَلَى قُدُورِنَا فَكَلَّمَنَا بِقَوْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَتْ النَّهْبَةُ بِأَحْلَى مِنَ الْمَيْتَةِ . (ابوداؤد ۲۶۹۸ - بیهقی ۶۱)

(۲۲۷۶۲) حضرت کلب ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے ہمیں سخت بھوک لگی، ہم نے کچھ بکریاں پائیں تو ہم نے ان کو تقسیم سے پہلے لوٹ لیا، آنحضرت ﷺ ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ ﷺ اپنی کمان پر سہارا لے ہوئے تھے، آپ ﷺ ہماری ہانڈیوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو کمان سے الٹ دیا اور فرمایا: لوئی ہوئی چیز مردار سے زیادہ حلال نہیں ہے۔ (دونوں کا حکم برابر ہے)۔

(۲۲۷۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ مُدْرِكِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

(طیالسی ۸۲۳ - عبد بن حمید ۵۲۵)

(۲۲۷۶۳) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی شخص مومن ہونے کی حالت میں ایسی چیز نہیں اٹھا سکتا کہ جو شرف و عظمت والی ہو اور اس کو اٹھانے سے لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔

(۲۲۷۶۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَلْفٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَنِ انْتَهَبَ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَشْهَرُهَا بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ مِنَّا ، قِيلَ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابوداؤد ۳۳۹۱ - احمد ۳ / ۳۹۵)

(۲۲۷۶۴) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس کسی نے بھی کوئی قیمتی چیز اٹھائی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں وہ مشہور ہو گیا (یعنی سب اس کے اس فعل کو برا جاننے لگے) تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالزبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ حضور ﷺ سے منقول ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں حضور ﷺ سے مروی ہے۔

(۲۲۷۶۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ الْجَمِيمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رِيحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّهْبَةِ .

(۲۲۷۶۵) حضرت ابوریحانہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لوٹ مار سے منع فرمایا۔

(۲۲۷۶۶) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي لَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ . (احمد ۵ / ۶۲ - ابوداؤد ۲۶۹۶)

(۲۲۷۶۶) عبد الرحمن بن سرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لوٹ کھسوٹ سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۷۶۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ مَوْلَى لِحَبْشَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمَثَلَةِ .

(احمد ۵/ ۱۹۳۔ طبرانی ۵۲۶۳)

(۲۲۷۶۷) حضرت خالد الجھنی سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لوٹ کھسوٹ اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۳۲۸) فِي الشَّرِكَةِ بِالْعُرُوضِ

سامان میں شرکت کرنا

(۲۲۷۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ بِالْعُرُوضِ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۲۷۶۸) حضرت سفیان سامان میں شرکت اور مضاربت کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور حضرت ابن ابی لیلیٰ فرماتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۷۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَرِهَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ .

(۲۲۷۶۹) حضرت ابن سیرین سامان میں شرکت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۲۷۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ بِالذَّيْنِ وَالْوَدِيعَةَ وَالْعُرُوضَ وَالْمَالَ الْغَائِبُ .

(۲۲۷۷۰) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرکت اور مضاربت، دین، ودیعت، سامان اور غائب مال میں نہ ہوں گے۔

(۲۲۷۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ .

(۲۲۷۷۱) حضرت محمد رضی اللہ عنہ سامان میں شرکت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۳۲۹) فِي الْوَالِدِ يَأْخُذُ مِنَ الْوَالِدِ ، أَوْ يَبِيعُ لَهُ الشَّيْءَ

والد اپنے بیٹے سے کوئی چیز خریدے یا اس کو کوئی چیز فروخت کرے

(۲۲۷۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ : زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ وَسَاقَ مَهْرَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَتْ إِخْوَتُهَا فِي مَهْرِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا مَا رَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكَ فَإِنَّهُ بَعِيْنِهِ ، فَهُوَ لَكَ ، وَمَا كَانَ أَبُوكَ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا شَيْءَ لَكَ .

(۲۲۷۷۲) حضرت بکر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دیہاتی لڑکی سے شادی کی اُس کو مہر دیا اور پھر وہ فوت ہو گیا، وہ لڑکی اپنے بھائیوں سے مہر کے بارے میں جھگڑا اور عمر بن الخطابؓ کے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ حضرت عمر بن الخطابؓ نے ارشاد فرمایا: تمہارے مہر میں سے جو چیز موجود ہو وہ تمہارے لئے ہے۔ اور جس کو تمہارے والد نے ہلاک کر دیا ہے اُس میں تمہارے لئے کچھ نہ ہے۔

(۲۲۷۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : اِنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ .

قَالَ ابْنُ اِدْرِيسَ : وَرَأَيْتُ ابْنَ اَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ .

(۲۲۷۷۳) حضرت شریح نے ایک شخص کو قید کیا خادم کے معاملہ میں جس نے اپنے بیٹی کے لئے اس غلام کو فروخت کیا تھا، حضرت ابن ادریس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی لیلیٰ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کو خادم کی وجہ سے قید میں ڈالا اُس نے اُس کو اپنے بیٹی کے لئے فروخت کیا تھا۔

(۲۲۷۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَابِي عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ : اِنَّهُمَا حَبَسَا رَجُلًا فِي السَّجْنِ اَخَذَ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ .

(۲۲۷۷۴) حضرت شریح اور عبد اللہ الجدلوی نے ایک شخص کو جیل میں ڈال دیا اُس نے بیٹی کے مہر میں سے لیا تھا۔

(۲۲۷۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اَبِي قُدَامَةَ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مَهْرِ النِّسَاءِ : مَا كَانَ قَائِمًا بَعَيْنِهِ فَهِيَ اَحَقُّ بِهِ .

(۲۲۷۷۵) حضرت عمر بن الخطابؓ نے عورتوں کے مہروں کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جو بیعت موجود ہوں تو وہ خواتین اُس کی زیادہ حق دار ہیں۔

(۲۲۷۷۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ اَسْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ لِلْوَالِدِ عَلَيَّ وَالِدِهِ دَيْنٌ .

(۲۲۷۷۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیٹے کا باپ پر دین نہ ہوگا۔

دَوُّ رَدِّهِ وَرَدِّهِ فَيَقْرُبُ بِذَلِكَ
(۲۳۰) الحر يرهن نفسه فيقرب بذلك

آزاد شخص اپنے آپ کو رہن رکھوائے، پھر وہ اُس کا اقرار کر دے

(۲۲۷۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْاُحْوَصِ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اِذَا رَهِنَ الرَّجُلُ الْحُرَّ فَاقْرَأَ بِذَلِكَ كَانَ رَهْنًا حَتَّى يَفْكَهُ الَّذِي رَهَنَهُ ، اَوْ يَفْكَ نَفْسَهُ .

(۲۲۷۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آزاد آدمی کو رہن کے طور پر رکھا جائے اور وہ خود بھی اقرار کرے (کہ میں بطور رہن

ہوں) تو وہ رہن میں ہی رہے گا یہاں تک کہ جس نے رہن رکھوایا ہے وہ چھڑائے یا پھر وہ خود اپنے آپ کو چھڑالے۔

(۳۳۱) الْبَيْضُ الَّذِي يُقَامَرُ بِهِ

وہ انڈے جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا ہے

(۲۲۷۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ قِمَارِ الصَّبِيَانِ مِنَ الصَّبِيَانِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَرْخِصُ فِيهِ .

(۲۲۷۷۸) حضرت ابن سیرین کے نزدیک بچوں سے بچوں کے جوئے کی چیزوں کو خریدنا مکروہ ہے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما اس کی اجازت دیتے تھے۔

(۲۲۷۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ .

(۲۲۷۷۹) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس میں جوا ہو وہ میسر میں سے ہے۔

(۲۲۷۸۰) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضِ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصَّبِيَانُ بِعِنَى شِرَائِهِ .

(۲۲۷۸۰) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جن انڈوں سے بچے کھیلتے ہیں ان کی خریداری میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۷۸۱) حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۲۷۸۱) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۳۲) رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ بَعْ غُلَامَكَ مِنْ فُلَانٍ وَلَكَ خَمْسَمِئَةٌ

کوئی شخص دوسرے شخص سے کہے کہ: اپنا غلام فلاں کو فروخت کر دے، تیرے لئے

پانچ سو درہم ہیں

(۲۲۷۸۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ : بِعْنِي مِنْ فُلَانٍ بَكْدًا وَكَدًّا وَلَكَ خَمْسَمِئَةٌ دَرَاهِمَ ، أَوْ رَجُلٌ جَاءَ ، فَضَمَّنَ ، قَالَ : بَعْ غُلَامَكَ مِنْ فُلَانٍ بَكْدًا وَكَدًّا وَلَكَ خَمْسَمِئَةٌ ، قَالَ : يُبْطَلُ شَرْطُهُ .

(۲۲۷۸۲) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ غلام اگر اپنے آقا سے یوں کہے کہ: مجھے فلاں کے ہاتھ اتنے اتنے میں فروخت کر دے تو تیرے میرے ذمہ پانچ سو درہم ہوں گے یا کوئی شخص آ کر ضامن بنے اور کہے کہ تو اپنا غلام فلاں فلاں کو فروخت کر دے تیرے لئے پانچ سو درہم ہیں، ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شرط باطل ہے۔

(۲۲۷۸۳) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ ، أَوْ

کَلِمَةً نَحْوَهَا.

(۲۲۷۸۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔

(۲۳۳) فِي الْمُمَاسَحَةِ فِي الْبَيْعِ

بیع میں ہاتھ لگا کر چھونا

(۲۳۷۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : بَايَعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ سِلْعَةً فَقَالَ : هَاتِي يَدَكَ أَمَا سَحُكُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبُرْكََةُ فِي الْمُمَاسَحَةِ .

(ابوداؤد ۱۶۸)

(۲۲۷۸۳) حضرت خالد بن ابی مالک فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن سعد سے سامان خریدنا تو انہوں نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے کر دتا کہ میں تم کو چھولوں۔ بے شک آپ ﷺ کا ارشاد ہے: برکت چھونے کے ساتھ ہے۔

(۲۳۴) فِي الْبَزِّ يَدْفَعُ مَضَارِبَةَ

کپڑے مضاربہ میں دینا

(۲۳۷۸۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ الْبَزَّ مَضَارِبَةً .

(۲۲۷۸۵) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ (خاص) کپڑے مضاربہ میں دینے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۷۸۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : كَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ الْبَزَّ مَضَارِبَةً .

(۲۲۷۸۶) حضرت ابن سیرین بھی کپڑے کو مضاربہ کے طور پر دینے میں ناپسند سمجھتے تھے۔

(۲۳۷۸۷) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ مَضَارِبَةً وَيَحْسِبُهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمًا .

(۲۲۷۸۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو سامان مضاربہ میں دے اور اس پر درہم کا حساب لگائے۔

(۲۳۵) فِي تَرْزِيْنِ السِّلْعَةِ

سامان کی تزئین کرنا

(۲۳۷۸۸) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يُزَيِّنُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ .

(۲۲۷۸۸) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جس چیز سے چاہے سامان تزئین کر سکتا ہے۔

(۲۳۷۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّزْيِينِ ، وَكَرَّةَ الْعَيْشِ .
(۲۳۷۸۹) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تزئین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دھوکے اور ملاوٹ کو ناپسند کیا گیا ہے۔

(۲۳۷۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زَيَّنَتْ ، فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي حَجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبُرَكَّةِ .
(۲۳۷۹۰) حضرت عہل بن سعد کے پاس سے ایک چھوٹی بچی (باندی) کو لے کر گزرے جس کو مزین کیا گیا تھا، آپ نے اس کو بلایا اس کی طرف پیار سے دیکھا، اس کو اپنی گود میں بٹھایا، اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لئے برکت کی دعا فرمائی۔

(۲۳۷۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحْسُنَ الْجَارِيَةَ فَلْيَزِيْنَهَا ، وَلْيَطْوِفْ بِهَا ، يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللَّهِ .
(۲۳۷۹۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی باندی کو خوبصورت بنانا چاہے تو اس کو چاہئے کہ اپنی باندی کی تزئین کرے اور اس کو لے کر باہر نکلے، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔

(۲۳۷۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا شَوَّقَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا تَنْصِيدُ بِهَا بَعْضَ شَبَابِ قُرَيْشٍ .
(۲۳۷۹۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باندی کو آراستہ کیا اور اس کو لے کر باہر نکلیں اور فرمایا: شاید شاید اس کے ذریعہ ہمارا کسی قریش کے نوجوانوں سے سودا ہو جائے۔ (یعنی وہ خرید لے)

(۲۳۷۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا صَبَغَ لُؤْبًا لَهُ لَوْنُ الْهَرَوِيِّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : بِكُمْ تَبِيعُ الْهَرَوِيِّ ؟ لَسَكَّتْ ، ثُمَّ سَأَوْتَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِذَا هُوَ لَيْسَ بِهَرَوِيِّ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لَوْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُزَيِّنَ نُوْبَهُ بِالْفَضْلِ مِنْ ذَلِكَ لَوَيْتَهُ فَأَجَارَهُ عَلَيْهِ .
(۲۳۷۹۳) حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کپڑے کو ہروی رنگ کیا، اس کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا یہ ہروی کپڑا کس طرح فروخت کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا اور پھر اس کی قیمت لگائی، اس شخص نے اس سے خرید لیا، جب وہ کپڑا لے کر گیا تو وہ ہروی نہ تھا، وہ شخص اپنا جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے کر گیا تو حضرت شریح نے فرمایا: اگر تو اس سے بھی اچھی طرح اپنے کپڑے کی تزئین کر سکتا ہے تو ضرور اس کی تزئین کر، آپ نے اس پر بیع کو نافذ فرمایا۔

(۲۳۷۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عُمَرَ غُلَامًا لَهُ يَبِيعُ الرُّطْبَ فَقَالَ : نَفْسُهَا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ، وَأَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ وَهُوَ يَبِيعُ الْحُلَّلَ فَقَالَ : إِذَا كَانَ التُّوبُ ضَيْقًا فَانْشُرْهُ وَأَنْتَ

(۲۳۷۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عُمَرَ غُلَامًا لَهُ يَبِيعُ الرُّطْبَ فَقَالَ : نَفْسُهَا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ، وَأَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ وَهُوَ يَبِيعُ الْحُلَّلَ فَقَالَ : إِذَا كَانَ التُّوبُ ضَيْقًا فَانْشُرْهُ وَأَنْتَ

جَالِسٌ ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا فَأَنْشُرُهُ وَأَنْتَ قَائِمٌ .

(۲۲۷۹۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکا آیا جو کھجوریں فروخت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا ان کی نقش و نگار (تزیین و آراستہ) کرو تو یہ اچھا ہے، اور ان کے پاس ایک لڑکا آیا جو کپڑے فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: اگر کپڑا تنگ ہو تو بیٹھ کر اس کو پھیلا یا کرو، ورنہ اگر کپڑا کشادہ ہو تو کھڑا ہو کر کپڑے کو پھیلا یا کرو۔

(۲۲۷۹۴) فِي الْعَسْرِ يَرُدُّ مِنْهُ أَمْ لَا ؟

تنگ دستی کی وجہ سے فروخت کیا جائے تو وہ واپس کیا جائے گا کہ نہیں؟

(۲۲۷۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْعَسْرِ .
(۲۲۷۹۵) حضرت شریح رضی اللہ عنہ عمر کی وجہ سے واپس لاتے تھے۔

(۲۲۷۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْعَسْرِ .
(۲۲۷۹۶) حضرت عامر سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۷۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْإِدْقَانِ وَلَا يَرُدُّ مِنَ الْإِبَاقِ ، وَالْإِدْقَانُ :
الَّذِي يَتَوَارَى فِي الْمِصْرِ ، وَالْإِبَاقُ : الَّذِي يَلْحَقُ بَارْحِبِهِ .

(۲۲۷۹۷) حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جبکہ الابدقان کی وجہ سے واپس کرتے تھے۔ الابدقان: کا مطلب ہے کہ شہر میں روپوش ہو جانا اور اباق کہتے ہیں کہ بھاگ کر اپنے علاقہ میں چلے جاتا۔

(۲۲۷۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَرُدُّ مِنْ عَوَارِ الظُّفْرِ ، وَيَرُدُّ مِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ .

(۲۲۷۹۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بدے اور برے ناخنوں کی وجہ سے واپس کر دی جائے گی، اور اسی طرح نازیہ بو کی وجہ سے بھی لوٹا دی جائے گی۔

(۲۲۷۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَبْرِ بْنُ حَزِيمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَهْصَمِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : خَاصَمْتُ ابْنِي شُرَيْحَ فِي بَغْلَةٍ حِمَارَةٍ فَرَدَّهَا .

(۲۲۷۹۹) میں قاضی شریح کے پاس گدھے کا جھڑا لے کر گیا۔ انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔

(۲۲۸۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ .

(۲۲۸۰۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ کی وجہ سے واپس کر دیتے تھے۔

(۳۳۷) فِي الْعِثَارِ

پھسل کر یا ٹھوکر کھا کر گرنے کی وجہ سے جانور واپس کرنا

(۲۲۸.۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ ، وَيَقُولُ كُلُّ الدَّوَابِّ تَعْيِيرٌ
قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ عَيْبٌ يَرُدُّ مِنْهُ .

(۲۲۸.۱) حضرت شریح ٹھوکر کھا کر گرنے کی وجہ سے واپس نہ کرتے تھے اور فرماتے ہر جانور گرتا ہے، حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ عیب ہے واپس ہوگا۔

(۲۲۸.۲) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ وَيَقُولُ : كُلُّ الدَّوَابِّ تَعْيِيرٌ .
(۲۲۸.۲) حضرت شریح ٹھوکر کھا کر گرنے کی وجہ سے اس طرح مروی ہے۔

(۳۳۸) الشَّاةُ تَأْكُلُ الدَّبَّانَ

بکری کا کھینوں کو کھانا

(۲۲۸.۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيَّ شُرَيْحٌ فِي شَاةٍ تَأْكُلُ الدَّبَّانَ ، قَالَ : لَبْنٌ طَيِّبٌ وَعَلْفٌ مَجَانٌ ، فَأَجَازَهَا .
(۲۲۸.۳) حضرت شریح ٹھوکر کھا کر گرنے کے پاس ایک جھگڑا لایا گیا کہ بکری کھیاں کھاتی ہے، آپ نے فرمایا: دودھ پاکیزہ اور چارہ مفت ہے آپ نے اس بیع کو نافذ فرمایا۔

(۳۳۹) الْعَدِرَةُ تُعَرَّبُ بِهَا الْأَرْضُ

گوبر اور پاخانہ سے زمین کو کھاد ڈالنا

(۲۲۸.۴) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الرَّدْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرِهُ ، وَيَشْتَرِي طَأْنًا لَا يَدْخُلُ بِالْعَرَّةِ .

(۲۲۸.۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زمین کرایہ پر دیتے وقت یہ شرط لگاتے تھے کہ گوبر اور پاخانہ سے اس میں کھاد نہیں ڈالی جائے گی۔

(۲۲۸.۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا أَكْرَمَى أَرْضَهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يُعْرَهَا .

(۲۲۸۰۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب زمین کرایہ پر دیتے تو کرایہ دار پر شرط لگا دیتے کہ وہ گوبر اور پاخانے سے کھا نہیں ڈالے گا۔
(۲۲۸۰۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَزْرَعُ أَرْضَهُ بِالْعِدْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّتِ الْذِي تَطْعِمُ النَّاسَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ .

(۲۲۸۰۶) حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زمین کی کاشت گوبر سے کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: کیا تو لوگوں کو وہ کھلاتا ہے جو ان میں سے نکلتا ہے (پاخانہ مراد ہے)؟

(۲۲۸۰۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ زِيَادِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الْأَرْضُ بِالْعِدْرَةِ .

(۲۲۸۰۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گوبر وغیرہ سے زمین میں کھا ڈالنے کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۲۸۰۸) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَسَّانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَخْوٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الْأَرْضُ بِالْعِدْرَةِ .

(۲۲۸۰۸) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ بھی ناپسند فرماتے تھے۔

(۳۴۰) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے

(۲۲۸۰۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أَوْ عَائِشَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدًا يَحْمِلُ مِكْتَلًا مِنْ عِدْرَةِ النَّاسِ إِلَى أَرْضٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهَا : زَعَابَةٌ ، فَقُلْتُ لَهُ ، يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتَحْمِلُ هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّ مِكْتَلَ عُرَّةٍ مِكْتَلُ حَبِّ .

(۲۲۸۰۹) حضرت بائی جو حضرت ام سلمہ کے غلام ہیں ان سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پاخانے اور گوبر کا ٹوکرا اٹھا کر اپنی زمین کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا اس زمین کو زعابہ کہتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا: اے ابو اسحاق! کیا آپ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے؟ فرمایا یہ پاخانے اور گوبر کا ٹوکرا دراصل دانوں (خوراک) کا ٹوکرا ہے۔

(۳۴۱) فِي قَوْلِهِ (وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)

اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولا یأب الشهداء اذا مادعوا کی تفسیر میں جو وارد ہوا ہے

(۲۲۸۱۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشُّهَادَةُ ، فَقَدْ دُعِيَتْ .

(۲۲۸۱۰) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کے

پاس گواہی ہے تو پس آپ کو بلایا جائے گا۔

(۲۲۸۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : إِذَا ابْتَدَأَ لِشَهِدٍ وَإِذَا دُعِيَ لِتَقِيمِهَا .

(۲۲۸۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ابتداء کرے تو چاہیے کہ آپ گواہی دیں اور جب پکارا جائے تو چاہیے کہ کھڑا ہوا جائے۔

(۲۲۸۱۲) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يَدْعَى لَهَا .

(۲۲۸۱۲) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ارشاد ﴿وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی کی گواہی کی گواہی دے، پھر اُس کو اُس کے لئے بلایا جائے۔

(۲۲۸۱۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي مَجْلَزٍ : إِنِّي أَدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا أَكْثَرُهُ؟ قَالَ : دَعُ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْتَ فَدَعَيْتَ فَأَجِبْ .

(۲۲۸۱۳) حضرت عمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلز رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ مجھے گواہی کی طرف بلایا جاتا ہے اور میں اُس کو ناپسند کرتا ہوں، آپ نے فرمایا: جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اُس کو چھوڑ دو، لیکن آپ دیکھ چکے ہوں پھر آپ کو بلایا جائے تو پھر اس کو قبول کرو۔

(۲۲۸۱۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ابْنِ لَهَيْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيَجِبْ ، وَلَكِنْ لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يَعْلَمُ .

(۲۲۸۱۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس کو گواہی کی طرف بلایا جائے تو اُس کو چاہیے کہ قبول کرے، مگر جو اُس کو معلوم ہے صرف اسی کی گواہی دے۔

(۲۲۸۱۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً وَسَيْلَ : ﴿وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَبْلَ أَنْ شَهِدُوا : أَوْ بَعْدَ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا .

(۲۲۸۱۵) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ ﴿وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا﴾ یہ ان کی گواہی دینے سے پہلے ہے یا بعد میں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ان کی گواہی دینے کے بعد ہے۔

(۲۲۸۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا .

(۲۲۸۱۶) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب وہ گواہی دے چکے ہوں۔

(۲۲۸۱۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدْ .

(۲۲۸۱۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک گواہ نے گواہی نہیں دی اُس کو اختیار ہے۔

(۲۲۸۱۸) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ .

(۲۲۸۱۸) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس کے پاس گواہی ہو۔

(۲۲۸۱۹) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قَالَ : إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا .

(۲۲۸۱۹) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکہ اس سے قبل گواہی دے چکے ہوں۔

(۲۲۸۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : (وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قَالَ : إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا .

(۲۲۸۲۰) حضرت مجاہد سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۴۴) مَنْ قَالَ إِذَا أَحْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ

جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہی اُس کا مالک ہے

(۲۲۸۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَقَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ .

(۲۲۸۲۱) حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زمینوں کو آباد کرتے تھے، اُن میں پتھروں سے نشان لگاتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے۔

(۲۲۸۲۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّقْفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَنَّهُ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ .

(۲۲۸۲۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (عاملوں کو) تحریر فرمایا: جو بنجر زمین کو آباد کرے وہ اس زمین کا زیادہ حق دار ہے۔

(۲۲۸۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فِيهِ لَهْ صَدَقَةٌ .

(احمد ۳ / ۳۱۳ - ابن حبان ۵۲۰۳)

(۲۲۸۲۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بنجر زمین آباد کرے اُس کو اُس پر اجر ملے گا، اور راہ گزر جو کچھ کھالے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

(۲۲۸۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَلَمٍ حَقٌّ . (ابوداؤد ۳۰۷۱ - مالک ۲۶)

(۲۲۸۲۳) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اور ظالم کی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔

(۲۲۸۲۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَنْصِ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا عَلَى دَعْوٍ مِنَ الْمِصْرِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا إِلَى مَا يُصِيبُ فِيهَا مِنَ الْأَجْرِ .

(۲۲۸۲۵) حضرت ابو بکر بن حنص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی شہر والوں کے کہنے پر بنجر زمین کو آباد کرے تو وہ رقبہ اسی کا ہوگا۔ اور مزید براں اس کو ثواب بھی ملے گا۔

(۲۲۸۲۶) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى شَيْئًا مِنْ مَوَاتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا .

(۲۲۸۲۶) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ جو بنجر زمین سے کچھ آباد کرے تو اس کا رقبہ اسی کا ہے۔

(۲۲۸۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مِثْلَ حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ .

(۲۲۸۲۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۸۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ رَقَبَتُهَا .

(۲۲۸۲۸) حضرت طاووس سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص بنجر زمین آباد کرے تو اس کا رقبہ اُس کے لئے ہے۔

(۲۲۸۲۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ .

قَالَ هِشَامٌ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

(۲۲۸۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی ایسی بنجر زمین آباد کرے جو اُس سے قبل کسی کی ملکیت نہ ہو تو وہ اسی کی ہوگی۔

حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تحریر فرمایا تھا۔

(۲۲۸۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَمِيرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ ذَابْتَةً بِمَهْلِكَةٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا . (ابو داؤد ۳۵۱۹ - دارقطنی ۶۸)

(۲۲۸۳۰) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی سواری ہلاکت والی جگہ چھوڑ دے تو وہ اس کی ہوگی جو اُس کو لے جا کر پرورش کرے۔

(۲۲۸۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ ذَابْتَهُ بِالْأَرْضِ الْقَفْرِ

فِيَأْخُذُهَا رَجُلٌ فَيُصْلِحُهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا حَتَّى يُصْلِحَهَا ؟ قَالَ : هِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا .

(۲۲۸۳۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے جانور کو بنجر زمین میں چھوڑ دیا وہاں سے اُس کو ایک شخص نے اٹھا

لیا اور اُس کی پرورش کی، اور اُس کو دھیان رکھتا رہا یہاں تک کہ وہ تندرست اور ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے فرمایا وہ اسی کا ہوگا جس نے

اُس کو زندگی بخشی ہے۔ اور پرورش کی ہے۔

(۲۲۸۳۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَن سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سُمْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ . (ابوداؤد ۳۰۷۲ - احمد ۵ / ۱۲)

(۲۲۸۳۳) حضرت سرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بجز زمین پر چار دیواری کر لی وہ اُس کی ہوگی۔

(۲۴۳) الرَّجُلُ يَهَبُ لِلرَّجُلِ الدِّينَ يَكُونُ عَلَيْهِ

کوئی شخص کسی کو اپنا دین بہہ کر دے

(۲۲۸۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ دِينَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ .

(۲۲۸۳۳) حضرت حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا دوسرے پر دین تھا اُس نے اپنا دین اُس کو بہہ کر دیا تو پھر اُس کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

(۲۲۸۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي الْحَكَمُ : أَتَانِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دِينَ فَوَهَبَهُ لَهُ ، أَلَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ؟ قُلْتُ : لَا . وَسَأَلْتُ حَمَادًا فَقَالَ : بَلَى ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ .

(۲۲۸۳۳) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حکم نے فرمایا: میرے پاس ابن ابی لیلیٰ تشریف لائے اور دریافت کیا کہ ایک شخص کا دوسرے پر دین تھا اُس نے اُس کو بہہ کر دیا تو کیا وہ اُس سے رجوع کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، میں نے حضرت حماد سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ رجوع کر سکتا ہے۔

(۲۴۴) الرَّجُلُ تَمَوَّتْ أُمْرَأَتُهُ وَلَهَا وَكْدٌ صِغَارٌ وَخَادِمٌ

عورت (بیوی) فوت ہو جائے اور اُس کی چھوٹی اولاد اور خادم ہوں

(۲۲۸۳۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : مَاتَتْ أُمْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي وَكَانَ مُوسِرًا ، فَتَرَكَتْ خَادِمًا وَوَلَدًا صِغَارًا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقَوْمَ الْأَبُ أَنْصَبَاءَ وَوَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَّأَهَا .

(۲۲۸۳۵) حضرت عبد الکریم فرماتے ہیں کہ میرے ماموں کی بیوی فوت ہوئی، اور مالدار تھی، اُس نے ایک خادم اور بچہ چھوڑا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ باپ اس خادم کی بچہ کے حصے کی قیمت لگا لے اور پھر اس خادم کو کام میں لائے۔

(۲۲۸۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُوسًا عَنْ ذَلِكَ : فَقَالَا : لَا

بَأْسَ أَنْ يَطَّأَهَا.

(۲۲۸۳۶) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس اور حسن سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں نے فرمایا: اُس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۸۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِي بَرْدَةَ فَأَقْتَوَى أَبُو بَرْدَةَ بَعْضَ جَوَارِيهَا ، قُلْتُ : حَدَّثَكَ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةً وَلَدِيهِ وَهُمْ صِغَارٌ قَوْمَهَا عَلَيْهِ قِيمَةً وَأَشْهَدَ لَهُمْ بِثَمَنِهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتَهُ .

(۲۲۸۳۷) حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اُن کی دادی کا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہما کے پاس انتقال ہوا، حضرت ابو بردہ نے اُن کی کچھ لونڈیوں کو اپنے لئے خاص کر لیا، میں نے اُن سے عرض کیا، آپ کو ابنی عون نے محمد سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹے بچے کی باندی لینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اُس کو اُس پر اُن کی قیمت لگائے، اور اُن کے لئے اُن کے ثمن کا گواہ بنا لے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے سنا ہوا ہے۔

(۲۲۸۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا صَغِيرًا وَجَارِيَةً ، فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ : قَوْمُهَا فِي السُّوقِ قِيمَةٌ ، ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيَّ نَفْسِكَ بِثَمَنِهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ بِهَا مَا بَدَا لَكَ .

(۲۲۸۳۸) حضرت اسماعیل سے مروی ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اُس نے ایک چھوٹا بچہ اور باندی چھوڑی، اُس کے والد نے باندی کو خریدنے کا ارادہ کیا، حضرت سعید نے فرمایا: بازار میں جا کر اس کی قیمت لگاؤ، پھر اس کے ثمن پر گواہ بناؤ، پھر اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے اس کے ساتھ کرو۔

(۲۴۵) أَجْرُ حَوَائِثِ السُّوقِ

بازار کی دکانوں کا کرایہ

(۲۲۸۳۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَيْمُونُ إِلَى أَهْلِ السُّوقِ أَجْرًا .

(۲۲۸۳۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا: بازار والوں سے کرایہ وصول نہ کیا جائے۔

(۲۲۸۴۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارُ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ .

(۲۲۸۴۰) حضرت الاصح فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہمارا یہ دستور تھا کہ جو شخص بازار میں کسی جگہ کو پہلے حاصل کر لیتا وہی

شام تک اس جگہ کا مالک ہوتا۔

(۲۲۸۴۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَمِيمِ الرَّسَبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ ذَكَرِ بْنِ السُّوقِ؟ فَكَّرَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْهَا وَإِجَارَتَهَا.

(۲۲۸۴۱) حضرت حسن سے بازار کی دکانوں اور چبوتروں کے متعلق دریافت کیا گیا؟ انہوں نے اس کی بیع و شرا، اور کرایہ پر دینے کو ناپسند فرمایا۔

(۲۲۸۴۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاضٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السُّوقَ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَرَأَى دُكَّانًا قَدْ أُحْدِثَ فِي السُّوقِ، فَكَسَّرَهُ.

(۲۲۸۴۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہو کر بازار میں تشریف لائے، آپ چلنے والے نے بازار میں کچھ نئی دکانیں تو ان کو گرا دیا۔

(۲۲۸۴۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجْرًا زِيَادٌ.

(۲۲۸۴۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زیاد نے بازار والوں سے کرایہ وصول کیا۔

(۳۴۶) فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ وَدَفْعِهِ

غنی کا مال مٹول کرنا

(۲۲۸۴۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبَرٌ بْنُ أَبِي دَلِيلَةَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، قَالَ وَكِيعٌ: وَأَتْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتُ الْوَاجِدُ يُحِلُّ دِينَهُ وَعَقُوبَتَهُ. (ابوداؤد ۳۶۲۳۔ ابن حبان ۵۰۸۹)

(۲۲۸۴۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: مالدار کا مال مٹول کرنا اس کے دین اور آرت کو خراب کرتا ہے۔

(۲۲۸۴۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ بِحَتْلٍ. (بخاری ۲۲۸۷۔ ترمذی ۱۳۰۸)

(۲۲۸۴۵) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: غنی کا مال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جو شخص کسی مال مٹول کرنے والے کے حیلہ کا شکار بن جائے تو اس کو بھی حیلہ کر لینا چاہیے۔

(۲۲۸۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَرْوَانَ أَبِي عُثْمَانَ الْعُجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ رَجُلًا كَانَ رَجُلًا سَوْءًا وَالْمَمْلُوكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ.

(۲۲۸۴۶) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال مٹول کرنے والا بہت بُرا شخص ہے۔ اور مال مٹول کرنا ظلم میں

ے ہے۔

(۲۲۸۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ .

(۲۲۸۴۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کرنا ظلم میں سے ہے۔

(۲۲۸۴۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الْمَطْلُ ظُلْمٌ .

(۲۲۸۴۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔

(۲۲۸۴۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ .

(۲۲۸۴۹) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کرنا ظلم میں سے ہے۔

(۲۴۷) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الشُّهُودِ

گواہوں کے درمیان تفریق کرنا

(۲۲۸۵۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ : أَنَّ دَانِيَالَ أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ .

(۲۲۸۵۰) حضرت ابودریس فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال پہلے شخص تھے جنہوں نے گواہوں کے درمیان تفریق کی۔

(۲۲۸۵۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ صَالِحٍ : أَنَّ عَلِيًّا فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ .

(۲۲۸۵۱) حضرت محرز فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہوں کے بیچ تفریق کی۔

(۲۴۸) الرَّجُلُ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ كَفَنٌ

کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اُس پر قرضہ ہو اور اُس کے پاس کفن نہ ہو

(۲۲۸۵۲) حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : يُبْدَأُ

بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الوَصِيَّةِ .

(۲۲۸۵۲) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ کفن سے ابتدا کی جائے گی (پہلے کفن کا بندوبست کیا جائے گا) پھر قرضہ ادا کیا جائے گا پھر

وصیت پڑھل ہوگا۔

(۲۲۸۵۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ،

ثُمَّ الوَصِيَّةِ ، ثُمَّ المِيرَاثِ .

(۲۲۸۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پہلے کفن دیا جائے گا، پھر قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی پھر میراث

تقسیم ہوگی۔

(۲۲۸۵۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفْنِ قَبْلَ الدِّيْنِ .
 (۲۲۸۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قرضہ کی ادائیگی سے قبل کفن دن کا انتظام کیا جائے گا۔
 (۲۲۸۵۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَاِسْمَاعِيْلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلُهُ .
 (۲۲۸۵۵) حضرت حسن سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۸۵۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفْنِ قَبْلَ الدِّيْنِ .
 (۲۲۸۵۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے کفن کا انتظام کیا جائے گا۔

(۲۲۸۵۷) حَدَّثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكْرِيْمِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفْنِ ، ثُمَّ الدِّيْنِ ، ثُمَّ الوَصِيَّةِ .

(۲۲۸۵۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، پہلے کفن کا انتظام کیا جائے گا پھر قرض کا پھر وصیت پر عمل ہوگا۔

(۳۴۹) الرَّجُلُ يَدْفَعُ اِلَى الرَّجُلِ الْغَنَمَ

کوئی شخص کسی کو بکریاں دے

(۲۲۸۵۸) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمِيْرٍ بْنِ سَعِيْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُعْطِي اَهْلَ الْغَنَمِ عَلٰى اَنْ يُعْطُوْنَا كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجُبِيْنِ ، وَكَذَا وَكَذَا مِنَ السَّمْنِ ، وَكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَصْلِ ، فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ وَمَسْرُوْقًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى ؟ فَكَلَّمَهُمْ نَهَانِي عَنْهُ .

(۲۲۸۵۸) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ ہم بکری والوں کو اس شرط پر کچھ عطیہ وغیرہ دیتے تھے کہ وہ ہمیں اتنا اتنا پنیر، اتنا اتنا گھی اور اتنا اتنا سیال مادہ جو زرد رنگ ہوتا ہے دیں گے، پھر میں نے حضرت علقمہ، حضرت مسروق اور حضرت عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ ان سب نے مجھے اس سے منع کیا۔

(۲۲۸۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمِيْرٍ بْنِ سَعِيْدٍ : اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِيْدَةَ ، وَعَمِيْرَ وَاحِدًا مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ ؟ فَكَفَرُوْهُ .

(۲۲۸۵۹) حضرت عمر فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبیدہ اور ان کے علاوہ حضرت عبداللہ کے اصحاب میں سے کسی سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔

(۳۵۰) مَنْ قَالَ لَا يَتَفَرَّقُ بَيْعَانِ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

بیع کرنے والے رضامندی کے بعد جدا ہوں گے

(۲۲۸۶۰) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ اَيُّوبَ ، عَنْ اَبِي فَلَانَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

يَتَفَرَّقُ بَيْعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ . (بيهقي ۲۷۱)

(۲۲۸۶۰) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: رضامندی کے بغیر بیع کرنے والے جدا نہ ہوں۔

(۲۲۸۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ : أَنَّهُ بَاعَ فَرَسًا فَخَيَّرَ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ ، ثُمَّ

قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ . (ابوداؤد ۳۴۵۲ - ترمذی ۱۲۳۸)

(۲۲۸۶۱) حضرت ابو ہریرہ نے گھوڑے کی بیع کی اور پھر مشتری کو بیع کرنے کے بعد اختیار دیا اور فرمایا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ بیع رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے۔

(۲۲۸۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا كَانَ التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ ، قَالَ : وَبِإِيعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فَخَيَّرَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ . (ابن ماجہ ۲۱۸۳ - بیهقی ۲۷۰)

(۲۲۸۶۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اختیار بیع کے بعد ہی ہے، آنحضرت ﷺ نے ایک اعرابی کے ساتھ بیع کی اور بیع کے بعد اُس کو اختیار دیا۔

(۲۲۸۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الرِّضَا .

(۲۲۸۶۳) حضرت طاؤس اس بات پر قسم اٹھاتے تھے کہ اختیار رضامندی کے بعد ہے۔

(۲۲۸۶۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْنَبَ مُسْلِمًا .

(عبدالرزاق ۱۳۲۶۳)

(۲۲۸۶۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیع رضامندی کے ساتھ ہے، اور اختیار بیع مکمل ہونے کے بعد ہے، اور کسی مسلمان

کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکا دے۔

(۲۲۸۶۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اشْتَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ نَصِيْبَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ ،

ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَنَا مِتُّ فَخَيِّرُوهَا .

(۲۲۸۶۵) حضرت حسن بن علی نے اپنی بیوی سے اُس کی میراث کا حصہ خریدا، پھر فرمایا: جب میں مر جاؤں تو پھر اُس کو اختیار دیا

جائے۔

(۳۵۱) الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ أَشْهُرًا

کوئی شخص کچھ عرصہ کے لئے مکان کرایہ پر لے

(۲۲۸۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا أَشْهُرًا ، أَوْ قَالَ

إِلَى أَجَلٍ ، فَسَكَنَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِذَا أَتَى بِالْمَفَاتِيحِ فَقَدْ بَرِيَءٌ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مَا سَكَنَ .
 (۲۲۸۶۶) حضرت شریح سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کچھ وقت کے لئے کرایہ پر مکان لیا ہے، پھر وہ اس میں رہا اب وہ نکلتا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب وہ مکان کی چابیاں لے کر آجائے تو وہ اُس سے بری ہے، اور جتنا عرصہ وہ رہا ہے اُس کا کرایہ اُس پر ہے۔

(۲۲۸۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، بِنَحْوِ مَنْ حَدِيثِ عَبَّادٍ .
 (۲۲۸۶۷) حضرت شریح سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۸۶۸) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَجْرُ مَا سَكَنَ .
 (۲۲۸۶۸) حضرت شریح فرماتے ہیں جتنا وہ اس میں رہا ہے اُس پر اُس کا کرایہ لازم ہے۔

(۳۵۲) فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ

کوئی شخص کچھ مدت کے لئے کسی کو سامان فروخت کرے

(۲۲۸۶۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُذَهُ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .
 (۲۲۸۶۹) حضرت سلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے دو مہینے کے لئے ایک شخص کو سامان فروخت کیا، اور مشتری پر یہ شرط لگا دی کہ اگر اس کو دو ماہ سے قبل فروخت کیا تو ثمن نقد دینا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

(۲۲۸۷۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ : مَتَى مَا جِئْتُ بِشَمِيهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَيْكَ ، قَالَ : يَبْطُلُ شَرْطُهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ .
 (۲۲۸۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آدمی گھر خریدے پھر مشتری بائع سے یوں کہے کہ جب بھی میں اس کے پیسے لے کر تیرے پاس آیا تو وہ تجھ پر رد ہوگا، تو یہ شرط باطل ہوگی اور بیع لازم ہو جائے گی۔

(۲۲۸۷۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَلْيَبْعُ بِهِدْمَهُ .
 (۲۲۸۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیع میں جو بھی خلاف بیع شرط لگائی جائے تو بیع اس شرط کو منہدم کر دیتی ہے۔

(۳۵۳) فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ

کوری زمین سونے کے بدلے کرایہ پر دینا

(۲۲۸۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ مَنَعَ أَرْضًا فَهَوَّ يَزْرَعُ مَا مَنَعَ ، وَرَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهَوَّ يَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَمَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . (ابوداؤد ۳۳۹۳ - ابن ماجہ ۲۳۳۹)

(۲۲۸۷۲) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک زمین کی کاشت صرف دو طرح سے ہے، ایک وہ شخص جس کو زمین دی جائے تو وہ اس میں کاشت کرے، دوسرا وہ شخص جس کی اپنی زمین ہے اور اس کو کاشت کرتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو زمین کو سونے اور چاندی کے بدلے لے کر ایہ پر لے۔

(۲۲۸۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : حَلَالٌ لِأَبْسٍ بِهِ .

(۲۲۸۷۳) حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کوری زمین کو سونے اور چاندی کے بدلے لے کر ایہ پر دینا کیسا ہے؟ فرمایا: حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۸۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ قَرْضُ الْأَرْضِ .

(۲۲۸۷۴) حضرت سعد سے کوری زمین کو سونے اور چاندی کے بدلے لے کر ایہ پر دینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں، یہ زمین کا قرضہ ہے۔

(۲۲۸۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

(۲۲۸۷۵) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ کوری زمین کو سونے اور چاندی کے بدلے لے کر ایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۸۷۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

(۲۲۸۷۶) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۸۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرُونَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا .

(۲۲۸۷۷) حضرت سالم، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عروہ اور حضرت زہری رضی اللہ عنہم سے کوری زمین کو سونے اور چاندی کے بدلے لے کر ایہ پر دینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۲۸۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَلَّ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

(۲۲۸۷۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پیشوں میں سے بہتر پیشہ یہ ہے کہ تم زمین کو سونے اور چاندی کے بدلے کرایہ پر دیتے ہو۔

(۲۲۸۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَمَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نَكْرِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ .

(۲۲۸۷۹) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ بے شک کوری زمین اُس کو ہم سونے اور چاندی کے بدلے کرایہ پر دیں گے۔

(۲۲۸۸۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَمَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِهِ .

(۲۲۸۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین کرایہ پر دینے کا ارادہ کرے تو وہ کوری زمین کو سونے اور چاندی کے بدلے کرایہ پر دے سکتا ہے۔

(۲۲۸۸۱) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ وَلَا زُرْعٌ نَسْتَأْجِرُهَا بِالذَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ ؟ قَالَ : هُوَ حَسَنٌ ، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمَدِينَةِ .

(۲۲۸۸۱) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوری زمین جس پر درخت اور کھیت نہیں ہے اُس کو ہم دراہم اور دینار کے بدلے کرایہ پر دیتے ہیں؟ فرمایا: یہ اچھا ہے، ہم بھی مدینہ منورہ میں اسی طرح کرتے تھے۔

(۲۲۸۸۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَادِيِّ مِنَ الزَّرْعِ ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَهَنَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . (ابوداؤد ۳۳۸۳ - احمد ۱/۱۷۸)

(۲۲۸۸۲) حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے دور میں زمین کو پانی لگانے والوں کو کرایہ پر دیتے تھے، آنحضرت ﷺ نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا ہم سونے اور چاندی کے بدلے کرایہ پر دیا کریں۔

(۲۲۸۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ عَنْ يَتِيمٍ لِي لَهُ أَرْضٌ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ مُكْرِيهَا فَأَكْرِهَا بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ .

(۲۲۸۸۳) حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ میرے پاس ایک یتیم ہے جس کی زمین بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو کرایہ پر زمین دینا چاہتا ہے تو اُس کو دراہم اور دینار کے بدلے دے دے۔

(۲۲۸۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا .

(۲۲۸۸۴) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کرایہ پر زمین دینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۵۴) الرَّجُلُ يَزْرَعُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا

کوئی شخص دوسرے کی زمین پر بغیر اُس سے پوچھے کاشت کرے

(۲۲۸۸۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَتَرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ . (ابو داؤد ۳۳۹۶ - ترمذی ۱۳۶۲)

(۲۲۸۸۵) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی غیر کی زمین کو اُس کی اجازت کے بغیر کاشت کرے تو کاشت میں سے اُس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اُس کو اس کا نفقہ (خرچہ) واپس کر دیا جائے گا۔

(۲۲۸۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَرْعٍ يَهْتَزُّ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : رَجُلٌ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَأْخُذَ نَفَقَتَهُ . (ابو داؤد ۳۳۹۲ - طبرانی ۳۲۶۷)

(۲۲۸۸۶) حضرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سرسبز زمین کے پاس سے گذرے آپ نے اُس زمین کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کی زمین پر بغیر اجازت کاشت کیا ہے، آپ نے اُس کو واپس کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ نفقہ (خرچہ) واپس لے لے۔

(۲۲۸۸۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَى وَعَلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي الْمَزَارَعَةِ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِيهَا حَدِيثًا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى بِنْتِ حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظَهْرٍ ، فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظَهْرٍ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لَيْسَ لظَهْرٍ ، قَالَ : أَلَيْسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظَهْرٍ ؟ قَالُوا : بَلَى وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فَلَانًا ، قَالَ : فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَخُذُوا زَرْعَكُمْ ، قَالَ رَافِعٌ : فَرُدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَأَخَذْنَا زَرْعَنَا ، قَالَ سَعِيدٌ : أَفْقِرُ أَحَاك ، أَوْ أَكْرَهُ بَوْرَقٍ .

(۲۲۸۸۷) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ایک لڑکے کو میرے چچا نے حضرت سعید بن المسیب کے پاس بھیجا، ان سے دریافت کیا کہ آپ مزارعت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کو رافع بن خدیج سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارثہ کے پاس آئے اور آپ نے ظہیر کی زمین کو دیکھا، اور فرمایا: ظہیر کی کھیتی کتنی عمدہ اور اچھی ہے!، لوگوں نے عرض کیا: یہ ظہیر کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا یہ ظہیر کی زمین

نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن اس کو فلاں شخص نے (بغیر اجازت) کاشت کیا ہے۔ فرمایا: اس کو اس کا نفع (خرچہ) واپس کر دو، اور تم اپنی کھیتی واپس لو، حضرت رافع فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نفع واپس کر دیا اور کھیتی واپس لے لی، حضرت سعید فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو عاریتاً زراعت کے لیے دے دو یا پھر چاندی کے بدلے کرایے پر دے دو۔

(۲۵۵) مَا تَجَوُّزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

یہودی اور نصرانی کی گواہی درست ہے

(۲۲۸۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى وَصِيَّةٍ .

(۲۲۸۸۸) حضرت شرح فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی گواہی صرف سفر اور وصیت میں جائز ہے۔

(۲۲۸۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ تَوَفَّى بِدُقُوقًا فَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا نَصْرَانِيَيْنِ ، فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَ ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا بَدَلَا ، وَإِنَّهَا لَوْ صِيَّتُهُ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا .

(۲۲۸۸۹) حضرت شعبی سے مروی ہے کہ قبیلہ خثعم کا ایک شخص دُقوقا مقام میں وفات پا گیا، اس نے اپنی وصیت پر صرف دو نصرانیوں کو گواہ بنایا۔ ان دونوں کو ابو موسیٰ نے عصر کے بعد ان الفاظ کے ساتھ قسم دی کہ خدا کی قسم! ہم نے خیانت نہیں کی، نہ ہی اس کو چھپایا، اور نہ ہی اس کو تبدیل کیا، بے شک یہی وصیت ہے، پھر انہوں نے ان نصرانیوں کی گواہی کو نافذ کر دیا۔

(۲۲۸۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ : ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .

(۲۲۸۹۰) حضرت عبیدہ قرآن پاک کی آیت ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل کتاب مراد ہیں۔

(۲۲۸۹۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ .

(۲۲۸۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ سے مراد تمہارے دین کے علاوہ لوگ ہیں۔

(۲۲۸۹۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۲۲۸۹۲) حضرت سعید بن المسیب بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۸۹۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ : أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۲۲۸۹۳) حضرت ابو مجلز بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۸۹۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۲۲۸۹۳) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۸۹۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مِنْ غَيْرِ عَشَائِرِكُمْ.

(۲۲۸۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تمہارے خاندان کے علاوہ لوگ مراد ہیں۔

(۲۲۸۹۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ.

(۲۲۸۹۶) حضرت عبیدہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا تمہارے دین کے علاوہ لوگ مراد ہیں۔

(۲۲۸۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ: مِنْ سَائِرِ الْمَلِكِ.

(۲۲۸۹۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ سے مراد ساری ملتوں والے لوگ ہیں۔

(۲۲۸۹۸) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمْحِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي قَوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ: هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ.

(۲۲۸۹۸) حضرت زہری رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی آیت ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میراث

والوں میں سے ہیں۔

(۳۵۶) الرَّجُلُ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ

جانور کرایہ پر دینا

(۲۲۸۹۹) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: مَنِ اكْتَرَى عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَلَيْسَ بِضَامِنٍ.

(۲۲۸۹۹) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جو شخص اس شرط پر کرایہ پر دے کہ وہ ضامن ہے تو وہ ضامن شمار نہ ہوگا۔

(۲۲۹۰۰) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَوْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: يَسْتَكْرِى الرَّجُلُ

بِضْمَانٍ؟ قَالَ: لَا.

(۲۲۹۰۰) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ آدمی ضمان کے ساتھ کرایہ پر لے سکتا ہے؟

فرمایا: نہیں۔

(۲۲۹۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْكِرَاءَ وَالضَّمَانَ.

(۲۲۹۰۱) حضرت طاؤس کو جائز نہ سمجھتے تھے۔

(۳۵۷) بَابُ الطَّيْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ

کپڑوں کو رنگنے والی مٹی کو دو کو ایک کے بدلے دینا

(۲۲۹۰۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّيْنِ الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ؟ فَكَرِهَهُ .

(۲۲۹۰۲) حضرت محمد بن سیرین سے مٹی کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ساتھ کپڑوں کو رنگا جاتا ہے، دو کو ایک کے ساتھ دینا کیسا ہے؟ انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔

(۳۵۸) الرَّجُلُ يُسَلِّمُ فِي طَعَامٍ حَدِيثٌ فَلَا يَلْقَى صَاحِبَهُ

کوئی شخص تازہ کھانے میں سلم کرے پس اُس کی ساتھی سے ملاقات نہ ہو

(۲۲۹۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ حَدِيثٍ ، فَلَمْ يَلْقَهُ حَتَّى صَارَ حَدِيثٌ ذَلِكَ الْعَامَ عَيْبًا ، قَالَ لَهُ : حَدِيثٌ سَنِّيهِ الَّتِي لَفِيهِ فِيهَا ، وَكَانَ شَرِيحٌ يَقُولُ ذَلِكَ .

(۲۲۹۰۳) حضرت ابراہیم اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو دوسرے شخص کے ساتھ تازہ کھانے کی بیع سلم کرے، پھر اُس کی ملاقات نہ ہو اور وہ کھانا پانا ہو جائے، آپ نے فرمایا: جس سال ملاقات ہوئی ہے اس سال کا تازہ کھانا دے گا۔ حضرت شرح بھی اسی طرح فرماتے تھے۔

(۲۲۹۰۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شَرِيحٍ ، قَالَ : يُعْطِيهِ حَدِيثٌ سَنِّيهِ الَّتِي يَتَّقَا ضَاهُ فِيهَا .

(۲۲۹۰۴) حضرت شرح سے اسی طرح مروی ہے۔

(۳۵۹) الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِلرَّجُلِ لِذِي بَيْتِهِ فِي الدَّارِ ثُمَّ يَخْرِجُهُ

کوئی شخص دوسرے کو گھر بنانے کی اجازت دے پھر اُس کو نکال دے

(۲۲۹۰۵) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شَرِيحٍ وَعَبْدِ اللَّهِ : كَانَا يَقُولَانِ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءٍ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ : أَنْ لَهُ النِّقْضُ ، وَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ النِّفْقَةُ .

(۲۲۹۰۵) حضرت شرح اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی جگہ پر بغیر اجازت تعمیر کر دے، تو اس کو توڑا جائے گا، اور اگر اس نے اُن کی اجازت سے بنایا ہے تو پھر اُس کو نفع دیا جائے گا۔

(۲۲۹۰۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، أَوْ حَدَّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطْفَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَوْزَةَ .

(۲۲۹۰۶) حضرت علی سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۹۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسَوْدِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقْضُهُ ، وَمَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ .
(۲۲۹۰۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی جگہ پر ان کی اجازت کے بغیر تعمیر کر لے تو اس کو توڑا جائے گا، اور ان کی اجازت سے بنایا تھا تو اس کو نفقہ دیا جائے گا۔

(۲۲۹۰۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ جَارًا لَهُ حَائِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْلَعَ بِنَاءَهُ ، قَالَ : يَغْرُمُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ مَا أَنْفَقَ .
(۲۲۹۰۸) حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنے پڑوسی کی دیوار کرایہ پر لے کر اس پر تعمیر کر دی، پھر وہ پڑوسی اس کو اکھاڑنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا: صاحب دیوار کو جتنا اس کا خرچ آیا وہ ادا کرے گا۔

(۲۲۹۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ أَبِي كَلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِمْ : أَنَّ رَجُلًا أَعَارَ رَجُلًا حَائِطًا ، فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْلَعَ بِنَاءَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ : صَعُ رَجُلِكَ حَيْثُ سُنْتَ يَعْنِي يَقْلَعُ بِنَاءَهُ .
(۲۲۹۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے دیوار کے مالک سے فرمایا: اس کی تعمیر کو اکھاڑ دو (اکھاڑ سکتے ہو)۔

(۲۲۹۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالَ : مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بِنَاءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ .
(۲۲۹۱۰) حضرت قتادہ اور حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے کسی کو تعمیر کرنے کی اجازت دے پھر اس کو نکالنا چاہے تو اس کو تعمیر کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔

(۲۲۹۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ : أَنَّ رَجُلًا أَعَارَ رَجُلًا حَائِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ : ارْدُدْ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ .
(۲۲۹۱۱) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیوار کرایہ پر دی اور اس نے اس پر تعمیر کر دی، حضرت شریح نے دیوار والے سے فرمایا: اس کو نفقہ دو۔

(۳۶۰) الْقَوْمُ يَخْتَلِفُونَ فِي النَّقْدِ

نقدی کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کریں

(۲۲۹۱۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفُوا فِي النَّقْدِ لَكَ الْجَيِّدُ وَالْحَسَنُ وَالطَّيِّبُ ، فَإِنْ ذَهَبَ الْأَعْلَى فَاتْرَكَ الْأَسْفَلَ .
(۲۲۹۱۲) حضرت اشعث نے فرمایا: جب لوگ نقد کے بارے میں اختلاف کریں، تو اگر اچھا، نیک اور عمدہ نقد ہو، تو اچھا، نیک اور عمدہ نقد کو چھوڑ کر برا، کمزور اور سبوتا نقد لے لیں۔

(۲۲۹۱۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب نقدی کے متعلق اختلاف ہو، تو تیرے لئے، جید، اچھا اور پاکیزہ ہے، اگر اعلیٰ چلا جائے تو اسفل کی طرف اتر (اُس کو چھوڑ دے)۔

(۲۲۹۱۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلِيمٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجَلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ اتَّيَنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الْأَذَى أُعْتِقَ أَبُوهَا : هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمًا بِخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، بِالْجَيْدِ وَالطَّيِّبِ ، وَالْحَسَنِ .

(۲۲۹۱۳) حضرت موسیٰ بن سالم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حججاج نے اہل الارض کو بری الذمہ کیا، میرے پاس ایک خاتون مکتوب لے کر آئی، اُس کا خیال تھا کہ بے شک اُس کے والد کو آزاد کیا گیا ہے۔ (کہنے لگی) یہ وہ ہے جس کو طلحہ بن عبید اللہ نے فلان بن فلان سے خریدا، اُس نے ایک نوجوان سے دینار یا درہم کے بدلے میں خرید پانچ سو درہم کے بدلے میں جو جید، عمدہ اور اچھے تھے، اور اُس کو شُن بھی دے دیا، اور اُس کو اللہ کے لئے آزاد کر دیا۔

(۲۲۹۱۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اشْتَرَى حُدَيْفَةُ مِنْ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّخَعِ نَاقَةً ، وَشَرَطَ لهُمَا مِنَ النِّقَدِ رِضَاهُمَا ، فَجَاءَ بِهِمَا فِي مَتْرَلِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمَا كَيْسًا فَاسْلَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ لَهُمَا كَيْسًا فَاسْلَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ : إِنِّي بِاللَّهِ مِنْكُمَا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ ، كَانَ كَالْمُدْلِى بِجَارِهِ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ .

(احمد ۵ / ۳۰۴)

(۲۲۹۱۴) حضرت حذیفہ نے مقام نخع کے دو شخصوں سے اونٹنی خریدی، اور شرط لگا دی کہ جس پر وہ دونوں راضی ہوں گے وہ نقدی دی گے، پھر وہ اُن دونوں کو اپنے مکان پر لائے، اور ان کے لیے ایک تھیلی نکالی، انہوں نے کہا یہ کھوٹے ہیں، انہوں نے پھر ایک اور تھیلی نکالی، انہوں نے پھر کہا یہ کھوٹے ہیں، حضرت حذیفہ نے فرمایا: خدا کی قسم میں بھی تم میں سے ہوں، میں نے خود رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ، جو شخص اپنے ساتھی پر شرط لگائے وہ اُس کو اُس کے لئے پورا نہ کرے، تو وہ گویا کہ ایسے مقام پر ہے کہ اُس کا پڑوسی تکلیف میں ہے وہ اُس کو اُس سے نہیں روکتا۔

(۲۶۱) الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ وَيَضْمَنُهُ نَقْصَانًا

کوئی شخص ملاح کو غلہ دے اور اُس کو نقصان کا ضامن بنائے

(۲۲۹۱۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ .

(۲۲۹۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ملاح کو غلہ دے تو جو اس میں کمی ہوگی وہ اس کا ضامن ہوگا۔

(۲۲۹۱۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ يُكَارِي الطَّعَامَ إِلَى أَرْضٍ بَكِيلٍ ، إِنْ زَادَ

لَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ لَعَلِيهِمْ، قَالَ: إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ الْأَكْرِيَاءُ وَأَقْرَبُوا بِهِ فَلَا بَأْسَ.

(۲۲۹۱۶) حضرت عطاء اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کو کیل کے ساتھ کھانے کے لئے کرایہ پر زمین دی گئی، اگر اس میں اضافہ ہو تو وہ اُن کے لئے ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو وہ بھی اُن پر ہے، اور اگر کرایہ والے اس پر راضی ہوں اور اس کا اقرار بھی کریں تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۹۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْمَلَّاحَ عَلَى أَنْ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ، وَالزِّيَادَةُ لَهُ، قَالَ: الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمَلَّاحِ.

(۲۲۹۱۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے کرایہ پر دیاملاح کو اس شرط کے ساتھ کہ نقصان اُس پر ہے، اور جو اضافہ ہو گا وہ اُس کا ہے، فرمایا زیادتی کھانے کے مالک کے لئے ہے اور نقصان ملاح پر ہے۔

(۲۲۹۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنِ الْمَلَّاحِ يَحْمِلُ الطَّعَامَ؟ فَقَالَ: الزِّيَادَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ.

(۲۲۹۱۸) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ملاح اگر غلہ اٹھائے؟ فرمایا: زیادتی اُس کے لئے ہے اور نقصان اُس پر ہے۔

(۶۶۲) فِي بَيْعِ مَا لَا يَكْتَالُ وَلَا يُوزَنُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

جس کا کیل یا وزن نہ کیا جاتا ہو اُس کی قبضہ سے قبل بیع کرنا

(۲۲۹۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِبَاضٍ، عَنْ عَثْمَانَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَبْرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوِزْنَ.

(۲۲۹۱۹) حضرت عثمان ہر چیز کی بیع قبضہ سے پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے سوائے کیلی اور وزنی چیزوں کے۔

(۲۲۹۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۰) حضرت سعید بن المسیب سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۹۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۱) حضرت سعید بن المسیب سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۹۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يَكْتَالُ وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَهُ.

(۲۲۹۲۲) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر انسان کوئی ایسی چیز خریدے جس کو کیل اور وزن کیا جاتا ہو تو اُس پر قبضہ سے پہلے بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۹۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ .

(۲۲۹۲۳) حضرت ابراہیم اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو قبضہ سے پہلے بیع کو فروخت کر دے، فرمایا: یہ کیل اور وزن کے بارے میں کہا گیا ہے۔

(۲۲۹۲۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ ، وَلَا أَحْسِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا مَثَلَهُ .

(۲۲۹۲۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ممانعت اور منع اُن چیزوں میں کیا گیا ہے جو کیل اور وزنی ہیں، اور میں ان کے علاوہ کو بھی انہی کے مثل سمجھتا ہوں۔

(۲۲۹۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَثَلَّةُ .

(۲۲۹۲۵) حضرت عطاء سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

(۲۲۹۲۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ .

(۲۲۹۲۶) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کیل اور وزنی نہ ہو اُن کی قبضہ سے قبل بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۹۲۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : كُنَّا نَقُولُ : حَتَّى يَقْدَمَ .

(۲۲۹۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت کیا کہ کسی شخص بیع خریدے جو ابھی موجود نہیں ہے تو کیا وہ اُس کے آنے سے پہلے (قبضہ سے پہلے) اُس کی آگے بیع کر سکتا ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا ہم کہتے تھے کہ جب تک بیع حاضر نہ ہو جائے آگے نہ بیچے۔

(۳۶۳) مَنْ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے میں برابر برابر فروخت کی جائے گی

(۲۲۹۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّانِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . (بخاری ۲۱۳۳ - مسلم ۱۱۱۰)

(۲۲۹۲۸) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: سونے کی بیع سونے کے بدلے میں برابر نہ ہو تو سود ہے، اور چاندی کی چاندی کے بدلے برابر نہ ہو تو سود ہے، اور جو کی جو کے بدلے میں برابر نہ ہو تو سود ہے اور کھجور کی کھجور کے بدلے برابر نہ ہو تو سود ہے۔

(۲۲۹۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ وَعَلَيْنَا مَعَاوِيَةُ ، فَأَصَبْنَا ذَهَبًا وَفِضَّةً ، فَأَمَرَ مَعَاوِيَةُ رَجُلًا يَبِيعُهُمَا النَّاسُ بِأُحْطَىٰ تَيْمِيمًا ، فَسَارَعَ النَّاسُ فِيهَا ، فَقَامَ عِبَادَةٌ فَهَاهُمْ قَرْدُوهَا ، فَأَتَى الرَّجُلُ مَعَاوِيَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ مَعَاوِيَةُ خَطِيْبًا فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ يَكْذِبُونَ فِيهَا ، لَمْ نَسْمَعْهَا ؟ فَقَامَ عِبَادَةٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مَعَاوِيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ . (مسلم ۱۲۱۰۔ ابو داؤد ۳۳۴۲)

(۲۲۹۲۹) حضرت ابو الاشعث فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہاد میں تھے جس میں حضرت معاویہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی ملے، حضرت معاویہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیچ کرے اُس سونا چاندی میں جو ان کو ملا ہے، لوگوں نے اس میں بہت جلدی کی، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس سے منع فرمایا، انہوں نے وہ واپس کر دیا، وہ شخص حضرت معاویہ کے پاس شکایت لے کر آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ سے ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو کہ جھوٹی ہوتی ہیں جن کو ہم نے نہیں سنا ہوتا؟ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: خدا کی قسم ہم ضرور رسول اکرم ﷺ سے احادیث بیان کریں گے اگرچہ معاویہ کو وہ بری لگیں، حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے نہ فروخت کرو، مگر برابر برابر، ہاتھ در ہاتھ اور نقد۔

(۲۲۹۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنَ التَّمْرِ مُخْتَلِفًا بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَذَهَبْنَا نَتَرَايِدُ لَهُ بَيْنَنَا ، فَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ .

(بخاری ۲۰۸۰۔ مسلم ۱۲۱۶)

(۲۲۹۳۰) حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہمارے درمیان مختلف قسم کی کھجوریں تقسیم فرمائیں جن میں سے بعض بعض سے اعلیٰ تھیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کم زیادہ دینے لگے تو آنحضرت ﷺ نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ برابر برابر بیچو۔

(۲۲۹۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ ، وَلَا يَبَاعُ عَاجِلٌ بِأَجَلٍ . (بخاری ۲۱۷۸)

(۲۲۹۳۱) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو فرماتے سنا کہ دینار کو دینار کے بدلے، اور درہم کو درہم کے بدلے فروخت کرتے وقت ان میں کمی بیشی نہ ہو، اور نہ ہی ان میں سے نقد کو ادھار کے بدلے فروخت کرو۔

(۲۲۹۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . (نسائی ۶۱۶۳)

(۲۲۹۳۲) حضرت ابوسعید سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۹۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَصْلُحُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَلَا صَاعٌ بِصَاعَيْنِ ، الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ . (بخاری ۲۰۸۰ - مسلم ۱۲۱۶)

(۲۲۹۳۳) حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک درہم کی بیع دو کے ساتھ اور ایک صاع کی بیع دو صاع کے ساتھ درست نہیں، دینار کو دینار کے بدلے اور درہم کو درہم کے ساتھ (برابر) بیع کرو۔

(۲۲۹۳۴) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبِيدٍ ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لُحَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْ بوزنٍ مِثْلٍ بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْ بوزنٍ مِثْلٍ بِمِثْلٍ ، فَمَا زَادَ ، فَهُوَ رِبَاٌ ، وَلَا تَبَاعُ تَمْرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . (احمد ۲/۲۶۲)

(۲۲۹۳۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: چاندی کو چاندی کے بدلے، برابر برابر اور سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر بیع کرو، اور جو زیادتی ہوگی وہ سود ہے، اور بدو صلاح سے قبل پھل کی بیع مت کرو۔

(۲۲۹۳۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دِهْقَانَةَ ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: أَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيْفٌ فَقَالَ لِبَلَالٍ: ائْتِنَا بِطَعَامٍ ، فَذَهَبَ بِلَالٌ إِلَيَّ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ فَأَشْتَرِي بِهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ حَيْدٍ ، وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًَا ، فَأَعَجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ؟ فَأَجَبَهُ أَنَّهُ بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرُنَا . (احمد ۲/۲۱ - ابویعلیٰ ۵۷۱۰)

(۲۲۹۳۵) حضرت ابو دھقانہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک مہمان آیا، آپ رضی اللہ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ہمارے لئے کھانا لاؤ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ دو صاع کھجور لے کر گئے اور ان کے بدلے ایک صاع اعلیٰ کھجور لے آئے، جبکہ ان کی کھجور اس سے ادنیٰ تھی، آنحضرت ﷺ کو کھجور پسند آئی، آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا: یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے بتایا کہ دو صاع

دے کر ایک صاع لایا ہوں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہمیں ہماری کھجوریں واپس لا کر دو۔
(۲۲۹۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَضِيلٍ ، عَنْ أَبِي دِهْقَانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
(۲۲۹۳۶) حضرت ابن عمر سے یونہی منقول ہے۔

(۲۲۹۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَعْمُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .
(۲۲۹۳۷) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، برابر برابر اور ہاتھ در ہاتھ فروخت کرو، اور اگر یہ چیزیں (جنس) مختلف ہوں تو پھر نقد جس طرح چاہو فروخت کرو۔

(۲۲۹۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْكَفَّةَ بِالْكَفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْكَفَّةَ بِالْكَفَّةِ ، حَتَّى خَصَّ الْمِلْحَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ بِهَا مَعَاوِيَةٌ .
(نسائی ۶۱۵۹ - احمد ۵ / ۳۱۹)

(۲۲۹۳۸) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: سونے کو سونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض دیتے وقت پلڑے کو پلڑے سے برابر کر کے دو (یعنی ہم وزن ہونے چاہئیں) حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس سرزمین میں نہیں ہوں کہ جس میں معاویہ ہیں۔

(۲۲۹۳۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، يَدًا بِيَدٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى ، الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ . (مسلم ۱۳۱۱ - احمد ۳ / ۳۹)

(۲۲۹۳۹) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے نقد اور برابر برابر فروخت کرو، پس جو زیادہ دے یا زیادہ طلب کرے اس نے سودی معاملہ کیا، اور اس میں دینے اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔

(۲۲۹۴۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَشْتَرُوا دِينَارًا بِدِينَارَيْنِ ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّمَاءَ ، قِيلَ : وَمَا

الرَّمَاءُ؟ قَالَ: هُوَ الَّذِي تَدْعُوهُ الرَّبَا.

(۲۲۹۳۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ایک دینار کو دو کے بدلے، اور ایک درہم کو دو کے بدلے نہ بیچو، بے شک مجھے تم پر الزام کا خوف ہے: پوچھا گیا: الزام کیا ہے؟ رما وہی ہے کہ جس کو تم لوگ سود کا نام دیتے ہو۔

(۲۲۹۴۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبَّاسِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُدَيْرِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الدَّرَاهِمِ بِالذَّرْهَمَيْنِ؟ فَقَالَ: الرَّبَا الْعُجْلَانُ.

(۲۲۹۴۱) حضرت علی سے ایک درہم کی دو درہم کے ساتھ بیع کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا یہ رباعجلان ہے۔ (ربا القرض)

(۲۲۹۴۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَرْبَعَةِ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَاتَّقُوا الْفُضْلَ. مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَسَعْدُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ.

(۲۲۹۴۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے چودہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے، سونے کو سونے کے ساتھ اور چاندی کو چاندی کے ساتھ برابر بیچو اور کی زیادتی سے بچو، اُن صحابہ میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔

(۲۲۹۴۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْ بوزن.

(۲۲۹۴۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سونے کو چاندی کے بدلے فروخت کرنے کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے، برابر برابر فروخت کرو۔

(۲۲۹۴۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَبِيعُوا الذَّرْهَمَ بِالذَّرْهَمَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الرَّبَا الْعُجْلَانُ.

(۲۲۹۴۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ایک درہم کو دو کے بدلے مت فروخت کرو، یہ رباعجلان ہے۔ (ربا القرض ہے۔)

(۲۲۹۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

(۲۲۹۴۵) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ہمیں، سونے کو سونے کے ساتھ اور چاندی کو چاندی کے برابر برابر کے علاوہ بیع کرنے سے منع فرمایا تھا، اور ہمیں حکم دیا تھا کہ سونے کو چاندی کے بدلے اور چاندی کو سونے کے بدلے جس طرح چاہو فروخت کرو۔

(۲۲۹۶۶) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْ بِيْرَازِنِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْ بِيْرَازِنِ ، الرَّازِنُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ . (بزار ۳۵)

(۲۲۹۶۶) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں سونے کو ساتھ کے ساتھ، برابر برابر اور چاندی کو چاندی کے بدلے برابر برابر فروخت کرو، زیادہ دینے والا اور زیادہ طلب کرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔

(۲۲۹۶۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبُرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَيَكْلَاهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا . (بخاری ۲۱۸۰ - مسلم ۸۶)

(۲۲۹۶۷) حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم سے صرف کے متعلق دریافت کیا؟ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے سونے کی سونے کے ساتھ ادھار بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۹۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَبَاحِ الْحَدَّانِيِّ ، عَنْ مَلَكَةِ ابْنَةِ هَانِئٍ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَى سِوَارَانَ مِنْ فِضَّةٍ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْبَعُهَا بِدَرَاهِمٍ ؟ فَقَالَتْ : لَا ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْ بِيْرَازِنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ .

(۲۲۹۶۸) حضرت ملکہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور میرے اوپر چاندی کے دو ٹکڑے تھے۔ میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین! کیا میں ان کو دراہم کے بدلے فروخت کر سکتی ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں چاندی کو چاندی کے بدلے برابر برابر بیچو۔

(۲۲۹۶۹) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ حَكِيمٍ يَقُولُ : شَهِدْتُ ابْنَ عَمَرَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ : إِنِّي جِئْتُ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ يَصْرِفُونَ الدَّرَاهِمَ الصَّغَارَ فَيَأْخُذُونَ بِهَا كِبَارًا ، قَالَ : أَيُرَادُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لَا إِلَّا وَزَنْ بِيْرَازِنِ .

(۲۲۹۶۹) حضرت عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس بصرہ کا ایک شخص آیا، اُس نے عرض کیا میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جو چھوٹے دراہم دے کر اُس کی جگہ بڑے دراہم لیتے ہیں! آپ رضی اللہ عنہما نے پوچھا: کیا وہ زیادہ لیتے ہیں؟ اُس شخص نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا: نہیں کر سکتے مگر برابر برابر۔

(۲۶۶) مَنْ قَالَ إِذَا صَرَفْتَ فَلَا تُفَارِقَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لِبَسٍ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بیع کرو تو جب تک آپ کے اور اُس کے درمیان

اشتباہ ہو اُس سے جدا نہ ہو

(۲۲۹۵۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَمَاكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أبيعُ اللَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِاللَّهَبِ ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لِبَسٍ . (ترمذی ۱۲۴۲۔ ابوداؤد ۳۳۳۷)

(۲۲۹۵۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں سونے کی چاندی کے ساتھ اور چاندی کی سونے کے ساتھ بیع کرتا تھا، میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے ساتھی کے ساتھ بیع کرو تو جب تک تمہارے درمیان کوئی اشتباہ موجود ہو اُس سے الگ نہ ہو۔

(۲۲۹۵۱) حَدَّثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا صَرَفْتُ دِينَارًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ .

(۲۲۹۵۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم دینار کے ساتھ بیع کرو تو جب تک ثمن وصول نہ کر لو وہاں سے مت اٹھو۔

(۲۲۹۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عُمَرَو بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَظْرَكَ حَلْبٌ نَاقَةٌ فَلَا تَنْظُرُهُ يَعْنِي فِي الصَّرْفِ .

(۲۲۹۵۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تم سے اونٹنی کا دودھ نکالنے کی مہلت بھی مانگے (بیع صرف میں) تو مہلت مت دو۔

(۲۲۹۵۳) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ : أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ ذَنَابِيرَ بَوْرِقٍ فَفَنَاهُ عُمَرُ أَنْ يَفَارِقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي .

(۲۲۹۵۳) حضرت طلحہ نے چاندی کے بدلہ میں دینار وصول کیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اُن کو منع فرمادیا کہ جب تک پورا ثمن وصول نہ کر لو اُس سے جدا مت ہو۔

(۲۲۹۵۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الرَّبَا فِي النِّسَاءِ . (بخاری ۲۱۷۹۔ مسلم ۱۵۳)

(۲۲۹۵۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: سودا دھار میں ہے۔

(۲۲۹۵۵) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا بَعْتَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقَهُ وَبَيْنَكَ

وَبَيْنَهُ شَرْطُ الْإِهَاءِ وَهَاءٍ.

(۲۲۹۵۵) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سونے کی چاندی کے ساتھ بیع کرو تو جب تک تمہارے درمیان شرط ہو جدامت ہو مگر یہ کہ نقد ہو۔

(۲۲۹۵۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُقَيْبَةَ أَبِي الْأَخْضَرِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ يَبَاعُ بِنَيْسَبِيَّةٍ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا الْمَنْبَرِ وَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : كُلُّ سَاعَةٍ اسْتُنْسَاهُ ، فَهُوَ رِبَاٌ .

(۲۲۹۵۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ سونے کو ادھار فروخت کرنا کیسا ہے؟ فرمایا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس منبر پر سنا تھا ان سے سوال کیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا: جتنی گھڑی کا بھی اس نے ادھار کیا ہے وہ سب سود ہے۔

(۲۲۹۵۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَفْتَرِ قَا إِلَّا وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا .

(۲۲۹۵۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مشتری اور بائع جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کاٹ نہ دیں (پورانہ کر دیں)۔

(۲۲۹۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَّصَدَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لُبْسٌ .

(۲۲۹۵۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ بیع صرف میں میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ وہ الگ ہوں اور ان کے درمیان کوئی اشتباہ نہ ہو۔

(۲۶۵) مَنْ كَرِهَ الصَّرْفَ

جو حضرات بیع صرف کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۲۹۵۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ بَدِيلُ الْعُقَيْلِيُّ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَسْأَلُكَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ .

(۲۲۹۵۹) بدیل العقیلی حضرت ابن سیرین کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک شخص تھا، اور عرض کی کہ یہ شخص بیع صرف کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۹۶۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ نَهَيَا عَنِ الصَّرْفِ .

(۲۲۹۶۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے بیع صرف سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲۹۶۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

الصَّرْفُ رِبًا.

(۲۲۹۶۱) حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ صرف بھی سود ہی ہے۔

(۲۲۹۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَبْرِ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيُّ ، عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا الْعُجْلَانُ .

(۲۲۹۶۲) حضرت علی سے صرف کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا بے ربا القرض ہے۔

(۲۲۹۶۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَوْ مَرَرْتُ بِدَارِ صَيْرَفِي وَأَنَا عَطْشَانٌ مَا أَسْتَسْقَيْتُهُ مَاءً .

(۲۲۹۶۳) حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بیع صرف کرنے والے کے گھر کے پاس سے گزروں اور مجھے پیاس لگی ہو تو پھر میں اُس سے پانی طلب نہ کروں گا۔

(۲۶۶) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوْ النَّخْلَ فِيهِ التَّمْرُ

کوئی شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال ہو یا پھر پھل دار درخت ہوں

(۲۲۹۶۴) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تَوَبَّرَ ، فَشَمَرْتَهُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالَهُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْمُبْتَاعُ . (مسلم ۸۰ - ابوداؤد ۳۳۲۵)

(۲۲۹۶۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کھجور کا درخت اُس کے درست ہونے کے بعد فروخت کرے (پھل لگنے کے بعد) تو اگر خریدنے والا شرط نہ لگائے تو پھل بائع کے ہوں گے، اور جو شخص ایسا غلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو، تو اگر خریدنے والے نے شرط نہ لگائی تو وہ مال بائع کا ہوگا۔

(۲۲۹۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ ، عَنْ سَمِعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالَهُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْمُبْتَاعُ .

(ابوداؤد ۳۳۲۷ - بیہقی ۳۲۶)

(۲۲۹۶۵) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال ہو تو خریدنے والے نے اگر اُس مال کی شرط نہ لگائی تو وہ مال بائع کا ہوگا۔

(۲۲۹۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالَهُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ : اشْتَرَيْتَهُ مِنْكَ

وَمَالَهُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَقَ فَمَرَّتَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَطَ الْمُبْتَاعُ . (نسائی ۳۹۸۳۔ عبدالرزاق ۱۳۶۲۳)

(۲۲۹۶۶) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال بھی ہو تو وہ مال بائع کا ہوگا، مگر یہ کہ خریدنے والا اُس کی بھی شرط لگا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اس کو اور اس کے مال کو آپ سے خریدتا ہوں، اور جو شخص ایسا درخت خریدے، جس کے پھل پک چکے ہوں تو اُس کے پھل بائع کے ہوں گے، مگر یہ کہ خریدنے والا پھلوں کی بھی شرط لگا دے۔

(۲۲۹۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ . وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالْمَرَّةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَطَ الْمُبْتَاعُ . (نسائی ۳۹۸۳۔ ابن حبان ۳۹۲۳)

(۲۲۹۶۷) حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۹۶۸) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ عَلِيُّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَقَ يَعْنِي : لُقِّحَتْ ، فَفَمَرَّتَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَطَ الْمُبْتَاعُ ، فَصَّى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (بیہقی ۳۲۶)

(۲۲۹۶۸) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال بھی ہو تو وہ مال بائع کا ہوگا، مگر یہ کہ خریدنے والا اُس کی بھی شرط لگا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اس کو اور اس کے مال کو آپ سے خریدتا ہوں، اور جو شخص ایسا درخت خریدے، جس کے پھل پک چکے ہوں تو اُس کے پھل بائع کے ہوں گے، مگر یہ کہ خریدنے والا پھلوں کی بھی شرط لگا دے۔

(۲۲۹۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ . (مسلم ۱۱۷۲۔ بیہقی ۲۹۸)

(۲۲۹۶۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال بھی ہو تو وہ مال آقا کا ہوگا مگر یہ کہ مشتری اُس کی شرط لگا دے تو مشتری کا ہوگا۔

(۲۲۹۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَشُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُبْتَاعِ .

(۲۲۹۷۰) حضرت عبداللہ بن عتبہ اور حضرت شریح فرماتے ہیں، اگر غلام فروخت کرے اور اُس کے پاس مال بھی ہو تو وہ مال مشتری کا ہوگا۔

(۲۲۹۷۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْهُ؟ فَقَالَ : الْمَالُ لِلْمُبْتَاعِ .

(۲۲۹۷۱) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مال مشتری کا ہوگا۔

(۲۲۹۷۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ بْنِ سَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ ، قَالَ : مَالُهُ لَهُ ،

وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ طُ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ.

(۲۲۹۷۲) حضرت طاؤس سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے غلام خریدتے وقت اُس کے مال کی بھی شرط لگادی ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کا مال اُس کو ملے گا اور اگر مشتری شرط نہ لگائے تو مال آقا کا ہوگا۔

(۲۲۹۷۳) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا بَيْعَ وَكَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي.

(۲۲۹۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مال والا غلام فروخت کیا جائے، تو مال مشتری کا ہوگا۔

(۲۲۹۷۴) حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا بَاعَهُ، وَوَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي.

(۲۲۹۷۴) حضرت حسن بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔

(۲۲۹۷۵) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَكَلَهُ مَالٌ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعْكَ وَمَالَهُ.

(۲۲۹۷۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلام فروخت کرتے وقت یوں کہے کہ میں اس غلام اور اس کے مال کو فروخت کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۶۷) فِي دَابَّةٍ بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمٍ مُعْجَلَةٍ

جانور کو جانور اور نقد درہم کے بدلے فروخت کرنا

(۲۲۹۷۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا دَابَّةً بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمٍ، الدَّابَّةُ مُعْجَلَةٌ وَالدَّرَاهِمُ نَسِينَةٌ.

(۲۲۹۷۶) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جانور کو جانور اور درہم کے بدلے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کہ جانور نقد اور درہم ادھار ہوں۔

(۲۲۹۷۷) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: فِي بَقْرَةٍ بِبَقْرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِمٌ، الدَّرَاهِمُ نَسِينَةٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.

(۲۲۹۷۷) حضرت حسن اور حضرت محمد سے مروی ہے کہ گائے کو گائے کے بدلے فروخت کیا جائے، اور اُن کے درمیان کچھ درہم ہوں، اور درہم ادھار ہوں، حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت حسن اس کو ناپسند کرتے ہیں۔

(۲۲۹۷۸) حَدَّثَنَا بَعْضُ الْمَشِيخَةِ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبَاعَ الْبَيْعُ بِالْبَيْعِ بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ، إِذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مُعْجَلًا وَالدَّرَاهِمُ مُؤَخَّرَةً، وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مُعْجَلَةً وَالْحَيَوَانُ مُؤَخَّرًا.

(۲۲۹۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اونٹ کو اونٹ کے بدلے میں اس طرح فروخت کیا جائے کہ اُن کے درمیان دس دراہم ہوں جبکہ حیوان نقد اور دراہم ادھار ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دراہم نقد ہوں اور حیوان مؤخر ہوں تو اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۳۶۸) فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاعُ؟

انگوروں کو کب فروخت کیا جائے؟

(۲۲۹۷۹) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَ .

(۲۲۹۷۹) حضرت انس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ انگوروں کو سیاہ ہونے سے قبل نہیں فروخت کیا جائے گا۔

(۲۲۹۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ . (ترمذی ۱۲۲۸۔ ابوداؤد ۳۳۶۳)

(۲۲۹۸۰) حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے انگوروں کو سیاہ ہونے سے قبل فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۳۶۹) فِي الشُّفْعَةِ عَلَى رُؤُوسِ الرَّجَالِ

شفعہ بندوں کے اعتبار (حساب) سے ہے

(۲۲۹۸۱) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ :

عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ .

(۲۲۹۸۱) حضرت ثمر بن ازہر فرماتے ہیں شفہ حصوں کے اعتبار سے ہے۔

(۲۲۹۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

قَالَ : الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ .

(۲۲۹۸۲) حضرت عطاء سے بھی یہی منقول ہے۔

(۲۲۹۸۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرَّجَالِ .

(۲۲۹۸۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ شفہ آدمیوں کے حساب سے ہے۔

(۲۲۹۸۴) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرَّجَالِ .

وَقَالَ الْحَسَنُ : هِيَ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ .

(۲۲۹۸۴) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شفہ آدمیوں کے حساب سے ہے اور حضرت حسن فرماتے ہیں حصوں کے حساب

سے ہے۔

(۲۲۹۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الشُّفْعَةُ ، وَالْقَسَامَةُ ، وَالْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرَّجَالِ .

(۲۲۹۸۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ شفیعہ، تقسیم اور دیت، آدمیوں کے حساب سے ہے۔

(۲۲۹۸۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : هِيَ عَلَى رُؤُوسِ الرَّجَالِ .

(۲۲۹۸۶) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ آدمیوں کے اعتبار سے ہے۔

(۲۲۹۸۷) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ .

(۲۲۹۸۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ شفیعہ حصوں کے اعتبار سے ہے۔

(۳۷۰) الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ وَالْحُدُودِ

دروازوں اور حدود میں شفیعہ

(۲۲۹۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ ، وَلَا شُفْعَةَ بِالْأَبْوَابِ .

(۲۲۹۸۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ چہار دیواری میں شفیعہ ہے۔ لیکن ابواب میں شفیعہ نہیں ہے۔

(۲۲۹۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ .

(عبدالرزاق ۱۳۳۰۰)

(۲۲۹۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دروازوں میں شفیعہ ہے۔

(۲۲۹۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ لِلْحَيْطَانِ .

(۲۲۹۹۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ شفیعہ باغوں میں ہے۔

(۲۲۹۹۱) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا

الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ .

(۲۲۹۹۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ دروازوں میں شفیعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شفیعہ حدود میں ہے۔

(۳۷۱) الصُّفْرُ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةٌ

پتیل کولوہے کے مقابلہ میں ادھار فروخت کرنا

(۲۲۹۹۲) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةٌ ، فَكَّرَ ذَلِكَ

حَمَّادٌ ، وَنَمَّ يَرَى الْحَكَمَ بِهِ بَأْسًا .

(۲۲۹۹۲) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا کہ پتیل کولوہے کے مقابلہ ادھار فروخت

کرنا کیسا ہے؟ حضرت حماد نے اس کو ناپسند فرمایا: حضرت حکم نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

(۲۷۲) الْمُكَاتَبُ يَجِيءُ بِمُكَاتَبَتِهِ جَمِيعًا

مکاتب اگر اپنا بدل کتابت سارا ایک ساتھ لے آئے

(۲۲۹۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِيَ مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ : لَا آخِذَهُ إِلَّا نُجُومًا ، فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ : أَنَا أُعْطِيكَهُ نُجُومًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ أَخَذَ الْمَالَ .

(۲۲۹۹۳) حضرت محمد سے مروی ہے کہ اگر مکاتب اپنا بدل کتابت سارا اکٹھا ادا کرنے کا ارادہ کرے، لیکن اس کے آقائے کہا میں تو قسط قسط کر کے (تھوڑا تھوڑا کر کے) لوں گا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور اس سے مال لے کر رکھ لیا فرمایا میں اس کو تھوڑا تھوڑا کرتا رہوں گا، جب آقائے یہ صورت حال دیکھی تو اس نے سارا مال ایک ساتھ وصول کر لیا۔

(۲۲۹۹۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي صَبَّهٍ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَيَّ عُمَرُ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ يَحْمِلُهُ ، فَقَالَ مَوْلَاهُ : لَا أَقْبَلُهُ مِنْكَ ، إِنَّمَا كَاتَبْتُكَ لِأَخْذِهِ مِنْكَ نُجُومًا فِي السَّنِينَ لِنَفْقَتِي ، وَلَعَلَّكَ مَعَ ذَلِكَ تَمُوتُ فَأَرْتُكَ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَالِ فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ نُجُومًا وَأَمَضَى عِتْقَهُ .

(۲۲۹۹۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ گیا کہ مکاتب اپنا سارا بدل کتابت ایک ساتھ لے آیا ہے لیکن آقائے کہا میں اس کو ایک ساتھ وصول نہیں کروں گا، میں نے اس کو مکاتب اس لئے بنایا تھا کہ میں اپنے نفقہ کے طور پر اس سے دو سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرتا رہوں گا اور اس دوران شاید یہ فوت ہو جائے تو اس کا وارث بنوں، حضرت نے حکم دیا کہ مال اس سے لے کر بیت المال میں رکھ دو، پھر اس کے آقا قسط واردیتے رہو، اور اس کے غلام کے لئے آزادی کا فیصلہ فرمادیا۔

(۲۲۹۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ ، فَجَحَمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا الْمَوْلَى إِلَّا نُجُومًا ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَوْلَاهُ ، فَجَاءَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْمَالَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَقَالَ عُمَرُ : يَا بَرِّقًا اذْفَعُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى : خُذْهَا نُجُومًا ، وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ : اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ .

(۲۲۹۹۵) حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا، اور اس پر قسط وار بدل کتابت ادا کرنے کی شرط لگائی، مکاتب اپنا سارا بدل کتابت لے کر آیا، تو اس کے آقائے سارا ایک ساتھ وصول کرنے سے انکار کر دیا، وہ مکاتب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کے آقا کی طرف بلاوا بھیجا، وہ آیا تو آپ نے اس پر وہ سارا مال پیش کیا، لیکن اس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا، حضرت عمر نے فرمایا اے بریقا! اس مال کو بیت المال میں رکھ دے، اور آقا سے فرمایا بیت

المال سے قسط وار وصول کرتا رہے۔ اور غلام سے فرمایا تو جا تو آزاد ہے۔

(۳۷۳) فِي الْقُلُسِ بِالْفُلْسَيْنِ

ایک سکہ کی بیع دو سکوں کے ساتھ

(۲۲۹۹۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْقُلُسِ بِالْفُلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ .
(۲۲۹۹۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایک سکہ کی بیع دو سکوں کے بدلے ہاتھ در ہاتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۲۹۹۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، مِثْلَهُ .

(۲۲۹۹۷) حضرت طاووس سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۲۹۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْقُلُسِ بِالْفُلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ .

(۲۲۹۹۸) حضرت حماد سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۳۷۴) الرَّجُلُ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

کوئی شخص ایسا غلام فروخت کرے جس پر قرضہ ہو

(۲۲۹۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ وَشَرِيحٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ، لَا يَجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَّ .

(۲۲۹۹۹) حضرت شریح اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو ایسا غلام فروخت کرے جس پر قرضہ ہو، فرمایا: اُس کا قرضہ آقا کے ذمہ ہے۔ اُس کے ثمن سے تجاوز نہ کرے، اور اگر ایسا غلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو، تو اُس کا مال مشتری کے لئے ہوگا۔

(۲۳۰۰۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَدَيْنُهُ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ .

(۲۳۰۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا غلام فروخت کرے، جس پر قرضہ ہو اور اُس کے پاس مال بھی ہو، تو اُس کا مال مشتری کے لئے ہے، اور اُس کا قرضہ فروخت کرنے والے پر ہے۔

(۲۳۰۰۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَهَشَامٌ وَأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْعَبْدِ يَبِيعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكْلَ ثَمَنَهُ .

(۲۳۰۰۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا غلام فروخت کرے جس پر قرضہ ہو، فرمایا: اُس کا دین اُس پر ہے جس نے اُس کو فروخت کیا ہے، اور اُس کے ثمن کو کھایا ہے۔

(۲۳۰۰۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أَتَى فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَقَالَ : مَالُهُ بَدِينِهِ .

(۲۳۰۰۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن اذینہ کے پاس غلام لایا گیا جس پر قرضہ تھا، فرمایا: اس کے مال سے اس کا قرضہ اتارا جائے گا۔

(۲۷۵) رَجُلٌ اشْتَرَى دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا

کوئی شخص جانور خرید کر اُس پر سواری کرے پھر بعد میں اس میں عیب پائے

(۲۳۰۰۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : أَنْتَ أَذْنْتُ لَهُ فِي ظَهْرِهَا .

(۲۳۰۰۳) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے جانور خرید پھر اس پر سفر کیا، جب واپس آیا تو اس میں عیب پایا، وہ جھگڑالے کر حضرت شریح کے پاس آیا، آپ نے فرمایا: تو نے اُس پر سواری کر کے بیچ کی اجازت دے دی ہے۔

(۲۳۰۰۴) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غِيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَا بَيْنَ الْهُزَالِ إِلَى السَّمَنِ .

(۲۳۰۰۴) حضرت حکم اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے جانور خرید پھر اُس کو لاغر کر دیا پھر اس میں عیب پایا، آپ نے فرمایا: اُس کو واپس کر دے گا اور مرنے اور کمزور جانور کی قیمتوں میں جو فرق ہے وہ بھی واپس کرے گا۔

(۲۷۶) الشَّاهِدَانِ يَشْهَدَانِ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا

دو گواہ گواہی دیں پھر اُن میں سے ایک رجوع کر لے

(۲۳۰۰۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَأَمَضَى الْحَكَمُ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَقْبَلْ شُرَيْحٌ رُجُوعَهُ .

(۲۳۰۰۵) حضرت ابو حصین سے مروی ہے کہ دو آدمیوں نے حضرت شریح کے پاس گواہی دی، آپ نے حکم نافذ فرمادیا، پھر اُن میں سے ایک گواہ نے گواہی سے رجوع کر لیا، تو حضرت شریح نے اُس کے رجوع کو قبول نہ فرمایا۔

(۲۳۰۰۶) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ وَعَنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : الْحَكْمُ لَا تَرُدُّ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَرُدُّ .

(۲۳۰۰۶) حضرت حکم فرماتے ہیں فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ فیصلہ واپس لے لیا جائے گا۔

(۲۳۰۰۷) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا ، فَحَكِمَهُ

بہا، قَالَ: يُرَدُّ الْحُكْمُ.

(۲۳۰۰۷) حضرت حسن سے مروی ہے کہ دو گواہ گواہی دیں، پھر وہ دونوں رجوع کر لیں، جبکہ حکم نافذ ہو چکا ہو تو فرماتے ہیں کہ حکم رد کر دیا جائے گا۔

(۲۳۰۰۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَجَاءَ فَرَجَعَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ قَبِلْنَا شَهَادَتَكَ.

(۲۳۰۰۸) حضرت ابو حصین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت شریح کے پاس آ کر گواہی دی، پھر وہ دوبارہ آیا اور گواہی سے رجوع کر لیا، حضرت شریح نے فرمایا: ہم آپ کی شہادت قبول کر چکے ہیں۔

(۲۳۰۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتْ الشَّهَادَةُ، وَيَعْرَمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ.

(۲۳۰۰۹) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جب حکم جاری ہو جائے تو گواہی بھی جائز ہوگی اور اگر گواہی سے گواہ رجوع کرے تو اس کو ضامن بنایا جائے گا۔

(۲۷۷) الْقَوْمُ يَشْتَرُ كُونَ فِي الزَّرْعِ

کچھ لوگ زراعت میں شریک ہوں

(۲۳۰۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَرْبَعَةَ رَهْطٍ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَرْعٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: قِيلِي الْأَرْضُ، وَقَالَ الْآخَرُ: قِيلِي الْفَدَانُ، وَقَالَ الْآخَرُ: قِيلِي الْبُذْرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَلَيَّ الْعَمَلُ، فَلَمَّا اسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ تَفَاتَوْا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبُذْرِ، وَالْعَمَى صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَانِ شَيْئًا مَعْلُومًا، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ دِرْهَمًا كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ وَاصِلٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَكْحُولًا، فَقَالَ: لَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَصِيفٍ.

قَالَ وَكِيعٌ: أَحَبُّ مِنَ الزَّرْعِ إِلَيْنَا التَّجَارَةُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ.

قَالَ وَكِيعٌ: وَتَرَجُّوْا أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ وَالثُلُثُ وَالرُّبْعُ جَائِزًا، لِأَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ بِهِ.

(۲۳۰۱۰) حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دور میں چار آدمیوں نے زراعت میں اشتراک کیا، ان میں سے ایک نے کہا: زمین میری طرف سے، دوسرے نے کہا: بیل میری طرف سے، تیسرے نے کہا: دانہ میری طرف سے، چوتھے نے کہا: کام سارا میرے ذمہ، جب کھیتی تیار ہو گئی تو وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے دانہ والے کے لئے کھیتی، زمین والے کے لئے بھوسا، بیل والے کے لئے کچھ معلوم حصہ اور کام کرنے والے کے لئے ہر

دن کے حساب سے ایک درہم مقرر فرما دیا۔

حضرت کھول بڑھتے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے نوکر سے (غلام) زیادہ پسند ہے، حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمیں زراعت سے زیادہ سونے اور چاندی اور کھانے کی تجارت پسند ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ مزارعت بالصف، ثلث اور ربع بھی جائز ہے کیونکہ لوگ (بکثرت) یہ کرتے ہیں۔

(۲۷۸) مَنْ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

بائع اور مشتری جب جدا نہ ہوں ان کو اختیار ہے

(۳۳۰۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَنْفَرِقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . (مسلم ۳۶ - ابن حبان ۳۹۱۳)

(۲۳۰۱۱) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیع کرنے والوں کو الگ ہونے سے پہلے اختیار ہے، الا یہ کہ ان کی بیع میں خیار کی شرط ہو (تب افتراق کے بعد بھی ان کو خیار ہوگا)۔

(۲۳۰۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرِقَا .

(احمد ۳ / ۴۰۲ - ابن حبان ۳۹۰۳)

(۲۳۰۱۲) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بائع اور مشتری کو جدا ہونے سے پہلے تک اختیار ہے۔

(۲۳۰۱۳) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرِقَا .

(ابوداؤد ۳۳۵۱ - ابن ماجہ ۲۱۸۲)

(۲۳۰۱۳) حضور اقدس ﷺ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۰۱۴) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ بَيْعِهِمَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ . (ابن حزم ۱۳۱۷)

(۲۳۰۱۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیع کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار ہے یا یہ کہ ان کے درمیان کوئی خیار شرط

وغیرہ ہو۔

(۲۳۰۱۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا .

(۲۳۰۱۵) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیع کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ راضی ہو کر الگ نہ ہو جائیں۔

(۲۳۰۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

(۲۳۰۱۶) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیع کرنے والوں کو الگ ہونے سے قبل اختیار ہے۔

(۲۳۰۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُرَيْحٍ ، قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

(۲۳۰۱۷) حضرت شریح سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۰۱۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَرْدُونَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَبُو الضُّحَى ، أَنَّ سُرَيْحًا أَتَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، فَرَجَعَ الشَّعْبِيُّ إِلَى قَوْلِ سُرَيْحٍ .

(۲۳۰۱۸) حضرت شعبی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے ایک گھوڑا خریدا، پھر اس نے الگ ہونے سے قبل واپس کرنا چاہا، لیکن حضرت شعبی نے بیع کو اس پر لازم قرار دیا، تو ابو الضحیٰ نے آپ کے سامنے گواہی دی کہ حضرت شریح کے پاس بھی ایسا مسئلہ آیا تھا، آپ نے بائع پر بیع کو واپس کر دیا تھا۔ حضرت شعبی نے حضرت شریح کے قول کی طرف رجوع فرمایا۔

(۲۳۰۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ أَنْصَرَفَ لِيُوجِبَ الْبَيْعَ .

(۲۳۰۱۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیع کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بیع کرتے تو وہاں سے پھر جاتے (الگ ہو جاتے) تاکہ بیع نافذ ہو جائے۔

(۲۳۰۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُرَيْحٍ ، قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

(۲۳۰۲۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ بیع کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار ہے۔

(۲۳۰۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيَْادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

(۲۳۰۲۱) حضرت سعید بن المسیب سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۳۰۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

(۲۳۰۲۲) حضور اقدس ﷺ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۷۹) مَنْ كَانَ يُوجِبُ الْبَيْعَ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ

جو حضرات محض تکلم سے ہی بیع کو لازم قرار دیتے ہیں (یعنی مجلس سے جدا ہونا ضروری نہیں ہے)

(۲۳۰۲۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ .

(۲۳۰۲۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب خریداری کی بات مکمل ہوگئی تو اب بیع لازم ہوگی۔

(۲۳۰۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخِ بْنِ بِنِي كِنَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ .

(۲۳۰۲۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیع یا تصفقہ ہے یا پھر خیار ہے۔

(۲۳۰۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا .

(۲۳۰۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیع نافذ ہو جائے گی اگرچہ وہ الگ نہ بھی ہوں۔

(۲۸۰) الرَّجُلُ يَقُولُ إِنْ بَعْتِكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ

کوئی شخص اگر یوں کہے کہ اگر میں نے اپنا غلام تجھے فروخت کیا تو آزاد ہے

(۲۳۰۲۶) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ بَعْتِكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ اشْتَرَيْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ حَيْثُ قَبِلَهُ .

(۲۳۰۲۶) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا: اگر میں نے اپنا غلام تجھے فروخت کیا، تو وہ آزاد ہے، دوسرے نے کہا: اگر میں نے اُس کو خرید لیا تو وہ آزاد ہے۔ فرمایا بائع کی طرف سے آزاد شمار ہوگا کیونکہ وہ پہلے حائث ہوا ہے۔

(۲۳۰۲۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ حَيْثُ أَوْلَاهُمَا .

(۲۳۰۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ بائع کی طرف سے آزاد ہوگا کیونکہ وہ ان دونوں میں پہلے حائث ہوا ہے۔

(۲۸۱) فِي الْمَحَاقِلَةِ وَالْمُرَابَّنَةِ

بیع محاقلہ اور بیع مرابنہ کا بیان

محاقلہ کہتے ہیں کہ زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پر دینا، اور مرابنہ بولتے ہیں کئی ہوئی کھجوروں کی درخت پر لگی ہوئی

کھجوروں کے ساتھ بیع کرنا۔

(۲۳۰۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ . (ابوداؤد ۳۳۹۳ - ابن ماجہ ۲۲۶۷)

(۲۳۰۲۸) حضور اقدس ﷺ نے بیع محاقلہ اور بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔

(۲۳۰۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ . (مسلم ۸۲ - ابوداؤد ۳۳۹۸)

(۲۳۰۲۹) حضور اقدس ﷺ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۰۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعُرْيَةِ أَنْ تَبَاعَ بِخَوْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا .

(بخاری ۲۱۹۱ - مسلم ۱۸۷۰)

(۲۳۰۳۰) آنحضرت ﷺ نے پھلوں کی کھجور کے ساتھ بیع کرنے کو منع فرمایا ہے، اور عریہ کی اجازت دی ہے، (عریہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کسی کو پھل کھانے کے لئے دین) کہ اندازے کے ساتھ بیع کی جائے اور اس کا مالک تازہ کھجور کھائے۔

(۲۳۰۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ . (بخاری ۲۱۸۷ - احمد ۱ / ۲۲۳)

(۲۳۰۳۱) آنحضرت ﷺ نے بیع محاقلہ اور بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔

(۲۳۰۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْمَةَ حَدَّثَاهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا

أَصْحَابَ الْعُرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُمْ . (بخاری ۲۳۸۳ - مسلم ۱۱۷۰)

(۲۳۰۳۲) آنحضرت ﷺ نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے، سوائے اصحاب عریا کے، ان کو اس کی اجازت دی تھی کہ پھلوں کے ساتھ کھجور کی بیع کریں۔

(۲۳۰۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ فِي الزَّرْعِ ، وَالْمَزَابِنَةُ فِي النَّخْلِ .

(بخاری ۲۱۷۶ - مسلم ۱۱۷۹)

(۲۳۰۳۳) آنحضرت ﷺ نے بیع محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ محاقلہ کھیتی میں ہوتا ہے اور مزابنہ کھجوروں میں۔

(۲۳۰۳۴) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ. (مسلم ۱۱۷۹- ترمذی ۱۲۲۳)

(۲۳۰۳۳) آنحضرت ﷺ نے بیع محافلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔

(۲۲.۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ

التَّمْرِ بِالتَّمْرِ. (مسلم ۱۱۶۷- احمد ۸/۲)

(۲۳۰۳۵) آنحضرت ﷺ نے پھلوں کی بھجور کے بدلے بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲.۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بَعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَمْرٍو؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ

رَخَّصَ فِي الْعُرَايَا. (احمد ۱۱/۲- حاکم ۳۶۵)

(۲۳۰۳۶) حضرت اسماعیل الشیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے درختوں کے سروں کو اس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ اگر زیادہ ہوئے تو ان کے اور اگر کم ہوئے تو ان پر ہیں، پھر میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق سوال کیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صرف عرایا میں اس کی اجازت دی ہے۔

(۲۲.۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ.

(۲۳۰۳۷) آنحضرت ﷺ نے بیع محافلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔

(۲۲.۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ، الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمَزَابِنَةِ فِي النَّخْلِ.

(۲۳۰۳۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ محافلہ کھیتی میں ایسا ہی ہے جیسے مزابنہ کھجور میں۔

(۲۲.۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ. (ترمذی ۱۳۰۰- احمد ۵/۱۸۵)

(۲۳۰۳۹) آنحضرت ﷺ نے بیع محافلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔

(۲۲.۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرُوكٍ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ

النَّخْلِ مَكَايِلَةٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۰۴۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کھجور کی دوسری کھجوروں کے بدلے میں بیع کرنا جو درخت پر لگی ہو تو کیسا ہے؟

انہوں نے جواب دیا کہ اگر دونوں کھجوروں کے مابین دینار یا دراہم بھی رکھے جائیں تب جائز ہے۔

(۲۲.۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمْرِ

عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكَايِلَةٌ إِذَا كَانَ فِيهِ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٌ.

(۲۳۰۴۱) ابن عباس فرماتے ہیں کہ درخت پر لگی کھجوروں کو کیل کی ہوئی کھجوروں سے بدلنا جائز ہے۔ جب کہ اس میں دس درہم یا دینار رکھ دیئے جائیں۔

(۲۳۰۴۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَيْرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَزَابِنَةِ . (مالك ۲۳)

(۲۳۰۴۲) حضور اقدس ﷺ نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔

(۲۳۰۴۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْنَا تَفْسِيرَ الْمَزَابِنَةِ اشْتِرَاءَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةَ : اشْتِرَاءَ مَا فِي السُّنْبُلِ بِالْحِنْطِ وَالشُّعْبِيرِ ، وَالْعَرَايَا : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ النَّخْلَةُ يَرْتَهَا أَوْ يَشْتَرِيهَا فِي بُسْتَانِ الرَّجُلِ .

(۲۳۰۴۳) حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم نے مزابنہ کی تفسیر یوں سے سنی ہے کہ درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو کئی کھجوروں کے بدلے خریدنا، اور محاقلہ یہ ہے کہ خوشہ میں لگی ہوئی سے گندم یا جو خریدنا اور عرایا یہ ہے کہ کسی آدمی کا درخت ہو، جس کا وارث کے طور پر مالک بنا ہوا یا پھر کسی دوسرے کے باغ سے اس نے یہ درخت خریدنا ہو۔

(۲۸۲) البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة

گیہوں کو کھجور کے بدلے ادھار فروخت کرنا، گھاس پوس کو گندم کے بدلے ادھار فروخت کرنا

(۲۳۰۴۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَيْسِيَةٌ : رَبًّا .

(۲۳۰۴۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: گندم کو کھجور کے بدلے ادھار فروخت کرنا سود ہے۔

(۲۳۰۴۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : اَنَّهُ كَرِهَ مَدَى ذُرَّةٍ بِمَدَى حِنْطَةٍ نَيْسِيَةٌ .

(۲۳۰۴۵) حضرت جابر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: گندم کی ایک مٹھی بوسہ کی ایک مٹھی بوسہ کے مقابلہ بیع کو ناپسند کرتے ہیں۔

(۲۸۲) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ

کوئی شخص چیز کو اس شرط پر خریدے کہ پہلے اس کو دیکھے گا

(۲۳۰۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَجُلًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَعَطَبَ الْفَرَسُ ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ : سَلِّمْ مَا ابْتَعْتَ ، أَوْ رَدِّ مَا أَخَذْتَ ، فَقَالَ لَهُ : فَضَيْتَ بِمُرِّ الْحَقِّ .

(۲۳۰۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَجُلًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَعَطَبَ الْفَرَسُ ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ : سَلِّمْ مَا ابْتَعْتَ ، أَوْ رَدِّ مَا أَخَذْتَ ، فَقَالَ لَهُ : فَضَيْتَ بِمُرِّ الْحَقِّ .

قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ عَامِرٌ : وَبَعْتُهُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ ، وَبَعْتُ كَعْبَ بْنَ سُوْرٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ .

(۲۳۰۴۶) حضرت عامر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، اور فرمایا اگر تو راضی ہو گیا تو ثمن مجھ پر لازم ہو جائے گا، وگرنہ ہمارے درمیان بیع نہ ہوگی، حضرت عمرؓ نے اپنے سامنے اُس پر ایک شخص کو سوار کیا، گھوڑا جلدی تھک گیا، حضرت شریح کو اُن کے درمیان حاکم بنایا، حضرت شریح نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: جو آپ نے خریدا ہے وہ سپرد کر دیا جو آپ نے لیا ہے وہ واپس کر دو، حضرت عمر نے اُن سے فرمایا: آپ نے کڑوے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اُن کو کوڑے کے قضا کے لئے اور حضرت کعب بن سور کو بھرہ کے قضا کے لئے بھیجا۔

(۲۳۰۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سَلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، فَمَاتَتْ ، فَضَمَّنَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ .
(۲۳۰۴۷) حضرت سلمان بن ربیعہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے اس شرط پر سامان خریدا کہ اُس کو دیکھے گا، اور پھر ثمن کو ابھی ادا نہیں کیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سلمان بن ربیعہ نے اُس کو ضامن بنایا۔

(۲۳۰۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَمَاتَتْ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي .
(۲۳۰۴۸) حضرت عامر اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدمی اس شرط پر سامان خریدے کہ اُس کو دیکھے گا، پھر وہ ہلاک ہو جائے، فرمایا: مشتری ضامن ہوگا۔

(۲۳۰۴۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ .
(۲۳۰۴۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر خیار ہو تو مشتری ضامن ہوگا۔

(۲۳۰۵۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهَلَكَ مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَى الثَّمَنَ ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَى الثَّمَنَ ، فَهُوَ لِيهِ مُؤْتَمَنٌ .
(۲۳۰۵۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خیار کے ساتھ سامان خریدے، پھر وہ اُس کے پاس ہلاک ہو جائے، اگر تو اُس نے ثمن مقرر کر دیا ہے تو وہ ضامن ہوگا، اور اگر ثمن مقرر نہیں کیا تو وہ امانت دار ہے۔ (امانت پر ضمان نہیں آتی)۔

(۲۳۰۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَمَاتَتِ السَّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ .
(۲۳۰۵۱) اگر بیع میں بائع کو خیار ہو پھر سامان مشتری کے پاس ہلاک ہو جائے تو اُس پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اُس پر قیمت لازم ہے۔

وَقَالَ سُفْيَانُ : يَضْمَنُ الْقِيَمَةَ .

(۲۳۰۵۱) اگر بیع میں بائع کو خیار ہو پھر سامان مشتری کے پاس ہلاک ہو جائے تو اُس پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اُس پر قیمت لازم ہے۔

(۳۸۴) الرَّجُلُ يَسْأَلُ عِنْدَكَ الشَّهَادَةَ؟ فَيَقُولُ لَا

کوئی شخص پوچھے کہ تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہے کہ نہیں

(۲۳۰۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ ، قَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ .

(۲۳۰۵۲) حضرت عامر سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے پوچھے تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہے کہ نہیں۔ پھر وہ خود آ کر اس کے حق میں گواہی دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ گواہی جائز ہے۔

(۲۳۰۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : شَهِدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ ابْنِ بَنِي عَثْمَانَ لِرَجُلٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذْكُرُهُ شَيْئًا فِي شَهَادَتِهِ ، فَيَقُولُ : لَا أَذْكُرُهُ ، وَلَا أَحْفَظُ إِلَّا هَذَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَرَ وَالْقَوْمُ قُعُودٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي شَيْئًا فِي شَهَادَةٍ كُنْتُ لَا أَذْكُرُهُ لَهُ ، وَإِنِّي قَدْ ذَكَرْتُهُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ .

(۲۳۰۵۳) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد حضرت ابان بن عثمان کے پاس ایک شخص کی گواہی کے لئے حاضر ہوئے، اُس شخص نے آپ کو گواہی میں ایک بات یاد دلائی، آپ فرمانے لگے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا اور میں نے اس کے علاوہ یاد بھی نہیں کیا، پھر نکلے اور آپ کو یاد آ گیا ابھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اس نے مجھ سے گواہی کے متعلق کچھ سوال کیا تھا جو مجھے یاد نہیں تھا اور اب مجھے یاد آ گیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں جو اُس نے کہا وہ سچ ہے اور میں اُس پر گواہی دیتا ہوں۔

(۳۸۵) فِي بَيْعِ الْمَكَاتِبِ

مکاتب کی بیع کا بیان

(۲۳۰۵۴) حَدَّثَنَا الصَّخَّاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمَكَاتِبِ .

(۲۳۰۵۴) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم مکاتب کی بیع کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۰۵۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبَاعَ الْمَكَاتِبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَّكَاتِبِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ ، وَلَا يَبَاعُ لِلرَّقِّ .

(۲۳۰۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب پر بدل کتابت باقی ہو اور جس سے خرید تھا اُس کو فروخت کیا جائے، اور اُس کو آزاد کرنے کا ضامن بنایا جائے، تو کوئی حرج نہیں، غلامی کے لئے اُس کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔

(۲۳۰۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ اتَّهَمَتْ وَهِيَ مَكَاتِبَةٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِيهَا عَلَيَّ أَنْ وَلَائِهَا لِمَوَالِيهَا؟ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

(بخاری ۲۵۶۳۔ مسلم ۱۱۴۳)

(۲۳۰۵۶) حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت بریرہ جو مکاتبہ تھیں، میرے پاس آئیں تو میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر میں اس کو خریدوں تو کیا اس کی ولاء اس کے آقا کو ملے گی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کو خرید کر آزاد کر دو، ولاء اس کو ملتی ہے جو آزاد کرے۔

(۲۸۶) فِي وَكْدِ الْمُكَاتِبَةِ إِذَا مَاتَتْ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا

مکاتبہ باندی فوت ہو جائے اور اس پر بھی بدل کتابت باقی ہو تو اس کے بچوں کا حکم.....

(۲۳۰۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً كُتِبَتْ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مَكَاتِبَتِهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَمَامًا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا أَذْيَا عَتَقَا .

(۲۳۰۵۷) حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ ایک عورت (لوندی) سے کتابت کی گئی۔ پھر اس نے حالت کتابت میں دو بچے جنے۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: اگر اس کی اولاد اپنی والدہ کی کتابت پر قائم رہنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، جب وہ ادا کریں گے تو آزاد ہو جائیں گے۔

(۲۳۰۵۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَدَتِ الْمُكَاتِبَةَ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعَتِقِهَا وَيَرْقُونَ بِرِقَّتِهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ سَعَوْا فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَكَاتِبَتِهَا ، فَإِنْ أَذْوَا عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُوا .

(۲۳۰۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کے بچے اس کے مرتبہ میں ہیں، اس کی آزادی کے ساتھ آزاد ہو جائیں گے، اور اس کی غلامی کے ساتھ غلام رہیں گے، اور اگر ان کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو جو بدل کتابت رہ گیا ہے اس کی ادائیگی کی کوشش کریں گے اگر تو وہ ادا کر دیا وہ آزاد ہو جائیں گے اور اگر ادا نہ کر پائے تو غلام رہیں گے۔

(۲۳۰۵۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَلَدَهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ . يَعْنِي : الْمُكَاتِبَ .

(۲۳۰۵۹) حضرت علی رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کی اولاد بھی بدل کتابت کی ادائیگی کی کوشش میں اسی کے مثل ہے۔

(۲۸۷) الْعُمَرِيُّ ، وَمَا قَالُوا فِيهَا

عمری کے متعلق جو وارد ہوا ہے

العمری بولتے ہیں کہ آدمی اپنا گھر کسی کو دے دے پھر جب دینے والا فوت ہو جائے تو وہ گھر وراثت کی طرف لوٹ آتا

ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔

(۲۳۰۶۰) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمَرَى لِلْوَارِثِ . (ابوداؤد ۳۵۵۳۔ نسائی ۶۵۵۲)

(۲۳۰۶۰) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمری والے مکان کو وراثت کے لئے قرار دیا۔

(۲۳۰۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمَرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (مسلم ۱۱۳۷)

(۲۳۰۶۱) حضرت طارق نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کی بنا پر عمری والے مکان کا وارثوں کے لئے فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۰۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُمَرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ . (ابن ماجہ ۲۳۷۹۔ نسائی ۶۵۸۳)

(۲۳۰۶۲) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو گھر کسی کے حوالے کر دے وہ اُسی کیلئے ہوگا۔

(۲۳۰۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا . (احمد ۱/۲۵۰)

(۲۳۰۶۳) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمری والا مکان جائز ہے، اُس کے لئے جس نے اُس کو عمری کے طور پر دیا ہے۔

(۲۳۰۶۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمَرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا . (ترمذی ۱۳۳۹۔ ابوداؤد ۳۵۴۳)

(۲۳۰۶۴) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمری والا مکان اس میں رہنے والے کی میراث ہے یا پھر جائز فرمایا۔

(۲۳۰۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوا هَا ، فَمَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ .

(مسلم ۲۷۷۔ احمد ۳/۳۰۲)

(۲۳۰۶۵) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے اموال کو اپنے پاس ہی رکھو ان کو عمری نہ بناؤ، جو مکان کو عمری بناے وہ میراث کے راستہ پر ہے۔

(۲۳۰۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لَهُ وَلَوْ رَتَبَتْهُ مِنْ بَعْدِهِ .

(۲۳۰۶۶) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو عمری کے طور پر کوئی مکان مل گیا تو وہ اسی کا ہے اور اُس کی وفات کے بعد اُس کے ورثاء کا۔

(۲۳۰۶۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمَرَى مِيرَاثٌ . (نسائی ۶۵۳۶ - احمد ۵ / ۱۸۹)

(۲۳۰۶۷) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: عمری میں بھی میراث جاری ہوگی۔

(۲۳۰۶۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي عُمَرَى جُعِلَتْ لِرَجُلٍ حَيَاتُهُ ، فَقَالَ : هِيَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يَنَاشِدُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَقَدْ لَأَمَنِي هَذَا عَلَى أَمْرِ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۲۳۰۶۸) حضرت سلمہ بن کھیل فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کے پاس عمری والے مکان کے لئے جو ایک شخص نے زندگی کے لئے وقف کیا ہوا تھا، آئے، آپ نے فرمایا: یہ اس کا مالک ہے اس کی زندگی اور اس کے مرنے سے بعد بھی، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ جھگڑا اور جو کرتے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت شریح نے فرمایا: اس شخص نے میری ایسے فیصلہ میں ملامت کی ہے جو حضور اس سے قبل کر چکے ہیں۔

(۲۳۰۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمَرَى فَهِيَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ .

(۲۳۰۶۹) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کو کوئی مکان عمری کے طور پر مل جائے تو وہ اس کا ہے۔ وہ جو چاہے اس مکان کے ساتھ کر سکتا ہے۔

(۲۳۰۷۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْعُمَرَى بَنَاتٌ .

(۲۳۰۷۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: عمری والا مکان بھی گھریلو سامان کی طرح ہی ہے (یعنی یہ بھی ملکیت ہے)۔

(۲۳۰۷۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنَ أَحِي نَافَةَ حَيَاتِهِ ، فَنَمْتُ حَتَّى صَارَتْ إِبْلًا ، فَمَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : هِيَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنَّمَا جَعَلْتَهَا صَدَقَةً ، قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا .

(۲۳۰۷۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کیا: میں نے اپنے بھتیجے کو ایک اونٹنی کا بچہ دیا تھا اس کی زندگی بھر کے لئے، اس نے اس کو پالا یہاں تک کہ اب وہ بڑا اونٹ بن گیا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا وہ زندگی اور مرنے کے بعد بھی اسی کے لئے ہے۔ اعرابی نے کہا پھر میں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ فرمایا: پھر تو یہ پہلے سے بھی زیادہ تجھ سے دور ہو گی۔ (یعنی واپس کی کوئی راہ نہیں ہے)

(۲۳۰۷۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السُّكْنَى ؟ قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِينِ ، فَقُلْتُ :

يَا أَبَا عَسْرَانَ أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتِهِ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الْعُمَرَى .

(۲۳۰۷۲) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کنسی (رہائشی مکان) کے متعلق سوال کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ گھر اس شخص کے ورثاء کو ملے گا جس نے رہنے کے لیے دیا تھا میں۔ میں نے عرض کیا: اے ابوعمران کیا مسئلہ یوں نہیں ہے؟ کہ جو کسی چیز کا زندگی کے لئے مالک بنا وہ اُس کی زندگی اور مرنے کے بعد بھی مالک رہے گا؟ آپ نے فرمایا یہ عمری کے بارے میں ہے۔

(۲۳۰۷۳) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتِهِ فَهِيَ لَهُ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ .

(۲۳۰۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو زندگی بھر کے لئے گھر دے، وہ زندگی اور مرنے کے بعد بھی اُسی کا ہے۔
(۲۳۰۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْمَى يَخَاصِمُ فِي أُمَّةٍ أُعْمِرَهَا ، فَقَضَىٰ بِهَا شُرَيْحٌ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَضَيْتَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : مَا أَنَا قَضَيْتُ عَلَيْكَ ، وَلَكِنْ قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتِهِ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ .

(بیہقی ۱۷۵۔ عبدالرزاق ۱۶۸۸۰)

(۲۳۰۷۴) حضرت شرح کے پاس ایک نابینا شخص باندی کے متعلق (اس کو عمری بنایا تھا) جھگڑا کرتے ہوئے آیا، حضرت شرح نے جس نے اُس کو عمری بنایا تھا اُس کے حق میں فیصلہ فرمایا، اُس شخص نے کہا آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تیرے خلاف فیصلہ نہیں دیا بلکہ آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا تھا: جو زندگی بھر کے لئے کسی چیز کا مالک بنے وہ زندگی اور مرنے کے بعد اُسی کی ہے۔

(۲۳۰۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ حَيَاتِكَ فَهِيَ لَهُ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ .
(۲۳۰۷۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی نے یہ کہہ کر مکان دوسرے کو دیا کہ یہ تاز زندگی اب تیرا ہے تو یہ مکان مرنے کے بعد بھی اسی کا ہوگا۔

(۲۳۰۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أُعْمِرَ عُمَرَىٰ فَهِيَ لَهُ وَوَلَدَ رَبَّتِهِ .

(۲۳۰۷۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو عمری کے طور پر کوئی مکان مل گیا تو وہ گھر اُس کا اور اُس کے ورثاء کے لئے ہے۔

(۲۳۰۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَمَنْ أُعْمِرَهُ . (مسلم ۲۷۔ احمد ۳ / ۳۱۷)

(۲۳۰۷۷) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے انصار کے لوگو! اپنے مکانوں میں رہو ان کو عمری نہ بناؤ، جو شخص کسی چیز کو عمری بنا دے تو وہ اس شخص کا ہی ہوگا کہ جس کو عمری کے طور پر دے دیا گیا۔

(۲۳۰۷۸) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا .

(احمد ۳/۹۷۔ ابویعلیٰ ۷۳۱)

(۲۳۰۷۸) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: عمری والا مکان اس میں رہنے والوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔

(۲۳۰۷۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلًا ، لَيْسَ لِلْمُعْطَى فِيهَا شَرْطٌ وَلَا نُتْيًا .

(بخاری ۲۶۲۵۔ مسلم ۱۲۳۶)

(۲۳۰۷۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے عمری کا فیصلہ اُس کے لئے فرمایا اور عقبہ کے لئے، دینے والے کے لئے، اُس میں کوئی شرط اور استثنا نہیں ہے۔

(۲۳۰۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ، أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا .

(مسلم ۳۲۔ احمد ۲/۳۶۸)

(۲۳۰۸۰) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: عمری والا مکان وراثت کے لئے نافذ ہے۔

(۲۸۸) مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْعُمَرَى أَنْ يَرْجِعَ

جو حضرات عمری والے کو رجوع کرنے کا اختیار دیتے ہیں

(۲۳۰۸۱) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمَرَى مَا دَامَا حَيِّينِ .

(۲۳۰۸۱) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں، جب تک عمری پر دینے اور لینے والا دونوں زندہ ہوں اس وقت تک صاحب عمری رجوع کر سکتا ہے۔

(۲۸۹) فِي الرُّقْبَى ، وَمَا سَبِيلُهَا

رقبی کا بیان

رقبی کہتے ہیں ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میں نے یہ گھر تجھے بہہ کر دیا ہے اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو یہ میری

طرف پھر لوٹ جائے گا، اور اگر میں تجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو یہ تمہارا ہوگا۔

(۲۳۰۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّقْبِيِّ ، وَقَالَ : مَنْ أُرْقِبَ رُقْبِي فَيَهِيَ لَهُ . (نسائی ۲۵۶۶ - احمد ۲/ ۲۶)

(۲۳۰۸۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے رقی سے منع فرمایا اور فرمایا: جس کو رقی کے طور پر کوئی مکان مل گیا تو وہ اسی کا ہے۔

(۲۳۰۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الرَّقْبِيُّ ، فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبِي فَيَهِيَ فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ . (ابوداؤد ۳۵۵۳ - عبدالرزاق ۱۶۹۱۳)

(۲۳۰۸۳) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: رقی حلال نہیں ہے۔ جس کو رقی میں کو مکان مل جائے تو وہ میراث میں تقسیم ہوگا۔

(۲۳۰۸۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رُقْبِي ، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبِي فَيَهِيَ لورثة المرقب .

(۲۳۰۸۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا رقی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس کو رقی کے طور پر کوئی مکان مل جائے تو وہ دینے والے کے ورثاء کا ہوگا۔

(۲۳۰۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : الْعُمَرِيُّ وَالرَّقْبِيُّ سَوَاءٌ .

(۲۳۰۸۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا عمری اور رقی کا حکم برابر ہے۔

(۲۳۰۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : مَنْ أُعْمِرَ عُمَرَى فَيَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَا تَرْجِعُ إِلَى الْإِذَى أَعْمَرَهَا ، وَالرَّقْبِيُّ مِثْلُهَا ، قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا الرَّقْبِيُّ ؟ قَالَ : قَوْلُ الرَّجُلِ : هِيَ لِلْأَجْرِ مِنِّي وَمِنْكَ .

(۲۳۰۸۶) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو عمری کے طور پر مکان مل جائے تو وہ زندگی میں اس کا ہوگا اور مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو ملے گا۔ ایسا مکان واپس عمری میں دینے والے کو نہیں ملے گا اور رقی بھی اس کی مثل ہے۔ میں نے مجاہد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رقی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رقی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ مکان ہم دونوں میں جو زیادہ دیر زندہ رہا اسی کا ہوگا۔

(۲۳۰۸۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّقْبِيُّ وَالْعُمَرَى سَوَاءٌ ، قَالَ وَكِيعٌ : الْعُمَرَى وَالْهَبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَالنَّحْلَةُ إِذَا قُبِضَتْ فَيَهِيَ جَائِزَةٌ .

(۲۳۰۸۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرماتے ہیں کہ عمری اور رقی برابر ہیں۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ عمری، ہبہ، عطیہ اور قرضہ پر جب قبضہ کر لیا جائے وہ نافذ ہو جاتا ہے۔

(۳۹۰) فِی عَسْبِ الْفُحْلِ

(۳۳۰۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ . (احمد ۲/۲۹۹ - دارمی ۲۶۲۳)

(۳۳۰۸۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ کو جفتی کے لئے دینے سے منع فرمایا ہے۔

(۳۳۰۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ أَبِي كَلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ .

(۳۳۰۸۹) حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۳۳۰۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، قَالَ : كُنْتُ تَيَّاسًا فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي .

(۳۳۰۹۰) حضرت ابو معاذ فرماتے ہیں کہ ہم چرواہے تھے، حضرت براء نے ہمیں سائڈ کو جفتی پر دینے سے منع فرمایا۔

(۳۳۰۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفُحْلِ وَمَهْرُ الْبَيْهِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ .

(۳۳۰۹۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سائڈ کو جفتی کے لئے دینا، زانیہ کا مہر اور حجام کی کمائی حرام ہے۔

(۳۳۰۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَرْقِ الْفُحْلِ . (مسلم ۱۱۹۷ - نسائی ۶۳۶۶)

(۳۳۰۹۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ کو جفتی پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

(۳۹۱) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے

(۳۳۰۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَيْسَى السَّعْدِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّ لَنَا تَيَّوسًا نُؤَاجِرُهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ تُحَلِّبْ ، أَوْ تَبَسَّرَ .

(۳۳۰۹۳) حضرت ولید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ہماری بکریاں ہیں ہم ان کو اجرت پر دیتے ہیں۔ فرمایا: جب تک دودھ نہ نکالے اور جفتی کے لئے نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۳۰۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذْ عَلَيَّ ضِرَابِ الْفُحْلِ أَجْرًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطَى إِذَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ .

(۲۳۰۹۳) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ ساتھ کو جفتی پردے کرا جرت مت لو اگر اس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۳۰۹۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى عُلَقَمَةَ وَهُوَ يَقْرَعُ عَنَّمَهُ يَعْْنِي بِنَزَى عَلَيْهَا التَّيْسَ وَيَعْلَفَ وَيَحْلُبُ .

(۲۳۰۹۵) حضرت المسیب بن رافع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے پاس تشریف لے گئے، تو جفتی کر دائی جا رہی تھی اور چارہ کھلا رہے تھے اور دودھ نکال رہے تھے۔

(۲۹۲) مِنْ كَرَاهَةِ أَنْ يُسَلَّمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ

جو حضرات اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ کیل شدہ چیز کی کیل شدہ کے ساتھ بیع سلم کی جائے

(۲۳۰۹۶) حَدَّثَنَا جَبْرِ، عَنْ مُعِيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يُسَلَّمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا يُسَلَّمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے مقابلہ میں بیع سلم نہ کی جائے اسی طرح وزنی چیزوں کی وزنی چیزوں کے بدلے بیع سلم نہ کی جائے۔

(۲۳۰۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُسَلِّمُ طَعَامًا فِي طَعَامٍ ، وَلَا لَحْمًا فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ .

(۲۳۰۹۷) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ کھانے کی کھانے کے بدلہ میں بیع سلم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی گوشت کی گوشت کی بدلہ میں بیع سلم کی جائے گی۔ البتہ وہ اس بات میں حرج نہیں سمجھتے تھے کہ کھانے کی بیع سلم زندہ بکری کے ساتھ کی جائے۔

(۲۳۰۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَلِيمٍ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَّا أَجَلًا .

(۲۳۰۹۸) حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے ساتھ سلم کرتے ہوئے مت فروخت کرو۔

(۲۳۰۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسَلِّمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ .

(۲۳۰۹۹) حضرت حسن اور حضرت قتادہ کھانے کی کھانے کے بدلہ سلم کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۱۰۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ .

(۲۳۱۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے ساتھ اور وزنی چیزوں کی وزنی چیزوں کے ساتھ سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک یہ کھانے کے بدلہ میں کھانا وصول کرنا ہے۔

(۳۹۳) الرَّجُلُ يَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَيَّ أَنَّهُ ضَامِنٌ

کوئی شخص مال مضاربت اس شرط پر دے کہ وہ ضامن ہے

(۳۳۱.۱) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِضَامِنٍ .

(۳۳۱.۱) حضرت عطاء سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو کسی کو مال مضاربت اس شرط پر دے کہ وہ اس مال کا ضامن بھی ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔

(۳۳۱.۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ ، فَهُوَ رَبًّا وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ .

(۳۳۱.۲) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مضاربت میں ہر قسم کی شرط سود ہے۔ اور یہی حضرت قتادہ کا قول ہے۔

(۳۳۱.۳) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَصَمَّنَهُ آيَاهُ ، قَالَ : الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى صَمَائِهِ .

(۳۳۱.۳) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے کو مال مضاربت دیا اور اس کو ضامن بنایا؟ آپ نے فرمایا: جوفع ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور اس کے ضمان کی طرف التفات نہ کیا جائے گا۔

(۳۹۴) فِي عَبْدِ الذَّمِيِّ أَوْ أُمَّتِهِ تَسْلِمُ

ذمی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے

(۳۳۱.۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ ، انْتَزَعَ مِنْهُ فَيْعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرَدَّ ثَمَنَهُ عَلَى صَاحِبِهِ .

(۳۳۱.۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: مشرک کا غلام اگر مسلمان ہو جائے، تو اس سے لے کر وہ غلام مسلمانوں کو فروخت کر دیا جائے گا اور اس کا ثمن اس کے مشرک آقا کو دے دیا جائے گا۔

(۳۳۱.۵) حَدَّثَنَا وَرِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذَّمِّ إِذَا أَسْلَمُوا .

(۳۳۱.۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز ذمیوں کے غلاموں کو بیچ دینے کا حکم فرماتے ہیں اگر وہ اسلام لے آئیں۔

(۳۳۱.۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا

أَسْلَمْتُ أُمَّةً بِأَعْمَاهَا.

(۲۳۱۰۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر نصرانی کی ام ولد مسلمان ہو جائے وہ اپنی قیمت کی ادائیگی کی کوشش کرے گی، اور اگر باندی اسلام لے آئے تو اس کو فروخت کر دیا جائے گا۔

(۲۳۱۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذَّمِيِّ فُرُقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ .

(۲۳۱۰۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کا غلام مسلمان ہو جائے تو اس کے اور اس کے آقا کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔

(۲۳۱۰۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْرَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ مِنْ فِتْيَانِهِمْ فَأَسْلَمَ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبِيِّ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيَعٍ لِي الْمُسْلِمِينَ .

(۲۳۱۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے غلاموں میں سے جو مسلمان ہو جائے وہ آزاد ہو جائے گا، اگر ذمی مسلمانوں کے کسی قیدی کو خرید لیں پھر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ غلام مسلمانوں کو فروخت کر دیا جائے گا۔

(۲۳۱۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذَّمِيِّ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَخْدِمُ مُسْلِمٌ كَافِرًا .

(۲۳۱۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کا غلام مسلمان ہو جائے تو اس کو امیر کے پاس لے جایا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کو فروخت کر دیا جائے، اور اس کا ثمن اس کے آقا کو دے دیا جائے گا۔

(۲۳۱۱۰) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَ كَافِرٌ مُسْلِمًا .

(۲۳۱۱۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ سنت پختہ ہو چکی ہے کہ کافر شخص مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا۔

(۲۹۵) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الشَّيْءَ وَيَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ

جو حضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کچھ دے کر اس سے زیادہ وصول کیا جائے

(۲۳۱۱۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ﴾ قَالَ : لَا تُعْطَى لِيَزْدَادَ .

(۲۳۱۱۱) حضرت ابراہیم قرآن پاک کی آیت ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ زیادہ وصول کرنے کے لئے

مت دے۔

(۲۳۱۱۲) حَدَّثَنَا عُقْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَا تُعْطَى الْعُطِيَّةَ فَتُرِيدَ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا .

(۲۳۱۱۲) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ایسا عطیہ مت دے کہ اس سے زیادہ وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

(۲۳۱۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ قَالَ : لَا تُعْطِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ .
(۲۳۱۱۳) حضرت ضحاک قرآن پاک کی آیت ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ تم دے دے کہ اس سے زیادہ عطا کیا جائے۔

(۲۳۱۱۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ : ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ قَالَ : هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً .
(۲۳۱۱۴) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ فرمایا یہ آنحضرت ﷺ کے لئے خاص تھا۔

(۲۳۱۱۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ قَالَ : لَا تَمْنُنْ عَمَلَكَ عَلَى رَبِّا لِيَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّكَ .
(۲۳۱۱۵) حضرت حسن اللہ کے ارشاد ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اپنے عمل پر زیادتی کی تمنا نہ کر کہ تیرے عمل میں زیادتی ہو۔

(۲۳۱۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ قَالَ : لَا تُعْطَى شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ .
(۲۳۱۱۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قرآن کریم کی آیت ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ کوئی چیز دے دے کہ اس سے زیادہ طلب مت کر۔

(۲۳۱۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يُعْطَى لِيَتَابَ عَلَيْهِ ، ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ .
(۲۳۱۱۷) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس لئے دے کہ اس پر اس کو زیادہ ملے وہ اس حکم میں ہے ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾

(۲۳۱۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْهَدَايَا .
(۲۳۱۱۸) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہدایا مراد ہیں۔

(۲۳۱۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُعْطَى قَرَابَتَهُ لِيَكْثُرَ بِذَلِكَ مَالَهُ .
(۲۳۱۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے رشتہ دار کو دیتا تھا تاکہ اس سے زیادہ مال وصول کرے۔

(۲۳۱۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْيَتَمَّاسِ التَّوَابِ .
(۲۳۱۲۰) اللہ ﷻ ہُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْيَتَمَّاسِ التَّوَابِ .

(۲۳۱۲۰) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيُرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ جو سے مراد وہ عطا یا ہیں جو لوگ آپس میں ثواب کی نیت سے لیتے دیتے ہیں۔

(۲۹۶) فِي الْإِذْنِ عَلَى حَوَائِثِ السُّوقِ

بازار کی دکانوں میں جانے کی اجازت لینا

(۲۳۱۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى حَوَائِثِ السُّوقِ إِذْنٌ .

(۲۳۱۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بازار کی دکانوں کے لئے اجازت ضروری نہیں ہے۔ (اجازت لینا ضروری نہیں ہے)۔

(۲۳۱۲۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ وَابْنُ عَلِيَّةَ وَعَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا فَتَحَ السُّوقِي بَابَهُ وَجَلَسَ ، فَقَدْ أَذِنَ .

(۲۳۱۲۲) حضرت حفص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دکاندار دروازہ کھول کر بیٹھ جائے، تو اجازت شمار ہوگی۔

(۲۳۱۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يَأْتُونَ فِي حَوَائِثِ السُّوقِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَيَّ أَنْ يَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ .

(۲۳۱۲۳) حضرت اعمش سے مروی ہے حضرت ابراہیم تیمی اور حضرت ابراہیم نخعی، حضرت خثیمہ اور ہمارے اصحاب جب ہمارے پاس بازار کی دکان میں تشریف لاتے تو صرف السلام علیکم فرماتے پھر داخل ہو جاتے۔

(۲۳۱۲۴) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدْبِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَائِثِ السُّوقِ ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيقُ ؟

(۲۳۱۲۴) حضرت عکرمہ سے کہا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بازار کی دکانوں میں جانے کی اجازت لیتے تھے؟ فرمایا جس چیز کی اجازت ابن عمر رضی اللہ عنہ طاقت رکھتے تھے اُس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے۔

(۲۳۱۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بَرْتِي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَلْجُ .

(۲۳۱۲۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ ہماری دکان پر تشریف لاتے تو پہلے السلام علیکم فرماتے پھر داخل ہوتے۔

(۲۳۱۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِي فِي بَيْتِ بَرْتِي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَلْحُ ؟ فَأَقُولُ : رَحِمَكَ اللَّهُ ، إِنَّمَا هِيَ السُّوقُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ رَبَّمَا خَلَا عَلَى حِسَابِهِ وَرَبَّمَا خَلَا عَلَى الدَّرَاهِمِ يَتَفَقَّدُهَا .

(۲۳۱۲۶) حضرت شعیب سے مروی ہے کہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ والے کمرے میں تشریف لاتے تو پوچھتے کہ السلام علیکم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ تو بازار ہے! فرمانے لگے، بعض اوقات انسان اپنا حساب کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات دراہم کو شمار کر رہا ہوتا ہے۔

(۲۳۱۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٍ لِلخَيَاطِينَ مُقْبِلَةً عَلَى السُّوقِ مِمَّا يَلِي دُورَ بَنِي الْبُكَاءِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاذِنُ فِي مِنْبَلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَلْحُ ؟ ثُمَّ يَلِجُ .

(۲۳۱۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجاہد کے ساتھ کوفہ کے بازار میں تھا، درزیوں کے خیمے (چبوترے) بنو البکاء کے گھروں سے ملا ہوا جو بازار تھا اُس کے سامنے نصب تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے اس کی اجازت لیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا: وہ فرماتے تھے السلام علیکم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ پھر داخل ہوتے۔

(۲۳۱۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ دِرْهَمِ أَبِي عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ ، فَاسْتَظَلَّ بِخِيْمَةِ الْفَارِسِيِّ ، فَجَعَلَ الْفَارِسِيُّ يَدْفَعُهُ ، عَنْ خِيْمَتِهِ وَجَعَلَ عَلِيُّ يَقُولُ : إِنَّمَا اسْتَظَلُّ مِنَ الْمَطَرِ ، فَأَخْبِرَ الْفَارِسِيُّ بَعْدَ أَنْ عَلِيَ فَجَعَلَ يَضْرِبُ صَدْرَهُ .

(۲۳۱۲۸) حضرت درہم ابو عبیدہ الحاربی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بازار میں دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی، آپ ایک فارسی کے خیمہ کے سایے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ فارسی آپ کو دھکیلے لگا۔ علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میں تو صرف بارش سے بچنے کے لیے یہاں رکھا ہوں۔ بعد میں جب اس فارسی کو پتہ چلا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ تھے تو وہ اپنے سینہ پر ہاتھ مارنے لگا۔

(۲۹۷) فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْعِتْقِ وَالذِّينِ وَالطَّلَاقِ

آزادی، دین اور طلاق کے معاملات میں عورتوں کی گواہی کا حکم

(۲۳۱۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ .

(۲۳۱۲۹) حضرت شریح رضی اللہ عنہ آزادی کے معاملہ میں دو عورتوں کی گواہی قبول فرماتے (جائز قرار دیتے) تھے۔

(۲۳۱۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ ، إِحْدَاهُمَا خَالَةٌ . يَعْنِي : مَعَهُمَا رَجُلٌ .

(۲۳۱۳۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ دو عورتوں کی گواہی حلق کے معاملہ میں قبول فرما (جائز قرار فرما) لیتے تھے اگر ان کے ساتھ ایک مرد بھی ہو۔

(۲۳۱۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ

فِي الْعَتَاةِ وَالذَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ. يَعْنِي: مَعَ الرَّجُلِ.

(۲۳۱۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ آزادی، دین اور وصیت میں جائز ہے۔

(۲۳۱۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوفِ.

(۲۳۱۳۲) حضرت شریح عورتوں کی گواہی حقوق میں جائز قرار دیتے تھے۔

(۲۳۱۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الذَّيْنِ.

(۲۳۱۳۳) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی دین کے علاوہ معاملات میں جائز نہیں۔

(۲۳۱۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ جُوَيْرٍ، عَنِ الصَّحَّاحِ، قَالَ: يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ.

(۲۳۱۳۴) حضرت صحاح رضی اللہ عنہم عورتوں کی گواہی کو جائز قرار دیتے تھے۔

(۲۳۱۳۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْرَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الذَّيْنِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

(۲۳۱۳۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دین اور جو چیزیں ضروری ہوں ان میں دو عورتوں کی گواہی جائز ہے۔

(۲۳۱۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلَ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ الشَّعْبِيُّ: أَتَجُوزُ

شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(۲۳۱۳۶) حضرت مغیرہ بن سعید سے دریافت کیا گیا کہ طلاق کے معاملہ میں مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی معتبر ہے؟ فرمایا:

نھیک ہے۔

(۲۳۱۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَبْرِ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخُرَيْبِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ أجازَ

شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ.

(۲۳۱۳۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہم طلاق کے معاملہ میں عورتوں کی گواہی کو جائز (نافذ) قرار دیتے تھے۔

(۲۹۸) الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ وَيَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ

کوئی شخص پھل فروخت کرے، اور صدقہ سے بری ہو جائے

(۲۳۱۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ

وَيَبْرَأَ مِنَ الصَّدَقَةِ.

(۲۳۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم پھل کو فروخت کر کے، اس کے صدقہ سے بری ہونے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۱۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَا يَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

(۲۳۱۳۹) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ سے بری نہ ہوگا۔

(۲۳۱۴۰) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا بَعْتَ ثَمْرَتَكَ أَوْ ثَمْرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ : هِيَ عَلَى الْمُتَبَاعِ .

(۲۳۱۴۰) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے پھل فروخت کرو، یا باغ کے پھل فروخت کرو، تو صدقہ باغ میں ہے۔

(۲۹۹) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ وَكَدِيهِ

کوئی شخص (والد) اپنے بچے کے مال میں سے کچھ لے لے

(۲۳۱۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأُسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ .

(احمد ۶/۴۲ - ابن حبان ۴۲۶۱)

(۲۳۱۴۱) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے پاکیزہ مال جو آدمی کھاتا ہے وہ ہے جو وہ اپنی کمائی سے کھائے، اور اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔

(۲۳۱۴۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ . (ابن ماجہ ۲۲۹۱)

(۲۳۱۴۲) حضرت محمد بن المنکدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اپنے والد سے جھگڑا کرتے ہوئے آیا، جس نے اس کا مال لیا تھا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کے ہیں۔

(۲۳۱۴۳) حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ . (طبرانی ۵۱۳۲)

(۲۳۱۴۳) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹا والد کی کمائی میں سے ہے۔

(۲۳۱۴۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَعَنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أُطِيبَ كَسْبِهِ .

(ابوداؤد ۳۵۲۳ - احمد ۱۴۶)

(۲۳۱۴۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹا والد کی پاکیزہ کمائی میں سے ہے۔

(۲۳۱۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتَيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ . (ترمذی ۱۳۵۸ - احمد ۱۶۲)

(۲۳۱۳۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۱۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالٍ وَلَدَيْهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالٍ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

(۲۳۱۳۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ والد اپنی اولاد کے مال میں سے جو چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اولاد (لڑکا) والد کے مال میں سے بغیر اجازت استعمال نہیں کر سکتا۔

(۲۳۱۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَدَّ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ .

(۲۳۱۴۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آدمی کا بیٹا اُس کی کمائی میں سے ہے، وہ اُس کے مال میں سے جو چاہے استعمال کر سکتا ہے۔

(۲۳۱۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي غَصَبَنِي مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ .

(۲۳۱۴۸) حضرت شعبی سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے والد نے میرا مال غصب کر لیا ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو اور تیرا مال تیرے والد کے ہیں۔

(۲۳۱۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالٍ وَالِدِهِ إِلَّا بِطِبِّ نَفْسِهِ .

(۲۳۱۴۹) حضرت سعید بن المسیب ارشاد فرماتے ہیں کہ والد اپنی اولاد کے مال میں سے جو چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن لڑکا اپنے والد کے مال میں سے بغیر اجازت اور طیب نفس کے استعمال نہیں کر سکتا۔

(۲۳۱۵۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۱۵۰) حضرت شعبی سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۱۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۱۵۱) حضرت جابر سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۱۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، قَالَ : الرَّجُلُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ .

(۲۳۱۵۲) حضرت عامر بن بٹید فرماتے ہیں کہ آدمی کے لئے اپنے بیٹے کے مال کو استعمال کرنا حلال اور جائز ہے۔

(۲۳۱۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَنَّعَ رَجُلٌ لِي مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ

، قَالَ هِشَامٌ : قَالَ أَبِي : فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ فَقَالَ : أُرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ . (عبدالرزاق ۱۶۶۷)

(۲۳۱۵۳) حضرت عروہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا مال استعمال کیا اور اس سے اجازت نہ لی، پھر آنحضرت ﷺ حضرت ابوبکر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اُس کو واپس کر دو، بے شک وہ تمہاری بہو کا حصہ ہے۔

(۲۳۱۵۴) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالٍ وَكَيْدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .

(۲۳۱۵۳) حضرت عطاء اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ آدمی اپنے بیٹے کے مال میں سے جو چاہے، بغیر اجازت استعمال کر لے۔
(۲۳۱۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيكَ ، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كُورًا﴾ .

(۲۳۱۵۵) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف سے اپنے والد کے لئے بہہ ہے، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كُورًا﴾ .

(۲۳۱۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي اجْتَنَحَ مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ .

(ابوداؤد ۳۵۲۳۔ احمد ۲/۲۰۴)

(۲۳۱۵۶) حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو اور تیرا مال تیرے والد ہی کے ہیں۔

(۴۰۰) مَنْ قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ وَكَيْدِهِ إِلَّا بِأَذْنِهِ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے مال میں سے بغیر اجازت نہیں استعمال کر سکتا

(۲۳۱۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَتَرَ وَالِدَهُ ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَحَقُّ بِالذِّئْبِ لَهُ .

(۲۳۱۵۷) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرماتے ہیں کہ والد کے لئے اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اور ہر انسان اُس چیز کا زیادہ حق دار ہے جس کا وہ مالک ہے۔

(۲۳۱۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيْعَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالٍ وَكَيْدِهِ

مَا شَاءَ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟

(۲۳۱۵۸) حضرت ابن عون سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت قاسم بن محمد سے روایت کیا کہ کیا کوئی شخص (والد) اپنے بیٹے کے مال میں سے جو چاہے بغیر اجازت استعمال کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا یہ کیا ہے؟

(۲۳۱۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قَالَ خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أُعْطَيْتَهُ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ.

(۲۳۱۵۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے مال سے وہ لے جو وہ دے اور جو وہ نہ دے وہ مت لے۔

(۲۳۱۶۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ حَمْرَةَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحَرَ جَزُورًا، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عَمْرٍو، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا هِيَ لِي، فَقَالَ حَمْرَةُ: يَا أَبَتَاهُ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ فَاطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.

(۲۳۱۶۰) حضرت سالم سے مروی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک اونٹ ذبح فرمایا: ایک سائل نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا؟ حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مال نہیں ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کے لیے بھی حلال ہے۔ آپ اس میں سے جسے چاہیں کھا سکتے ہیں۔

(۲۳۱۶۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.

(۲۳۱۶۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر والد محتاج ہو تو وہ اتنا ہی خرچ کرے گا جتنا اُس نے اُس پر خرچ کیا تھا۔

(۲۳۱۶۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا، فَإِذَا كَبُرَ وَاحْتَارَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ.

(۲۳۱۶۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا چھوٹا ہو تو والد اُس کے مال کا زیادہ حق دار ہے۔ اور جب بیٹا بڑا ہو جائے اور اپنا مال علیحدہ کر لے تو پھر بیٹا زیادہ حق دار ہے۔

(۴۰۱) مَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ

اولاد کے لئے والد کے مال میں سے جو حلال ہے

(۲۳۱۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ رَجُلٌ لِحَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ، يَقُولُ: لَا أُعْطِيكَ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: كُلُّ مَنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ.

(۲۳۱۶۳) حضرت عمرو سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت جابر بن زید سے دریافت کیا کہ میرے والد نے مجھے اپنے مال سے

محروم کیا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس میں سے تجھے کچھ نددوں گا، آپ نے فرمایا: اپنے والد کے مال میں سے معروف طریقہ سے استعمال کرے۔

(۴۰۲) مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشَّفْعَةِ لِلْجَارِ

جو حضرات پڑوسی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرماتے ہیں

(۲۳۱۶۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ لِلْجَوَارِ .

(۲۳۱۶۳) حضرت علی اور حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پڑوسی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۱۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولَانِ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَوَارِ . (نسائی ۶۳۰۳ - عبدالرزاق ۱۳۳۸۳)

(۲۳۱۶۵) حضور ﷺ نے پڑوسی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۱۶۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ يَتْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِصَفْقِهِ . (بخاری ۶۹۷۷ - ابوداؤد ۳۵۱۰)

(۲۳۱۶۶) حضرت ابورافع سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: پڑوسی اپنے شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔

(۲۳۱۶۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ . (ابوداؤد ۳۵۱۱ - احمد ۱۲/۵)

(۲۳۱۶۷) حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: گھر کا پڑوسی (شفعہ کے ذریعہ) اُس گھر کا زیادہ حق دار ہے۔

(۲۳۱۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَةِ جَارِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا .

(ابوداؤد ۳۵۱۲ - احمد ۳/۳۰۳)

(۲۳۱۶۸) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر پڑوسیوں کا راستہ ایک ہو تو گھر کا پڑوسی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔

(۲۳۱۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنْبِ . (عبدالرزاق ۱۳۳۹۰)

(۲۳۱۶۹) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: شفعہ کرنے والا پڑوسی سے زیادہ حق دار ہے اور پڑوسی نزدیک والے سے زیادہ حق دار ہے۔ (یا پھر یہ مطلب ہے کہ شفعہ کرنے والا پڑوسی ہو تو وہ زیادہ حق دار ہے اور پڑوسی نزدیک بھی ہو تو زیادہ حق دار ہے)۔

(۲۳۱۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ السَّلْمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَوَارِ . (عبدالرزاق ۱۳۳۸۴)

(۲۳۱۷۰) حضور اقدس ﷺ نے پڑوسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۱۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ : أَنْ يَقْضِيَ بِالْجَوَارِ ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ .

(۲۳۱۷۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح کو خط لکھا کہ پڑوسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ کریں، حضرت شریح کو فہم میں رہنے والے شخص کا شام کے رہائشی پر شفعہ کا فیصلہ فرماتے تھے۔

(۲۳۱۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ .

(۲۳۱۷۲) حضرت شعبي پریشید ارشاد فرماتے ہیں کہ شریک شفع سے زیادہ حق دار ہے، اور شفع پڑوسی سے زیادہ حق دار ہے اور پڑوسی باقیوں سے زیادہ حق دار ہے۔

(۲۳۱۷۳) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشَّفْعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فَالْجَارُ .

(۲۳۱۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شریک شفعہ کا زیادہ حق دار ہے، اور اگر کوئی شریک نہ ہو تو پھر پڑوسی زیادہ حق دار ہے۔

(۲۳۱۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ .

(۲۳۱۷۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شریک پڑوسی سے زیادہ اور پڑوسی باقیوں سے زیادہ حق دار ہے۔

(۲۳۱۷۵) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَمْرٍو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يَقْضِي بِالْجَوَارِ .

(۲۳۱۷۵) حضرت عمرو بن حرث پڑوسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرماتے تھے۔

(۲۳۱۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قَسْمٌ وَلَا شَرِكٌ إِلَّا الْجَوَارُ ، قَالَ : الْجَوَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ مَا كَانَ .

(ابن ماجہ ۲۳۹۶ - طحاوی ۱۲۳)

(۲۳۱۷۶) حضرت ثرید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! ایک زمین میں کسی کے لئے کوئی حصہ اور شرکت

نہیں ہے، صرف اس کا پڑوسا ہے، اس میں شفعہ کس کا حق ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پڑوسا اپنے شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔
(۲۳۱۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ شِرْكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رُبْعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . (مسلم ۱۲۳۹۔ ابوداؤد ۳۵۰۷)

(۲۳۱۷۷) حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کا زمین یا مکان میں شرکت ہو، اُس کے لئے شریک کی اجازت کے بغیر اُس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کا شریک چاہے تو خود خریدے اور اگر چاہے تو نہ خریدے۔

(۴۰۲) فِي الشُّفْعَةِ لِلذَّمِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ

ذمی اور اعرابی کے لئے حق شفعہ

(۲۳۱۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَعَظِيمِهِمَا . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا شُّفْعَةَ لِأَعْرَابِيٍّ ، وَلَا مُشْرِكٍ .

(۲۳۱۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مشرک اور اعرابی کے لئے حق شفعہ ہے، حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مشرک اور اعرابی کے لئے حق شفعہ نہیں ہے۔

(۲۳۱۷۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَهَاجِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِأَعْرَابِيٍّ ، وَلَا لِمَنْ لَا يَسْكُنُ الْمِصْرَ شُّفْعَةٌ . (۲۳۱۷۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اعرابی اور اُس شخص کے لئے جو شہر میں رہائش پذیر نہیں ہے اُس کے لئے حق شفعہ نہیں ہے۔
(۲۳۱۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ شُّفْعَةٌ . (۲۳۱۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کو حق شفعہ نہیں ہے۔

(۲۳۱۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُقَدِّمِ أَبِي فَرَوَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَارِلِيُّ : أَنَّ شَرِيحًا قَضَى لِنَصْرَانِيٍّ بِشُّفْعَةٍ .

(۲۳۱۸۱) حضرت مقدم ابو فرودہ سے مروی ہے کہ حضرت شریح نے ایک نصرانی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۱۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُّفْعَةٌ .

(۲۳۱۸۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کو حق شفعہ حاصل ہے۔

(۲۳۱۸۳) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ شُّفْعَةٌ .

(۲۳۱۸۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کو حق شفعہ حاصل نہیں۔

(۲۳۱۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ لَنَا سُفْيَانُ : لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ .

(۲۳۱۸۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کو حق شفعہ حاصل ہے۔

(۲۳۱۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى لِلْكَفَّارِ شُفْعَةً .

(۲۳۱۸۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما کفار کے لئے حق شفعہ میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۴.۴) فِي الشُّفْعَةِ لِلْأَعْرَابِيِّ

اعرابی کے لئے حق شفعہ

(۲۳۱۸۶) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ .

(۲۳۱۸۶) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اعرابی کے لئے حق شفعہ ہے۔

(۲۳۱۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ ، قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ لَهُ شُفْعَةٌ .

(۲۳۱۸۷) حضرت حکم اور حضرت وکیع سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۳۱۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا شُفْعَةَ لِلْأَعْرَابِيِّ .

(۲۳۱۸۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اعرابی کو حق شفعہ حاصل نہیں ہے۔

(۲۳۱۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشْوَعٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ .

(۲۳۱۸۹) حضرت سعید بن اشوع سے بھی یہی مروی ہے۔

(۴.۵) مَنْ قَالَ إِذَا صُرِفَتِ الطَّرِيقُ وَالْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

جب راستے اور حدود الگ اور جدا ہو جائیں تو پھر حق شفعہ نہیں ہے

(۲۳۱۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَضَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسِّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ .

(ابن ماجہ ۲۳۹۷۔ مالک ۱)

(۲۳۱۹۰) حضرت ابوسلمہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہر اس شخص کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرمایا جس کا حصہ تقسیم نہ ہوا ہو، اور

(جب) اگر حدود الگ الگ ہو جائیں تو شفعہ کا حق حاصل نہیں۔

(۲۳۱۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ

عُثْمَانُ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : لَا شُفْعَةَ فِي بِنْتِ ، وَلَا فَحْلٍ ، وَالْأَرْفُ تَقَطُّعُ كُلِّ شُفْعَةٍ .

(۲۳۱۹۱) حضرت عثمان ارشاد فرماتے ہیں کہ کنویں اور چغلی میں حق شفعہ حاصل نہیں، اور حد بندی ہر شفعہ کے حق کو ختم کر دیتی ہے۔

(۲۳۱۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَتِ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ .

(۲۳۱۹۳) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب حدود جدا جدا ہو جائیں اور لوگوں کو حدود معلوم بھی ہو جائیں تو پھر ان میں آپس میں شفعہ نہیں ہے۔

(۲۳۱۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِالْجَوَارِ حَتَّى جَاءَهُ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَيْمُنِيِّ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِيكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ ، أَوْ دَارًا يُغْلَقُ عَلَيْهَا بَابٌ وَاحِدٌ .

(۲۳۱۹۵) حضرت ایسا بن معاویہ پڑوسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ان کے پاس خط پہنچا۔ اس میں تحریر تھا کہ پڑوسی کے حق میں فیصلہ نہ کیا کرو۔ ہاں البتہ اگر دونوں باہم شریک ہوں یا پھر گھر دونوں کا ایسا ہو کہ ایک ہی دروازہ دونوں کو ملتا ہو تو تب پڑوسی کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہو۔

(۲۳۱۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ وَصُرِفَتْ طَرَفُهَا فَلَا شُفْعَةَ .

(۲۳۱۹۷) حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا: جب زمین تقسیم ہو جائے اور حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ ہو جائیں تو حق شفعہ حاصل نہیں ہے۔

(۲۳۱۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَتِ النَّاسُ حَقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ .

(۲۳۱۹۹) حضرت عمرؓ نے فرمایا: جب حدود الگ ہو جائیں اور لوگ اپنے اپنے حق کو پہچان لیں تو ان میں سے کسی کو شفعہ کا حق حاصل نہیں۔

(۴.۶) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ

اگر دو گھروں کا ایک ہی راستہ ہو تو اس میں بھی شفعہ نہیں ہے

(۲۳۱۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا .

(۲۳۱۹۷) حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اگر دو گھروں کے درمیان ایک ہی راستہ ہو تو ان میں شفعہ نہیں ہے۔

(۲۳۱۹۸) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلٌ فَلَا شُفْعَةَ .

(۲۳۱۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر دونوں گھروں کے درمیان جدار راستہ ہو تو پھر حق شفعہ نہیں ہے۔

(۲۳۱۹۸) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا عَنِ الشُّفْعَةِ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَفِيهَا شُفْعَةٌ .

(۲۳۱۹۸) حضرت حکم اور حضرت حماد سے شفعہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا: اگر دو گھروں کے درمیان راستہ نہ ہو تو ان میں حق شفعہ حاصل ہے۔

(۴۰۷) مَنْ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ ، أَوْ عَقَارٍ .

جو حضرات فرماتے ہیں کہ صرف زمین میں شفعہ ہے

(۲۳۱۹۹) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ .

(۲۳۱۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صرف زمین میں شفعہ ہے۔

(۲۳۲۰۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ .

(۲۳۲۰۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جریب (زمین کی خاص مقدار) اور زمین میں شفعہ ہے۔

(۲۳۲۰۱) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .

(۲۳۲۰۱) حضرت ابراہیم بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔

(۲۳۲۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : الْأَرْضِ ، وَالذَّارِ ، وَالْحَارِيَةِ ، وَالْحَادِمِ .

قَالَ : فَقَالَ : عَطَاءٌ : إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالذَّارِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ : تَسْمَعُنِي لَا أَمْ لَكَ أَقُولُ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا ؟ . (ترمذی ۱۳۷۱- بیہقی ۱۰۹)

(۲۳۲۰۳) حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہر چیز کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرمایا ہے، جن میں زمین، گھر،

باندی اور غلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عطاء نے فرمایا: زمین اور گھر میں شفعہ ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ نے فرمایا: تم مجھے سن رہے

کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا پھر بھی تم یہ بات کہہ رہے ہو۔

(۴۰۸) فِي الدَّارِ تَبَاعٌ وَلَهَا جَارَانِ

کوئی گھر فروخت ہو اور اُس کے دو پڑوسی ہوں

(۲۳۲۰۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي جَارِي الدَّارِ إِذَا كَانَا فِي الْجَوَارِ سَوَاءٌ فَايَهُمَا سَبَقَ ،

فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.

(۲۳۲۰۳) حضرت شعبي گھر کے دو پڑوسیوں کے متعلق فرماتے ہیں۔ اگر دونوں پڑوسی برابر ہوں، تو جوان میں سے پہلے کرے گا (یعنی جو مطالبہ کرنے اور مقدمہ لے جانے میں سبقت کر لے گا) اُس کو حق شفعہ حاصل ہے۔

(۲۳۲۰۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : مَنْ بَاعَتْ شُفْعَتَهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يَنْكُرُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

(۲۳۲۰۳) حضرت شعبي فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کی شفعہ والی زمین بیچی جائے اور وہ کوئی اعتراض نہ کرے تو اب اس کو حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔

(۲۳۲۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ : فِي رَجُلٍ بَاعَتْ دَارَهُ وَهُوَ سَاكِنٌ لَا يَنْكُرُ ، قَالَ : يَلْزَمُهُ وَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.

(۲۳۲۰۵) حضرت عامر اور حضرت قاسم اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُس کا گھر فروخت ہو اور وہ خاموش رہے نکیر نہ کرے، فرماتے ہیں اُس پر لازم ہو جائے گا اور وہ اُس پر جائز ہوگا۔

(۲۳۲۰۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِلْمُبْتَاعِ : اِقِمِ الْبَيْتَةَ أَنَّهُمَا بَاعَتْ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يَنْكُرُ.

(۲۳۲۰۶) حضرت عامر اور حضرت قاسم بن عبد الرحمن خریدار سے فرماتے تھے کہ تو اس بات کا گواہ قائم کر کہ اُس کو گھر کو فروخت کیا گیا یہ گواہ تھا (دیکھ رہا تھا) لیکن اُس پر نکیر نہ کی۔

(۴۰۹) فِي الشَّفِيعِ يَأْذَنُ لِلْمُشْتَرِي

شَفِيعٌ اِذَا اشْتَرَى كَوْفَرِيَّةً لِيَأْذَنَ لِمُشْتَرِيهَا

(۲۳۲۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أُشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَدِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشَّرَاءِ فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

(۲۳۲۰۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ شفیع اگر خود مشتری کو خریدنے کی اجازت دے اور مشتری خرید لے تو پھر شفیع کو اُس پر قبضہ کرنے کا حق حاصل نہیں۔

(۲۳۲۰۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ.

(۲۳۲۰۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اُس کو شفعہ کرنے کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ اُس کا حق تو بیع ہونے کے بعد واقع ہوا ہے۔

(ثابت ہوا ہے)

(۴۱۰) الرَّجُلُ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ

کوئی شخص کسی کو دراہم قرض دے

(۲۳۲۰۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أقرَضَ الدَّرَاهِمَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِنْهَا .

(۲۳۲۰۹) حضرت ابو عثمان اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دراہم کسی کو قرض دے کر اس سے بہتر وصول کرے۔

(۲۳۲۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حِجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَسْتَقْرِضُ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاوَهُ أَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهَا .

(۲۳۲۱۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دراہم قرض لیتے تھے۔ پھر جب انکا وظیفہ (تنخواہ) نکلتی تو اس سے اچھے درہم بدلہ میں ادا کرتے۔

(۲۳۲۱۱) حَدَّثَنَا قَطْرِبِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مَرْثِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثِ الْحَدَّانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، تَجِيءُ الْكِبَارُ وَلِي جَارَاتٍ وَلَكِنَّ عَطَاءً ، فَيَقْتَرِضُنَّ مِنِّي ، وَرَبَّتِي فَضَلُّ دِرْهَمِ الْعَطَاءِ عَلَى دِرْهَمِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۳۲۱۱) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ اے ابو سعید! میری کچھ پڑوسیاں ہیں۔ ان کے کچھ وظائف مقرر ہیں۔ وہ مجھ سے قرض لیتی ہیں اور دیتے وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے درہم بوقت واپسی میری ان دراہم سے اچھے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۲۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، قَالَ : قُلْتُ لِعَامِرٍ : الرَّجُلُ يَسْتَقْرِضُ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاوَهُ أَعْطَانِي خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ أَوْ تُعْطِهِ ، الْتِمَّاسَ ذَلِكَ .

(۲۳۲۱۲) حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے فرمایا: کوئی شخص مجھ سے قرض لیتا ہے اور جب اس کو بدلہ ملتا ہے تو وہ اس سے بہتر مجھے عطاء کرتا ہے، آپ نے فرمایا: اگر تو نے اس شرط کے ساتھ اس کو نہ دینے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۲۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْرِيٍّ ، عَنِ الصَّخَاكِ ، قَالَ : إِذَا أَقْرَضْتَ شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ .

(۲۳۲۱۳) حضرت سخاک فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ قرض لو تو اس سے بہتر ادا کرو، اور اگر قرض کے وقت اس کی شرط نہ لگائی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۲۱۴) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ

فَيَأْخُذُ خَيْرًا مِّنَ الَّذِي أُعْطِيَ ، فَقَالَا : إِنَّ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلَا بَأْسَ .

(۲۳۲۱۳) حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر جو دیئے ہیں اُن سے اچھے وصول کرتا ہے؟ فرمایا اگر اس کی شرط نہ لگائی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۲۱۴) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : فِي رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَآتَى بِعَشْرَةِ وَدَانِقِينَ ، قَالَ : لَا تَقْبَلُ ، قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ ، قَالَ : وَهَلْ يَكُونُ الرَّبَا إِلَّا عَن طَيْبِ نَفْسٍ .

(۲۳۲۱۵) حضرت الاوزاعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دس درہم قرض دیا وہ شخص قرض واپس کرتے وقت دس درہم اور ودانق (درہم کا چھٹا حصہ) لے آیا، فرمایا: اُس کو قبول مت کرو، میں نے عرض کیا وہ خوش دلی سے دے رہا ہے، فرمایا کیا سود خوش دلی سے نہ ہوتا تھا؟!

(۲۳۲۱۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيَتَوَى أَنْ يَفْضَى أَجُودَ مِنْهُ ، قَالَ : ذَلِكَ أَحَبُّ .

(۲۳۲۱۷) حضرت عامر اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو قرض دے اور قرض دیتے وقت یہ نیت ہو کہ اس سے بہتر مجھے ادا کیا جائے گا۔ فرمایا یہ بُری نیت ہے۔

(۲۳۲۱۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِّنْ ابْنِ مَسْعُودٍ دَرَاهِمَ فَقَضَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : الرَّجُلُ : ابْنِي تَجَاوَزْتُ لَكَ مِنْ جَيِّدِ عَطَانِي ، فَكُفِّرْ ذَلِكَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ : مِثْلَ دَرَاهِمِي .

(۲۳۲۱۹) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ سے ایک شخص نے قرض مانگا تو آپ نے عطا فرمادیا، اُس شخص نے عرض کیا: میں نے آپ کے لئے اپنی بخشش میں سے عمدہ اور بہتر درہم بڑھائے ہیں، حضرت ابن مسعودؓ نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا میرے درہم کے مثل واپس کرو۔

(۲۳۲۲۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : اسْتَسْلَفَ مِنِّي ابْنُ عُمَرَ أَلْفَ دَرَاهِمٍ فَقَضَانِي دَرَاهِمَ أَجُودَ مِنْ دَرَاهِمِي ، فَقَالَ : مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ ، فَهَوَ نَائِلٌ مِنِّي إِلَيْكَ ، اتَّقَبَلُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

(۲۳۲۲۱) حضرت عطاء بن یعقوب فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عمرؓ نے ایک ہزار درہم قرض لیا، پھر مجھے میرے درہم بہتر واپس کئے، اور فرمایا: اس میں جو زائد ہیں وہ میری طرف سے آپ کے لئے عطیہ ہیں، کیا آپ قبول کریں گے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!

(۲۳۲۲۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجُودَ مِنْهَا ؟ قَالَا : لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتَهُ عَلَى ذَلِكَ .

(۲۳۲۱۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا کہ ایک شخص دوسرے کو قرض میں درہم دیتا ہے، وہ اُس کو اُس سے بہتر اور عمدہ واپس کرتا ہے؟ فرمایا اگر اُس کی نیت نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۲۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطِي أَحْوَدَ مِنْهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدَ ، أَوْ يَشْتَرِطَ .

(۲۳۲۲۰) حضرت عامر بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر اُس کی نیت نہ ہو اور اُس نے شرط نہ لگائی ہو تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۲۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يَقَالُ لَهُ : الْمُغْيِرَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَمْرٍو : إِنِّي أَسْأَلُ جِيرَانِي إِلَى الْعَطَاءِ فَيَقْضُونِي دَرَاهِمَ أَحْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي ، قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَشْتَرِطَ .

(۲۳۲۲۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ میں نے اپنے پڑوسی کو قرض دیا ہے اُس نے میرے درہم سے عمدہ درہم کے ساتھ قرض کی ادائیگی کی؟ آپ نے فرمایا: اگر اس کی شرط نہ لگائی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۴۱۱) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ

کوئی شخص دوسرے سے سامان خریدے

(۲۳۲۲۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مَرَاتِحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ .

(۲۳۲۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو شخص شرط کے ساتھ کپڑا خریدے پھر اُس کا حق دار (مالک) نکلنے سے قبل ہی اُس کو مراحتہ آگے فروخت کر دے تو جتنا نفع ہے وہ کپڑے والے کو ملے گا۔

(۲۳۲۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَنْ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلِ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ .

(۲۳۲۲۳) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شرط کے ساتھ بیع خریدے پھر اُس کا حق دار نکلنے سے قبل ہی اُس کو فروخت کر دے تو اُس میں جو بھی نفع ہوا ہے وہ پہلے کے لئے ہوگا۔

(۲۳۲۲۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبَهُ ، فَقَدْ جَازَ بَيْعَهُ وَهُوَ لَهُ جَلٌّ .

(۲۳۲۲۴) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب خیار کے ساتھ بیع کی، پھر اُس کا صاحب (مالک) آنے سے پہلے ہی اُس کو آگے فروخت کر دیا، تو اُس کی بیع درست ہے اور یہ نفع اُس کے لئے حلال ہے۔

(۲۳۲۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عُبَيْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَدِيقًا لِشُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ

لِشُرَيْحٍ: آتَى السُّوقَ فَاشْتَرَى الثَّوْبَ وَأَشْتَرِطُ أَنِّي فِيهِ بِالْخِيَارِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ ، فَإِنْ بَعْتَهُ أَخَذْتُ الرَّبْحَ ، وَإِلَّا رَدَدْتُهُ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ .

(۲۳۲۲۵) حضرت متبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریحؓ سے فرمایا کہ: میں بازار جا کر کپڑا خریدوں گا اور اس میں خیار شرط لگاؤں گا، پھر واپس آ کر اُس کو فروخت کروں، اگر نفع ہو تو ٹھیک وگرنہ واپس کر دوں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ فرمایا ایسا مت کرو۔

(۴۱۳) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ لَيْسَ لَهُ

کوئی شخص ایسی چیز کو فروخت کرے جس کا وہ مالک نہیں ہے

(۲۳۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْبَائِعِ . (احمد ۵/ ۱۸ - دارقطنی ۲۹)

(۲۳۲۲۶) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کا سامان گم یا چوری ہو جائے، پھر وہ اپنا سامان کسی شخص کے قبضہ میں دیکھے تو مالک اُس کا زیادہ حق دار ہے، اور مشتری اپنے نقصان کے لئے بائع سے رجوع کرے گا۔

(۲۳۲۲۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سَمَّاكٍ ، عَنْ حَجَّارِ بْنِ أَبَجَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ ، فَأَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْبَيْعَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ : ادْفَعْ إِلَيَّ هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتَّبِعْ مِنِّي اشْتَرَيْتَ مِنْهُ .

(۲۳۲۲۷) حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص کے قبضہ میں کپڑا تھا، دوسرے شخص نے اُس پر گواہ قائم کر دیے کہ کپڑا اُس کا ہے، حضرت علیؓ نے اُس سے فرمایا: اس کا کپڑا اس کے سپرد کر دے اور جس سے تو نے خریدا ہے اُس سے اپنا نقصان وصول کرو۔

(۲۳۲۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتْ الْقَضَاءُ تَقْضَى فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إِذَا طَلَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى .

(۲۳۲۲۸) حضرت ابن سیرینؓ فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات یہ فیصلہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص ایسی چیز فروخت کرے جس کا وہ مالک نہیں ہے تو اگر مالک طلب کرے تو وہ مالک کی ہوگی، اور یہ مشتری اُس کا مال اُس سے لے گا۔

(۴۱۳) فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الدَّارِ

کچھ لوگ اگر کسی ایک مکان میں شریک ہوں

(۲۳۲۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الدَّارِ ، فَاشْتَرَى بَعْضُهُمْ مِنْ

بَعْضٌ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْآخِرِينَ شُفْعَةٌ .

(۲۳۲۲۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ شریک تھے، اُن میں سے بعض نے بعض سے وہ گھر خرید لیا، تو دوسرے شریکوں کو شفعہ کا حق حاصل نہیں ہے۔

(۲۳۲۳۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۲۳۰) حضرت حسن سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۲۳۱) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ابْتَعْتُ أَنَا وَرَجُلٌ دَارًا ، وَلِرَجُلٍ سُدُسٌ وَلِلْآخِرِ نِصْفٌ فَبَاعَ يَعْنِي صَاحِبِي آخِذُهُ أَنَا وَهُمْ جَمِيعًا ، أَوْ آخِذُهُ دُونَهُمْ ، قَالَ : لَا ، بَلْ تَأْخِذُهُ دُونَهُمْ .

(۲۳۲۳۱) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے اور ایک دوسرے شخص نے مل کر ایک مکان خریدا، میرے ساتھی کا اس میں چھٹا حصہ ہے۔ آدھا مکان دوسرے شخص کا ہے۔ میرے ساتھی نے اپنا حصہ بیچ دیا ہے۔ کیا ہم سب اس رقم میں سے حصہ لیں گے یا صرف میں لوں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ صرف تم اس رقم میں سے حصہ لو گے۔

(۲۳۲۳۲) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ .

(۲۳۲۳۲) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ وہ سب شریک اُس میں برابر ہیں۔

(٤١٤) فِي الرَّجُلِ يَرْهِنُ الرَّهْنَ فِيهِلِكَ

کوئی شخص رہن رکھوئے اور وہ ہلاک ہو جائے

(۲۳۲۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَرَكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ رَجُلًا فَرَسًا فَتَفَقَّ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُرْتَهِنِ : ذَهَبَ حَقُّكَ .

(ابوداؤد ۱۸۸- بیہقی ۳۱)

(۲۳۲۳۳) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس گھوڑا رہن رکھوایا اور گھوڑا اُس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا، حضور اقدس ﷺ نے مرتہن سے فرمایا: تیرا حق ضائع ہو گیا۔

(۲۳۲۳۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : ذَهَبَتِ الرَّهَانُ بِمَا فِيهَا .

(۲۳۲۳۴) حضرت شریح فرماتے ہیں مرہونہ شے اپنی قیمت کے بقدر نقصان لے گئی (یعنی مقدار کم کر دی جائے گی)۔

(۲۳۲۳۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ شَرِيحٍ قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۳۵) حضرت شریح سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۲۳۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ شَرِيحٍ قَالَ : ذَهَبَتِ الرَّهَانُ بِمَا فِيهَا .

(۲۳۲۳۶) حضرت شریح بن یزید سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۲۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۲۳۷) حضرت شریح سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۲۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۳۸) حضرت حسن سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۲۳۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : الذَّهَبُ

وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَانِ ، وَالْحَيَوَانُ لَا يَتَرَادَانِ ، هُوَ مِنَ الْأَوَّلِ .

(۲۳۲۳۹) حضرت ابن علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی نجیح سے دریافت کیا کہ رہن اگر ہلاک ہو جائے؟ تو فرمایا

حضرت عطاء فرماتے ہیں: سونا و چاندی اور سامان واپس لوٹایا جائے گا۔ جبکہ حیوان نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ اوّل میں سے ہے۔

(۲۳۲۴۰) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ مِغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّهْنُ بِأَكْثَرِ مِمَّا رَهْنَهُ بِهِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِي

الْفُضْلِ ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النِّقْصَانَ .

(۲۳۲۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر رہن اُس سے زیادہ ہو جس کے لئے رہن رکھوایا ہے تو وہ زیادہ میں امین ہے، اور اگر

اُس سے کم ہو تو پھر اگر نقصان واپس کر دے تو بہتر ہے۔

(۲۳۲۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۴۱) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ رہن کی قیمت کی بقدر کمی کی جائے گی۔

(۲۳۲۴۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۴۲) حضرت ابن سیرین سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۲۴۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي

الرَّهْنِ : يَتَرَادَانِ الْفُضْلَ .

(۲۳۲۴۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق فرماتے ہیں کہ دونوں آپس میں زیادتی کو لوٹالیں گے (یعنی جس کے پاس زائد رقم

نہجے جائے گی وہ دوسرے کو واپس کر دے گا)۔

(۲۳۲۴۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَتَرَادَانِ الْفُضْلَ فِي الرَّهْنِ .

(۲۳۲۴۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۲۴۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،

قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رَهْنَهُ بِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفُضْلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقْلًا مِمَّا رَهْنَهُ

بِهِ فَهَلَّكَ رَدَّ الرَّاهِنُ الْفُضْلَ.

(۲۳۲۳۵) حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رہن اُس چیز سے زیادہ ہو جس کے لئے رہن رکھوایا تھا اور وہ ہلاک ہوگئی تو وہ ضائع ہے کیونکہ زیادتی میں وہ امین ہے، اور اگر رہن والی چیز سے کم ہو اور پھر ہلاک ہو جائے تو راہن زیادتی واپس کرے گا۔

(۲۳۲۴۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَّكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفُضْلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقْلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَّكَ ، رَدَّ الرَّاهِنُ الْفُضْلَ .

(۲۳۲۴۶) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۲۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ شِبَاكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : رَجُلٌ رَهَنَ مَنَّةَ دِرْهَمٍ بِمَانِي دِرْهَمٍ ، فَهَلَّكَتِ الْمَنَّةُ ؟ فَقَالَ : إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يَتَرَادَا فِي الْفُضْلِ .

(۲۳۲۴۷) حضرت شباک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے سو درہم رہن رکھوایا دو سو درہم کے بدلے، پھر سو درہم ہلاک ہو گئے۔ فرمایا: اگر زیادتی واپس لوٹائے تو بہتر ہے۔

(۲۳۲۴۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۴۸) حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رہن جو اس مال کے بدلہ میں ہو جائے گی جس کی وجہ سے رہن رکھی گئی ہے۔

(۲۳۲۴۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .

قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ : إِذَا كَانَ أَقْلًا ، أَوْ أَكْثَرَ سِوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

(۲۳۲۴۹) حضرت شریح سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے پوچھا کہ اگر کم یا زیادہ ہو تو برابر ہے؟ فرمایا: ہاں!۔

(۲۳۲۵۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .

(عبدالرزاق ۱۵۰۳۳ - ابن حبان ۵۹۳۳)

(۲۳۲۵۰) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: مرہونہ شے کو روک کر نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ اسی کا حق ہے جس نے اس کو رہن رکھوایا ہے۔ مرہونہ شے کی قیمت (یعنی بڑھوتی اور نمو) بھی اسی کا ہے اور اس کا تاوان بھی اسی پر ہے۔

(۲۳۲۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ مَسْعُودِ الْجَمَّحِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ دَارًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ ، قَالَ الْمُرْتَهِنُ : دَارِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ .

(۲۳۲۵۱) حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک مدت مقررہ کے لئے گھر رہن رکھوایا، جب وقت

پورا ہو گیا تو مرتب نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: رہن کو روک کر نہیں رکھا جاسکتا۔

(۲۳۲۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ ، أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ رہن اور جو کچھ اس میں تھا وہ ضائع ہو جائیں گے۔

(۲۳۲۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ ، أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۵۳) حضرت عطاء سے مرہونہ چیز اس مال کے بدلہ میں ہو جائے گی جس کی وجہ سے رہن رکھی گئی ہے۔

(۲۳۲۵۴) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُيَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا

كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفُضْلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقْلَ رُدِّ عَلَيْهِ .

(۲۳۲۵۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اگر مرہونہ چیز کی قیمت اسی شے سے زیادہ ہے جس کے بدلہ میں اس کو رہن رکھا گیا

ہے تو اس زیادتی میں وہ شخص (جس کے پاس رہن رکھی ہے) رہن سمجھا جائے گا اور اگر مرہونہ شے کی قیمت کم ہے تو باقی قیمت راہن

اس شخص کو ادا کرے گا۔

(۲۳۲۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۵۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ رہن کی قیمت بقدر قرضہ کم کر دیا جائے گا۔

(۲۳۲۵۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ جَابَانَ ، قَالَ خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَاتِمٍ ذَهَبٍ فَقَالَ : الرَّهْنُ

بِمَا فِيهِ .

(۲۳۲۵۶) حضرت جابان فرماتے ہیں کہ میں سونے کی انگوٹھی کے متعلق جھگڑتے ہوئے حضرت شریح کے پاس آیا تو مرہونہ شے

اس چیز کے بدلہ میں ہو جائے گی جس میں وہ رہن کے طور پر رکھی گئی۔

(۴۱۵) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ

والد اور بیٹے میں تفریق کرنا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْقُبُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۲۳۲۵۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ

حَارِثَةَ قَدِمَ بِعَيْنِي مِنْ أَيْلَةَ ، فَاحْتَجَّ إِلَى ظَهْرٍ فَبَاعَ بَعْضَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى

امْرَأَةً مِنْهُمْ تَبْكِي ، قَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ فَأَخْبِرْ أَنْ زَيْدًا بَاعَ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

ارْدُدْهُ أَوْ اشْتَرِهِ .

(۲۳۲۵۷) حضرت عبداللہ بن الحسین اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ ایلہ سے واپس تشریف لائے تو انہیں کچھ سامان کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے بچوں میں سے ایک کو فروخت کر دیا جب حضور اقدس ﷺ تشریف لائے تو آپ نے ان میں سے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ آنحضرت ﷺ کو بتایا گیا کہ حضرت زید نے اس کے بیٹے کو فروخت کر دیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کو واپس کرو۔ یا فرمایا کہ اس کو خرید لو۔

(۲۳۲۵۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَامِينَ سَبِيْنِ مَمْلُوكِيْنِ أَبِيهِمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتَهُ ، قَالَ : جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ ؟ قُلْتُ : فَرَّقْتُ ، قَالَ : فَادْرِكْ أَدْرِكَ . (ترمذی ۱۲۸۳۔ ابوداؤد ۲۱۸۹)

(۲۳۲۵۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے میرے ساتھ دو قیدی بچوں کو بھیجا، تاکہ میں ان کو فروخت کر آؤں۔ آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا اکتھے فروخت کیا ہے یا پھر الگ؟ میں نے عرض کیا کہ الگ، آپ نے فرمایا کہ ان کو پکڑو (یعنی واپس لے کر آؤ)۔

(۲۳۲۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ فَرُوحَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَنْ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ . (۲۳۲۵۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا: دو بھائیوں کے درمیان علیحدگی مت کرو، اکتھے فروخت کرو، یا ایک ساتھ اپنے پاس رکھو۔

(۲۳۲۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوحَ - وَرَبَّمَا قَالَ : عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا .

(۲۳۲۶۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاملوں کو تحریر فرمایا: باندی اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق مت کرو۔

(۲۳۲۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ ، قَالَ : قَالَ عِقَالُ - أَوْ حَكِيمُ بْنُ عِقَالٍ - قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى عِقَالٍ : أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ أَهْلَ بَيْتِ يَرْفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَا تَشْتَرِيَ لِي شَيْئًا تَفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَيْهِ .

(۲۳۲۶۱) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عقال کو لکھا کہ ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے سو غلام خرید کر مدینہ کی طرف ان کو لے جاؤ، لیکن ان میں کوئی ایسا غلام مت خریدو جس میں اس کے اور اس کے والدین کے درمیان تفریق لازم آئے۔

(۲۳۲۶۲) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ .

(۲۳۲۶۲) حضرت حبيب بن شہاب سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، جب مقام تُسْتَرَ فتح ہوا، تو فروخت کرتے وقت عورتوں اور ان کے بچوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے۔

(۲۳۲۶۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبَّابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي جَبَلَةَ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ : كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ .

(۲۳۲۶۳) حضرت ابن جبلة قرشی سے مروی ہے کہ وہ لوگ قیدیوں کے درمیان تفریق کرتے تھے، حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ شریف لائے اور ان سب غلاموں کو جمع فرمادیا۔

(۲۳۲۶۴) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرَّقُوا بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ .

(۲۳۲۶۳) حضرت ابراہیم، بیٹے اور والد کے درمیان جدائی نہ ہو جائے یا بھائیوں کے مابین جدائی نہ ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے غلاموں کی بیع ہی نہ کرتے تھے، (ناپسند کرتے تھے)

(۲۳۲۶۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَغْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ . (ابن ماجہ ۲۲۳۸۔ احمد ۳۸۹)

(۲۳۲۶۵) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے پاس کوئی بچہ لایا جاتا تو آپ تمام اہل بیت کو وہ بچہ دے دیتے تاکہ ان کے مابین تفریق نہ ہو۔

(۲۳۲۶۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَانُ إِلَى أَبِي أَبِي أَنْ اشْتَرِ لِي مِئَةَ أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَالِدِهِ .

(۲۳۲۶۶) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عقال کو لکھا کہ ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے سو غلام خرید کر مدینہ کی طرف ان کو لے جاؤ، لیکن ان میں کوئی ایسا غلام مت خریدو جس میں اُس کے اور اُس کے والدین کے درمیان تفریق لازم آئے۔

(۲۳۲۶۷) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ أَنْ يُفَرَّقَا بَيْنَ الْأُمِّهِ وَالْوَالِدِهَا .

(۲۳۲۶۷) حضرت حسن اور حضرت محمد باندی اور اُس کی اولاد کے درمیان تفریق کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۲۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ ، وَيَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ ، أَوْ أُوصِفَتْ .

(۲۳۲۶۸) حضرت حسن اس کو ناپسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر وہ بلوغ کی حد کو پہنچ جائے تو پھر تفریق کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۲۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ طَلْحِقِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّهِ وَالْوَالِدِهَا فِي السَّبْيِ . (ابن ماجہ ۲۲۵۰۔ دارقطنی ۲۵۳)

(۲۳۲۶۹) حضور اقدس ﷺ نے بیع کرتے وقت باندی اور اُس کی اولاد میں تفریق کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۳۲۷۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ أَيْضًا أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهَا .

(۲۳۲۷۰) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کو لکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اگر ایک ہی گھر کے کچھ افراد کسی کے غلام ہوں تو کیا وہ فروخت کرتے وقت ان کے درمیان جدائی کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، لیکن ناپسندیدہ ہے۔

(۲۳۲۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَافِ ، عَنْ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَلَا يَفْرُقَ بَيْنَهُمْ .

(۲۳۲۷۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ریح بن عبد اللہ کو لکھا کہ شاہی غلاموں کو بیچ دو۔ لیکن ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے غلاموں کو اکٹھے بیچنا تا کہ ان میں تفریق نہ ہو جائے۔

(۲۳۲۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَلَا تَفْرُقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهَا .

(۲۳۲۷۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ قیدیوں اور ان کی اولاد کے درمیان فروخت کرتے وقت جدائی مت کرو۔

(۲۳۲۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَشَّتُ أَنَّ ابْنَ لَابِنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : تَكْرَهُ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ أَيْنِهَا وَقَدْ فَرَّقَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي !؟

(۲۳۲۷۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ابن عمر کے ایک بیٹے نے ان سے یہ شکایت کی کہ آپ بچہ اور اس کی والدہ کے مابین تفریق کو ناپسند سمجھتے ہیں جبکہ آپ نے میرے اور میری والدہ کے درمیان جدائی کر دی ہے۔

(۲۳۲۷۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ رَفَعَهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ أُعْطِيَ أَهْلَ الْبَيْتِ : أَهْلَ الْبَيْتِ ، كَرَاهِيَةً أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَهُمْ .

(۲۳۲۷۴) حضرت ابو جعفر سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس جب قیدی بچے آتے تو آپ ﷺ ایک خاندان کو اس کے خاندان سے غلام اور بچے عطا فرماتے تا کہ ان میں تفریق نہ ہو۔

(۴۱۶) مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَفَعَلَهُ

جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے

(۲۳۲۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ بَاعَ بِنْتَ جَارِيَةٍ لَهُ ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ كَانُوا يُكْرَهُونَ التَّفْرِيقَ ؟ قَالَ : بَلَى ! وَلَكِنْ أُمَّهَا رَضِيَتْ وَقَدْ وَضَعَتْهَا مَوْضِعًا .

(۲۳۲۷۵) حضرت ابراہیم نے اپنی باندی کی بیٹی کو فروخت کر دیا، حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا ماں اور

بیٹی کے درمیان جدائگی کو ناپسند نہیں کیا گیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا: لیکن اس کی ماں راضی تھی ان سے، اس کی جگہ ایک اور بھی جن دی ہے۔

(۲۳۲۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ الْمُوَلَدَاتِ .

(۲۳۲۷۶) حضرت عامر، حضرت عطاء اور حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ماں اور اولاد کے درمیان فروخت کرتے وقت تفریق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۲۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ ، أَوْ أُوصِفَتْ . وَقَالَ وَكِيعٌ : السُّبِّيُّ لَا يَفْرُقُ بَيْنَهُمْ ، فَأَمَّا الْمُوَلَدَاتُ إِذَا اسْتَعْنَيْنِ عَنْ أُمَّهَاتِهِنَّ فَلَا بَأْسَ .

(۲۳۲۷۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بچے اگر حد بلوغ کو پہنچ گئے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ قیدیوں کے درمیان جدائی نہیں کریں گے، اور اگر بچے ماؤں سے بے نیاز ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۲۷۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَأَمَّا الْمُوَلَدُونَ فَلَا بَأْسَ . (۲۳۲۷۸) حضرت عامر اور حضرت ابو جعفر قیدیوں کے درمیان تفریق کرنے کو ناپسند کرتے تھے، البتہ نومولود بچوں کے ساتھ ایسا کرنے میں حرج نہ سمجھے تھے۔

(۴۱۷) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَغْلَطُ فِيهِ

کوئی شخص بیع کرے پھر اس کو غلطی لگ جائے

(۲۳۲۷۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا غَلْطَ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي لَا غَلْطَ . (۲۳۲۷۹) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں غلطی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی فروخت کرنے کے بعد یہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوگئی۔

(۲۳۲۸۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الْغَلْطَ . (۲۳۲۸۰) حضرت ابن سیرین اس بیع کو نافذ نہ فرماتے تھے۔

(۲۳۲۸۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا ثَوْبًا فَقَالَ : غَلِطْتُ ، فَقَالَ : الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ ، وَقَالَ الْقَاسِمُ : يَرُدُّهُ .

(۲۳۲۸۱) حضرت عامر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ گھڑا فروخت کیا پھر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگئی، حضرت

شمسی نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ بیع دھوکے کا نام ہے اور حضرت قاسم نے فرمایا: گھڑا اس کو واپس کرے گا۔
 (۲۳۲۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ
 بِعَشْرَةِ أْبَعْرَةٍ فَجَعَلَ يُعْطِي بِالْبَعِيرِ مِنْهُ وَثَلَاثِينَ ، وَمِئَةً وَعِشْرِينَ ، فَيَأْتِي ، فَاتَاهُ رَجُلٌ مِنَ النَّحَّاسِينَ فَقَالَ :
 قَدْ أَخَذْتُهَا مِنْكَ بِالْفِئِ أْفَرَعٍ ، فَبَاعَهَا ، فَلَمَّا حَسَبَ حِسَابَهَا نَدِمَ ! فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ وَقَالَ :
 الْبَيْعُ خُدْعَةٌ .

(۲۳۲۸۲) حضرت عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص کچھ اونٹ لے کر آیا، اُس کو ایک اونٹ کے ایک سو تیس، ایک سو
 بیس درہم دیئے گئے تو اس نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، اس کے پاس نحاسین میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ میں تجھ سے ہزار
 کے بدلے سارے اونٹ خریدتا ہوں۔ اس دیہاتی نے اس کو فروخت کر دیا پھر بعد میں دیہاتی نے جب حساب لگایا تو بہت نادام ہوا
 اور اپنا جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گیا، آپ نے بیع کو نافذ فرمایا اور فرمایا بیع دھوکے کا نام ہے۔

(۴۱۸) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ لِمَنْ تَكُونُ زِيَادَتُهُ؟

کوئی شخص کھانا خریدے اور وہ زیادہ نکل آئے تو زیادتی کس کی ہوگی؟

(۲۳۲۸۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ
 حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نَقْصَانُهُ . (ابن ماجہ ۲۳۲۸ - دارقطنی ۲۳)
 (۲۳۲۸۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے کھانے کی بیع سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس میں دو صاع
 جاری نہ ہو جائیں۔ پھر زیادتی اور کمی دونوں مشتری کی ہی ہوں گی۔

(۲۳۲۸۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ
 الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ زِيَادَتُهُ لِمَنْ اشْتَرَى ، وَنَقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ .
 (۲۳۲۸۴) حضرت عبیدہ سے مروی ہے کہ اس کھانے کی بیع سے منع فرمایا ہے کہ جس میں دو صاع رائج نہ ہو جائیں۔ زیادتی
 مشتری کے لئے اور نقصان بائع پر ہوگا۔

(۲۳۲۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي
 الطَّعَامَ أَيَبِيعُهُ بَكِيلِهِ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ .
 (۲۳۲۸۵) حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کھانا خریدا ہے تو کیا وہ کیل کر کے اُس کو
 فروخت کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ اس میں دو صاع جاری ہو جائیں پھر زیادتی اور کمی دونوں مشتری کی ہی ہوں گی۔

(۲۳۲۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ ، فَقَالَ :

إِنْ كَانَ غَلِطَ رَذَّةً، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً رَذَّةً.

(۲۳۲۸۶) حضرت شعبی اور حضرت حکم سے مروی ہے کہ کوئی شخص کھانا خریدے پھر وہ زیادہ نکل آئے، فرمایا: اگر غلط ہو گئی تھی تو واپس کر دے، اگر زیادہ ہو اس کو واپس کر دے۔

(۲۳۲۸۷) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْرُقًا الْعِجْلِيَّ يَقُولُ : لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهْوَازِ إِلَى الْبَصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُرًّا ، مَا هُوَ إِلَّا فُضِّلَ مَا بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ .

(۲۳۲۸۷) حضرت مورق العجلی فرماتے ہیں کہ ہم نے اہواز سے بصرہ کی طرف کشتی بھیجی جس میں تیس گز سامان تھا۔ اور وہ سامان صرف دو کیلوں کے مابین سے بچا ہوا سامان تھا (یعنی ایک کیلو سے دوسرا کیلو کرتے وقت جو بچ جائے یا اگر جائے)۔

(۲۳۲۸۸) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ بَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلكَ ، أَوْ نُقْصَانًا فَعَلَيْكَ .

(۲۳۲۸۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھانے کی بیع کرو، پھر اگر وہ زیادہ نکلے تو زیادتی آپ کے لئے ہے اور اگر نقصان ہو تو وہ بائع پر ہے۔

(۴۱۹) الْحَرِيُّ يُقْرَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَبْدِيَّةِ

کوئی آزاد شخص اپنے اوپر غلام ہونے کا اقرار کر لے

(۲۳۲۸۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَقْرَأَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَبْدِيَّةِ ، فَهُوَ عَبْدٌ .

(۲۳۲۸۹) حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آزاد شخص غلام ہونے کا اقرار کرے تو وہ غلام شمار ہوگا۔

(۲۳۲۹۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُسْتَرْقُ حُرٌّ بِأَقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَبْدِيَّةِ .

(۲۳۲۹۰) حضرت شعبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آزاد شخص کا اپنے اوپر غلامیت کا اقرار کرنے سے وہ غلام نہیں ہوگا۔

(۲۳۲۹۱) حَدَّثَنَا حَبْرِيُّ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لِفُلَانٍ ، أَوْ كَانَ أَبِي مَمْلُوكًا لِفُلَانٍ ، أَوْ كَانَتْ أُمِّي مَمْلُوكَةً لِفُلَانٍ ، فَقَالَ فُلَانٌ : أَنْتُمْ عِبْدِي الْيَوْمَ ، قَالَ : إِذَا كَانُوا قَدْ جَرَوْا فِي الْعِتْقِ وَعَرَفَتْ أَنَّهُمْ مَوَالٍ ، لَا يَكُونُونَ لِهَذَا مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكُهُ إِلَى الْيَوْمِ .

(۲۳۲۹۱) حضرت حارث سے مروی ہے کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں فلاں شخص کا غلام تھا، یا میرے والد فلاں کے غلام تھے یا میری والدہ فلاں کی باندی تھیں۔ وہ فلاں شخص کہنے لگا کہ تم آج میرے غلام ہو، فرمایا کہ جب وہ پہلے سے آزاد ہوں اور جان لیا جائے کہ وہ غلام ہیں تو وہ صرف دعویٰ کرنے سے غلام شمار نہ ہوں گے مگر یہ کہ وہ عادل گواہ لے آئیں۔ اور وہ گواہ گواہی دیں کہ یہ غلام ہیں۔

(۴۲۰) فِي الْمُتَّفَاوِضِينَ يُلْحَقُ أَحَدَهُمَا الدِّينُ

شریکین میں سے اگر کسی ایک پر قرضہ آجائے

(۲۳۲۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَّفَاوِضِينَ دَيْنٌ، فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

حضرت عہم فرماتے ہیں کہ شریکین میں سے کسی ایک پر قرضہ آجائے تو وہ دونوں پر لازم آئے گا۔

(۴۲۱) مَنْ قَالَ الْكَفِيلُ غَارِمٌ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کفیل ضامن ہوگا

(۲۳۲۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ أَشْعَثَ، عَنِ عَامِرٍ، عَنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: الْكَفِيلُ غَارِمٌ.

حضرت شریح فرماتے ہیں کہ کفیل ضامن ہوگا۔

(۲۳۲۹۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قُلْتُ لَشُرَيْحٍ: كَفَيْلِي حَيْلٌ دُونَهُ، وَمَالِي أُقْضَى مُسْمًى، وَمَالُ غَرِيمِي أُقْسِمَ دُونِي، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْكَفِيلُ مُحَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمٌ، وَإِنْ كَانَ مَالُكَ أُقْضَى مُسْمًى فَانْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُ غَرِيمِكَ أُقْسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ.

حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح سے عرض کیا: میرے کفیل نے میرے علاوہ حیلہ کیا، اور میرے مال کا فیصلہ کیا گیا اور میرے غریم کا مال میرے علاوہ تقسیم کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا: اگر کفیل محیر تھا تو وہ ضامن ہے، اور تو اپنے مال کا زیادہ حق دار ہے، اور اگر تیرے غریم کا مال تیرے علاوہ تقسیم کر دیا گیا تو وہ حصوں کے ساتھ ہوگا۔

(۲۳۲۹۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنِ شُرَيْحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوُدَاعِ يَقُولُ: الدِّينُ مَقْضَى وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ. يَعْنِي: الْكَفِيلَ.

حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حضور اقدس ﷺ کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا کہ قرضہ کو بہر صورت اتارنا ضروری ہے اور کفیل ضامن ہے۔ (قرضے کی ادائیگی کرنے والا ہے۔)

(۴۲۲) فِي قَوْلِهِ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾

قرآن کی آیت ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ کا بیان

(۲۳۲۹۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ وَطَارُوسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ قَالَ: مَالٌ وَأَمَانَةٌ.

(۲۳۲۹۶) حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارشاد ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ سے مراد مال اور امانت ہے۔

(۲۳۲۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَدَاؤُهُ وَمَالُهُ .

(۲۳۲۹۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس کا مال مراد ہے۔

(۲۳۲۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكَيْعٌ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَجِيْدَةَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى .

(۲۳۲۹۸) حضرت عجدہ فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ نماز پڑھے۔

(۲۳۲۹۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَيْرُهُ : أَدَاؤُهُ وَمَالُهُ .

(۲۳۲۹۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس کا مال مراد ہے۔

(۲۳۳۰۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى .

(۲۳۳۰۰) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ نماز پڑھے۔

(۲۳۳۰۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ : دِينًا وَأَمَانَةً .

(۲۳۳۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں خیراً سے مراد دین اور امانت ہے۔

(۲۳۳۰۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : أَدَاءٌ وَأَمَانَةٌ .

(۲۳۳۰۲) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ ادا اور امانت مراد ہے۔

(۲۳۳۰۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَالًا .

(۲۳۳۰۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مال مراد ہے۔

(۲۳۳۰۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بْنُ مِعْوَلٍ ، عَنْ مِغْيَرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صِدْقًا وَوَفَاءً .

(۲۳۳۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ خیراً سے صدق و وفا مراد ہے۔

(۲۳۳۰۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَالًا .

(۲۳۳۰۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس سے مال مراد ہے۔

(۲۳۳۰۶) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْخَيْرُ : الْمَالُ .

(۲۳۳۰۶) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں خیراً سے مراد مال ہے۔

(۲۳۳۰۷) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ فَكَاتَبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالَ : كَائِنَةَ أَخْلَاقِهِمْ مَا كَانَتْ .

(۲۳۳۰۷) حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے اخلاق جیسے بھی ہوں۔

(۲۳۳۰۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي قُرَيْبَةَ : ﴿ فَكَاتَبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالَ : الْخَيْرُ : الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ : الْإِسْلَامُ وَالْغِنَى .

(۲۳۳۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں خیراً سے مراد قرآن اور اسلام ہے۔ اور حضرت سعید بن ابوالحسن فرماتے ہیں کہ اس سے اسلام اور غنی مراد ہے۔

(۴۲۳) فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ

کوئی شخص بغیر اجازت کفیل بن جائے

(۲۳۳۰۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ كَفَّلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا فَأَذَاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هِيَ حِمَالَةٌ تَحْمَلُهَا .

(۲۳۳۰۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت و حکم کفیل بن جائے اور مکفول کی طرف سے ادائیگی کر دے تو مکفول پر کچھ لازم نہیں ہے۔ وہ تو بوجھ اٹھانے والا ہے جو اس نے اٹھایا ہے۔

(۴۲۴) فِيْمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ

جس کی گواہی قبول نہیں ہے

(۲۳۳۱۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَى النَّبِيِّ : أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَلِيمٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

(۲۳۳۱۰) حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عوف سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے منادی کو ندا لگانے کا حکم فرمایا۔ اُس نے لوگوں کو آواز دی یہاں تک کہ نبی کی طرف پہنچے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگو! آگاہ رہو مد مقابل اور مشکوک کی گواہی قابل قبول نہیں، اور بے شک قسم تو مدعی علیہ پر ہے۔

(۲۳۳۱۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَرَدْتُ شَهَادَةَ بَيْتَةِ الْخَصْمِ ، وَالْمَرْبِيبِ ، وَدَافِعِ الْمُغْرَمِ ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَالْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ .

(۲۳۳۱۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں چھ آدمیوں کی گواہی کو رد کرتا ہوں۔ خصم کی، شکی کی، اور ایسے آدمی کی کہ جس نے تاوان دینا ہو۔ شریک کی شریک کے حق میں، اجیر کی مستاجر کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں۔

(۲۳۳۱۲) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ ، وَلَا مَتَّهِمٍ .

(۲۳۳۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ طلاق کے معاملہ میں شکی (نا قابل اعتبار) اور متہم بالکذب کی گواہی جائز نہیں ہے۔

(۲۳۳۱۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ : خَصْمٍ ، وَلَا مَرِيْبٍ ، وَلَا دَافِعٍ مَعْرُومٍ ، وَلَا الشَّرِيكَ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا الْأَجِيرَ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ .

(۲۳۳۱۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں چھ آدمیوں کی گواہی کو رد کرتا ہوں۔ خصم کی، شکی کی، ایسے شخص کی کہ جس نے تاوان دینا ہو۔ شریک کی شریک کے حق میں، اجیر کی مستاجر کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں۔

(۴۶۵) فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ

بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی

(۲۳۳۱۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجَ لِامْرَأَتِهِ .

(۲۳۳۱۴) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ بیٹے کی باپ کے حق میں، باپ کی بیٹے کے حق میں، بیوی کی شوہر کے حق میں اور شوہر کی بیوی کے حق میں گواہی قبول نہیں۔

(۲۳۳۱۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجَ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا السَّيِّدَ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الشَّرِيكَ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ .

(۲۳۳۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ والد کی گواہی بیٹے کے حق میں، بیٹے کی گواہی والد کے حق میں، عورت کی شوہر کے حق میں، خاوند کی بیوی کے حق میں، غلام کی آقا کے حق میں، آقا کی غلام کے حق میں، شریک کی گواہی شریک کے حق میں اور اسی طرح ہر ساتھی کی اپنے ساتھی کے حق میں گواہی قبول نہیں۔

(۲۳۳۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ .

(۲۳۳۱۶) حضرت عامر بیٹے کی گواہی والد کے حق میں جائز نہ سمجھتے تھے۔ بیوی کی گواہی خاوند کے حق میں جائز نہ سمجھتے تھے۔ والد کی گواہی بیٹے کے حق میں جائز قبول سمجھتے تھے۔ اور خاوند کی گواہی بیوی کے حق میں قبول فرماتے تھے۔

(۲۳۳۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِإِيْبِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الْإِيْبِ لِأِيْبِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا .
 حضرت حسن فرماتے ہیں والد کی گواہی بیٹے کے حق میں، اور بیٹے کی گواہی والد کے حق میں، اور خاوند کی گواہی بیٹے کے حق میں، اور بیوی کی گواہی خاوند کے حق میں قبول نہیں۔

(۲۳۳۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرَفَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَارَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِامْرَأَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ زَوْجٌ ، فَقَالَ : وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا .

(۲۳۳۱۸) حضرت شیبہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے خاوند کی گواہی بیوی کے حق میں قبول فرمائی، آپ کو کہا گیا کہ یہ تو اس کا خاوند ہے، آپ نے فرمایا: بیوی کے حق میں اس کے خاوند کے علاوہ اور کون گواہی دے گا۔

(۲۳۳۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا .
 حضرت ابن ابی لیلی خاوند کی گواہی بیوی کے حق میں قبول فرماتے تھے، اور بیوی کی گواہی خاوند کے حق میں قبول نہ فرماتے تھے۔

(۲۳۳۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَارَ شَهَادَةَ أَبِي وَزَوْجٍ .
 حضرت شریح والد اور خاوند کی گواہی قبول فرماتے تھے۔

(۲۳۳۲۱) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ فَأَجَارَ شَهَادَتِي .

(۲۳۳۲۱) حضرت سلیمان بن ابوسلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر بن حزم کے پاس اپنے والد کی گواہی دی، انہوں نے میری گواہی کو قبول فرمایا۔

(۴۶۶) شَهَادَةُ أَهْلِ الشَّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

مشرکین کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا

(۲۳۳۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَارَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ .

(۲۳۳۲۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجوسی کی یہودی اور نصرانی کے خلاف گواہی قبول کی۔

(۲۳۳۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۳۳۲۳) حضرت شریح اہل کتاب میں سے بعض کی گواہی بعض پر قبول فرماتے تھے۔

(۲۳۳۲۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ .

(۲۳۳۲۳) حضرت عامر نے یہودی کی نصرانی پر اور نصرانی کی یہودی پر گواہی قبول فرمائی۔

(۲۳۳۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ السُّلَمِيُّ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِخَفَافِهِمْ نَفْعٌ .

(۲۳۳۲۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے مشرکوں میں سے بعض کے قدموں پر غبار دیکھ کر ان کی گواہی قبول فرمائی۔

(۲۳۳۲۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُعَمَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّانِعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ : تَجُوزُ .

(۲۳۳۲۶) حضرت ابراہیم الصانع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے اہل کتاب میں بعض کی بعض کے حق میں گواہی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔

(۲۳۳۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَادًا؟ فَقَالَ : أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۳۳۲۷) حضرت حماد سے دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: مشرکوں میں سے بعض کی گواہی بعض پر قابل قبول ہے۔

(۲۳۳۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . قَالَ : وَقَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ .

(۲۳۳۲۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، اور کفر پورا ایک ملت و مذہب ہے۔ ان میں سے بعض کی گواہی بعض پر قبول ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح کہتے ہیں۔

(۴۲۷) مَنْ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ملتوں (مذہب) کا اختلاف ہو تو گواہی قابل قبول نہیں

(۲۳۳۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَّةُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۳۳۲۹) حضرت حسن فرماتے تھے کہ جب مذہب کا اختلاف ہو تو پھر بعض کی گواہی بعض کے حق میں قبول نہیں۔

(۲۳۳۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ .

(۲۳۳۳۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ یہودی کی نصرانی پر نصرانی کی یہودی پر گواہی قبول نہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والوں پر قبول نہیں۔

(۲۳۳۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ .

(۲۳۳۳۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والوں پر گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

(۲۳۳۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَادٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۳۳۳۲) حضرت زہری اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض کی بعض پر گواہی قبول نہیں۔

(۲۳۳۳۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۳۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شرکین کی ایک دوسرے پر گواہی ناقابل قبول ہے۔

(۲۳۳۳۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ ، قَالُوا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ .

(۲۳۳۳۴) حضرت ابراہیم، حضرت شعبی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والے پر گواہی قبول نہیں۔ یہودی کی یہودی پر اور نصرانی کی نصرانی پر قبول ہے۔

(۲۳۳۳۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ ، عَنِ الصَّحَّاحِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهَا .

(۲۳۳۳۵) حضرت صحاح ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والے پر گواہی قبول نہ فرماتے تھے۔

(۲۳۳۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ : الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ .

(۲۳۳۳۶) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے دریافت کیا کہ یہودی کی نصرانی اور نصرانی کی یہودی پر گواہی کا کیا حکم ہے؟ حضرت حکم نے فرمایا: ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والے پر گواہی قبول نہیں۔

(۲۳۳۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ .

قَالَ وَكِيعٌ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ .

(۲۳۳۳۷) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ ایک مذہب والوں کی دوسرے مذہب والوں پر گواہی قبول نہیں سوائے مسلمانوں کے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی لیلیٰ یہودی کی نصرانی پر اور نصرانی کی یہودی پر گواہی قبول نہ فرماتے تھے۔

(۴۲۸) فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

اہل کتاب کی ایک دوسرے پر گواہی

(۲۳۳۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ .

(۲۳۳۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مسلمانوں کے حق میں اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا جائز ہے (صحیح ہے)۔

(۲۳۳۳۹) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۳۳۳۹) حضرت شعبی سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا

جائز ہے۔

(۴۲۹) فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ

غلام کی کفالت کا بیان

(۲۳۳۴۰) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبَّاسٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ .

(۲۳۳۴۰) حضرت جابر اور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے کفالت نہیں ہے۔

(۴۳۰) فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ

جس کے ہاتھ حد میں کٹے ہوں اُس کی گواہی کا بیان

(۲۳۳۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ

بَعِيرًا فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ . قَالَ : وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ . (ابوداؤد ۳۹۵)

(۲۳۳۴۱) حضرت حسن سے مروی ہے کہ قریش کے ایک شخص نے چوری کی تو حضور اقدس ﷺ نے اُس کے ہاتھ کٹوا دیئے ، اور

اُس کی گواہی قبول کرتے تھے۔

(۲۳۳۴۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ ، فَاتَى عَلَيْهِ خَيْرًا .

فَقَالَ شُرَيْحٌ: نَجِيزُ شَهَادَةٌ صَاحِبِ كُلِّ حَدِّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاضِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ.

(۲۳۳۲۲) حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت شریح کی خدمت میں ایک ہاتھ کئے نے گواہی دی، اُس شخص کی اچھائی اور نیکی کی تعریف کی گئی، حضرت شریح نے فرمایا: ہم ہر اُس شخص کی گواہی قبول کرتے ہیں جس پر خدگی ہو جبکہ وہ گواہی کے دن عادل ہو، سوائے محدود فی القذف کے کیونکہ اُس کی توبہ اللہ اور اُس کے درمیان ایک معاملہ ہے۔

(۲۳۳۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ أَجَارَ شَهَادَةَ أَفْطَحَ. (۲۳۳۲۳) حضرت شریح بھی مقطوع الید کی گواہی کو قبول فرماتے۔

(۴۳۱) فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْخُصْمِ

دو خصموں کے درمیان صلح کا بیان

(۲۳۳۴۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيْعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ عَامِرٍ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ، وَقَالَ وَكِيْعٌ: فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَكَجُورٌ، وَكُلُّوْا أَنَّهُ صُلْحٌ لَكَ ذَنْتُهُ.

(۲۳۳۴۲) حضرت عامر سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی معاملہ میں پیش کیا گیا، حضرت وکیع نے فرمایا کسی چیز کے متعلق، فرمایا یہ ظلم ہے اگر صلح نہ ہوتی تو میں اس کو رد کرتا۔

(۲۳۳۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَوْلَحَتْ عَلَيَّ نُصِيحًا، وَكَمْ بَيْنَ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجَهَا، فِطْلِكَ الرِّبْيَةَ كُلَّهَا.

(۲۳۳۴۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جو عورت بھی شریح پر صلح کرے اور اُس کو بیان نہ کیا جائے کہ اُس کے خاوند نے کیا چھوڑا ہے یہ سراسر دھوکا ہے۔

(۲۳۳۴۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّعْفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمْرًا يَصْلُحُ إِلَّا مَرَّةً، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ اسْتَوَدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتْ مَتَاعَهَا، فَصَاعَتِ الدَّرَاهِمَ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: اتَّهَمْتُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَذْتُ حَمِيْنًا.

(۲۳۳۴۶) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قاضی شریح نے کو میں نے صرف ایک مرتبہ صلح کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ یوں ہوا کہ ایک شخص نے خاتون کے پاس اتنی درہم امانت رکھوائے، بعد میں خاتون نے اپنے سامان کو الٹ پلٹ کیا۔ خاتون سے وہ درہم ضائع ہو گئے۔ پس وہ جھگڑا حضرت شریح کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ پھر کیا تو اس پر تہمت لگانا چاہتا ہے؟ اُس نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا: اگر تو چاہے تو پچاس درہم وصول کر لے۔

(۲۳۳۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ: أَنَّهُ رُبَّمَا آتَاهُ الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي الشَّيْءِ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَاصْطَلِحُوا.

(۲۳۳۴۷) حضرت عبداللہ بن عبیدہ کے پاس بعض اوقات لوگ جھگڑالے کر آتے تو آپ فرماتے کہ جاؤ چلے جاؤ اور صلح کر لو۔

(۲۳۳۴۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: رُبَّمَا آتَى شُرَيْحًا الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى عَيْبِدَةَ.

(۲۳۳۴۸) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ بعض اوقات حضرت شریح کے پاس لوگ جھگڑالے کر حاضر ہوتے تو آپ فرماتے عیبیدہ کے پاس چلے جاؤ۔

(۲۳۳۴۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَزْهَرَ الْعَطَّارِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِقَارٍ، قَالَ: عُمَرُ: رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ.

(۲۳۳۴۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جھگڑنے والوں کو واپس کر دو تا کہ وہ صلح کر لیں، بے شک فیصلہ کرنے سے جھگڑنے والوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔

(۲۳۳۵۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَاصِيًا، فَأَخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دِينَارٍ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَى الْآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَعَزَلَهُ.

(۲۳۳۵۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ایک قاضی بھیجا اُس کے پاس دو شخص جھگڑالے کر آئے، اُس نے اُن میں سے ایک کو عطا کر دیا اور دوسرے کو اپنی طرف سے ایک دینار عطا کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اُس کو معزول کر دیا۔

(۴۳۲) مَنْ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْخُصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَاءَ عَلَيْهِمَا

اگر جھگڑنے والے کسی ایک کی بات پر راضی ہو جائیں

(۲۳۳۵۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا رَضِيَ الْخُصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَاءَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ.

(۲۳۳۵۱) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر جھگڑنے والے کسی ایک شخص کی بات پر راضی ہو جائیں تو اُن پر اُس کی بات پر عمل کرنا جائز ہے۔

(۲۳۳۵۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عَيْبِدَةَ، فَقَالَ: تَوَمَّرَانِي عَلَيْهِمَا؟ قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا.

(۲۳۳۵۲) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ دو شخص جھگڑتے ہوئے حضرت عبیدہ کے پاس آئے، آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں مجھے اپنا حکم اور فیصلہ تسلیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، پھر آپ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا۔

(۴۳۳) فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَتَغْيِيرِهَا

دراہم کو تبدیل کرنا اور توڑنا

(۲۳۳۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُعْنَى ابْنَ أَبِي فَرَوَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْجَنْبِ وَالْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تُحْتَجَّ عَلَيْنَا الْأُمَّمُ ، تُرِيدُ أَنْ نَغَيِّرَ تَوْحِيدَ رَبِّنَا وَاسْمَ نَبِيِّنَا؟!

(۲۳۳۵۳) حضرت غیلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے عرض کیا کہ اگر ان دراہم کو تبدیل کر دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ یہودی، عیسائی، ناپاک شخص اور مجوسی کے ہاتھوں میں جاتا ہے ان کے ہاتھ لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ دوسرے مذہب والے تم پر اعتراض کریں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ رب کی توحید اور اپنے نبی ﷺ کا نام تبدیل کر دیں؟

(۲۳۳۵۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَصَاءَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكِّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةَ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ .

(ابوداؤد ۳۳۳۳۔ حاکم ۳۱)

(۲۳۳۵۴) حضرت عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے مسلمانوں کے سکہ (دراہم) کو فاسد کرنے سے منع فرمایا جو ان کے درمیان رائج ہے مگر یہ کہ مسلمانوں کی کوئی حاجت یا مصلحت ہو تو اور بات ہے۔

(۲۳۳۵۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِتَمَّ النَّاسُ فِي ضَرْبِهِمُ الدَّرَاهِمِ الْبَيْضِ .

(۲۳۳۵۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ لوگ سفید درہم کو توڑ کر (فاسد کر کے) گنہگار ہوئے۔

(۴۳۴) فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الزَّيْفِ

کھولے سکہوں کو خرچ کرنے کا بیان

(۲۳۳۵۶) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرَوَةَ ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ زَاغَتْ عَلَيْهِ وَرِقَّةٌ فَلَا يُحَالِفُ النَّاسَ إِنَّهَا طَيِّبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجَ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ : مَنْ يَبِيعُنِي بِهِدِهِ الدَّرَاهِمِ الزَّيْفِ سَحَقَ نَوْبٍ ، أَوْ حَاجَةٌ مِنْ حَاجَتِهِ .

(۲۳۳۵۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کھولے سکہ آئیں تو اس کو لوگوں کو یوں کہہ کر قسم نہیں دینی چاہئے کہ

یہ ٹھیک ہیں۔ اُس کو چاہیے کہ ان کو بازار میں لے جائے اور یوں کہے کہ کون مجھے ان کھوٹے سکوں کے بدلے پرانا کپڑا دے گا، یا کوئی حاجت کی چیز مجھے فروخت کرے گا۔

(۲۳۲۵۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّمَانِينَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ذَرَاهِمٌ لَا تَنفِقُ عَنْهُ فَلْيَتَّعْ بِهَا ذَهَبًا ، وَلْيَتَّعْ بِالذَّهَبِ مَا يَنْفِقُ عَنْهُ .

(۲۳۳۵۷) حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس کھوٹے سکے ہوں تو ان سے سونا خرید لے، اور پھر سونے سے وہ کوئی ایسی شے خرید لے کہ جس میں سے خرچ بھی کر سکے۔

(۲۳۲۵۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ مَرْجَمٍ ، قَالَ : بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نَفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدْ لِدَلِّكَ .

(۲۳۳۵۸) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیت المال کے کھوٹے دراہم کو فروخت کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو پھر دوبارہ ایسا نہیں کیا۔

(۲۳۲۵۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يَبِيعَ نَفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ .

(۲۳۳۵۹) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو بیت المال کے کھوٹے سکے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔

(۲۳۳۶۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حُوَطِ الْعُبَيْدِيِّ ، قَالَ : جَعَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَكُنْتُ إِذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسْرْتَهُ .

(۲۳۳۶۰) حضرت حوط فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بیت المال پر مقرر فرمایا: جب بھی میرے پاس کھوٹے سکے آتے ہیں ان کو توڑ دیتا۔

(۲۳۳۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ ، وَيَقُولُ : لَا يُعْرَفُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ .

(۲۳۳۶۱) حضرت ميمون بن ابی شیبہ کے پاس جب ایک مرتبہ کھوٹا سکہ آیا تو انہوں نے اُس کو توڑ دیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔

(۲۳۳۶۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَشْتَرِي بِالذَّرَاهِمِ الزَّيْفَ وَأَبْنَاءَهُمْ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۲۳۳۶۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سيرين رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں کھوٹے سکوں کے بدلے کوئی چیز خریدتا ہوں لیکن بتا دیتا ہوں کہ یہ سکے کھوٹے ہیں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۳۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحَرَّرٍ أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ فَقَالَ : مَنْ يَبِيعُنِي عَبَا طَيِّبًا يَدْرُهُمْ خَبِيثٌ ؟ ! فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ .

(۲۳۳۶۳) حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن محرز کو دیکھا کہ آپ بازار میں تشریف لائے اور ان کے پاس کھوٹے سکے تھے۔ اور فرمایا: کون مجھے پاک انگوڑ خبیث (کھوٹے) درہم کے بدلے دے گا؟ پھر آپ نے خرید اور اس پر گواہی قائم نہ فرمائی۔

(۲۳۳۶۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الدَّرَاهِمُ النَّحَاسُ فَأَبِيعُهَا وَأَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۲۳۳۶۴) حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ اے ابوسعید میرے پاس پتیل کے کچھ درہم ہیں۔ میں ان کو بیچتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ کھوٹے ہیں فرمایا کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۳۶۵) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ وَقَالَ : مَا يَحِلُّ أَنْ يُعْرَبَ بِهِ مُسْلِمٌ .

(۲۳۳۶۵) حضرت جابر بن زید کے پاس اگر کھوٹے سکے آتے تو ان کو توڑ دیا کرتے اور فرماتے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔

(۲۳۳۶۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَرِيهِ ، فَأَعْطَانِيهِ ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ رَدِينًا لَمْ أُعْطِكُمْ .

(۲۳۳۶۶) حضرت سعید بن جبیر کے ہاتھ میں درہم تھے، میں نے عرض کیا (یعقوب) مجھے دکھلائیے، آپ نے مجھے دے دیئے اور فرمایا اگر کھوٹے ہوتے تو تمہیں نہ دیتا۔

(۴۲۵) فِي رَجُلٍ يَرَكِبُهُ الدِّينُ

کسی شخص پر دین آجائے

(۲۳۳۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ دَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ لِغُرْمَانِهِ .

(۲۳۳۶۷) حضرت معاذ بن جبلؓ پر دین آ گیا تو آنحضرت ﷺ نے ان کے مال میں سے قرض خواہوں کے لئے مال نکالا۔

(۲۳۳۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَ يَبِيعُ مَا فَوْقَ الْإِرَارِ .

(۲۳۳۶۸) حضرت شریح ازار کے اوپر جو کچھ ہوتا اس کو فروخت فرماتے تھے۔

(۲۳۳۶۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَغَالِي بِالرَّوَّاحِلِ ، وَيَسْبِقُ الْحَاجَّ ، حَتَّى أَفْلَسَ ، قَالَ : فَحَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَسْفَعَ أَسْفَعُ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ ، يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ ، فَأَذَانَ مُعْرِضًا ، فَأُصْبِحَ قَدْ دِينَ بِهِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيَأْتِنَا حَتَّى نَقْسِمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ . (مالك ۸)

(۲۳۳۶۹) حضرت بلال بن حارث سے مروی ہے کہ ایک شخص مہنگی سواریاں استعمال کرتا تھا اور حاجیوں سے آگے نکل کر چلا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ غریب ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا کہ اب بعد بے شک قبیلہ جہینہ کا اس شخص نامی شخص اپنے ویندار اور امانت دار ہونے کے لیے صرف اسی پر خوش تھا کہ اس کو سابق الحاج (یعنی حاجیوں میں سبقت کرنے والا کہا جاتا ہے) کہا جاتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقروض بن کر لوٹا ہے اور اب وہ اس وجہ سے غلام بن چکا ہے۔ جس کسی نے بھی اس سے اپنا ادھار لینا ہو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کا مال ان کو قرض خواہوں میں تقسیم کر دیں گے۔

(۲۳۳۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ ، وَلَا مَسْكَنَهُ فِي الدِّينِ .

(۲۳۳۷۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی آدمی کے غلام اور اس کے گھر کو قرضے کے بدلے میں نہیں بیچتے تھے۔

(۲۳۳۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ فَلَسَ رَجُلًا وَآجْرَهُ . (۲۳۳۷۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مفلس قرار دیا کرائے کے کام پر لگا دیا۔

(۲۳۳۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَلَسَ رَجُلًا جَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ عُرْمَانِهِ .

(۲۳۳۷۲) حضرت شریح کے سامنے جب کوئی مفلس ہوتا تو آپ جو باقی بچا ہوتا اس کو قرض خواہوں میں تقسیم فرمادیتے۔

(۴۳۶) فِي السَّلْمِ فِي الْحَرِيرِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے ریشم میں سلم کرنے کی اجازت دی ہے

(۲۳۳۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۳۳۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۳۷۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَلِيمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ بِالسَّلْمِ فِي الْحَرِيرِ .

قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : نَرَجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .

(۲۳۳۷۴) حضرت مجاہد، محمد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ریشم میں بیع سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۳۷۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْفَزَعِ بْنِ عَفِيْقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ : مَا تَقُولُ فِي السَّرَقِ ؟ قَالَ : وَمَا السَّرَقُ ؟ قُلْتُ : الْحَرِيرُ ، أَوْ شُقُقُ الْحَرِيرِ ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، إِنَّكُمْ تَسْمَوْنَ أَسْمَاءَ مُنْكَرَةً ، أَوْ لَا تَقُولُ : شُقُقُ الْحَرِيرِ ؟ قُلْتُ : فَإِنَّ لَهُ فِي السُّوقِ سِعْرًا نَشْتَرِيهِ بِسِعْرِ ، وَنَبِيعُهُ إِلَى الْعَطَاءِ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَضْتَهُ فَبِعَهُ كَيْفَ بَشْتُ .

(۲۳۳۷۵) حضرت فزع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ آپ السرق کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پوچھا السرق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ریشم یا ریشم کے ٹکڑے، آپ نے فرمایا اے عراق والو! تم بڑے نام رکھتے ہو۔ کیا تم نے شقق الحریر نام نہیں رکھا؟ میں نے کہا کہ اس کا بازار میں اچھا بھاؤ ہے۔ ہم اس کو اس بھاؤ سے خرید کر آگے پارچہ برید کو اس سے مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم خرید کر اس پر قبضہ کر لو تو پھر کسی طرح مرضی چاہو فروخت کرو۔

(۴۲۷) مَنْ كَرِهَ السَّلْمَ فِي الْحَرِيرِ

جو حضرات ریشم میں بیع سلم کرنے کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۳۳۷۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُزَنِّيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلْمَ فِي الْحَرِيرِ .

(۲۳۳۷۶) حضرت ابن معقل ریشم کی بیع سلم کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۳۷۷) حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ طَاوُوسٌ ، عَنِ السَّلْمِ فِي الْعُرُوضِ ، أَوْ قَالَ : الْعُرُوضِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ . وَسُئِلَ عَنِ السَّلْمِ فِي الْحَرِيرِ ؟ فَقَالَ : لَا أَذْرِي مَا الْحَرِيرُ .

(۲۳۳۷۷) حضرت معتمر سے مروی ہے کہ حضرت طاووس سے سامان کی بیع سلم کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں، اور ریشم کی بیع سلم کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: مجھے نہیں معلوم ریشم کیا ہے۔ (اس کا حکم کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے)۔

(۲۳۳۷۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلْمَ فِي الْحَرِيرِ .

(۲۳۳۷۸) حضرت مسروق ریشم کی بیع سلم کو ناپسند کرتے ہیں۔

(۲۳۳۷۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلْمَ فِي الْحَرِيرِ .

(۲۳۳۷۹) حضرت عامر سے بھی یہی مروی ہے۔

(۴۳۸) فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَذْهَبُ بَعْضُهُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ

کوئی شخص کسی کے پاس رہن رکھوائے اور مرتہن کے پاس کچھ حصہ ضائع ہو جائے

(۲۳۳۸۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ شَيْءٍ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ .

(۲۳۳۸۰) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ رہن ضائع ہوگا اسی حساب سے قرض کم کیا جائے گا۔

(۲۳۳۸۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ ، قَالَ : حَقُّهُ فِيمَا ذَهَبَ ، وَحَقُّهُ فِيمَا بَقِيَ .

(۲۳۳۸۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص گھر میں رہن رکھوایا تھا وہ جل کر ختم ہو گیا؟ فرمایا جو ضائع ہو گیا اس میں مرتحن کا حق ہے اور جو باقی بچ گیا ہے اس میں رہن کا حق ہے۔

(۲۳۳۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ ، قَالَ : حَقُّهُ فِي الْعُرْصَةِ .

(۲۳۳۸۲) حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس شخص کے متعلق جس نے گھر رہن رکھوایا تھا اور وہ جل کر ختم ہو گیا، فرمایا: اس کا حق گھروں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس میں ہے۔

(۲۳۳۸۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ ثَوْبًا فَاتَّكَلَّ ، قَالَ : يُلْقِي مِنْهُ بِقَدْرٍ مَا نَقَصَ مِنْ قِيَمَةِ الثَّوْبِ .

(۲۳۳۸۳) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے کپڑا رہن رکھوایا اور اس میں کچھ پھٹ گیا، فرمایا کپڑے کی جتنی قیمت کم ہو چکی ہے اس کے بقدر قرضہ کم دے گا۔

(۴۳۹) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

رہن جب مرتہن کے پاس ہو تو پھر وہ باقی قرض خواہوں سے زیادہ حق دار ہے

(۲۳۳۸۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَبِضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى .

(۲۳۳۸۴) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب مرتہن رہن پر قبضہ کر لے، پھر راہن فوت ہو جائے اور اس پر قرضہ ہو تو وہ باقی قرض خواہوں سے زیادہ حق دار ہے۔

(۲۳۳۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَعَامِرٍ ، قَالُوا : إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَلْمَرْتَهُنَّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغَرْمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى .

(۲۳۳۸۵) حضرت عطاء، حضرت سالم اور حضرت عامر سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۳۸۶) حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يَرُهْنُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبَهُ ، وَلَا يَدْعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهْنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ : الْمَرْتَهُنَّ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غَرْمَاءِ الْمَيِّتِ .

(۲۳۳۸۶) حضرت حکم سے دریافت کیا گیا کسی شخص نے رہن رکھوایا پھر وہ فوت ہو گیا، اور رہن کے علاوہ کوئی اور مال نہیں چھوڑا، اور اُس پر رہن کے علاوہ بھی قرضہ ہے؟ آپ نے فرمایا: میت کے قرض خواہوں میں سے رہن کا زیادہ حق دار مرتہن ہے۔

(۲۳۳۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ الرَّهْنُ الْمَقْبُوضُ إِذَا مَاتَ صَاحِبَهُ ، أَوْ أَقْلَسَ فَأَلْدَى هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا ، فَهُوَ بَيْنَ الْغَرْمَاءِ .

(۲۳۳۸۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر رہن پر قبضہ ہو اور اُس کا مالک فوت ہو جائے یا مفلس ہو جائے تو جس کا قبضہ ہے وہ زیادہ اُس کا حق دار ہے اور اگر قبضہ نہ ہو تو وہ قرض خواہوں میں تقسیم ہوگا۔

(۴۶۰) فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَحَدِّهِ

اکیلے شخص کی گواہی

(۲۳۳۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خَزِيمَةَ بِنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ . (ابوداؤد ۳۶۰۲ - نسائی ۶۲۳۳)

(۲۳۳۸۸) حضرت عامر سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت خذیر بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو شخصوں کے بدلے قبول فرمایا تھا۔

(۲۳۳۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجَلَزٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَّارَةَ بِنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةِ وَحْدِي ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبَسَسَ مَا صَنَعَ .

(۲۳۳۸۹) حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ میں نے اکیلے نے حضرت زرارہ بن اوفی کے پاس گواہی دی انہوں نے میری گواہی قبول کر لی، انہوں نے بہت بُرا کیا۔

(۲۳۳۹۰) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةِ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي .

(۲۳۳۹۰) حضرت ابوسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وصیت کے معاملہ میں حضرت شریح کے پاس اکیلے گواہی دی۔ انہوں نے میری گواہی قبول فرمائی۔

(۲۳۳۹۱) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ لِي شُرَيْحٌ : تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ ، وَأَمَلِي رَزِينٌ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي .

(۲۳۳۹۱) حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شریح نے کہا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ کی لکھائی ہے اور رزین نے تجھے لکھوایا ہے۔

(۲۳۳۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ : أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ عَلَى مَصْحَفٍ .

(۲۳۳۹۲) حضرت شریح نے مصحف پر ایک آدمی کی گواہی کو قبول فرمایا۔

(۲۳۳۹۳) حَدَّثَنَا شَرِيحٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ .

(۲۳۳۹۳) حضرت شریح نے ایک شخص کی گواہی کو قبول فرمایا۔

(۴۱۱) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ

کسی شخص کا دوسرے پر قرضہ ہو لیکن وہ اس کا انکار کر دے

(۲۳۳۹۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ ، ثُمَّ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى مَالٍ؟ قَالَ : لَا يُعَارِضُهُ ، يُؤَدِّي وَدِيْعَتَهُ .

(۲۳۳۹۴) حضرت ابن معقل سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کا دوسرے پر دین تھا اس نے انکار کر دیا پھر وہ اس کے لئے کسی مال پر قادر ہو گیا؟ فرمایا: وہ اس سے معاوضہ نہ کرے، وہ اس کی امانت اس کو واپس کرے۔

(۲۳۳۹۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ أَسْعَدُ .

(۲۳۳۹۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔

(۲۳۳۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ ، فَجَاءَنِي وَسَأَلَنِي وَسَأَلَ أَصْحَابَنَا ، فَقَالُوا : يَا أُخْدُهُ ، وَسَأَلْتَ ابْنَ مَعْقِلٍ؟ فَقَالَ : يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ .

(۲۳۳۹۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک کا دوسرے شخص پر مال تھا، اس نے اس کا انکار کیا، پھر اس کی کوئی چیز میرے پاس آئی، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے سوال کیا، اور ہمارے اصحاب سے بھی دریافت کیا؟ انہوں نے کہا: وہ اس سے وصول کرے گا، پھر میں نے حضرت ابن معقل سے دریافت کیا؟ انہوں نے فرمایا: وہ اس کو امانت دے اور اس سے اپنا

حق طلب کرے، اگر اُس کے پاس گواہ ہیں تو اپنا حق وصول کر لے وگرنہ اُس سے قسم اٹھوائے۔

(۲۳۳۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ﴾ .

(۲۳۳۹۷) حضرت محمد بن سیرین سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے یہ آیت تلاوتی فرمائی: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ﴾ .

(۲۳۳۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْبِضُ مَا لَمْ يَحْلَفْ .

(۲۳۳۹۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قبضہ کرے گا جب تک قسم نہ اٹھوالے۔

(۲۳۳۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدِّينُ فَيَجْحَدُهُ ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ . قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : كَذَلِكَ نَقُولُ .

(۲۳۳۹۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے دریافت کیا کہ ایک شخص پر دین ہے اور وہ اُس کا انکار کرتا ہے، پھر اُس کے بعد اُس شخص کا مال آ گیا؟ حضرت حکم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اُس کو خوف نہ ہو کہ اُس سے قسم اٹھوائی جائے گی تو وہ قبضہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۴۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ : لَا تَخْنِ الْخَائِنَ خِيَانَتَهُ تَكْفِيكَ . (۲۳۴۰۰) حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ: خائن کے ساتھ خیانت مت کر، اُس کی خیانت تیرے لئے کافی ہے۔

(۲۳۴۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْكِينُ أَبُو هُرَيْرَةَ التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا تَخُونَهُ . (۲۳۴۰۱) حضرت مجاہد سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اُس کے ساتھ خیانت مت کرو۔

(۲۳۴۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَخُونَهُ .

(۲۳۴۰۲) حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔

(۲۳۴۰۳) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ : أَنَّ أَبَا مَجَلَزٍ ، وَيَحْيَى بْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : رَجُلٌ خَانَنِي فَذَهَبَ مِنِّي بِدَرَاهِمٍ ، فَصَارَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمٌ ، أَفَلَا آخِذٌ مِنْ دَرَاهِمِهِ كَمَا آخِذٌ مِنْ دَرَاهِمِي ؟ قَالَ لِي : لَا تَأْخِذْ لِيْكَى لَا آخِذٌ ، قَالَ الْآخَرُ : لِيْكَى آخِذٌ .

(۲۳۴۰۳) حضرت ابو مجلز اور یحییٰ بن عقیل، ان میں سے ایک نے فرمایا: ایک شخص نے میرے ساتھ خیانت کی اور میرے دراہم لے کر بھاگ گیا، پھر اُس کے دراہم میرے پاس آ گئے، تو کیا جس طرح اُس نے میرے دراہم لئے ہیں اُس کے دراہم لے لوں؟

انہوں نے کہا کہ مت لے لیا کہ میں بھی نہ لوں۔ لیکن دوسرے نے جواب دیا کہ میں تو لوں گا۔

(۲۳۴.۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدُّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ . (بخاری ۳۱۴۲۔ ابوداؤد ۳۵۲۹)

(۲۳۴.۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: امانت ادا کرو اور خائن کے ساتھ خیانت مت کرو۔

(۲۳۴.۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْتَضَّ الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ ، وَلَا يَفْتَضَّرُ عَرُوضًا ، وَلَا حَيَوَانًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ . قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ .

(۲۳۴.۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر سونے کا سونے کے ساتھ اور چاندی کا چاندی کے ساتھ مقاصد کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سامان اور حیوان کا سونا، چاندی کے ساتھ مقاصد نہ کرے۔ حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کہیں گے۔

(۲۳۴.۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ أَسْعَدُ بِهِ . (۲۳۴.۶) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے اُس کے ساتھ۔

(۴۴۲) فِي الْعَبْدِ يُقْلَسُ فَيُقْرُّ بِالذِّينِ

غلام مفلس ہو جائے پھر وہ دین کا اقرار کر لے

(۲۳۴.۷) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَأَعْتَرَفَ بِالذِّينِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ . (۲۳۴.۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر غلام مفلس ہو کر دین کا اقرار کر لے تو اُس کا اقرار کرنا جائز نہیں ہے۔ (نافذ نہ ہوگا)۔

(۲۳۴.۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا بِبَيْتِهِ . (۲۳۴.۸) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ غلام کے دین کا گواہوں کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔

(۲۳۴.۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَادُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ . (۲۳۴.۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر غلام عبد مازون فی التجارة نہ ہو تو اُس کا دین کا اقرار کرنا درست نہیں ہے۔

(۴۴۳) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ

ایک شخص نے دوسرے سے کہا: میں آپ کو سامان کا بتاتا ہوں، آپ اُس میں مجھے شریک کر لیں

(۲۳۴.۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَدُلُّكَ عَلَى

الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ.

(۲۳۳۱۰) حضرت ابن سیرین اس کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ میں آپ کو سامان کا بتاتا ہوں آپ مجھے اس میں شریک کر لیں۔

(۲۳۴۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَجُلٍ قَالَ : أَذْلَكَ عَلَيَّ بَيْعٌ كَذَا وَكَذَا ، وَتُشْرِكُ فِيهِ أَحْيَى ؟ قَالَ : الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

(۲۳۳۱۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو فلاں فلاں بیچ کا بتاتا ہوں آپ اس میں میرے بھائی کو شریک کر لیں؟ فرمایا: بیع رضامندی سے ہوگی۔

(۲۳۴۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكَهُ .

(۲۳۳۱۲) حضرت شعبی پریشید اس کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کو اس شرط پر سامان کا بتائے کہ وہ اس کو اس میں شریک کر لے۔

(۴۴۴) فِي الْحَكْمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ

فیصلہ کرنے والے کا جھکاؤ خصمین میں سے کسی ایک کی طرف ہو

(۲۳۴۱۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ قَالَ : الرَّجُلَانِ يَجْلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِي ، فَيَكُونُ لِي الْقَاضِي وَإِكْرَاهُهُ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ .

(۲۳۳۱۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن پاک کی آیت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ دو شخص قاضی کے سامنے بیٹھیں گے، تو قاضی کی سختی اور ناپسندیدگی دونوں میں سے ایک پر ہوگی۔

(۲۳۴۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : مَا مِنْ حَكْمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُسِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَلَكَ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَانَ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحْهُ ، طَرَحَهُ فِي مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا .

قَالَ : وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لِأَنَّ أَقْصَى يَوْمًا آخِذٌ بِحَقِّ وَعَدْلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَنَةِ أَعْرَوْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(ابن ماجہ ۲۳۱۱۔ احمد ۱/۲۳۰)

(۲۳۳۱۴) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جو حکم بھی لوگوں کے درمیان (غلط) فیصلہ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر اس

طرح ہوگا کہ فرشتہ نے اُس کو پکڑ کر جہنم پر کھڑا کرے گا، پھر وہ اپنا سر رحمان کی طرف اٹھائے گا، اُس کو کہا جائے گا، اِس کو جہنم میں ڈال دو، اُس کو چالیس خریف کے فاصلہ پر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں یہ مجھے ایک سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

(۲۳۴۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ بَلَاءُ سُلَيْمَانَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجُرَادَةِ ، وَكَانَتِ الْجُرَادَةُ أُمَّرَأَةً ، وَكَانَ هَوَى سُلَيْمَانَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَهْلِ الْجُرَادَةِ فَيَقْضَى لَهُمْ بِهِ . (نسائی ۱۰۹۹۳ - طبری ۳۳۹)

(۲۳۳۱۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن لوگوں میں فیصلہ کرنے کے بارے میں آزمائش میں ڈالا گیا تھا وہ اہل جرادہ تھے۔ جرادہ ایک عورت کا نام ہے۔ سلمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ حق بات اہل جرادہ کی جانب سے ہوتا کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ سنا سکیں۔

(۲۳۴۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّوْحِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌ : وَيْلٌ لِدَيَّانِ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالْعَدْلِ وَقَضَى بِالْحَقِّ ، وَلَمْ يَقْضِ لَهُوَى ، وَلَا قَرَابَةَ ، وَلَا لِرَغْبَةٍ ، وَلَا لِرَهْبَةٍ ، وَجَعَلَ كِتَابَ اللَّهِ مِرَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

(۲۳۳۱۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے حاکم کی آسمانوں کے حاکم کے سامنے ہلاکت ہوگی جس دن زمین والا حاکم اوپر والے حاکم سے ملے گا۔ سوائے اس حاکم کے جس نے عدل و انصاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہوگا کسی خواہش یا رشتہ داری یا رغبت اور خوف سے مغلوب ہو کر نہیں کیا ہوگا اور اللہ کی کتاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے آئینہ بنا کر رکھا۔

(۲۳۴۱۷) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، فَذَكَرَ اللَّذَيْنِ فِي النَّارِ ، قَالَ : رَجُلٌ جَارٌ مُتَعَمِّدًا فَهَذَا فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ فَهَوَى فِي النَّارِ ، وَآخَرُ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَصَابَ فَهَوَى فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَرَادَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ ! قَالَ : كَانَ حَقَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْقَضَاءَ أَنْ لَا يَكُونَ قَاضِيًا .

(ترمذی ۱۳۲۲ - ابوداؤد ۳۵۶۸)

(۲۳۳۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی تین قسم کے ہیں، دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، پھر اُن دونوں کا ذکر فرمایا جو جہنم میں جائیں گے، فرمایا: ایک وہ شخص جو جان بوجھ کر ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرا وہ شخص جو حق و انصاف کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ غلطی کر گیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور تیسرا وہ جس کا ارادہ بھی حق کا تھا اور اس کا فیصلہ بھی درست تھا۔ سو ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رفیع سے دریافت کیا کہ آپ کے خیال میں یہ شخص جہنم

میں کیوں جائے گا جس نے حق کا ارادہ کیا لیکن اُس سے غلطی ہوگئی! فرمایا: اگر اُس کو قضاء کا علم نہیں تھا تو وہ قاضی نہ بنتا۔

(۲۳۴۱۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِقَاضٍ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : صَدَقَ أَبُو مُوسَى .

(۲۳۴۱۸) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے فیصلہ کرنا اُس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک کہ حق اُس کے لئے ایسے واضح نہ ہو جائے جیسے رات دن سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو فرمایا: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا۔

(۲۳۴۱۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ (وَفَصَلَ الْخِطَابِ) قَالَ : الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ .

(۲۳۴۱۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت و فصل الخطاب سے مراد قضاء کا علم ہے۔

(۲۳۴۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ .

(۲۳۴۲۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ گواہ اور قسم مراد ہے۔

(۲۳۴۲۱) حَدَّثَنَا جَبْرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ) قَالَ : لَيْسَتْ النُّبُوَّةُ ، وَلَكِنَّ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنَ وَالْفِقْهَ .

(۲۳۴۲۱) حضرت مجاہد قرآن کی آیت یوتی الحکمۃ من یشاء کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے نبوت مراد نہیں ہے۔ بلکہ علم، قرآن اور فقہ مراد ہے۔

(۲۳۴۲۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : (فَصَلَ الْخِطَابِ) أَمَّا بَعْدُ .

(۲۳۴۲۲) حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ و فصل الخطاب سے ابا بعد مراد ہے۔

(۲۳۴۲۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ .

(۲۳۴۲۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ گواہ اور قسم مراد ہے۔

(۲۳۴۲۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْكُمُ الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ .

(۲۳۴۲۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی فیصلہ کرنے والا غصہ کی حالت میں دو شخصوں کے درمیان فیصلہ مت کرے۔

(۲۳۴۲۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا شَهِدْتُ عَلَى لَهَوَاتٍ حَصْمٍ قَطَّ ، وَلَا لَقْنَتَهُ حُجَّتَهُ .

(۲۳۴۲۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی خصم کی غیر ضروری باتوں پر توجہ نہیں کی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی دلیل

اس کو خود سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

(۲۳۴۲۶) حَدَّثَنَا عَيْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَحْكُمُ الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ . (بخاری ۷۱۵۸ - مسلم ۱۱۳۳۲)

(۲۳۳۳۶) ابو بکر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

(۷۱۵) مَا لَا يُحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي

قاضی کے فیصلہ سے کیا چیز حلال نہیں ہوتی

(۲۳۴۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْءٌ فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (بخاری ۶۹۶۷ - مسلم ۱۱۳۳۷)

(۲۳۳۳۷) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنا جھگڑالے کر میرے پاس آتے ہو، جبکہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، شاید کہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر دلائل میں سبقت لے جائیں، اور میں تو تمہارے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا جو تم سے سنوں گا، پس جس کے لئے میں اُس کے بھائی کے حق میں سے کچھ بھی فیصلہ کروں وہ اُس کو نہ لے، بے شک وہ تو آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو قیامت کے دن اُس کے ساتھ آئے گا۔

(۲۳۴۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا ، قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْءٌ فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِي بِهَا إِسْطَاطًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَتْ : فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا : حَقِّي لِأَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا فَاذْهَبَا فَافْتِسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ اسْتَمِيحَا ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ .

(ابوداؤد ۳۵۷۹ - دارقطنی ۱۲۳)

(۲۳۳۳۸) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انصار کے دو شخص میراث کے متعلق جھگڑتے ہوئے آنحضرت ﷺ کے پاس آئے، اُن کے پاس گواہ نہ تھے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنا جھگڑالے کر میرے پاس آتے ہو میں بھی تمہاری طرح

ایک انسان ہوں، شاید کہ تم میں سے بعض بعض پر حجت ودلیل میں غالب آجائے، میں تو تمہارے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو سنتا ہوں، پس جس کے لئے اُس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ جائے تو اُس کو چاہئے کہ وہ وصول نہ کرے، بے شک وہ تو آگ کا ایک ٹکڑا ہے، جو قیامت کے دن اُس کی گردن میں آگ کا کڑا ہوگا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر وہ دونوں رونے لگے، اور ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میرا حق میرے بھائی کے لئے ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم یہ کر چکے تو اب تم دونوں جاؤ اور آپس میں تقسیم کر لو، اور حق کا ارادہ کرو اور پھر آپس میں قرعہ ڈال لو، پھر چاہئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنا حصہ اپنے بھائی کے لئے حلال کر دے۔

(۲۳۴۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ اللَّحْنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ . (احمد ۲/۳۳۲ - ابن حبان ۵۰۷۱)

(۲۳۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، شاید تم میں سے بعض بعض پر حجت ودلیل میں غالب آجائے، پس جو اپنے بھائی کا ایک ٹکڑا بھی لے گا تو وہ قیامت کے دن آگ کا ٹکڑا ہوگا۔

(۲۳۴۳۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْخُصْمِ : سَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ حَقَّ مَنْ نَقَصُوا ، إِنَّ الظَّالِمَ يَنْتَظِرُ الْعِقَابَ ، وَإِنَّ الْمَظْلُومَ يَنْتَظِرُ النَّصْرَ .

(۲۳۳۳۰) حضرت شریح جھنڈنے والوں سے فرما رہے تھے کہ: عتقیرب ظالم حق کو جان لیں گے جو انہوں نے کم کیا ہے، بے شک ظالم عقاب اور مظلوم مدد کا منتظر ہے۔

(۲۳۴۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ مِمَّا يَقُولُ لِلْخُصْمِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْضِي لَكَ ، وَإِنِّي لَأُظْنِكُ ظَالِمًا ، وَلَكِنْ لَسْتُ أَقْضِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ أَقْضِي بِمَا أَحْضَرْتَنِي ، وَإِنَّا قَضَائِي لَا يُحِلُّ لَكَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ .

(۲۳۳۳۱) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح خصم سے فرماتے، اے عبد اللہ! خدا کی قسم میں نے تیرے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تو ظالم ہے لیکن میں اپنے ظن اور خیال پر فیصلہ نہیں کرتا، میں تو اُن کو انہوں پر فیصلہ کرتا ہوں جو تو نے پیش کئے، بے شک میرے فیصلہ کرنے سے جو چیز تیرے لئے حرام ہے وہ حلال نہ ہوگی۔

(۴۴۶) فِي الْقَضَاءِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

قضاء کے متعلق جو وارد ہوا ہے

(۲۳۴۳۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ التَّمَلِيسِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ

أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ . (ترمذی ۱۳۲۳۔ ابو داؤد ۳۵۷۳)

(۲۳۳۳۲) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص قضاء کا سوال کرتا ہے اُس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جس کو قضاء پر مجبور کیا جائے، تو اُس پر آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو اُس کی راہنمائی کرتا ہے۔

(۲۳۳۳۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَارِثِ الْبُصْرِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا اسْتَقْضَى لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَوْ نَسَ لَهُ مِنَ النَّبُوءَةِ .

(۲۳۳۳۳) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کو قاضی بنایا جاتا تو نبوت سے اُس کی مدد کی جاتی۔

(۲۳۳۳۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ الْمَدِينِيِّينَ ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَكَلَّمْنَا دُبْحَ بَغِيرِ سِكِّينَ .

(۲۳۳۳۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کو قاضی بنایا گیا، گویا کہ اُس کو بغیر مٹھری کے ذبح کر دیا گیا۔

(۲۳۳۳۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِنَّمَا الْقَضَاءُ جَمْرٌ ، فَادْفَعِ الْجَمْرَ عَنْكَ بَعُوْدَيْنِ يَعْنِي الشَّاهِدَيْنِ .

(۲۳۳۳۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ قضاء ایک انگارہ ہے، گواہوں کے ذریعہ انگارے کو اپنے آپ سے دور کر دو۔

(۲۳۳۳۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ : ابْنِي لَمْ أَدْعُكُمْ ، وَلَا أَنَا مَا نَعُكُمْ إِنِ قُمْتُمْ ، وَإِنَّمَا يَقْضِي أَنْتُمْ وَإِنِّي مُتَحَرِّزٌ بِكُمْ ، فَتَحَرَّزُوا لَأَنْفُسِكُمْ .

(۲۳۳۳۶) حضرت شریح فرماتے تھے کہ میں نہ تم دونوں کو بلاتا ہوں (دعوت دیتا ہوں) اور نہ ہی تم دونوں کو کھڑا ہونے سے روکتا ہوں، بے شک فیصلہ تم دونوں کی وجہ سے کیا جائے گا، بے شک میں تو تم دونوں سے بچتا ہوں پس تم دونوں بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔

(۲۳۳۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَبِي بَحْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ - وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَقْضِ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ - قَالَ : ابْنِي لَسْتُ بِرَأْيِي أَقْضِي .

(۲۳۳۳۷) حضرت شععی سے ایک شخص نے عرض کیا کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اُس کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرمادیں، حضرت شععی نے فرمایا: میں اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرتا۔

(۲۳۳۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَمَّا أَمَرَ دَاوُدُ بِالْقَضَاءِ قُطِعَ بِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : سَلِّمُوا الْبَيْتَ وَاسْتَحْلِفُوهُمْ .

(۲۳۳۳۸) حضرت عبد الرحمن سے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو قضاء کا حکم دیا گیا تو وہ فیصلہ سے کٹ کر رہ گئے (یعنی

فیصلہ نہ کر سکے)۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی فرمائی اُن لوگوں سے گواہ کا پوچھو اور اُن سے قسم اٹھاؤ۔

(۲۳۴۳۹) حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ فِي نَفَرٍ يَسْتَعْمِلُهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: لَوْ أُرْسِلَ إِلَيَّ لَهَرَبْتُ.

(۲۳۴۳۹) حضرت عمرو سے مروی ہے کہ حضرت حکم بن ایوب نے ایک جماعت کو خط لکھ کر اُن سے قضاء کے لئے کام طلب فرمایا: حضرت جابر بن زید نے فرمایا: اگر وہ میری طرف خط ارسال کرتے تو میں تو بھاگ جاتا۔

(۲۳۴۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: لَمَّا تَوَفَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ ذُكِرَ أَبُو قَالِبَةَ لِلْقَضَاءِ فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى الشَّامَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ عَزْلَ صَاحِبِهَا، فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى الْيَمَامَةَ فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ مَثَلُ الْقَاضِي إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ سَابِحٍ فِي بَحْرٍ، وَكَمْ عَمَسَى أَنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغْرُقَ.

(۲۳۴۴۰) حضرت ایوب سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن اذنیہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوقلابہ سے عہد قضاء کا ذکر کیا گیا، وہ بھاگ کر شام آ گئے، شام کا گورنر بھی اتفاق سے اسی عرصہ میں معزول ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر یمامہ آ گئے، پھر اُس کے بعد میری اُن سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: میں نے قاضی کو سمندر میں تیرنے والے شخص کی طرح پایا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تیرنے والا ڈوبے نہیں۔

(۲۳۴۴۱) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ.

(ترمذی ۵۹۲۵۔ ابوداؤد ۳۵۶۲)

(۲۳۴۴۱) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کو لوگوں کا قاضی بنا دیا گیا، اُس کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔

(۴۴۷) فِي الْقَاضِي مَا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِهِ فِي قَضَائِهِ

قاضی کے لئے فیصلہ میں کس چیز سے آغاز اور ابتداء کرنا بہتر ہے

(۲۳۴۴۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذی ۱۳۷۷۔ احمد ۲۳۶/۵)

(۲۳۴۴۲) حضرت معاذ بن جعفر سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب اُن کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو اُن سے دریافت

فرمایا: کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو؟ حضرت معاذ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

(۲۳۴۶۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ التَّقِيفِيِّ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : يَا مُعَاذُ بِمَ تَقْضِي ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ نَبِيُّهُ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : أَوْمُ الْحَقِّ جَهْدِي ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۲۳۴۶۳) حضرت محمد بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو فرمایا اے معاذ! کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا: کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جو قرآن میں نہ ہو؟ حضرت معاذ نے فرمایا: میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جو قرآن میں بھی نہ ہو، اور اُس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ نہ کیا ہو اور اُس کے متعلق متقدمین نیک لوگوں کا فیصلہ بھی موجود نہ ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی کوشش اور رائے سے درست فیصلہ کروں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اُس کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔

(۲۳۴۶۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِذَا جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ ، وَلَا يَلْفِتْكَ عَنْهُ الرَّجَالُ ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذْ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، فَاخْتَرِ أَى الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ وَتَقْدِمَ فَتَقْدِمُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخَّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ . (نسائی ۵۳۹۹)

(۲۳۳۳۴) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کو لکھا، اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جو قرآن میں ہو تو اُس کے مطابق فیصلہ کرو اور آپ کو لوگ اُس سے آزمائش میں مبتلا نہ کریں، اور اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جو قرآن میں نہ ہو تو حضور اقدس ﷺ کی سنت کو دیکھ کر اُس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جو نہ قرآن میں ہو اور نہ ہی رسول اکرم ﷺ کی سنت میں ہو تو پھر دیکھو جس چیز پر لوگوں کا اجماع ہوا ہے اُس فیصلہ کو لے لو، اور اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جو نہ قرآن میں ہو، نہ ہی سنت رسول اللہ میں ہو اور نہ ہی آپ سے پہلے کسی نے اُس کے متعلق فیصلہ کیا ہو تو پھر دو میں سے ایک معاملہ کو اختیار کرنا، اگر اپنی رائے سے اجتہاد کر کے لوگوں سے آگے نکلتا چاہتے ہو تو تم آگے نکل سکتے ہو اور اگر خود کو موخر رکھنا چاہو تو موخر بھی رہ سکتے ہو۔ میں موخر رہے میں ہی تمہاری بھلائی سمجھتا ہوں۔

(۲۳۴۴۵) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَّغَنَا مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ فِصَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ آتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِدْ بِرَأْيِهِ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ .

(۲۳۳۳۵) حضرت عبدالرحمن بن یزید سے مروی ہے کہ ایک دن لوگ حضرت عبداللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! تحقیق ہم پر ہم پر ایسا وقت گزرا ہے کہ نہ ہم فیصلہ کریا اور نہ ہی فیصلہ کی جگہ موجود ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امارت کا کام ہمارے مقدر میں کر دیا۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پس آج کے بعد تم میں سے جس کو عہدہ قضا پیش کیا جائے، تو اُس کو چاہئے قرآن کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جو قرآن میں نہ ہو تو جو صالحین نے فیصلہ کیا ہے اُس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جو قرآن و سنت میں نہ ہو اور صالحین نے بھی اُس کے متعلق فیصلہ نہ فرمایا ہو تو پھر اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کرو، اور وہ یوں نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، پس شک میں ڈالی والی شے کو چھوڑ دو اور یقینی شے کو اختیار کرو۔

(۲۳۴۴۶) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ .

(۲۳۳۳۶) حضرت عبداللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۴۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَإِنْ آتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيَقْرَأْ ، وَلَا يَسْتَحْيِ .

(۲۳۴۴۷) حضرت عبد اللہ سے اسی طرح مروی ہے مگر اُس میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اس کو اقرار کر لینا چاہیے (یعنی مان لے کہ میں اس معاملہ کو نہیں جانتا) اور شرم نہیں کرنی چاہیے۔

(۲۳۴۴۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ ، وَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ ، فَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بَرَأِيهِ .

(۲۳۴۴۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب کوئی چیز دریافت کی جاتی اور وہ قرآن میں ہوتی اُس کے تعلق بتا دیتے، اور اگر قرآن میں نہ ہوتی اور حدیث رسول میں ہوتی اُس کو بتا دیتے، اور اگر اُس میں نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اقوال میں دیکھتے اور اگر اُس میں بھی نہ ملتی تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرتے۔

(۴۴۸) شَهَادَةُ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ

گواہ اور طالب گواہ یعنی مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا

(۲۳۴۴۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ .

(مسلم ۳۔ ابو داؤد ۳۶۰۳)

(۲۳۴۴۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۴۵۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سُرْقٍ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ . (ترمذی ۱۳۴۵۔ ابن ماجہ ۲۳۷۱)

(۲۳۴۵۰) حضرت سُرْقِ بْنِ حَنِظَلٍ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۴۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى

بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ ، قَالَ : وَقَضَى بِهَا عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .

(۲۳۴۵۱) حضرت محمد بن یحییٰ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی

تمہارے سامنے اس کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۴۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ

شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْحَقُوقِ.

(۲۳۳۵۲) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ حقوق میں گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۴۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِرَبِيعَةَ : قَوْلُكُمْ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ صَاحِبِ الْحَقِّ ؟ قَالَ : وَجَدَ فِي كِتَابِ سَعْدِ .

(۲۳۳۵۳) حضرت سوار بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیعہ سے دریافت کیا کہ آپ کا قول ہے کہ صاحب حق کے لئے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے؟ فرمایا، حضرت سعد کی کتاب میں اس طرح موجود ہے۔

(۲۳۴۵۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ : أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ كَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ بِالْكُوفَةِ مَعَ الشَّاهِدِ ، قَالَ : فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ مَشِيخَتِهِمْ ، أَوْ قَالَ : مِنْ كِبَرَانِهِمْ : شَهِدْتُ سُرَيْحًا يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .

(۲۳۳۵۴) حضرت ابو الزناد سے مروی ہے کہ حضرت عبد الحمید کوفہ میں ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمادیتے تھے، کوفہ والوں نے اُن پر انکار کیا، انہوں نے اِس کے متعلق حضرت عمر بن عبد العزیز کو خط لکھا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اُن کو لکھا کہ وہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، اُن کے بڑوں میں سے ایک نے کہا، میں حضرت شریح کے پاس حاضر تھا، انہوں نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کیا۔

(۲۳۴۵۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَصِينِ ، قَالَ : قَضَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ صَاحِبِ الْحَقِّ .

(۲۳۳۵۵) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عتبہ نے میرے خلاف صاحب حق کے لئے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

(۲۳۴۵۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَتَكِيِّ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ .

(۲۳۳۵۶) حضرت یحییٰ بن عمر ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔

(۴۴۹) فِي الْقَاضِيِ يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَسْتَقْضِي قَاضِيًّا غَيْرَهُ أَلَمْ أَنْ يَرِدْهَا؟

قاضی کے فیصلہ کے بعد دوسرے قاضی سے فیصلہ طلب کرنا، کیا اُس کو پہلے قاضی کا حکم رد

کرنے کا اختیار ہے؟

(۲۳۴۵۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسئِلَ عَنْ قَاضٍ قَضَى بِجَوْرِ ، فَقَالَ

السَّعْبِيُّ: أَمَّا الدَّحُورُ فَلَا أَقُولُ فِيهِ ، يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجُورَ ، وَلَكِنْ أَيُّمَا قَاضٍ قَضَى ، فَجَاءَ قَاضٍ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَضَائِهِ ، وَيُؤَلِّمَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ تَوَلَّى .

(۲۳۳۵۷) حضرت شعبی سے دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے ظلماً فیصلہ کیا ہو؟ حضرت شعبی نے فرمایا: ظلم کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہتا، فرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے ظلماً فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہر حال کوئی قاضی فیصلہ کرے، پھر اُس کے بعد دوسرے قاضی کے پاس فیصلہ لایا جائے، اُس دوسرے قاضی کے لئے اُس پہلے قاضی کے فیصلہ پر نظر ثانی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور جن فیصلوں کی ذمہ داری اس کی تھی وہ اس کی کے سپرد کر دے۔

(۷۰) مَنْ قَالَ لَا يُبَاعُ حُرٌّ فِي إِفْلَاسٍ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ افلاس کی وجہ سے (میں) آزاد کے مال کو فروخت نہیں کیا جائے گا
(۲۳۴۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا يُبَاعُ حُرٌّ فِي إِفْلَاسٍ ، قَالَ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
(۲۳۳۵۸) حضرت مکحول فرماتے ہیں آزاد آدمی کو غربت کی وجہ سے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات عمر بن عبدالعزیز نے لکھی تھی۔

(۷۱) فِي الرَّجُلِ يَدْعِي قَبْلَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ

کوئی شخص دوسرے کے پاس اپنی کسی چیز کا دعویٰ کرے

(۲۳۴۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ : فِي رَجُلٍ ادَّعَى قَبْلَ رَجُلٍ مَالًا ، فَقَالَ : أُعْطِيَ كَفِيلًا مَتَى آتَى بَيْتِي ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

(۲۳۳۵۹) اگر کوئی شخص دوسرے کے پاس اپنا مال ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ جب تک میں گواہ نہ لے آؤں اس وقت تک اپنا کوئی ضامن مجھے دے دو۔ ایسے شخص کے بارے میں حضرت قتادہ اور ہاشم فرماتے ہیں کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔

(۲۳۴۶۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعِزَّارِ ، قَالَ : آتَيْتُ السَّعْبِيَّ بِرَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَقُلْتُ : خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِي مِنْهُ كَفِيلًا .

(۲۳۳۶۰) حضرت عقبہ بن ابوالعزیز ار فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ حضرت شعبی کے پاس آیا، جس پر میرا حق تو تھا لیکن اُس پر گواہ نہ تھے، میں نے عرض کیا کہ: اس سے میرے لئے کفیل لے لیں، لیکن انہوں نے میرے لئے کفیل لینے سے انکار کیا۔

(۷۵۲) فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ

کوئی شخص کسی کو قیمت لگا دے

(۲۳۷۱۱) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَّارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سَاوِمَ رَجُلًا ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنِّي أَخْشَى أَوْ أَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَكَ عَلَىٰ إِيْمَةٍ .

(۲۳۷۱۱) حضرت عبداللہ بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودرداء کو دوسرے شخص سے بھاؤ اگاتے ہوئے سنا۔ لیکن اس شخص نے قسم اٹھائی کہ میں اس شے کو بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ بعد میں وہی شے اس نے ابودرداء کو اتنی قیمت پر ہی دے دے۔ ابودرداء نے فرمایا کہ میں ناپسند سمجھتا ہوں کہ تجھ گناہ پر برا بیعت کروں۔

(۲۳۷۱۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهَبٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّهُ سَاوِمَ رَجُلًا يَبِيعُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَكَّرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ .

(۲۳۷۱۲) حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سامان کی قیمت لگائی، پھر فروخت نہ کرنے کی قسم اٹھائی، پھر اُس کو فروخت کرنے کے لئے بلایا، انہوں نے اُس کے خریدنے کو ناپسند فرمایا۔

(۲۳۷۱۳) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ مُعَاذًا سَاوِمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(۲۳۷۱۳) حضرت معاذ سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۷۱۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةٍ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَذْكُرُهُ يَمِينَهُ .

(۲۳۷۱۴) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے عرض کیا کہ: ایک شخص نے کوئی چیز فروخت نہ کرنے کی قسم اٹھائی پھر وہ اُس کو فروخت کرتا ہے، تو کیا اُس سے وہ چیز خرید لوں؟ فرمایا: جی ہاں خرید لو، اور اُس کو اس کی قسم یاد دلا دو۔

(۲۳۷۱۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، بِنَحْوِ مِنْهُ ، قَالَ : هَذَا أَحْرَزُ لِيَمِينِهِ .

(۲۳۷۱۵) حضرت ابن سیرین سے اسی طرح مروی ہے، فرمایا: یہ اس کی یمن کے لیے باعث تحفظ ہے۔

(۷۵۳) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ دَارَهُ وَيَشْتَرِطُ فِيهَا سُكْنَى

کوئی شخص گھر فروخت کر کے پھر اس میں رہنے کی شرط لگا دے

(۲۳۷۱۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَرْثَةَ بْنِ شَرَّاحِيلَ ، قَالَ : إِنَّ صَهْبِيًّا بَاعَ دَارَهُ

مِنْ عَثْمَانَ ، وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا كَذَا وَكَذَا .

(۲۳۳۶۶) حضرت مرہ ابن شراحیل سے مروی ہے کہ حضرت صہیب نے حضرت عثمان سے گھر خریدا، اور اس میں اتنا اتنا عرصہ رہنے کی شرط لگادی۔

(۲۳۳۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ تَيْمِيمًا الدَّارِيَّ بَاعَ دَارِهِ وَشَرَطَ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا مَثَلِي مَثَلُ أُمِّ مُوسَى رَدَّ عَلَيْهَا ابْنَهَا وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ رَضَاعِيهَا .

(۲۳۳۶۷) حضرت تميم: اری نے اپنا مکان فروخت کیا اور اپنی زندگی تک اس میں رہنے کی شرط لگادی، اور فرمایا کہ میری مثال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے، اُن کا بیٹا اُن کو دودھ پلانے کے لئے واپس کیا گیا، اور دودھ پلانے پر اجرت بھی اُن کو دی گئی۔

(۲۳۳۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بَاعَتَا دَارَيْنِ لَهُمَا وَاشْتَرَطَتَا سُكْنَاهُمَا حَيَاتَهُمَا . فَقَالَ : عَامِرٌ : تَسْكُنَانِ حَتَّى تَمُوتَا .

(۲۳۳۶۸) حضرت عامر سے مروی ہے کہ دو خواتین نے اپنا گھر فروخت کیا، اور دونوں نے عمر بھر اس میں رہنے کی شرط لگادی، حضرت عامر نے فرمایا وہ دونوں جب تک زندہ ہیں اس میں رہیں گی۔

(۲۳۳۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَجِيزُهُ عِنْدَنَا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ ، فَكَانَ يَرُدُّهُ .

(۲۳۳۶۹) حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی لیلیٰ ہمارے سامنے اس کو جائز قرار دیتے تھے۔ لیکن ابی لیلیٰ کے علاوہ دوسرے حضرات اس کو رد کر دیتے تھے۔

(۲۳۳۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عَرَفَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ .

(۲۳۳۷۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لئے اس کی شرط ہے۔

(۷۰۴) الرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ الْحَانِطُ

اگر کسی شخص اور اس کے پڑوسی کے درمیان سے دیوار گر جائے (یعنی منہدم ہو

جائے اور بے پردگی ہوتی ہو)

(۲۳۳۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ ، قَالَ : وَقَعَ حَانِطُ لِرَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ ، فَحَاصَمَهُ جَارُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُجْبِرْهُ عَلَى بَنَائِهِ ، وَقَالَ لِرَجَارِهِ : اذْهَبْ فَاسْتُرْ

عَلَى نَفْسِكَ.

(۲۳۳۷۱) حضرت اشعث سے مروی ہے ایک آدمی کی دیوار گر گئی۔ جو اس کے پڑوسی کے درمیان تھی۔ وہ پڑوسی قاضی شریح کے پاس اس معاملہ کو لے کر گیا۔ انہوں نے صاحب دیوار کو بنانے پر مجبور نہ کیا بلکہ پڑوسی کو حکم دیا کہ وہ خود ہی پردہ کا انتظام کر لے۔

(۴۵۵) فِي ثَوَابِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرَّفْقِ بِهِ

تنگ دست کو مہلت دینے اور اُس کے ساتھ نرمی کرنے کا ثواب

(۲۳۴۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوَجِّدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا يُخَالِطُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِغُلَامَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

(۲۳۳۷۲) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تم سے پہلی امت میں سے ایک شخص کا حساب و کتاب کیا گیا، اُس کی کوئی نیکی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ مالدار شخص تھا اور لوگوں سے معاملات کرتا تھا، اور اُس نے اپنے ماتحتوں سے کہا ہوا تھا کہ تنگ دست سے تجاوز (درگزر) کر لیا کرو، اُس کو مہلت دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا: میں اس چیز کا زیادہ مستحق ہوں، تم لوگ اس سے چشم پوشی کرو۔ (اس کو چھوڑ دو)

(۲۳۴۷۳) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْحَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ، أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۳۳۷۳) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص مقروض کو مہلت دے یا اُس کو معاف کر دے، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔

(۲۳۴۷۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ حَنِيفٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَطَّلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

(۲۳۳۷۴) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں مجاہد کی مدد کرے، یا مقروض کی تنگی میں مہلت دے، یا مکاتب کی آزادی میں مدد دے، اللہ تعالیٰ اس کو اُس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اُس کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔

(۲۳۴۷۵) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَبِيعِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عَقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحَدِيْقَةَ : حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ آتَاهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : انْظُرْ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَحَارِفَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأَحَالِطُهُمْ ، فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُؤَسِّرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ عَقْبَةُ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ .

(۲۳۴۷۵) حضرت عقبہ بن عامر نے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ سے سنی ہوئی کوئی حدیث بیان فرمادیں، حضرت خذیفہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں فرشتہ ایک شخص کی روح قبض کرنے آیا تو اس نے آدی سے سوال کیا کہ تیرا کوئی نیک عمل ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، اس سے کہا غور کر، اس نے کہا کہ مجھے سوائے اس عمل کے اور کچھ نہیں معلوم کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، میں غریب کو مہلت اور امیر سے نرمی اور چشم پوشی کا معاملہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمادیا۔

(۲۳۴۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ حَقَّكَ فِي عَقَابٍ وَافِيًا ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ . (ابن ماجہ ۲۳۲۲)

(۲۳۴۷۶) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنا حق درگزر اور معاف کرتے ہوئے وصول کرو، پورا ملے یا نہ ملے۔

(۲۳۴۷۷) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَبِيعِيٍّ ، عَنْ أَبِي الْيَسْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أظْلَمَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ .

(۲۳۴۷۷) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص تک دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔

(۴۵۶) فِيمَا لَا يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ

جس کے متعلق کلام کرنا گواہ کے لئے مناسب نہیں

(۲۳۴۷۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ لِرَجُلٍ عَلَى شَيْءٍ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ قَالَ : عَلَى بَغْلٍ فَقَالَ : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا ، قَالَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ : وَأَشْهَدُ أَنَّهُ فَاجِرٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ فَاجِرٌ ؟ قُمْ لَا شَهَادَةَ لَكَ .

(۲۳۴۷۸) حضرت عمارہ سے مروی ہے کہ حضرت شریح کے قاضی شریح کے پاس دو آدمیوں نے کسی شخص کے بارے میں کسی معاملے میں گواہی دی۔ اعمش فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ گواہی گدھے کے بارے میں تھی۔ گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے

ہیں کہ اس نے یہ گدھا فلاں سے خریدا ہے۔ پھر ان میں سے ایک گواہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا کہ یہ فاجر شخص ہے۔ شریح نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتہ ہے کہ یہ فاجر ہے کھڑا ہو جاتی تیری گواہی قبول نہیں ہے۔

(۲۳۷۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : تَقَدَّمَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ ، قَالَ : فَدَعَا بِشَاهِدٍ لَهُ فَقَالَ : أَيْنَ رَبِيعَةَ الْكُوَيْفِيُّ ، فُجَاءَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَفَرَرْتَ بِكُوَيْفِرٍ ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ .

(۲۳۷۷۹) حضرت جعد بن ذکوان سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت شریح کے پاس حاضر ہوا، اور حضرت شریح نے اُس کے گواہ کو بلایا، اُس نے کہا چھوٹا کافر ربیعہ کہاں ہے؟ حضرت شریح نے دریافت فرمایا کہ کیا تو کویفر (چھوٹے کافر) کے ساتھ اس کو پختہ کرتا ہے، پھر اُس کی گواہی کو رد فرمادیا۔

(۲۳۷۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتَيْهِمَا قَالَ : الطَّلَاقُ بَاقٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا يَنْصِفُ الصَّدَاقَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا . يَعْنِي : مِنَ الصَّدَاقِ .

(۲۳۷۸۰) حضرت سفیان سے مروی ہے کہ اگر دو شخص کسی شخص کے خلاف اس بات کی گواہی دیں کہ اُس نے بیوی کو طلاق دی ہے، پھر ان دونوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر دیا، فرمایا: اگر تو زوج نے دخول نہیں کیا تھا تو طلاق قائم رہے گی اور زوج ان گواہوں سے نصف مہر کا رجوع کرے گا اور اگر زوج دخول کر چکا تھا تو پھر گواہوں پر کوئی چیز ادا کرنا لازم نہ ہوگی۔

(۷۵۷) فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ وَيَمُوتُ الْمَوْلَى

کوئی شخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے، پھر وہ مقروض ہو جائے اور اُس کا آقا

فوت ہو جائے

(۲۳۷۸۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبُتِّيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ، وَمَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى قَبْلَ دَيْنِ الْعَبْدِ . قَالَ الْبُتِّيُّ : لَا يَعْجِزُنِي ذَلِكَ ، يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمَوْلَى ، لِأَنَّهُ أُطْلِقَ رَقَبَتُهُ .

(۲۳۷۸۱) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دی پھر وہ مقروض ہو گیا، اور آقا کا انتقال بھی اس حال میں ہوا کہ آقا مقروض ہے، فرمایا: غلام کے دین سے قبل آقا کے قرض سے ابتدا کریں گے، حضرت البتی فرماتے ہیں: مجھے اس پر تعجب نہیں ہوا: غلام کے دین سے ابتدا کریں گے آقا کے قرض سے قبل، کیونکہ اُس نے اُس کی آزادی کو مطلق رکھا ہے۔

(۷۵۸) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي حَرِيْفَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ

کوئی شخص اپنے ہی کارخانے پر آئے اور اس سے سامان خریدے

(۲۳۷۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : آتَى حَرِيْفِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ وَأَزِيْدُهُ فِي نَمِيْهِ ، وَكُوْشِنْتُ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بِدُوْنِ ذَلِكَ ، أَيَبِعُهُ مِنْهُ مُشَافَقَةً ؟ قَالَ : لَا . يَعْنِي : مُرَابِحَةً .

(۲۳۳۸۲) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا میں اپنے میں پیشہ فرد کے پاس جا کر سامان خریدتا ہوں اور پیسے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہی چیز اگر آپ خریدیں تو کم پیسوں سے خرید لیں گے۔ تو کیا میں اس سے بیچ مرابحہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔

(۷۵۹) فِي قَبْضِ النَّخْلِ كَيْفَ هُوَ ؟

کھجور کے درخت کو کیسے وصول کریں گے؟

(۲۳۷۸۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَبْضُ النَّخْلِ : أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ وَيَقْلَبَهُ .

(۲۳۳۸۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ کھجور پر قبضہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ لے اور الٹ پلٹ کر لے۔

(۷۶۰) الضَّمَانُ يَلْزِمُهُ الرَّجُلُ

کسی شخص پر ضمان کا لازم آنا

(۲۳۷۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ : إِنَّ لِمِ آتَكَ بِحَقِّكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارِي لَكَ ، فَقَالَ سُرَيْحٌ : إِنَّ أُحْطُتْ بَدُهُ رِجْلَهُ عَرِمٌ .

(۲۳۳۸۳) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں اتنا اتنا تیرا حق لے کر نہ آیا تو میرا گھر تیرا، حضرت شریح نے فرمایا: اگر اس کے ہاتھ سے غلطی ہو تو کیا پاؤں غارم ہوگا؟

(۲۳۷۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سُرَيْحٍ فَقَالَ : ابْنِي اسْتَوْدَعْتُ هَذَا وَإِنِّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَالَ سُرَيْحٌ : شَهْوُوكَ أَنْهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ .

(۲۳۳۸۵) ایک شخص حضرت شریح کے پاس آیا، اور کہا کہ میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی۔ جب وہ ضائع ہوئی تو یہ دیکھتا رہا۔ حضرت شریح نے کہا کہ اس بات پر گواہ لاؤ کہ وہ ضائع ہوئی اور یہ دیکھتا رہا۔

(۷۱) الْقَرْيَةُ تُقْبَلُ وَفِيهَا الْعُلُوجُ وَالنَّخْلُ

اس بستی کو قبول کرنا جس میں مختلف گھر بھی ہوں اور درخت بھی

(۲۳۴۸۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقَرْيَةِ يَتَقَبَّلُهَا وَفِيهَا الْعُلُوجُ وَالْبَيْوتُ وَالنَّخْلُ وَالشَّجَرُ ؟ فَكَّرِيَ ذَلِكَ .

(۲۳۴۸۶) حضرت سعید بن جبیر سے دریافت کیا گیا کہ ایسے گاؤں کو (علاقہ) قبول کریں گے جس میں گھر درخت اور کھجور کے باغ ہوں؟ آپ نے اس کو ناپسند کیا۔

(۲۳۴۸۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيَتَقَبَّلُ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فِيهَا الْعُلُوجُ وَالشَّجَرُ وَالْبَيْوتُ ؟ فَقَالَ : لَا .

(۲۳۴۸۷) حضرت ابراہیم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ: کیا آدمی ایسے زمین کو قبول کرے گا جس میں پھل اور گھر اور درخت وغیرہ ہوں؟ فرمایا کہ نہیں۔

(۲۳۴۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّهُ كَرِهَ قِبَالََةَ الرَّؤُوسِ ، وَكَمْ يَرَبِّ الْقَرْيَ بَأْسًا . (۲۳۴۸۸) حضرت ابو جعفر تعداد کے ضامن بنے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن گاؤں میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۷۲) الطَّرِيقُ إِذَا اِخْتَلَفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ ؟

راستہ سے متعلق اگر اختلاف ہو جائے تو کتنا رکھا جائے گا

(۲۳۴۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الضَّمِّيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعَ .

(بخاری ۲۳۷۳۔ مسلم ۱۳۳)

(۲۳۴۸۹) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: سات گز چوڑا راستہ رکھو۔

(۲۳۴۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعَ . (ابن ماجہ ۲۳۳۹۔ احمد ۱/۲۳۵)

(۲۳۴۹۰) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ اگر راستہ سے متعلق اختلاف ہو جائے تو سات گز کا راستہ رکھو۔

(۷۶۳) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ خَشْبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

کوئی شخص گاڈر کا ایک کنارہ پڑوسی کی دیوار پر رکھ دے

(۲۳۴۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشْبَةً عَلَى جِدَارِهِ . (احمد ۴/۳۷۷)

(۲۳۴۹۱) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ کوئی بھی شخص اپنے پڑوسی کو اس سے منع نہ کرے کہ وہ اُس کی دیوار پر لکڑی

(گاڈر) رکھے۔

(۲۳۴۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشْبَةً عَلَى جِدَارِهِ .

قَالَ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَأَيْتُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاللَّهِ لَا رَمِينَ بَيْنَ أَكْتافِكُمْ .

(بخاری ۲۳۶۳ - مسلم ۱۱۳۶)

(۲۳۴۹۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اپنے پڑوسی کو دیوار پر لکڑی

(گاڈر) رکھنے سے منع نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں اس سے اعراض کرتے ہوئے دیکھتا

ہوں؟! میں وہ لکڑی تمہارے کندھوں کے درمیان ماروں گا۔

(۲۳۴۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ يَسْمَاقٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيَبْدَعْهُ بِحَائِطِ جَارِهِ . (احمد ۳۳۵ - طبرانی ۱۱۸۰۶)

(۲۳۴۹۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو گھر بنائے اُس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی

کی دیوار کو سہارا دے۔

(۷۶۴) مَا ذَكَرَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

جھوٹی گواہی کی وعید کا بیان

(۲۳۴۹۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ رِسْعَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :

عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشَّرِكِ بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ .

(۲۳۴۹۴) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت

فرمائی: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ .

(۲۳۴۹۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُصْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ : عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشُّرْكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ . (ترمذی ۲۳۹۹ - ابوداؤد ۳۵۹۳)

(۲۳۳۹۵) حضرت خُرَیم سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صبح کی نماز ادا فرمائی پھر آپ ﷺ یہ فرماتے ہوئے پھرے کہ، جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾.

(۲۳۴۹۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ . (مالک ۷۷۰)

(۲۳۳۹۶) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خبردار ہرگز کوئی شخص اسلام میں جھوٹی گواہی نہ دے، بے شک ہم صرف عادلوں کی گواہی قبول کرتے ہیں۔

(۲۳۴۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ .

(۲۳۳۹۷) حضرت ابن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ سے مراد جھوٹی گواہی ہے۔

(۲۳۴۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَشْرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشُّرْكِ بِاللَّهِ ، وَتَلَا أَحْلَهُمَا : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ وَتَلَا الْآخَرَ F : ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ .

(۲۳۳۹۸) حضرت وائل بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، پھر ان میں سے ایک نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ اور دوسرے نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی: ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.

(۷۶۵) شَاهِدُ الزُّورِ مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟

جھوٹے گواہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے؟

(۲۳۴۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدُ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ . (عبدالرزاق ۱۵۳۸۸)

(۲۳۴۹۹) حضرت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جھوٹے گواہ کو شام کے وقت ایک چادر میں کھڑا کیا ہوا تھا اس کو ملامت کر رہے تھے۔

(۲۳۵۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَبْعَثُ بِشَاهِدِ الزُّورِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، أَوْ إِلَى سُوقِهِ : إِنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا .

(۲۳۵۰۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے جھوٹے گواہ کو مسجد یا بازار میں بھیج کر یہ اعلان کرواتے کہ: ہم نے اس کی گواہی کو رد کر دیا ہے (یہ جھوٹا ہے)۔

(۲۳۵۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيَّ الْقَاسِمُ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ الزُّورِ إِذَا أَخَذَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَانَ يَكْتُبُ اسْمَهُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَالِي بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ، يُعَلِّمُهُمْ ذَلِكَ مِنْهُ .

(۲۳۵۰۱) حضرت ابو حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف فرما تھے، فرمایا: حضرت شریح جب جھوٹے گواہ کو پکڑتے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے، میں نے عرض کیا: اس کا نام اپنے پاس لکھ دیتے اور پھر اگر وہ عرب میں سے ہوتا تو اس کو مسجد بھیج دیتے، اور اگر وہ موالی میں سے ہوتا تو اس کو بازار میں بھیج دیتے اس کے متعلق لوگوں کو بتاتے۔

(۲۳۵۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ دَكْوَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ حَفَقَاتٍ ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ .

(۲۳۵۰۲) حضرت جعد فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح کے پاس موجود تھا، آپ نے جھوٹے گواہ کے سر سے عمامہ اترا کر اس کو ”خفقات“ مروائے (خفقات سے مراد کوئی ایسا آلہ ہے کہ وہ جس سے مارا جاتا تھا۔ ممکن ہے اس سے مراد جوتے ہوں)۔

(۲۳۵۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ قَوْمًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى هَلَالِ رَمَضَانَ ، فَاتَّهَمَهُمْ فَضَرَبَهُمْ سَبْعِينَ سَبْعِينَ ، وَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ .

(۲۳۵۰۳) حضرت عبد الکریم الجزری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس کچھ لوگوں نے رمضان کے چاند کی گواہی دی، آپ نے ان کو جھوٹا قرار دیا اور ان سب کو ستر ستر کوڑے مارے اور ان کی شہادت کو باطل قرار دیا۔

(۲۳۵۰۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ الزُّورِ يُعْزَرُ .

(۲۳۵۰۴) حضرت زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہ کی تعزیر کی جائے گی۔

(۲۳۵۰۵) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شَهِدَ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا وَيُعْرَفُ النَّاسَ ، وَيُقَالُ : إِنَّ هَذَا شَهِدٌ بَزُورٍ .

(۲۳۵۰۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہ کو مارا جائے گا، اور لوگوں میں اس کو مشہور کیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا کہ

یہ جھوٹا گواہ ہے۔

(۲۳۵۰۶) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ : خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ .

(۲۳۵۰۶) حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہ کو چالیس سے کم، پینتیس یا چھتیس یا ستیس کوڑے مارے جائیں گے۔

(۲۳۵۰۷) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا .

(۲۳۵۰۷) حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے جھوٹے گواہ کو ستر کوڑے مارے۔

(۲۳۵۰۸) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْجَعْفِدِ أَبِي عُمَانَ ، قَالَ : كَانَ شَرِيحٌ إِذَا آتَى بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَكَزَعَ عِمَامَتَهُ .

(۲۳۵۰۸) حضرت شریحؒ کے پاس جب جھوٹا گواہ آتا تو آپ اس کا عمامہ اتروا کر اس کو جوتے لگواتے۔

(۶۶۶) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلْفًا بوزنٍ فقبضه بغير وزنٍ

کوئی شخص وزن کر کے چارہ خریدے اور اُس پر بغیر وزن کیے قبضہ کر لے

(۲۳۵۰۹) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلْفًا بوزنٍ فقبضه بغير وزنٍ فتلِفَ العلفُ ، فقال : هو من مالِ الِدي اشتراه .

قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِثْلَ هَذَا .

(۲۳۵۰۹) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو وزن کر کے چارہ خریدے، اور اُس پر بغیر وزن کئے قبضہ کر لے، پھر

چارہ ہلاک ہو جائے، فرمایا: وہ خریدنے والے کے مال سے ہلاک ہونا شمار ہوگا، حضرت محمدؐ جیسا بھی اس طرح مروی ہے۔

(۶۶۷) فِي رَجُلٍ قَالَ إِن فعلت كذا وكذا فغلامي حرٌّ

کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میرا غلام آزاد

(۲۳۵۱۰) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : إِن فعلت كذا وكذا فغلامي حرٌّ ، فباعه ثم فعله ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

(۲۳۵۱۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میرا غلام آزاد ہے، پھر اُس نے وہ

غلام فروخت کر کے وہ کام کر دیا، تو اُس پر کچھ بھی لازم نہ آئے گا۔

(۲۳۵۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَتَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ . وَعَنْ

الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكِيمِ وَعَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَانْتِ حُرٌّ ، فَبَاعَهُ فَدَخَلَ الدَّارَ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، قَالُوا : لَا يَعْتُقُ .

(۲۳۵۱۱) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حکم اور حضرت عطاء اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو اپنے غلام سے کہے کہ اگر میں گھر میں داخل ہوا تو میرا غلام آزاد، پھر اس نے اپنا غلام فروخت کیا اور گھر میں داخل ہو گیا، فرماتے ہیں کہ وہ آزاد نہ ہوگا۔

(۲۳۵۱۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبَابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَانْتِ حُرٌّ ، وَلَا مَرْأَتَهُ : فَانْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَبْعُ .

(۲۳۵۱۲) حضرت حسن اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میرا غلام آزاد ہے۔

(۲۳۵۱۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ وَابْنِ شُرْمَةَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَعُلَامَةٌ حُرٌّ ، أَوْ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَيَبِيعُ الْعُلَامَ ، أَوْ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَبْحَثُ فِي يَمِينِهِ ، قَالُوا : يَلْزِمُهُ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ .

(۲۳۵۱۳) حضرت ابن شرمہ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میرا غلام آزاد یا میری زوجہ کو طلاق، پھر اس نے غلام کو آزاد کر دیا یا زوجہ کو طلاق دے دی پھر اپنی قسم میں حائث ہو گیا تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس پر آزادی اور طلاق لازم ہوگی۔

(۶۶۸) فِي الْقَاضِي تَرْفَعُ إِلَيْهِ الْقِصَّةُ يَنْظُرُ فِيهَا

قاضی کے پاس کوئی قصہ لایا جائے وہ اس میں غور کرے

(۲۳۵۱۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ الْإِعْتِرَافَ فِي الْقِصَصِ .

(۲۳۵۱۴) حضرت شریح قصوں میں اعتراف کو نافذ فرماتے۔

(۲۳۵۱۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِرَاتُ بْنُ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا رَفَعَتْ إِلَيْهِ قِصَّةٌ فَقَالَ : ابْنِي لَسْتُ أَقْرَأُ الْكُتُبَ .

(۲۳۵۱۵) حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضر تھا، اس کے پاس قصہ لایا گیا، آپ نے فرمایا: میں کتاب کو پڑھنے والا نہیں ہوں۔

(۷۶۹) مَنْ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيْنَتِهِ

جو حضرات گواہ کے ساتھ قسم لیتے ہیں

(۲۳۵۱۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَرِّ مَعَ بَيْنَتِهِ .

(۲۳۵۱۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن ۷ سے گواہ کے ساتھ قسم بھی طلب کی۔

(۲۳۵۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَرِّ مَعَ بَيْنَتِهِ .

(۲۳۵۱۷) حضرت علی سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۵۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشْوَعٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : قَبِحَ اللَّهُ بَيْنَتَكَ إِنْ لَمْ تَحْلِفْ عَلَيَّ حَقًّا .

(۲۳۵۱۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے حق پر قسم نہ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گواہی سے ناراض ہوگا، (اللہ کو ناراض کرے گا)۔

(۲۳۵۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَعْوَلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : اسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيْنَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

(۲۳۵۱۹) حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں آدمی سے قسم لے سکتا ہوں جب اس کے پاس ایک گواہ موجود ہو۔ فرمایا: جی ہاں!۔

(۲۳۵۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيْنَةِ .

(۲۳۵۲۰) حضرت شریح رضی اللہ عنہ گواہ کے ساتھ قسم بھی لیتے تھے۔

(۲۳۵۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بَيْنَتَهُ ، فَقَالَ خَصْمُهُ : يَمِينُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شُهُودِهِ . فَاسْتَحْلَفَهُ فَنَكَلَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بِنَسِّ مَا أَنْتَ عَلَى شُهُودِكَ ، وَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : لَا أُعْطِيكَ حَقًّا لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ .

(۲۳۵۲۱) حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر گواہ قائم کیے اس کے خصم نے کہا: اس کی قسم مجھے اس کی گواہی سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اس سے قسم طلب کی تو اس نے انکار کر دیا۔ حضرت شریح نے فرمایا: تو نے جو اپنی گواہی کی تعریف کی ہے وہ بہت بُری ہے، اور ان کی گواہی رو ہے، حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمایا: جس حق پر تو قسم نہیں اٹھائے گا میں وہ حق تجھے نہیں دوں گا۔

(۷۰) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ السَّفِينَةَ فَتَغْرُقُ

کوئی شخص کشتی کرایہ پر لے وہ ڈوب جائے

(۲۳۵۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ شُبْرَمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى : فِي سَفِينَةٍ تَوَاجَرُ فِي الْبَحْرِ فَتَنْكَسِرُ وَفِيهَا مَتَاعٌ : قَالَ ابْنُ شُبْرَمَةَ : لَا يَضْمَنُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَضْمَنُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : لَا تَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا .
(۲۳۵۲۳) حضرت سفیان ، حضرت ابن شبرمہ اور حضرت ابن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ کشتی سمندر کے لئے اجرت پر لی جائے پھر وہ ڈوب جائے (ٹوٹ جائے) اور اُس میں سامان ہو، حضرت ابن شبرمہ نے فرمایا: وہ ضامن نہ ہوگا، حضرت ابن ابی لیلیٰ نے فرمایا: وہ ضامن ہوگا، اور حضرت سفیان نے فرمایا: ہم اُس پر رمضان کو لازم نہیں سمجھتے۔

(۷۱) فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ، لِمَنِ الْكِرَى ؟

کوئی شخص جانور ادھار لے کر کرایہ پر دے تو کرایہ کس کا ہوگا؟

(۲۳۵۲۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِيَدِهِمْ ، قَالَ الْحَكَمُ : الدَّرْهَمُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الدَّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ .
(۲۳۵۲۵) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حکم اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما سے اُس شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے جانور ادھار لے کر کرایہ پر دے دیا تو کرایہ کس کا ہوگا؟ حضرت حکم نے فرمایا: کرایہ اُسی کا ہوگا، حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کرایہ جانور والے کا ہوگا۔

(۷۲) فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِي كَانٍ فِي الْمَالِ وَلَا يَخْلِطَانِهِ

دو شخص کسی مال میں شریک ہوں لیکن لیکن اس حال کو مخلوط نہ کریں

(۲۳۵۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَا كَانًا ، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ عَشْرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطَاهَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوَى ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا ، وَقَالَ : النُّقْصَانُ وَمَا تَوَى : عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ مِنْهُ شَيْءٌ .
(۲۳۵۲۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اُن شخصوں کے متعلق جو دونوں شریک ہیں، ان میں سے ہر ایک نے دس ہزار دراهم نکالے، لیکن آپس میں ملائے نہیں، پھر ان میں سے ایک نے اپنے پاس موجودہ مال سے کام کیا لیکن سارا مال برباد ہو گیا۔ وہ دوسرے کو شریک نہیں سمجھتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ نقصان اور ہلاکت اسی پر ہوگی۔ دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔

(۲۳۵۲۵) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلَطَا أَمْوَالَهُمَا .
(۲۳۵۲۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ دو بندوں کے درمیان جب تک ان کے مال آپس میں نہ ملیں وہ شرکت نہ ہوگی۔

(۴۷۲) فِي قِصَارِ اسْتِعَانِ صَاحِبِ الثَّوْبِ فَدَقِّ مَعَهُ

دھوبی کپڑے کے مالک سے مدد مانگنے اور مالک بھی دھوبی کے ساتھ کپڑے کوٹے
(۲۳۵۲۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَارِ اسْتِعَانِ صَاحِبِ
الثَّوْبِ فَدَقِّ مَعَهُ فَحَرَقَ الثَّوْبَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْقِصَارُ .

(۲۳۵۲۶) حضرت ابن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ کپڑے والے نے دھوبی سے صفائی میں مدد طلب کی مالک نے بھی دھوبی کے
ساتھ کپڑے کوٹے، پھر کپڑا پھٹ گیا، فرمایا: دھوبی ضامن ہوگا۔

(۴۷۴) فِي الْمَرِيضِ يُبْرِيءُ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ

مریض وارث کو دین سے بری کر دے

(۲۳۵۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْمَرِيضِ
قَالَ : إِذَا أَمَّرَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِيءٌ .

(۲۳۵۲۷) حضرت ابراہیم مریض کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب وہ وارث کو دین سے بری کر دے تو وارث بری ہو جائے گا۔

(۲۳۵۲۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ سُفْيَانَ ، عَنِ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۵۲۸) حضرت حکم سے اسی طرح منقول ہے۔

(۲۳۵۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فِيمَثْلٍ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَرِذٌ وَازْدَدُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكَالُ فَمِثْلٍ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا
اخْتَلَفَ فَرِذٌ وَازْدَدُ .

(۲۳۵۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہر موزون شے برابر برابر دی اور لی جائے گی۔ اگر جنس میں اختلاف ہو جائے تو توب کی
زیادتی کر سکتے ہو۔ اسی طرح ہر کھلی چیز برابر برابر ہوگی۔ البتہ اگر اختلاف جنس ہو جائے تو توب کی زیادتی کر سکتے ہو۔

(۴۷۵) مَنْ قَالَ الْحَقُّ لَا يُبْطَلُهُ طَوْلُ التَّرِكِ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ دیر مطالبہ نہ کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا

(۲۳۵۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفْيَانَ ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْحَقُّ جَدِيدٌ ، لَا يُبْطَلُهُ طَوْلُ التَّرِكِ .

(۲۳۵۳۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ حق جدید ہی ہے، زیادہ دیر مطالبہ نہ کرنے سے وہ باطل نہ ہوگا۔

(۴۷۶) فِي رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ

کوئی شخص غلام کو چوری کر کے فروخت کر دے

(۲۳۵۳۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ آخِرِ قَمَاتٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، قَالَ : ذَهَبَتْ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِي ، وَيَتَّبِعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقِ .

(۲۳۵۳۱) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو غلام چوری کر کے آگے فروخت کر دے، پھر مشتری کے قبضہ میں غلام فوت ہو جائے تو مشتری کے دراہم ضائع ہو جائیں گے اور غلام کا مالک چور سے غلام کی قیمت وصول کرے گا۔

(۴۷۷) فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ

کوئی شخص فلوس خریدے

(۲۳۵۳۲) حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ بِالذَّرَاهِمِ هَلْ هُوَ صَرَفٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ فَلَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ .

(۲۳۵۳۲) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے دریافت کیا کہ ایک شخص دراہم کے بدلہ فلوس خریدے تو کیا یہ بیع صرف ہے؟ فرمایا ہاں یہ صرف ہے، سپردگی سے قبل جدا نہ ہو۔

(۴۷۸) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ جَمَاعَةً

کوئی شخص کپڑوں کی گٹھڑی فروخت کرے

(۲۳۵۳۳) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ جَمَاعَةً ، كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضٍ ، فَيَكُونُ فِي بَعْضِهِ خَرَقٌ ؟ قَالَ : يَرُدُّهُ بِعَشْرِ .

قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَهُ يَقُولُ : يَرُدُّهُ بِقِيَمَتِهِ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ . قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ .

(۲۳۵۳۳) حضرت ابراہیم سے اُس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا، جس نے کچھ کپڑے یہ کہہ کر فروخت کیے کہ ہر کپڑا دس درہم کا ہے، اور ان کپڑوں میں بعض کپڑے بعض سے اعلیٰ ہوں، اور بعض کپڑوں میں بعض ہوں تو کیا حکم ہے؟ وہ کپڑا دس درہم کے بدلہ میں واپس کرے گا۔

حضرت سفیان ایک اور بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ پوری گٹھڑی کے حساب سے جتنی قیمت اس کپڑے کی بنتی ہے وہی دس

گا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔

(۴۷۹) فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ

کوئی شخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے پھر اُس کو فروخت کر دے

(۲۲۵۲۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَفْضَلُ بْنُ مَهْلَهَلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ : قَالَ : يَضْمَنُ .

(۲۲۵۳۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلام کو تجارت کی اجازت دے کر پھر فروخت کر دے، تو وہ ضامن ہوگا۔

(۴۸۰) فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ

گواہ کے خلاف گواہی دینا

(۲۲۵۳۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْجَعْدِيِّ بْنِ ذَكْوَانَ : شَهِدْتَ شَرِيحًا يَقُولُ : أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ عَدْلًا .

(۲۲۵۳۵) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعد بن ذکوان سے دریافت کیا کہ آپ اُس وقت حضرت شریح کے پاس حاضر تھے جب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں گواہ کی گواہی کو نافذ قرار دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں جب کہ وہ عادل ہو۔

(۲۲۵۳۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ شَرِيحٍ : أَنَّهُ كَانَ بِجِيزِ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شُهِدَ عَلَيْهِمَا .

(۲۲۵۳۶) حضرت شریح گواہ پر گواہی کو نافذ فرماتے تھے جب اُن کے پاس گواہی دی جاتی۔

(۲۲۵۳۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شَرِيحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ .

(۲۲۵۳۷) حضرت شریح کسی گواہ کے خلاف دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتے تھیں جب تک وہ گواہ زندہ ہوں اگرچہ وہ یمن میں ہی ہو۔

(۲۲۵۳۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَ أَمْسِنًا .

(۲۲۵۳۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ گواہ پر گواہی قبول نہیں جب تک کہ وہ دوسرے ہوں۔

(۴۸۱) مَا ذُكِرَ فِي الْمَقَاوَةِ

بیع مقاواة کا بیان

(۲۳۵۲۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَقَاوَةِ .
(۲۳۵۳۹) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقاواة میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مقاواة کہتے ہیں سستے داموں سامان خرید کر پھر اُس کی آپس میں بولی لگانا یہاں تک کہ اُس کی قیمت بڑھ جائے)۔

(۴۸۲) فِي الْكُسْبِ

ہاتھ سے کمانا

(۲۳۵۴۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ كَسْبَ الْيَدِ عَلَى التَّجَارَةِ .

(۲۳۵۳۰) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ صحابہ و تابعین تجارت کر کے ہاتھ سے کمانے کو پسند فرماتے تھے۔

(۲۳۵۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (حاکم ۱۰ - بزار ۱۲۵۷)

(۲۳۵۳۱) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر اچھی بیع (بیع صحیح)۔

(۴۸۳) فِي الْبِطِيخِ وَالْقِثَاءِ وَأَشْبَاهِهِ

تربوز اور ککڑی وغیرہ کی بیع کا بیان

(۲۳۵۴۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْبِطِيخِ وَالْقِثَاءِ وَالْخِيَارِ وَالْوَرْدِ ، وَمَا لَا يَخْرُجُ جَمِيعًا ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَشْتَرَى إِلَّا مَا يَخْرُجُ جَمِيعًا .

(۲۳۵۳۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت حسن تربوز، ککڑی وغیرہ اور جو پورا نہ نکلے اُس کے متعلق کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے نہیں فروخت کیا جائے گا مگر جو پورا نکلے۔

(۴۸۴) فِي السَّلْمِ فِي الْعِنَبِ

انگور میں بیع سلم کرنا

(۲۳۵۴۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُسَلِّمُ فِي

الْعِنْبِ؟ فَلَمْ يَرِ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : قُلْتُ : أُسْلِمُ فِي الْعِنْبِ أُنَاخِذُ بُسْرًا؟ قَالَ : لَا .

(۲۳۵۴۳) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ ایک شخص انگور میں بیجِ سلم کرتا ہے؟ انہوں نے اُس میں کوئی حرج نہ سمجھا، میں نے عرض کیا کہ: میرے ساتھ انگور میں بیجِ سلم کی گئی ہے، کیا میں اُس کو خشک حالت میں لے لوں؟ فرمایا کہ نہیں۔

(۴۸۵) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَ السَّلْعَةَ إِلَّا بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ

کوئی شخص یوں قسم اٹھالے کہ وہ سامان کو فروخت نہیں کرے گا، مگر جو ثمن مقرر کر دیا ہے

اُس کے ساتھ

(۲۳۵۴۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي قَابِطٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ جَارِيَتِي حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَنْقُضِيَ الْمَوْسِمُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهَا ، فَتَرَى أَنْ نَبِيعَهَا بِأَقْلٍ مِمَّا قُلْتُ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَخَفِ السُّلْطَانَ . أَوْ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ السُّلْطَانَ عَلَيْكَ .

(۲۳۵۴۴) حضرت طاووس سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ: میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میری باندی آزاد اگر میں نے اسے اتنے اتنے ثمن سے کم میں فروخت کیا، مجھے خوف ہے کہ اس کے فروخت کرنے سے پہلے موسم حج یا عید میں قیمت کم ہو جائے گی، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اُس کو کم قیمت میں فروخت کرنا کیسا ہے؟ فرمایا اگر مجھے تمہارے بارے میں بادشاہ کا خوف نہ ہوتا تو۔

(۴۸۶) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَيْعَ بَعْضُهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضُهُ بِنَسِيئَةٍ

کوئی شخص کوئی چیز خریدے، کچھ پیسے نقد دے اور کچھ ادھار کرے

(۲۳۵۴۵) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانُ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضُهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضُهُ بِنَسِيئَةٍ : ثُمَّ يَبِيعُهُ مَرَابَحَةً ، قَالَ : يُعْلَمُ صَاحِبُهُ مِنْهُ وَمِثْلَ مَا يُعْلَمُ .

(۲۳۵۴۵) حضرت حسن اور حضرت محمد رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی کوئی چیز اس طرح خریدے کہ کچھ رقم دے دے اور کچھ ادھار کر لے پھر اُس کو مرابحہ فروخت کر دے، فرمایا فروخت کرنے والے اتنا بتائے جتنا وہ جانتا ہے۔

(۴۸۷) فِي التَّاجِرِ الصَّدُوقِ

سچے تاجر کے فضائل

(۲۳۵۴۶) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(۲۳۵۴۶) حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے پاس شہید کے رتبہ میں ہے۔

(۲۳۵۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ مَعْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ .

(۲۳۵۴۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ مَعْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ .

قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : صَدَقَ الْحَسَنُ ، أَوْ لَيْسَ فِي جِهَادٍ؟ (ترمذی ۱۳۰۹۔ دارقطنی ۱۸)

(۲۳۵۴۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سچے اور امانت دار تاجر کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: حضرت حسن نے صحیح کہا ہے کیا یہ جہاد نہیں ہے؟

(۴۸۸) فِي الرَّجُلِ يُعْتَقُ الْعَبْدَ وَيَشْتَرِي خِدْمَتَهُ

کوئی شخص خدمت کی شرط لگا کر غلام کو آزاد کر دے

(۲۳۵۴۸) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَرْطُهُ .

(۲۳۵۴۸) حضرت سعید بن المسیب نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس نے خدمت کی شرط لگا کر غلام کو آزاد کر دیا، فرمایا: جب اس نے غلام کو آزاد کیا تو اس کی شرط باطل ہوگی۔

(۲۳۵۴۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْمُوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ جَارَةَ لِسُرَيْحٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنِّي أَعْتَقْتُ جَارِيَتِي هَذِهِ ، قَالَ : فَذُ أَسْمَعُ مَا تَقُولِينَ ، قَالَتْ : وَشَرَطْتُ عَلَيْهَا خِدْمَتِي مَا دُمْتُ حَيَّةً ، فَقَالَ سُرَيْحٌ : هَا هِيَ هَذِهِ إِنْ شَأْنُكَ فَعَلْتُ .

(۲۳۵۴۹) حضرت ابو حیان التیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح کی باندی اپنی باندی لے کر حضرت شریح کی خدمت میں آئی، اور عرض کیا اے ابو امیہ! میں نے اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: جو تو کہہ رہی ہے میں وہ سن چکا ہوں، باندی نے عرض کیا کہ! جب تک میں زندہ ہوں میں نے خدمت کی شرط لگائی ہے، حضرت شریح نے فرمایا: یہ اس پر ہے، اگر

چاہے تو کرے۔

(۲۳۵۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ أَبِي كَبْرَانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ خَادِمًا لَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْتُ ، قَالَ الضَّحَّاكُ : تَعْتَقُ .

(۲۳۵۰) حضرت ضحاک نے اُس خاتون کے متعلق فرمایا جس نے اپنے خادم کو آزاد کر کے پھر استناء کر لیا، آپ نے فرمایا وہ آزاد ہے۔

(۲۳۵۱) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ أُمَّتِي هَذِهِ ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ تَلِيَّ مِنِّي مَا تَلِي الْأُمَّةَ مِنْ سَيِّدِهَا إِلَّا الْفُرُجَ ، أَوْ قَالَ : غَيْرِ الْفُرُجِ ، فَلَمَّا غَلَطَتْ رَقَبَتَهَا ، قَالَتْ : إِنِّي حُرَّةٌ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا ، خُذْ بِرَقَبَتِهَا فَانْطَلِقْ بِهَا ، فَلَمَّا مَا اشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا .

(۲۳۵۱) حضرت سعد بن الاحرم سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا ہے، اور میں نے اس پر شرط لگائی ہے کہ جس طرح باندی آقا کی خدمت کرتی ہے اس طرح میری خدمت کرے گی، سوائے اس کی شرم گاہ کے، پھر جب میں نے اس کی غلامی میں سختی کی تو یہ کہتی ہے کہ میں آزاد ہوں، آپ نے فرمایا: اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، اس کو پکڑ کر لے جاؤ، جو شرط آپ نے لگائی ہے اس پر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

(۲۳۵۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَعْتَقَتْهُ وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ . (ابو داؤد ۳۹۳۸۔ ابن ماجہ ۲۵۲۶)

(۲۳۵۲) حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اُن کو آزاد کر دیا اور اُن پر یہ شرط لگادی کہ جب تک زندہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت کرے۔

(۴۸۹) فِي الْكِتَابِ فِي السَّلْفِ

قرض کے متعلق لکھ لینا

(۲۳۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمَانَ ، قَالَ : أَمْرِي الزُّهْرِيُّ فَكَتَبَتْ عَلَيْهِ كِتَابًا : أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ صَالِحِ طَعَامٍ كَذَا ، أَوْ شَرَوْاهُ .

(۲۳۵۳) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت زہری نے حکم دیا کہ میں لکھوں کہ انہوں نے اتنا اتنا سونا اتنے اتنے طعام کے بدلہ میں قرض لیا ہے اتمیدت تک کے لیے۔ اس طرح کا اچھا طعام یا اس کی مثل کا طعام ہوگا۔

(۴۹۰) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ

کوئی شخص نقد گندم کی بیع کر کے پھر اُس سے اقالہ طلب کرے

(۲۳۵۵۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَوْ بَعْتَ رَجُلًا طَعَامًا بِالْحَالِ فَقَبَّلَهُ إِلَى بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَقْلَعَهُ مِنْهُ وَقَبَضْتَهُ فِي بَيْتِهِ ، فَإِنْ شِئْتَ بَعْتَ مِنْهُ بِنَسِينَةٍ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى بَيْتِكَ .

(۲۳۵۵۳) حضرت حماد نے فرمایا: اگر میں کسی کو نقد گندم فروخت کروں پھر وہ اُس کو گھر لے جائے پھر میں اُس سے اقالہ کروں اور اُس کے گھر پر ہی اُس پر قبضہ کروں، تو اگر میں چاہوں تو اُس کو ادھار میں فروخت کر سکتا ہوں؟ حضرت قتادہ نے فرمایا: جب تک اُس کو اپنے گھر منتقل نہ کرو اس وقت تک اسے مت خریدو۔

(۴۹۱) فِي كُرٍّ مِنْ بُرِّ بِمِيزَانٍ مِنْ عَلْفٍ

گندم کا ایک کُر چارہ کے سومیزان کے بدلے فروخت کرنا

(۲۳۵۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ فِي كُرٍّ مِنْ بُرِّ بِمِيزَانٍ مِنْ عَلْفٍ نَسِينَةٌ : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۳۵۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک کُر گندم کو سومیزان چارہ کے بدلے ادھار فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۴۹۲) فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الطَّعَامَ الْعَتِيقَ

کوئی شخص پرانی گندم قرض لے

(۲۳۵۵۶) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرِضَ طَعَامًا عَتِيقًا ، فَقَضَى مَكَانَهُ حَبْدِيئًا؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۳۵۵۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص پرانی گندم قرض لے کر اُس کی جگہ حبدئی گندم دے دے؟ فرمایا کہ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی شرط طے نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

(۴۹۳) فِي الرَّجُلِ يُعِينُ أَهْلَ الدِّمَّةِ وَيَشْتَرِي لَهُمْ

کوئی شخص اہل ذمہ کی اعانت کرے اور ان کے لئے خریدے

(۲۳۵۵۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُعِينُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟

قَالَ: أَوْ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَعْرَابِيِّ؟

(۲۳۵۵۷) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص مشرکین میں سے ایک شخص کی مدد کرتا ہے؟ حضور نے اعرابی کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ آپ نے نہیں سنا؟

(۲۳۵۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ بَشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِ الذَّمِّعَةِ .

(۲۳۵۵۸) حضرت حماد اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی ذمیوں کے لیے کچھ خرید لے۔

(۴۹۴) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّيْنَ إِلَى أَجَلٍ

کوئی شخص مدت مقررہ کے لئے دین کی بیع کرے

(۲۳۵۵۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ ، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ ، أَيْشْتَرِيهِ صَاحِبُهُ الَّذِي بَاعَهُ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَوَاطِنَةٌ فَلَا بَأْسَ .

(۲۳۵۵۹) حضرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ کسی شخص نے ایک مقررہ مدت کے لئے بیع کی، مشتری نے اس کو ایک شخص کو فروخت کر دیا، تو کیا جس نے فروخت کیا تھا وہ خرید سکتا ہے؟ فرمایا اگر اس میں اس کا نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۵۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَوَاطِنَةٌ فَلَا بَأْسَ .

(۲۳۵۶۰) حضرت حسن اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اس میں نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۳۵۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ : أَنَّهُ بَاعَ مِنْ أُخْتِهِ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ ،

ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَبَاعَهُ ، فَسَأَلَتْ ابْنَةَ الْمُسَيْبِ؟ فَقَالَ : أَبْصِرْ أَنْ يَكُونَ أَنْتَ هُوَ؟ قُلْتُ : أَنَا هُوَ ، قَالَ :

ذَلِكَ هُوَ الرَّبَا ، ذَلِكَ هُوَ الرَّبَا ، فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ .

(۲۳۵۶۱) حضرت داؤد بن ابی عاصم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن سے ایک مدت تک کے لئے بیع کی، پھر ان کی بہن نے

اُس کو فروخت کر دیا، میں نے حضرت سعید بن المسیب سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: دیکھ لو کیا آپ وہی ہو؟ میں

نے عرض کیا جی میں وہی ہوں، فرمایا وہ ربا ہے، وہ سود ہے، آپ اُس سے صرف اس المال واپس لے لو۔

(۴۹۵) الرَّجُلُ يُوَاجِرُ دَارَةَ سِنِينَ

کوئی شخص کچھ سالوں کے لئے اپنا گھر کرایہ پر دے دے

(۲۳۵۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَيْتٍ شَرْطٌ .

(۲۳۵۶۲) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میت کے لئے کوئی شرط نہیں ہے۔

(۲۳۵۶۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يُوَجِرُ دَارَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ : تَنْقُضُ الْإِجَارَةَ ، وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ .

وَقَالَ مَكْحُولٌ : تَمْضِي الْعَارِيَّةُ ، وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةَ .

وَقَالَ إِيَّاسُ بْنُ مَعَاوِيَةَ : يَمْضِيَانِ إِلَى غَايَتِهِمَا .

قَالَ أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : إِنَّمَا يَرْتُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِي حَيَاتِهِ .

(۲۳۵۶۳) حضرت حکم اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے اپنا گھر دس سالوں کے لئے اجرت پر دیا پھر اس سے قبل ہی وہ فوت ہو گیا تو اجارہ ختم ہو جائے گا اور عاریت باطل ہو جائے گی۔

حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ عاریت کو پورا کیا جائے گا اور اجارہ باطل ہو جائے گا۔ حضرت ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو انتہاء تک پورا کیا جائے گا۔

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں اس کے ورثاء اس کے وارث ہوں گے جس کا وہ اپنی زندگی میں مالک تھا۔

(۲۳۵۶۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أُسْلِمَتْ غُلَامًا لَهَا أَشْهُرًا ، فَمَاتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَامِرٌ لِأَخِيهَا : هُوَ غُلَامُكَ ، إِنْ شِئْتَ فَبِضْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكَتَهُ .

(۲۳۵۶۴) حضرت عامر سے دریافت کیا گیا کہ ایک خاتون نے اپنے غلام میں کچھ مہینوں کے لئے سلم کیا ہے پھر خاتون مقررہ مدت سے قبل ہی فوت ہو گئی؟ حضرت عامر نے اس کے بھائی سے فرمایا، وہ آپ کا غلام ہے اگر چاہو تو لے لو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔

السَّمْسَارُ يَضُمُّ (۴۹۶)

دلال ضامن ہوگا

(۲۳۵۶۵) حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عَبَّادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضْمَنَ السَّمْسَارُ .

(۲۳۵۶۵) حضرت محمد رضی اللہ عنہ دلال کے ضامن بننے کو ناپسند کرتے تھے۔

(۴۹۷) فِي الرَّجُلِ يَدْبِرُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

کسی شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنایا پھر وہ فوت ہو گیا اور اس پر قرض تھا

(۲۳۵۶۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ

دَيْنٌ ، قَالَ : يَسْعَى فِيهِ .

(۲۳۵۶۶) حضرت زہری رضی اللہ عنہما اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے اپنے غلام کو مدبر بنایا پھر وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اُس پر قرض ہے تو غلام اُس کے قرض کی ادائیگی کے لئے کوشش (سعی) کرے گا۔

(۴۹۸) فِي الرَّجُلِ يَشْرِكُ الرَّجُلَ بِغَيْرِ وَزْنٍ

آدمی کا دوسرے کو بغیر وزن کیے شریک کرنا

(۲۲۵۶۷) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ أَبِي الْيَمَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا آيَاهُ .

(۲۳۵۶۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے کو شریک کرے اور قیمت نقد نہ دے تو اُس پر سامان کا نقصان نہیں ہے، بے شک یہ تو غنیمت ہے جو اُس کے پاس اُس کو دی گئی ہے۔

(۴۹۹) رَجُلٌ بَاعَ غُلَامًا بِغَنَمٍ

آدمی کا بکری کے بدلہ غلام فروخت کرنا

(۲۳۵۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِغَنَمٍ فَتَنَاجَتِ الْغَنَمُ فَرَادَتْ ، ثُمَّ وَجَدَ بِالْغُلَامِ عَيْبًا دَلَّسَ لَهُ ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرُوعِيٌّ غَنَمِهِ ، أَوْ يُعْطِيهَا آيَاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا .

(۲۳۵۶۸) حضرت زہری اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے بکریوں کے بدلہ غلام فروخت کیا پھر ان بکریوں نے بچے جنے اور بکریاں زیادہ ہو گئیں پھر غلام میں عیب پایا گیا جو اُس سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، فرمایا وہ اُس کو واپس کر دے گا، اور اُس کے لئے بکریوں کے مثل دینا پڑے گا، یا پھر جس طرح وصول کیے تھے اسی طرح دے۔

(۵۰۰) فِي رَجُلٍ رَهْنٍ مُصْحَفًا

کسی شخص کا قرآن کو رہن رکھوانا

(۲۳۵۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : فِي الرَّجُلِ يَرْهِنُ الْمُصْحَفَ بِالْعَرُضِ ، قَالَا : لَا يَبْرَأُ فِيهِ ، وَإِنْ أَدِنَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ تَمَّانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَرَأَ فِيهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ .

(۲۳۵۶۹) حضرت محمد اور حضرت حسن سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص سامان کے بدلہ قرآن رہن رکھو دے تو اس کی تلاوت نہیں کرے گا اگرچہ وہ اُس کی اجازت بھی دے دے اور اگر بیع میں ہو اور اُس کا ساتھی اجازت دے دے تو پھر پڑھ لے ورنہ اس میں نہ پڑھے۔

(۵۰۱) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَغَيْرَهَا

کسی شخص کا کرایہ پر گھر لینا

(۲۳۵۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعُرْصَةَ لِيَبِيَّ فِيهَا مِنْ أَجْرِهَا .

(۲۳۵۷۰) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص صحن خانہ کو کرایہ پر لے اور اس کی اجرت سے وہاں عمارت تعمیر کر دے۔

(۵۰۲) مَنْ كَرِهَ لِلسَّائِكِينَ أَنْ يُعَجَّلَ مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا

جو حضرات رہنے والے کے لئے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اجرت (کرایہ) میں

جلدی کرے

(۲۳۵۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُعَجَّلَ السَّائِكِينَ مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا .

(۲۳۵۷۱) حضرت محمد رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ رہنے والا شخص اجرت (کرایہ) میں جلدی کرے۔

(۵۰۳) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ فَيُجْعَلُ لَهُ شَيْئًا

کی آدمی کو کرایہ پر لیا جائے اور اس کو کچھ رقم وغیرہ دے دی جائے

(۲۳۵۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ آجَرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : سَلْ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا لِي ، فَمَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .

(۲۳۵۷۲) حضرت ابن عون سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے نفس کو ہزار درہم کے بدلہ ایک سال کے لئے کرایہ پر دیا، اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کرو، تحقیق ان لوگوں نے میرے لئے جلدی کی ہے، میں نے حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

(۵۰۴) فِي الرَّجُلِ يَقْضِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْتَقْضِي غَيْرَهُ

کسی شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے پھر وہ دوسرے سے فیصلہ دوبارہ کروائے

(۲۳۵۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَاصِمَ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ ، فَعَزَلَ ذَلِكَ الْقَاضِي ، فَجَاءَ غَيْرُهُ ، فَكَانَ يَقْضِي لِلْقَاسِمِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ خَاصَمْتَ إِلَيْهِ ،

فَقَالَ: لَا، إِنِّي قَدْ حَاصَمْتُ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيَّ.

(۲۳۵۷۳) حضرت محمد ﷺ سے مروی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد اپنا جھگڑا ایک قاضی کے پاس لے کر گئے، انہوں نے اُس کے خلاف فیصلہ کر دیا، پھر اُس قاضی کو معزول کر دیا گیا، پھر اس کے بعد قاضی تبدیل ہو گیا۔ دوسرا قاضی قاسم کے حق میں فیصلہ کیا کرتا تھا۔ کسی نے اُن سے کہا کہ اگر آپ جھگڑا اُس کے پاس لے جاتے! حضرت قاسم نے فرمایا: نہیں، میں فیصلہ قاضی کے پاس ہی لے کر گیا تھا پس اس نے فیصلہ کر دیا۔

(۵۰۵) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّوْبَ فَيَقُولُ إِنِ أَخَذْتَهُ كَلَّهُ فَبِكَذَا وَإِنْ أَخَذَتْ نِصْفَهُ فَبِكَذَا

کوئی شخص یہ کہہ کر کپڑا فروخت کرے کہ اگر پورا کپڑا لیا تو اتنے میں اور اگر آدھا کپڑا لیا تو اتنے میں
(۲۳۵۷۴) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنِ تَأْخُذَهُ كَلَّهُ فَبِعَشْرَةَ، وَإِنْ أَخَذَتْ نِصْفَهُ فَبِأَحَدٍ عَشَرَ.

(۲۳۵۷۳) حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہہ کر اگر کوئی کپڑا فروخت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پورا لوگے تو دس درہم کا، اگر آدھا لوگے تو گیارہ درہم کا۔

(۵۰۶) فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

قاضی کا قاضی کو خط لکھنا

(۲۳۵۷۵) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: كَانَ عَامِرٌ يُجِيرُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ يَبْعِيهِ مِنَ الْقَاضِي.

(۲۳۵۷۵) حضرت عامر اُس خط کو قابل عمل سمجھتے تھے جو قاضی کی طرف سے مہر لگا ہوا اُن کے پاس آتا تھا۔

(۲۳۵۷۶) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: جِئْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي الْكُوفَةِ إِلَى إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَجِئْتُ وَقَدْ غَزَلَ إِيَّاسٌ وَاسْتَقْضَى الْحَسَنُ، فَدَفَعْتُ كِتَابِي إِلَيْهِ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْهُ، فَفَتَحَهُ، ثُمَّ نَشَرَهُ، فَوَجَدَ لِي فِيهِ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِخَمْسِمِئَةِ دَرَاهِمٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى ابْنِ زِيَادٍ، فَقُلْ لَهُ: أُرْسِلْ إِلَى فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسِمِئَةَ دَرَاهِمٍ فَأَدْفَعْهَا إِلَيَّ هَذَا، قَالَ: فَذَهَبَ بِي فَفَعَلَ.

(۲۳۵۷۶) حضرت عمر بن ابو زائدہ سے مروی ہے کہ ہم کوفہ کے قاضی کا خط لے کر حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے، جب میں آیا تو حضرت ایاس کو معزول کر دیا گیا تھا اور حضرت حسن کو قاضی بنا دیا گیا تھا، میں نے اپنا خط اُن کو دیا تو انہوں نے اُس کو قبول

فرمایا اور مجھ سے اُس کے متعلق سوال نہیں کیا، پھر اُس خط کو کھولا اور اُس کو پھیلا یا اور اس میں میرے لئے بصرہ کے ایک شخص کے خلاف پانچ سو درہم پر دو گواہوں کی گواہی پائی، پھر آپ نے اُس شخص سے کہا جو آپ کے پاس کھڑا تھا، اس کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤ اور اُس سے کہو کہ اس کو فلاں بن فلاں کے پاس بھیج دے اور اُس سے پانچ سو درہم وصول کر کے اس کو دے دو، راوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ مجھے لے کر گیا اور اُس نے اسی طرح کیا۔

(۲۳۵۷۷) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كِتَابُ الْقَاضِي اِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ .

(۲۳۵۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قاضی کا قاضی کو خط لکھنا درست ہے اس کو نافذ کیا جائے گا۔

(۵۰۷) مَنْ كَانَ يَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ يَجِيءَ بِمَنْ يُزَكِّيهِ

جو حضرات گواہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ اُس شخص کو لے کر آئے جو گواہ کا تزکیہ کرے

(۲۳۵۷۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ يَسْأَلُ

الشَّاهِدَ أَنْ يَجِيءَ بِمَنْ يُزَكِّيهِ .

(۲۳۵۷۸) حضرت شعبیؒ گواہ سے دریافت کرتے تھے کہ وہ اُس کو لے کر آئے جو اُس کا تزکیہ کرے۔

(۵۰۸) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الْبَيْعَ

کسی شخص کا بیع کو خریدنا

(۲۳۵۷۹) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِنَانَ : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى حَائِطَ رَمَّانٍ بِشَمَانِيَّةٍ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَ مِنْهُ

بِعِشْرِينَ دَرَاهِمًا ، ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِيَ مَرَابَحَةً ، فَاخْبَرَ صَاحِبَهُ فَخَاصَمَهُ اِلَى اِمِينِ السُّوقِ ، فَابْتَرَأَهُ مِنْهَا .

قَالَ : فَسَأَلْتُ الْقَاضِيَّ وَسَأَلْتُمَا ؟ فَقَالَا : هَذَا لَا يَصْلُحُ .

(۲۳۵۷۹) حضرت داؤد بن سنان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آٹھ سو درہم میں انار کا باغ خریدا، پھر اس میں سے کچھ بیس

درہم میں فروخت کیا، پھر جو باقی بچا اُس کو بیع مرابحہ کے طور پر فروخت کیا، پھر اُس کے ساتھی کو معلوم ہوا تو وہ بازار کے امین کے

پاس جھگڑا لے گیا، امین سوق نے اُس کو اس سے بری کر دیا، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے اس

کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے فرمایا: درست نہیں ہے۔

(۵۰۹) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا

کوئی شخص جانور خریدے پھر اُس میں عیب پائے

(۲۳۵۸۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَجَدَ بِصُرُيْهَا عَيْبًا فَارَادَ

رَدَّهَا ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَيَمْنُ أَجَلٍ ضُرِبَ سَهَا رَدَّهَا ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا سَوَى ذَلِكَ لَمْ يَحْلِفْ .
(۲۳۵۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جانور خریدنے کے بعد اُس کی داڑھ میں عیب پائے اور اُس کو واپس کرنا چاہے تو وہ یوں قسم اٹھائے گا کہ وہ اس داڑھ کے عیب کی وجہ سے واپس کر رہا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی عیب ہو تو پھر قسم نہیں اٹھائے گا۔

(۲۳۵۸۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ النَّخَعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَلَمْ يَجِدْ لَهَا أَضْرَاسًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنْتُكَ أَنَّهُ بَاعَهَا وَكَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَلَهَا أَضْرَاسٌ .

(۲۳۵۸۱) حضرت علی بن مدرک النخعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے باندی خریدی اُس کی داڑھ نہ تھی، وہ جھڑپا حضرت شریح بن یسیر کے پاس لے گیا، حضرت شریح نے فرمایا: تو اس بات پر گواہ پیش کر کہ اس نے تجھے بلا داڑھ کے باندی فروخت کی ہے، وگرنہ وہ قسم اٹھائے گا کہ اس نے تجھے فروخت کیا ہے اور اُس کی داڑھ تھی۔

(۵۱۰) فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ

کسی شخص کا دوسرے کو کوئی چیز دینا

(۲۳۵۸۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَدَائِ حَدَّالِي نَعْلَيْنِ بَغِيرِ أَحْرٍ فَأَسَدَهُمَا ؟ قَالَ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَضْمَنَهُ وَلَمْ أُعْطِهِ أَجْرًا .

(۲۳۵۸۲) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ جوتے بنانے والے نے میرے جوتے بغیر اجرت کے بنائے ہیں لیکن اس نے خراب بنائے ہیں تو کیا میں اس کو ضامن ٹھہراؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ اجرت تو دی نہیں اور اب ضامن بھی بناؤ۔

(۲۳۵۸۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَسِيرٍ ، عَنِ ابْنِ شَبْرَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، بِنَحْوِ مِثْلِهِ .

(۲۳۵۸۳) حضرت شعبی بن یسیر سے اسی طرح مروی ہے۔

(۵۱۱) فِي رَجُلٍ غَضَبَ رَجُلًا طَعَامًا

کسی شخص کا کسی شخص سے طعام (گندم وغیرہ) غصب کرنا

(۲۳۵۸۴) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ طَعَامًا لِرَجُلٍ يَعْنِي غَصَبَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ مِثْلُهُ .

(۲۳۵۸۳) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو کسی شخص سے طعام غصب کرے، تو اُس کی مثل اس کو لوٹانا ہوگا۔
(۲۳۵۸۵) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَيْسَى النُّجَابِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَلًا يَحْمِلُ عَلَيْهِ طَعَامًا ، فَوَضَعَ حَمَلًا مِنْهَا فِي أَهْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : انظُرُوا كَمَا تَبِعُونَ فَأَحْسِبُوهُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : سَعِيدٌ : عَلَيْهِ طَعَامٌ مِثْلُ طَعَامِهِ .

(۲۳۵۸۵) حضرت عیسیٰ النجباط سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے وزن اٹھانے والا کرایہ پر لیا اور اُس پر طعام لا دیا، پھر اس میں سے کچھ گھر والوں کے لئے رکھ دیا، پھر فرمایا: دیکھو کیسے تم لوگ فروخت کرتے ہو پھر اُس کا مجھ پر حساب کرو؟ حضرت سعید نے فرمایا: اُس پر اُس طعام کے مثل واجب ہے۔

(۵۱۲) فِي الرَّجُلِ يَدْعِي عَلَى أَبِيهِ الدِّينِ

کسی شخص کے والد پر دین کا دعویٰ کیا جائے

(۲۳۵۸۶) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُحْلِفُ الْبَنَةَ فِي الرَّجُلِ يَدْعِي عَلَى أَبِيهِ دِينَ ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَيَكُونُ لِأَبِيكَ عَلَى إِنْسَانٍ دِينَ تَدْعِيهِ فَنَقِصُمُ الْبَنَةَ ، فَإِنْ حَلَفْتَ مَعَ بَنَتِكَ وَإِلَّا لَمْ يُعْطِكَ .

(۲۳۵۸۶) حضرت شریح نے قسم اٹھوائی آدمی سے اُس کے والد پر دین کا دعویٰ کیا گیا ہے، پس اگر وہ قسم اٹھائے وگرنہ اُس سے لیا جائے گا، اور تیرے والد کے لئے انسان پر دین ہے جو اُس سے دعویٰ کیا جائے گا، پس تو گواہ قائم کرے گا، پس اگر قسم اٹھالے اپنی گواہی کے ساتھ وگرنہ نہیں عطا نہ کیا جائے گا۔

(۲۳۵۸۷) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُحْلِفُ فِي هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ عَلَى عِلْمِهِ .

(۲۳۵۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ان دونوں معاملات میں علم پر قسم اٹھوائی جائے گی۔

(۲۳۵۸۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْبَنَةَ عَلَى مَا غَابَ وَشَهِدَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَامِرٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى أَبِي مَالًا لَا عِلْمَ لِي بِهِ ، أَتَكَانَ عَلَيَّ أَنْ أُحْلِفَ الْبَنَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنْ كُنَّا ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا ، قَالَ : رَدَّ الْيَمِينِ عَلَيَّ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْكَ . قَالَ : وَتَكَانَ عَامِرٌ يَأْخُذُ بِهِ .

(۲۳۵۸۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت شریح جو غائب اور جو غائب اور جو حاضر ہے اُس سے قسم طلب کرتے تھے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے عرض کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی شخص میرے والد پر دین کا دعویٰ کرے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کیا میں اُس پر قسم اٹھا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں اٹھا سکتے ہو، پس اُن دونوں نے اس پر شدید انکار کیا، فرمایا قسم کو اُس کی طرف پھیرا

جائے گا جو تم سے زیادہ جانتا ہو، اور حضرت عامر اس قسم کو قبول فرماتے تھے۔

(۲۳۵۸۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا وَلِيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ اسْتُحْلِفَ الْبَتَّةَ ، وَمَا وَلِيَهُ غَيْرُهُ اسْتُحْلِفَ عَلَيَّ عَلَيْهِ .

(۲۳۵۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کا ولی نہیں بنایا گیا کہ اُس سے حلف البتہ طلب کیا جائے، اور نہ ہی اُس کے علاوہ کے لئے اختیار ہے کہ اُس کے علم پر قسم اٹھوائے۔

(۲۳۵۹۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ فِيمَا ادَّعَى عَلَى أَبِيهِ عَلَى عِلْمِهِ .

(۲۳۵۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے والد پر دعویٰ کیا جائے تو اُس کے علم پر قسم طلب کی جائے گی۔

(۲۳۵۹۱) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ : اسْتَحْلِفُهُ فِي حَقِّ كَانٍ لِأَبِيهِ لَمْ يَشْهَدْ أَبَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : وَهَلْ يُحْلِفُ عَلَى هَذَا أَحَدٌ يُعْقِلُ ؟

(۲۳۵۹۱) حضرت عمارہ بن ابی حفصہ سے مروی ہے کہ دو شخص جھگڑتے ہوئے حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر اُس سے کہا کہ اس سے قسم اٹھو ایسے اس کے والد کے حق میں اس کے والد نے گواہی نہیں دی، حضرت حسن نے فرمایا: کیا کوئی عاقل شخص اس پر قسم اٹھائے گا۔

(۵۱۳) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ثُمَّ يَنْدِمُ

کسی شخص کو مالِ حرام ملے پھر وہ اُس پر نادم ہو

(۲۳۵۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، قَالَ : إِنَّ سَرَّةً أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَلْيُخْرِجْ مِنْهُ .

(۲۳۵۹۲) حضرت زہری رضی اللہ عنہما اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو کو حرام مال ملے، اگر اس کو اچھا لگے کہ اس مال سے چھٹکارا حاصل کرے تو اس کو نکال دے۔

(۲۳۵۹۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : رَجُلٌ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ؟ قَالَ : لَيْسَ ذُوهُ عَلَى أَهْلِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ ، وَلَا أَدْرِى يُنَجِّيه ذَلِكَ مِنْ إِيْمِهِ .

(۲۳۵۹۳) حضرت مالک بن دینار سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عطاء بن ابی رباح سے عرض کیا کہ ایک شخص کو حرام مال ملا ہے؟ فرمایا کہ اُس کے مالک کو واپس کر دینا چاہیے، اور اگر مالک کا علم نہ ہو تو صدقہ کر دے، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کرنے سے اسکا گناہ ٹل جائے گا۔

(۲۳۵۹۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : زَعَمَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ غَلَامًا فَاصْبَتْ أَمْوَالًا مِنْ وَجْهِهِ لَا أُحِبُّهَا فَأَنَا أُرِيدُ التَّوْبَةَ ؟ قَالَ : رُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : لَا أَعْرِفُهُمْ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهَا ، فَمَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ ، وَمَا أَذْرِي هَلْ تَسَلَّمُ مِنْ وَرْثِهَا أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَسَأَلُ مُجَاهِدًا ؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۲۳۵۹۳) حضرت عطاء سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں غلام تھا مجھے کچھ ایسے طریقوں سے مال ملا ہے جن کو میں پسند نہیں کرتا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں! فرمایا اُن کے مالک کو مال واپس کر دو، میں نے عرض کیا کہ میں اُن کو نہیں جانتا، فرمایا صدقہ کر دو، تجھے کوئی ثواب نہ ملے گا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اُس کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ نہیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے بھی اسی طرح فرمایا۔

(۲۳۵۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : صَدِيقِي لِي أَصَابَ مَالًا حَرَامًا فَخَالَطَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا لَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْحَجِّ وَجَوَارِ هَذَا الْبَيْتِ ، فَمَا تَرَى لَهُ ؟ قَالَ : أَرَى لَهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ .

(۲۳۵۹۵) حضرت ربیع سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میرے دوست کو حرام مال ملا ہے، پھر سارے کا سارا مال اس نے اپنے اہل اور ان کے مال کے ساتھ ملا دیا۔ پھر اس میں جو قباحت اور برائی تھی اس کو معلوم ہو گئی اس نے وہ سارا مال حج اور بیت اللہ کے ہمایوں پر خرچ کر دیا تو آپ کی اُس کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت ابو جعفر نے فرمایا: وہ اللہ سے ڈرے اور دوبارہ ایسا مت کرے۔

(۲۳۵۹۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : مَنِ احْتَاَزَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجْهِ لَا يَعْلَمُ فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ : فَلَا بَأْسَ .

(۲۳۵۹۶) حضرت حسن سے مروی ہے کہ جس شخص نے دوسرے کا مال جمع کر لیا ہے یا کسی کا مال چرا لیا ہے، اور اُس کو اِس طور پر واپس کرنا چاہتا ہے کہ وہ نہ جانے (اُس کو علم نہ ہو) اس لیے وہ اس کو سامان پہنچا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۵۱۴) فِي الْقَوْمِ يَكُونُ بَيْنَهُمُ الْمَمْلُوكُ ، فَيَكْتَابُهُ أَحَدُهُمْ ، وَيَعْتِقُهُ الْآخَرُ

کسی قوم کا مشترکہ غلام ہو، پس اُن میں سے کوئی شخص غلام کو مکتب بنا لے، اور دوسرا آزاد کر دے

(۲۳۵۹۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَإِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : سَبَّحًا عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، فَكَتَبَ أَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ ، وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالًا ؟ فَقَضَى أَنَسُ وَإِيَّاسُ : أَنَّ مَا تَرَكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ .

(۲۳۵۹۷) حضرت انس بن مالک اور حضرت ایاس بن معاویہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک غلام تین آدمیوں کے درمیان

مشترک تھا، ان میں سے ایک نے اپنے حصہ کو مکاتب بنا لیا، اور ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا پھر غلام اس حال میں فوت ہوا کہ اُس نے کچھ مال چھوڑا، مال کس کو ملے گا؟ حضرت انس اور حضرت ایاس نے فیصلہ فرمایا کہ جو مال اُس نے چھوڑا ہے وہ اُن کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔

(۵۱۵) فِي مَكَاتِبٍ مَاتَ وَلَهُ وَكَلْدٌ مِنْ أُمَّةٍ

مکاتب غلام اس حال میں فوت ہو کہ اُس کا باندی سے ایک لڑکا ہو۔ (اولاد نہو)

(۲۳۵۹۸) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَكَاتِبٍ تَزْوَجُ حُرَّةً فَأَوْلَدَهَا ، وَاشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ، فَمَاتَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَكَاتِبِهِ أَيُّهُمَا يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : وَلَدُهُ الَّذِينَ مِنْ جَارِيَتِهِ .

(۲۳۵۹۸) حضرت موسیٰ بن علی بن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے دریافت کیا کہ ایک مکاتب نے آزاد خاتون سے نکاح کیا پھر اُس کی اولاد ہوئی، پھر اُس نے باندی خریدی اور اس کی اولاد ہوئی اور وہ خود فوت ہو گیا، اور اُس پر بدل کتابت میں سے کچھ باقی ہے، جو باقی بدل کتابت ہے اُس کی سعی کون کرے گا؟ فرمایا وہ لڑکا کرے گا جو باندی سے پیدا ہوا ہے۔

(۵۱۶) فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أَنَسٌ يَدْعُوْنَهَا

کچھ لوگ ایک زمانے تک مکان میں رہائش پذیر رہے، پھر کچھ لوگ آئے اور اُس مکان

پر دعویٰ کر دیں کہ وہ اُن کا ہے

(۲۳۵۹۹) حَدَّثَنَا عُذْرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أَنَسٌ فَيَقِيمُونَ الْبَيْتَ أَنَّهُمَا كَانَتْ لِجَدِّهِمْ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهُمَا لَهُ الْيَوْمَ .

(۲۳۵۹۹) حضرت شعبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے دریافت کیا کہ ایک شخص کچھ عرصہ ایک مکان میں رہا، پھر کچھ لوگ آئے اور گواہ اس بات پر پیش کر دیئے کہ یہ گھر اُن کے آباؤ اجداد کا ہے؟ فرمایا کہ نہیں جب تک کہ وہ اس پر گواہ پیش نہیں کر دیں گے وہ گھر آج بھی اُنہی کا ہے۔

(۲۳۶۰۰) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ حِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تَقْسَمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْحِطَّةِ ، فَإِنْ ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يَصِيْبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيْتَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنْ فُلَانًا ، أَوْ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيَّ ، أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بَكْدًا وَكَدًّا ، وَإِنْ طَلَبَتْ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ يَكْلَفُ الْبَيْتَةَ عَلَيَّ أَنْ فُلَانًا وَرِثَ

فَلَانًا ، أَوْ فُلَانَةً وَرِثْتُ فُلَانًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْحِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثْتُهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ .
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْحِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيْبَهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ
 أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ ، وَوَرِثْتُهُ فُلَانٌ ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ .
 وَإِذَا أَقْرَأَ الْوَرِثَةَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيْبَهَا فَهِيَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ
 كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا .
 وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنْ ادَّعَى إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، أَنْ لَّهُ
 فِيهَا حَقًّا .

(۲۳۶۰۰) حضرت حارث سے مروی ہے کہ جب گھر ایک آدمی کا ہو اور لوگ اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو وہ اسی طرح تقسیم ہوگی کہ جس طرح میت کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے زیادہ حصہ کا دعویٰ کرے تو اس گواہ لانا ضروری ہوں گے کہ فلاں نے اس کو صدقہ یا حصہ کیا ہے یا فلاں نے مجھے بیچا ہے۔ پھر قوم کے لوگ اس کو تقسیم کرنا چاہیں، بے شک وہ میت کی وراثت سے صاحب الحظہ کے لئے میراث پر تقسیم کیا جائے گا، پھر اگر کوئی شخص دعویٰ کر دے وراثت میں سے یا ان کے علاوہ میراث میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے زیادہ کا تو اس پر گواہ ہیں جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں نے اس پر صدقہ کیا ہے یا میرے لئے حصہ کیا گیا ہے یا مجھے اتنے میں فروخت کیا گیا ہے۔ اور اگر میت کے بیٹوں میں سے بعض کا جو حصہ تھا اس کو بیوی یا شوہر طلب کرے تو ان گواہی کا مکلف بنایا جائے گا کہ فلاں شخص فلاں کا وارث بنا ہے یا فلاں خاتون فلاں کی وارث بنی ہے، یا صاحب الحظہ اس سے قبل فوت ہو گیا تھا۔ خاتون اس سے قبل تو پھر یہ خاتون وارث ہوگی اور اپنا حصہ وصول کرے گی اور اگر صاحب الحظہ کا کوئی بیٹا اس میں دعویٰ کر دے اور جو ان لوگوں کے قبضہ میں جو حصے ہیں ان کا انکار کر دے تو پھر مدعی کے ذمہ اس بات پر گواہی ہے کہ فلاں فلاں سے پہلے فوت ہو گیا تھا اور فلاں وارث بن گیا تھا، اور اس کے بعد میں وارث بن گیا ہوں۔

اور اگر در ثناء اس بات کا اقرار کر لیں کہ گھر والی کی بیوی ہے اور دعویٰ کرے اس کے گھر والوں پر اس خاتون کے حصہ کا، تو پھر وہ ان پر ثابت ہوگا، اور اگر وہ یوں کہیں کہ اس نے موت سے قبل اس کو طلاق دے دی تھی تو پھر ان پر گواہ ہیں اس بات پر کہ وہ اس کو طلاق دے چکا ہے، وگرنہ اس کے لئے میراث لازم ہو جائے گی، اور اگر گھر خریدنا ہو اور وہ کچھ لوگوں کے قبضہ میں ہو تو وہ انہی کا ہوگا جن کے قبضہ میں وہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں دعویٰ کر دے تو پھر اس کے ذمہ اس بات پر گواہی لازم ہے کہ اس کا اس میں حق ہے،

(۲۳۶۰۱) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا أَحَدُنَا شَيْئًا أُعْجِبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمْ : يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ .

(۲۳۶۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی یہ بات مجھے سب سے عجیب لگتی ہے جب وہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں نے آج ہی یہ گواہی

دی ہے کہ یہ مال فلاں کا ہے۔

(۵۱۷) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلرَّجُلِ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ

کوئی شخص کسی کو یوں کہے کہ اگر تو فلاں جگہ پر گیا تو تجھے کچھ دوں گا

(۲۳۶۰۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : اذْهَبْ إِلَى بَابِ الدَّارِ وَلكَ حَمْسُمِئَةٍ دِرْهَمٍ ، قَالَ : كَانَ لَهُ ذَلِكَ .

(۲۳۶۰۲) حضرت حارث اور حضرت حماد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے سے یوں کہے کہ تو گھر کے دروازے کی طرف جا تجھے پانچ درہم دوں گا، فرمایا: اُس کے لئے یہی ہوگا۔

(۵۱۸) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

کوئی شخص غلام خرید کر اُس کو آزاد کر دے

(۲۳۶۰۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعْبِرَةَ وَالشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ غَرَّ بَوَلَدَ زَيْبَةَ فِي قِسْمَةِ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : جَارَ عِتْقَهُ ، وَيُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي غَرَّهُ ، وَالْوَلَاءُ لَهُ .

(۲۳۶۰۳) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس کو دھوکہ سے ولد زانی مل گیا۔ اس نے اسے آزاد کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ولد زانی تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آزادی واقع ہو جائے گی اور جس شخص نے دھوکہ دیا ہے اس کے مال سے آزاد ہوگاں اور ولاء اس کے لیے ہوگی۔

(۵۱۹) فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ بِالشَّيْءِ

کسی شخص کا قیمت لگانا

(۲۳۶۰۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَّيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي رَجُلٍ كَانَ يُسَاوِمُ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرَ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِمَهُ ، فَتَهَرَّهَ الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ ، فَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهَا شَرِكَةٌ .

(۲۳۶۰۴) حضرت ایسا بن معاویہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کسی شخص کے لئے کسی چیز کا ریٹ لگا رہا تھا، ایک دوسرا شخص آیا اور اُس نے بھی قیمت لگانے کا ارادہ کیا، سابقہ قیمت لگانے والے نے اس کو منع کر دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے۔

(۵۲۰) فِي الَّذِي يَرُدُّ مِنْهُ

اُس شخص کے بارے میں جس کو واپس کر دیا جائے

(۲۳۶.۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِقُصَاصِ شَعْرِهِ كَيْتَةً ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : كَتَمْتَ الشَّيْنِ وَوَارَيْتَهُ ، فَلَمْ يُجْزِهِ وَرَدَّهُ .

(۲۳۶.۵) حضرت محمد ﷺ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کیا۔ اس کے بالوں میں ایک بیماری تھی لیکن اس نے اس بیماری کو چھپا۔ جب گاہک کو بیماری کا علم ہوا تو وہ مقدم لے کر حضرت شریح کے پاس آیا۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ تم نے عیب کو چھپایا۔ جو آپ نے غلام واپس کرنے کا حکم دیا۔

(۵۲۱) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّاهِمَ يُصَيِّرُهَا دَنَانِيرًا

کوئی شخص دراهم خریدے، اور ان کو دیناروں سے تبدیل کرائے

(۲۳۶.۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : أَشْتَرِي بِالْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولُ قَبْلَ عَقْدِهِ : أَجْعَلُهَا مِنَّةً دِينَارًا؟ قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۲۳۶.۶) حضرت عمرو سے مروی ہے کہ میں ہزار درہم کے بدلے میں کوئی چیز خریدتا ہوں لیکن پیک کرنے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میں سو دیناروں گا۔ کیا درست ہے؟

(۵۲۲) مَا ذَكَرَ فِي الْغِشِّ

ملاوٹ کے متعلق جو وارد ہوا ہے

(۲۳۶.۷) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا . (مسلم ۱۶۳- ابوداؤد ۳۳۳۶)

(۲۳۶.۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔

(۲۳۶.۸) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرُقِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : الْغِشُّ حَرَامٌ .

(۲۳۶.۸) حضرت حسن اور حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ ملاوٹ حرام ہے۔

(۳۳۶.۹) حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا . (بخاری ۲۸۱۷- احمد ۳/۳۵)

(۲۳۶۰۹) حضرت ابو بردہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۵۲۳) مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا

جو حضرات یہ پسند کرتے ہیں کہ مضاربت والوں کے درمیان ایک ماہ کی مدت ہونی چاہیے

(۳۳۶۱۰) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُومًا يَحْتَسِبُونَ فِيهِ .

(۲۳۶۱۰) حضرت حسن رضی اللہ عنہ مضاربت والوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے درمیان ایک مہینہ متعین کریں جس میں وہ حساب کریں۔

(۵۲۴) فِي الشُّهُودِ يَخْتَلِفُونَ

اگر گواہوں کے الفاظ میں اختلاف ہو جائے

(۲۳۶۱۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ ، عَنْ حَفْصِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَتِ الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ وَكَانَ الْأَصْلُ وَاحِدًا : فَلَا بَأْسَ .

(۲۳۶۱۱) حضرت محمد بن طلحہ فرماتے ہیں کہ اگر گواہوں کے کلام میں اختلاف ہو اور مراد سب کی ایک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۵۲۵) مَنْ قَالَ لَا يَقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمَهُ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ خصم کی بات نہیں قبول کریں گے جب تک کہ دوسرا

خصم حاضر نہ ہو جائے

(۲۳۶۱۲) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ حَنْسِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْأَوَّلُ ، حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخِرُ ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي .

قَالَ عَلِيُّ : فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِيًا . (ترمذی ۱۳۳۱۔ ابو داؤد ۳۵۷۷)

(۲۳۶۱۲) حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تمہارے پاس دو فیصلہ کروانے والے آئیں تو پہلے کی بات سن کر فیصلہ نہ کر جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لے، بے شک تو عنقریب دیکھ لے گا کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں اُس کے بعد ہمیشہ اسی طرح فیصلہ کرتا رہا۔

(۲۳۶۱۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعَامِرٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ .

(۲۳۶۱۳) حضرت قاسم اور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب تک دوسرا خصم حاضر نہ ہو پہلے خصم کی بات قبول مت کرو۔

(۵۲۶) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ جَارِيَةً ابْنِهِ

کسی شخص کا بیٹے کی باندی سے خدمت لینا

(۲۳۶۱۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْسَنٌ ، عَنِ لَيْثٍ ، عَنِ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْفُرْجَ .

(۲۳۶۱۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے بیٹے کی لونڈی سے تمام خدمات لے سکتا ہے سوائے شرم گاہ کے۔

(۲۳۶۱۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنِ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَ ذَلِكَ .

(۲۳۶۱۵) حضرت حکم سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۶۱۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةً ابْنِهِ ؟ قَالَ : لَا .

(۲۳۶۱۶) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ: کیا آدمی اپنے بیٹے کی لونڈی سے خدمت لے سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔

(۲۳۶۱۷) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَالِدُ فِي جِلٍّ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ إِلَّا الْفُرْجَ .

(۲۳۶۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ والد کے لئے اپنے بیٹے کی باندی حلال ہے سوائے اُس کی شرم گاہ کے۔

(۵۲۷) فِي أَفْنِيَةِ الدُّورِ

گھروں کے سامنے والا میدان

(۲۳۶۱۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :

أَصْحَابُ الدُّورِ أَحَقُّ بِأَفْنِيَةِ دُورِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الْأَرْضِينَ أَحَقُّ بِنُقُوضِ أَرْضِيهِمْ .

(۲۳۶۱۸) حضرت ایاس بن معاویہ فرماتے تھے کہ گھروں کے سامنے والے میدان کے زیادہ حق ان گھروں کے لوگ ہیں اور زمین

کے مالک ہی اپنی زمینوں کے ہزارے کے حق دار ہیں۔

(۲۳۶۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَلَبَ الْمَاءُ

عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ لَهُ .

(۲۳۶۱۹) حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے تحریر فرمایا: زمین پر جس کا پانی غالب آجائے تو وہ اُس کی پیداوار کا زیادہ حقدار ہے۔

(۵۲۸) فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَا كَأَفِيئِدَا أَحَدُهُمَا

دو آدمی کسی چیز میں شریک ہوں پھر ان میں سے ایک قیمت ادا کر دے

(۲۳۶۲۰) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ، عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَا كَأَفِيئِدَا أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِ الثَّمَنِ كُلَّهُ ، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ قَرِيبًا وَبَيْتَ طَائِفَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي نَقَدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُنْقَدَ مَا بَيْعِي وَأَنْتَ عَلَيَّ شَرِكِيكَ ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتَ مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُكَ؟ فَقَالَ : لَا يَجِلُّ هَذَا . وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ : مِثْلُ ذَلِكَ .

(۲۳۶۲۰) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ دو آدمی شریک ہیں، ان میں سے ایک نے سارا ثمن ادا کر دیا، پھر وہ دونوں شہر آئے، اور انہوں نے گندم کا ایک ڈھیر فروخت کیا اور نفع کمایا: اور ایک ڈھیر باقی رہ گیا، پھر ان میں سے ایک نے جس نے ثمن ادا کیا تھا اپنے ساتھی سے کہا، اگر آپ چاہو تو جو باقی رہ گیا ہے وہ ثمن ادا کر دو اور آپ اپنی شرکت پر قائم رہو، اور اگر چاہو تو اس سے اور اس کے نفع سے نکل جاؤ اور میں آپ کو بری کر دوں گا؟ فرمایا: یہ اُس کے لئے حلال نہیں ہے، پھر میں نے حضرت قاسم سے اسی کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔

(۲۳۶۲۱) حَدَّثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الدِّيَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَيْسِنَةٍ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : انْقُدْنِي رَأْسَ مَالِي ، فَمَا بَيْعِي فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : فَكِرَةٌ الْحَسَنُ . (۲۳۶۲۱) حضرت سلم بن ابی الذیال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ دو شخصوں نے ایک سامان خریدا، پھر اُس کو منافع کے ساتھ فروخت کیا، کچھ نقد اور کچھ ادھار کے ساتھ، پھر ان میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا؟ مجھے میرا اس المال دے دو جو باقی رہ گیا ہے وہ تمہارے لئے ہے، فرمایا حضرت حسن نے اس کو ناپسند کیا۔

(۵۲۹) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ

کسی شخص کا دوسرے شخص پر دین ہو

(۲۳۶۲۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فِي الرَّجُلِ يُقْضَى مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ . وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الرُّبَا : لَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۳۶۲۲) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی کو جوئے کی رقم سے قرضہ ادا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو سود میں سے قرضہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۵۲۰) فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً

کوئی شخص دوسرے کو مال بطور مضاربت دے

(۲۳۶۲۳) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ الْبُرَيْرِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَادًا عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ ، فَقَالَ : قَدْ دَفَعْتَهُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : عَلَيْهِ الْيُسْنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ حَمَادٌ : يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ .

(۲۳۶۲۳) حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کو مال بطور مضاربت دیا، اور اس پر گواہ قائم کیے، پھر وہ شخص اُس سے مال وصول کرنے آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو مال دے دیا تھا۔ حکم فرماتے ہیں کہ وہ اس بات پر گواہ قائم کرے گا کہ اس نے مال واپس کر دیا ہے۔ جس طرح صاحب مال نے اس پر گواہ قائم کیے تھے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے معاملات میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے اسی طرح معاملہ میں بھی اس کی تصدیق کی جائے گی۔ (یعنی گواہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا)۔

(۵۳۱) مَا يَجُوزُ فِيهِ إِقْرَارُ الْعَبْدِ

جن امور میں غلام کا اقرار جائز ہے

(۲۳۶۲۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ .

(۲۳۶۲۴) حضرت شریح غلام کے اقرار کو ان چیزوں میں نافذ قرار دیتے تھے جن سے اُس کے اہل و عیال کی حاجت پوری کرنے کو طلب کیا جاتا ہو۔

(۲۳۶۲۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ .

(۲۳۶۲۵) حضرت ابراہیم غلام کے اقرار کو اس مال میں قبول فرماتے تھے جس میں اُس کو اُس کے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

(۵۳۲) فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ فَيَجِيءُ لِيَأْخُذَهُ

کوئی شخص کسی کو گندم بطور قرض دے پھر وہ وصول کرنے کے لئے اُس کے پاس آجائے

(۲۳۶۳۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ عَلَى رَجُلٍ كُرْمٌ مِنْ بَرٍّ ؟ فَقَالَ : هَذَا كُرْمٌ قَدْ كَلَنَهُ ، أَيَأْخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ .

(۲۳۶۳۲) حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص پر دوسرے شخص کا ایک کُرْمِ گندم قرض ہے، پھر اُس نے کہا کہ یہ کُرْم ہے تحقیق میں نے اُس کے لئے کیل کر دیا ہے، کیا وہ اُس کے کیل کے ساتھ لے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو اُس کے کیل کے ساتھ وصول کر لے۔

(۵۳۳) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ غُلَامِي لَكَ

ایک شخص دوسرے سے کہے: میرا غلام تیرا ہے

(۲۳۶۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ مَكْحُولٍ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : غُلَامِي لَكَ مَا حَيْثُ ، فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : جَائِزٌ .

(۲۳۶۳۷) حضرت مکحول اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو دوسرے سے یوں کہے کہ میرا غلام تیرا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، پھر جب میں مر جاؤں تو وہ آزاد ہے، فرمایا یہ جائز ہے۔

(۵۳۴) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا فَوَجَدَهُ بِنَقْصٍ

کوئی شخص گندم خریدے اور اس میں نقص پائے

(۲۳۶۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَكْرَارًا مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيُكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ ، قَالَ : لِيُرَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ثَمَّنَ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ .

(۲۳۶۳۸) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کچھ کُرْمِ گندم خریدی، اور ثمن ادا کر دیا، پھر وہ اس کو کیل کرنے کے لئے لے گیا تو اُس کو کمبل نہ پایا، فرمایا: صاحب طعام خریدی ہوئی شے کا جتنا حصہ باقی رہتا ہے اس کے پیسے واپس کرے گا، اور حضرت محمد رضی اللہ عنہما اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۵۳۵) فِي رَجُلٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَأَعْطَى صَاحِبَ الْحَمَّامِ

کوئی شخص حمام میں داخل ہوا اور حمام والے کو کچھ دے

(۲۳۶۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ فَأَعْطَاهُ أَجْرًا عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، قَالَ : وَأَعْطَاهُ ثِيَابَهُ يُمَسِكُهَا ، قَالَ : فَضَاعَتِ الثِّيَابُ ، قَالَ : فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَعْطَيْتَ عَلَى إِمْسَاكِ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَعْطَيْتَهُ عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : فَمُ فَلَ شَيْءٍ لَكَ .

(۲۳۶۲۹) حضرت ابو جعفر سے مروی ہے کہ ایک شخص حمام میں داخل ہوا اور داخل ہونے پر حمام والے کو رقم دی، اور اس کو کپڑے دیئے حفاظت کے لئے، پھر کپڑے گم ہو گئے، فرمایا: وہ دونوں اپنا جھگڑا حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، حضرت شریح نے دریافت کیا کہ تو نے اس کو کپڑے رکھنے کے پیسے دیئے تھے؟ کہا کہ نہیں، لیکن میں نے اس کو حمام میں داخل ہونے کے دیئے تھے، حضرت شریح نے اس سے فرمایا: اٹھ کر چلا جا تیرے لئے کچھ نہیں ہے۔

(۵۳۶) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنَّ عَمِلْتُ كَذَا فَبِكَذَا

ایک شخص دوسرے سے یوں کہے کہ: اگر تو نے اتنا کام کیا تو تیرے لئے اتنی اجرت ہے

(۲۳۶۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنَّ عَمِلْتُ كَذَا فَبِكَذَا ، وَإِنْ عَمِلْتُ كَذَا فَبِكَذَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْإِجَارَةِ .

(۲۳۶۳۰) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے یوں کہا کہ: اگر تو نے یہ عمل کیا تو تیرے لئے اتنے پیسے ہیں، اور اگر یہ کام کیا تو اتنے ہیں، فرمایا: اجارہ میں اگر ایسا کہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۵۳۷) فِي الرَّجُلِ يَبْعُثُ مَعَ الرَّجُلِ بِالْمَالِ

کوئی شخص کسی کو دے کر دوسرے کے لئے مال بھیجے

(۲۳۶۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَابِرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا انْتَهَى الْقَوْمُ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ أَصَابَتْهُمْ سَمَاءٌ ، فَضَاعَتِ الصُّرَّةُ ، فَمَضَى الْقَوْمُ فَاتُوا الْمَدِينَةَ ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي الْكِتَابِ ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ الدَّنَابِرِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ وَالصُّرَّةَ إِلَى عَائِشَةَ ، وَمَرَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، فَوَجَدُوا الصُّرَّةَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا ، فَجَاؤُوا بِهَا إِلَى عَائِشَةَ ،

فَارْسَلْتُ بِذَلِكَ إِلَى صَاحِبِ الدَّنَائِيرِ الْأُولَى ، فَقَالَتْ لَهُ : أَخْبِرْنِي خَيْرَ الدَّنَائِيرِ ، فَقَالَ لَهَا : الْخَيْرُ فِي الْكِتَابِ ، فَقَالَتْ : أَصْدُقْنِي ، فَأَخْبَرَهَا الْخَيْرَ ، قَالَتْ : قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُطْعِمَنِي مَا لَا يَحِلُّ لِي .

(۲۳۶۳۱) حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دیناروں کی تھیلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجی، جس پر لکھا تھا کہ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہے۔ جب لوگ مدینہ کے قریب ہوئے تو ان پر آسمان سے آفت اتری اور وہ تھیلی ضائع ہو گئی، پھر وہ لوگ مدینہ آئے، اس شخص نے وہ کتابت دیکھی ہوئی تھی۔ پھر اُس دیناروں کی طرح بنائے، اس پر وہی کچھ لکھا پھر وہ کتاب اور تھیلی لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، بعد میں کچھ لوگ اُس جگہ سے گزرے، انہوں نے وہاں پر تھیلی پائی جس پر لکھا ہوا تھا، وہ اُس تھیلی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں لے کر آئے، انہوں نے وہ دینار پہلے والے شخص کو بھیج دیئے، اور اُس سے فرمایا کہ مجھے ان دیناروں کے بارے میں بتاؤ، اُس نے آپ سے عرض کیا کہ بات پوری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: مجھے جی جی بات بتاؤ تب اس نے صحیح بات بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تو وہ چیز مجھے کھلانا چاہتا ہے جو میرے لئے حلال نہیں ہے؟

(۵۴۸) الرَّجُلُ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ

کوئی شخص کسی دوسرے سے کچھ خریدے

(۲۳۶۳۲) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، قَالَ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ لَيْسَ بِبَيْعٍ .

(۲۳۶۳۲) حضرت عطاء رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو دوسرے سے سامان خریدے، فرمایا اگر وہ اتنے اتنے ثمن تمہارے پاس لے کر نہ آئے تو بیع نہیں ہے۔

(۲۳۶۳۳) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْبَرِّصَاءِ ، قَالَ : بَعْتُ مِنْ ابْنِ عَمْرٍ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنْ جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثِ فَالسِّلْعَةُ لَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلًا .

(۲۳۶۳۳) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سامان فروخت کیا، آپ نے فرمایا: کہ اگر تو تین دن تک ہمارا نفقہ لے آیا تو سامان ہمارا ہے اور اگر تین دن تک ہمارا نفقہ نہ لایا تو ہماری اور تمہاری بیع نہیں ہے، پس ہم عنقریب نئی بیع کریں گے۔

(۵۳۹) فِي الصُّفْرِ الصَّحِيحِ بِالْمَكْسُورِ

صحیح دیناروں کی مکسور دینار کے ساتھ تبادلہ کرنا

(۲۳۶۲۴) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنْ مِنْ صُفْرِ صَحِيحٍ بِمَنْوِيٍّ مِنْ صُفْرِ مَكْسُورٍ ، وَسُئِلَ عَنْ يَسْكِينٍ بِيَسْكِينٍ ؟ قَلِمَ يَرَى بِهِ بَأْسًا .
(۲۳۶۳۳) حضرت حسن فرماتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص صحیح دینار کے ایک من (وزن) کی بیچ دو من مکسور کے ساتھ کرے، اور ان سے دریافت کیا گیا کہ ایک سکین کی دو سکینوں کے ساتھ بیچ کرنا کیسا ہے؟ پس انہوں نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

(۲۳۶۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتْ الدَّرْعُ تَبَاعُ بِالْأَذْرَاعِ .
(۲۳۶۳۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک درع کوئی ادراع کے بدلے لفروخت کیا جائے گا۔

(۵۴۰) مَنْ كَانَ لَا يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا

جو حضرات ایک قسم کے ساتھ گواہ کو قبول نہیں کرتے

(۲۳۶۲۶) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ .
قَالَ عَامِرٌ : مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ .
(۲۳۶۳۶) حضرت شعبی اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کے پاس ایک گواہ کے ساتھ قسم ہو، فرمایا: اُس کے لئے جائز نہیں مگر دو مرد گواہی دیں یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں، حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ باوجودیکہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ دو گواہوں کی گواہی طالب کی قسم کے ساتھ قبول ہے۔

(۲۳۶۲۷) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هِيَ بِدْعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مَعَاوِيَةُ .
(۲۳۶۳۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔

(۵۴۱) فِي الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ

خصومت میں وکالت کا بیان

(۲۳۶۲۸) حَدَّثَنَا يَعْقُبُ بْنُ عَبْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ

اللہ بن جعفر یحدث: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ لَهَا فُحْمًا يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ ، فَجَعَلَ خُصُومَتَهُ إِلَى عَقِيلٍ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حَوْلَهَا إِلَيَّ ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : مَا قُضِيَ لَوْ كَيْلِي قَلْبِي ، وَمَا قُضِيَ عَلَيَّ وَكَيْلِي قَعْلَى .

(۲۳۶۳۸) حضرت علیؓ جانوروں کے پاس جب بھی کوئی جھگڑا آتا تو فرماتے اس میں بہت سی ناگزیر باتیں ایسی ہیں کہ جن میں شیطان حاضر ہوتا ہے، جس میں شیطان حاضر ہوتا ہے، پھر آپ اُس جھگڑے کو حضرت عقیل کی طرف بھیج دیتے، پھر جب وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو وہ اُس کو میری طرف پھیر دیتے، حضرت علیؓ فرماتے تھے جو فیصلہ میرے وکیل کے لئے گیا ہے وہی میرے لئے ہے، اور جو فیصلہ میرے وکیل پر کیا گیا ہے وہ مجھ پر ہے۔

(۵۴۲) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ وَلَا تَبْرَأُ إِلَيْهِ

کوئی شخص سامان خریدے، لیکن اس بیعہ کا عیب سے بری ہونا نہیں بیان کیا گیا

(۲۳۶۳۹) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَسِيرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ ، عَهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ : لَا دَاءَ ، وَلَا غَائِلَةَ ، وَلَا خِبْتُ ، وَلَا شَيْنٍ .

(۲۳۶۳۹) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ذمہ یہ لازم ہے اگرچہ شرط نہ بھی لگائے بیع میں بیماری نہ ہو، وہ چوری شدہ نہ ہو، وہ مال حرام نہ ہو اور اُس میں کوئی بھونڈا عیب نہ ہو۔

(۵۴۳) فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِ كَانِ فَنَقَدَ أَحَدُهُمَا عَلَيَّ الْآخِرِ

دو شخص کسی چیز میں شریک ہوں پھر ان میں سے ایک دوسرے پر قیمت ادا کر دے

(۲۳۶۴۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ : ابْتَعْتُ فَرَسًا وَنَقَدْتُ ثَمَنَهُ وَشَارَكْتُ فِيهِ رَجُلًا ، فَتَفَقَّ الْفَرَسُ ، قَالَ : احْتَسِبُ فَرَسَكَ .

(۲۳۶۴۰) ایک شخص نے حضرت عامر سے دریافت کیا میں نے گھوڑا خریدا اور پھر اس کی قیمت بھی نقد ادا کر دی اور ایک شخص کو اس میں شریک بھی کر لیا۔ پھر وہ گھوڑا ہلاک ہو گیا، فرمایا اپنے گھوڑے کا حساب لگاؤ۔

(۵۴۴) فِي ثَوَابِ قِضَاءِ الدَّيْنِ

قرض کی ادائیگی پر ثواب

(۲۳۶۴۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ

مَنْ مَشَىٰ إِلَىٰ رَجُلٍ بِحَقِّهِ لِقَضِيَّةٍ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ.

(۲۳۶۳۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جو شخص کسی کا حق ادا کرنے کے لئے اُس کی طرف چلے تو اُس کو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے۔

(۵۴۵) فِي الرَّجُلِ يَهْدِي الرَّجُلَ فَيَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ

کوئی شخص دوسرے کو ہدیہ کرے اور وہ ہدیہ قبول کر لے

(۲۳۶۴۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ مَرَّ بِرَاعٍ يَرْعَى ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : حُرٌّ أَنْتَ أَمْ مَمْلُوكٌ ؟ فَقَالَ : مَمْلُوكٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّهَا لِي ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاشْتَرَى الْغَنَمَ ، وَأَعْتَقَهُ وَجَعَلَ الْغَنَمَ لَهُ .

(۲۳۶۴۳) حضرت عبداللہ بن شداد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما ایک چرواہے کے پاس سے گزرے جو بکریاں چرا رہا تھا، وہ آپ کے پاس ایک بکری لے کر آیا وہ آپ کو ہدیہ کی حضرت حسین نے دریافت کیا: تو آزاد ہے یا غلام؟ اُس نے کہا کہ میں غلام ہوں، آپ نے بکری اُس کو لٹادی، چرواہے نے کہا کہ یہ میری ملکیت ہے، تو آپ نے اُس سے قبول فرمائی، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے اُس غلام کو اور اُس کی بکریوں کو خریدا، اور اُس غلام کو آزاد کر کے وہ بکریاں سب اُس کو عطا کر دیں۔

(۵۴۶) فِي الشَّاهِدِ يَتَّهَمُ

گواہ پر تہمت لگا دی جائے

(۲۳۶۴۴) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلْهُ حَتَّىٰ يَقْوَمَ .

(۲۳۶۴۵) حضرت شریح کے سامنے جب گواہ پر تہمت لگائی جاتی تو اُس سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرتے جب تک کہ اعتراض درست نہ ہو جائے۔

(۵۴۷) فِي الرَّجُلِ يَخْرِقُ فِرْوَانَ الرَّجُلِ

کوئی شخص دوسرے کی پوتین چاک کر دے

(۲۳۶۴۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلًا خَرَقَ فِرْوَانَ رَجُلٍ ، فَأَخْتَصَمَا إِلَىٰ شُرَيْحٍ فَقَالَ : رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ .

(۲۳۶۴۷) حضرت شعبی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی پوتین چاک کر دی پھر وہ دونوں اپنا جھگڑا حضرت شریح کے

پاس لے گئے، حضرت شریح نے فرمایا: بیوند کے بدلے بیوند ہے۔

(۲۳۶۴۵) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : فِي الرَّجُلِ يَخْرِقُ الْفُرَّو ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُ .

(۲۳۶۳۵) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے دوسرے کی پوستین چاک کر دی، فرمایا کہ اُس پر بیوند لگانا ہے۔

(۵۴۸) مَنْ كَانَ لَا تُجَازُ شَهَادَتُهُ

جن کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی

(۲۳۶۴۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَائِلِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَانُ أَبُو الْمُنَازِلِ ابْنُ أُخِي شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَامٍ ، وَلَا صَاحِبِ الْحَمَامِ .

(۲۳۶۳۶) حضرت شریح رضی اللہ عنہ کبوتر باز اور حمام والے کی گواہی قبول نہ فرماتے تھے۔

(۲۳۶۴۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخُمْرِ .

(۲۳۶۳۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شراب والوں کی گواہی قبول نہ فرماتے تھے۔

(۵۴۹) فِي الرَّجُلِ يَشْرَعُ الْمِيزَابِ

کسی کا پرنا لہ راستہ میں گرتا ہو

(۲۳۶۴۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْعَبٌ إِلَّا فِي جَوْفِ دَارِهِ .

(۲۳۶۳۸) حضرت شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر کا پرنا لہ گھر کے اندر ہی ہو۔

(۵۵۰) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ النَّصِيبَ الْمُسَمَّى مِنَ الدَّارِ

کوئی شخص اپنے گھر میں سے مقررہ حصہ فروخت کرے

(۲۳۶۴۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا بَاعَ نَصِيبٌ مُسَمًّى مِنْ دَارِهِ جَزَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى لَمْ يَجِزْ .

(۲۳۶۳۹) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں اپنا مقررہ حصہ فروخت کرے تو جائز ہے، اور اگر مقررہ حصہ نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔

(۲۳۶۵۰) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۶۵۰) حضرت ابراہیم سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۵۵۱) حِمَى الْكَلَا وَيَبِيعُهُ

چراگاہ کی گھاس اور اُس کی بیع کرنا

(۲۳۶۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . (بخاری ۳۰۱۳ - ابن حبان ۱۳۶)

(۲۳۶۵۱) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: چراگاہ نہیں ہے مگر اللہ اور اُس کے رسول کے لئے۔

(۲۳۶۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَا .

(۲۳۶۵۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے زائد پانی کے روکنے سے منع فرمایا تاکہ اس سے زائد

گھاس نہ روک سکے۔

(۲۳۶۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلَا فِي مَنِيَةِ .

(۲۳۶۵۳) حضرت ابن طاووس سے مروی ہے کہ حضرت طاووس چراگاہ میں اگنے کی جگہ کی بیع کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۶۵۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ حَمَى

الرَّبْدَةَ لِنَعْمِ الصَّدَقَةِ .

(۲۳۶۵۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زائد چراگاہ کو صدقہ کے اذنوں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

(۲۳۶۵۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ الشَّامِيِّ ، عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عَثْمَانَ ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ

فِي ثَلَاثٍ : الْكَلَا وَالْمَاءُ وَالنَّارُ . (ابوداؤد ۳۳۷۲ - احمد ۵ / ۳۶۳)

(۲۳۶۵۵) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین چیزوں میں سب مسلمان شریک ہیں، چراگاہ، پانی اور آگ۔

(۵۵۲) فِي الْعُرْبَانِ فِي الْمَبِيعِ

بیع عُرْبَان

عربان کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی چیز کی ادھی قیمت ادا کر دے اور کہہ دے کہ اگر بیع مکمل ہوگئی تو یہ اُس کا ثمن میں شمار ہوگا

وگرنہ یہ رقم تیری میں آپ سے وصول نہ کروں گا۔

(۲۳۶۵۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ .

(۲۳۶۵۷) آنحضرت ﷺ نے بیع میں عربان کو حلال قرار دیا ہے۔

(۲۳۶۵۷) حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : لَا عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ ، وَلَا عَلْفٍ ، وَلَا طَعَامٍ ، وَالْعُرْبُونَ فِي غَيْرِهِمْ .

(۲۳۶۵۷) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چکنائی میں، چارے میں اور ندم میں عربان درست نہیں ہے، اور عربان ان کے علاوہ میں ہے۔

(۲۳۶۵۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونَ بَأْسًا .

(۲۳۶۵۸) حضرت مجاہد عربان میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۳۶۵۹) حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ ، أَوْ غَيْرَهُ يَقُولُ : إِنَّ جَنَّتْ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ .

(۲۳۶۵۹) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص ملاح یا کسی اور کو یہ کہہ کر رقم دے کہ اگر میں فلاں فلاں جگہ گیا تو اس کا ہے اور اگر نہ گیا تو یہ رقم تیری۔

(۲۳۶۶۰) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمَزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَّبَعُ الشَّيْبَانَ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : مَنِ الْفَتْدَى الْفَتْدَى بِدَرَاهِمٍ ، فَلَا يَأْمُرُونَ وَلَا يَنْهَانَا .

(۲۳۶۶۰) حضرت حمزہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کپڑوں کی بیع کرتے، جو فدیہ دیتا تو وہ درہم فدیہ دیتا، پس وہ نہ ہمیں حکم کرتے اور نہ ہی ہمیں روکتے۔

(۲۳۶۶۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ .

(۲۳۶۶۱) آنحضرت ﷺ نے بیع میں عربان کو حلال قرار دیا تھا۔

(۲۳۶۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوحَ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجَنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَارِبَعَةَ آلِ أَبِي دِرْهَمٍ ، فَإِنْ رَضِيَ عَمْرٌو فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ عَمْرٌو لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعِينَ لَصَفْوَانَ .

(۲۳۶۶۲) حضرت عبد الرحمن بن فروخ سے مروی ہے کہ حضرت نافع بن عبد الحارث نے صفوان بن امیہ سے چار ہزار درہم میں جیل خانہ اس شرط پر خریدا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی ہوئے تو بیع ہے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے تو چار سو درہم صفوان کے ہوں گے۔

(۲۳۶۶۳) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَابْنُ عُيُونٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ

يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ: إِنَّ جَنَّتِكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَهُوَ لَهُ.
(۲۳۶۶۳) حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما اس شخص کے متعلق فرماتے تھے کہ جو کرایہ پر گھر یا کشتی لے یہ کہہ کر کہ اگر فلاں فلاں جگہ گیا تو یہ اس کے لئے ہے وگرنہ یہ رقم تمہاری ہے، فرمایا: اگر وہ نہ آیا تو رقم اس کی ہوگی۔

(۲۳۶۶۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعَرَبَانِ فِي الْبَيْعِ.

(۲۳۶۶۳) حضرت عطاء اور حضرت طاووس رضی اللہ عنہما بیع میں عربوں کو ناپسند کرتے تھے۔

(۵۵۳) الْمَتَاعُ يُلْقَى فِي الْبَحْرِ فَيُخْرِجُهُ الرَّجُلُ

سامان سمندر میں گر جائے، پھر اس میں سے ایک شخص وہ نکال لے

(۲۳۶۶۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَرَكَبٍ لِلْعُدُوِّ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إِلَى قَوْمٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَنْ عَنَمَهُ، وَفِيهِ الْحُمُسُ.

(۲۳۶۶۵) حضرت موسیٰ بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے دریافت کیا کہ دشمن کی کشتی کو اگر ہوا کسی قوم کے پاس لے آئے تو اس کے سامان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ اس کے لئے غنیمت ہے جو پکڑ لے اور اس میں خمس ہے۔

(۲۳۶۶۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّفِينَةِ تَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ، فِيهَا مَتَاعٌ لِقَوْمٍ سَبِيٍّ؟ قَالَ: مَا أَلْقَى الْبَحْرَ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ غَاصَّ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ.

(۲۳۶۶۶) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ کشتی اگر سمندر میں ڈوب جائے اور اس میں قیدیوں کا سامان ہو؟ فرمایا: جو سمندر خود ساحل پر ڈال دے وہ تو مال کا ہوگا، اور جو غوطہ لگا کر نکالا جائے تو وہ نکالنے والے کا ہوگا۔

(۲۳۶۶۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْبَحْرِ يَطْرُقُ الْمَتَاعُ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّقْطَةِ، تُعْرَفُ.

(۲۳۶۶۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ سمندر اگر سامان باہر پھینک دے تو وہ لقطہ کے مرتبہ میں ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔

(۵۵۴) فِي اللَّحْمِ يَنْفَخُ فِيهِ لِلْبَيْعِ

گوشت کو فروخت کرنے کے لئے اس میں پھونک مار کر ہوا بھرنا

(۲۳۶۶۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ غَالِبِ أَبِي الْهُدَيْلِ، عَنْ كَلْبِ بْنِ الْجَرْمِيِّ: أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا يَنْهَى الْقُضَابِينَ، عَنِ النَّفْخِ. يُعْنَى: فِي اللَّحْمِ.

(۲۳۶۶۸) حضرت کلیب سے مروی ہے کہ وہ حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے قصابوں کو گوشت میں پھونک مار کر ہوا بھرنے سے منع فرمایا۔

(۲۳۶۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ.

(۲۳۶۶۹) حضور اقدس ﷺ نے گوشت کو فروخت کرنے کے لئے اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۵) فِي الْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةٌ

مصحف کو مصحف کے ساتھ بدلنا

(۲۳۶۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً.

(۲۳۶۷۰) حضرت ابراہیم مصحف و مصحف کے ساتھ بدلنے کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔

(۲۳۶۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَدَلِ مُصْحَفٍ بِمُصْحَفٍ.

(۲۳۶۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مصحف و مصحف سے بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۶۷۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشْرَةٌ دَرَاهِمٍ.

(۲۳۶۷۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مصحف کا مصحف اور دس درہموں سے تبادلہ کرنا صحیح ہے۔

(۵۵۶) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ

جو حضرات میراث میں مصحف (قرآن) کی تقسیم کو ناپسند کرتے ہیں

(۲۳۶۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يُقَسَّمُ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ، يَكُونُ لِقَرَاءٍ

أَهْلِ الْبَيْتِ.

(۲۳۶۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وراثت میں قرآن کریم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ گھر کے پڑھنے والوں کے لئے

ہوں گے۔

(۵۵۷) فِي الرَّجُلِ يَتَجَرُّ فِي الشَّيْءِ فَلَا يَرَى فِيهِ مَا يَحِبُّ

کوئی شخص کسی شے میں تجارت کرے اور اُس میں اپنی پسندیدہ شے نہ دیکھے

(۲۳۶۷۴) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌ: مَنْ تَجَرَّ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ

مَرَاتٍ فَلَمْ يُصَبِّ فِيهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

(۲۳۶۷۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز میں تین بار تجارت کرے، اور اس کو مطلوبہ نفع (پسندیدہ چیز) نہ ملے تو اس کو چاہیے کہ اس کو غیر کی طرف پھیر دے۔

(۵۵۸) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَطْوُهَا

کوئی شخص باندی خرید کر اس کے ساتھ ہم بستری کرے

(۲۳۶۷۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطَنَهَا ، أَيَّيَّهَا مُرَابِحَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّىٰ يَبْتَئ.

(۲۳۶۷۵) حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے باندی خرید کر اس کے ساتھ ہم بستری کر لی تو کیا اس کو مرابحہ مانع سمجھا جاتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں پہلے وہ بیان کرے پھر بیع مراہجہ کرے۔

(۵۵۹) فِي السَّلَامِ عَلَى الْخُصُومِ

خصموں کو سلام کرنا

(۲۳۶۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ .

(۲۳۶۷۶) حضرت شریح جھلڑنے والوں کو (اذان) سلام کرتے تھے۔

(۵۶۰) فِي الْمُتَفَاوِضِينَ يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِيرَاثًا

شریکین میں سے کوئی میراث کا وارث بنے

(۲۳۶۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضِينَ شَيْئًا أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ .

(۲۳۶۷۷) حضرت ابن سیرین اس کو ناپسند کرتے تھے کہ شریکین میں سے جب ایک کسی چیز کا وارث بنے تو اس میں اپنے ساتھی کو شریک کر لے۔

(۵۶۱) فِي شِرَاءِ سِهَامِ الْقَصَابِيِّنَ

قصابیوں کے حصوں کو خریدنا

(۲۳۶۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ

بِهِمَا الْقَصَابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَا.

(۲۳۶۷۸) حضرت سعید بن المسیب قصابتین کے حصوں کو تقسیم سے قبل خریدنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۵۶۲) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ

کوئی شخص غلام کو اس شرط پر خریدے کہ وہ اس کو آزاد کرے گا

(۲۳۶۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ ؟ قَالَ : إِنْ أَعْتَقَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ .

(۲۳۶۷۹) حضرت حسن سے اُس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کسی شخص نے آزادی کی شرط پر غلام خریدنا پھر اُس کو آزاد نہیں کیا؟ فرمایا اُس کو آزاد کر دے پھر اُس کو واپس کرے۔

(۵۶۳) فِي شَهَادَةِ الْخَصِيِّ

خصی کی گواہی کا بیان

(۲۳۶۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ عُلْقَمَةَ الْخَصِيِّ عَلَيَّ ابْنِ مَطْعُونٍ .
(۲۳۶۸۰) حضرت ابن سیرین سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علقمہ کی گواہی جو کہ خصی تھے ابن مطعون کے خلاف قبول فرمائی۔

(۵۶۴) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ

کوئی شخص نقد میں شے بیچے پھر اس کو ساتھی سے خرید لے

(۲۳۶۸۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُبْهَى أَنْ يَبِيعَ بَدَيْنٌ وَيَشْتَرِيَ بِهِ ، وَلَا يَبِيعُ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِيَ بَدَيْنٌ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بَدَيْنٌ وَيَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ .

(۲۳۶۸۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ادھار بیچ کر ادھار خریدنا صحیح نہیں۔ اسی طرح نقد بیچ کر ادھار خریدنا بھی صحیح نہیں۔ البتہ ادھار بیچ کر نقد خریدنا درست ہے۔

(۵۶۵) فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَسْتَطِعُهُ

کوئی شخص عاشر کے پاس سے گزرے اور کھانا طلب کرے

(۲۳۶۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَنَّ مَوْزِقًا الْعَجَلِيَّ كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطِعُهُ .

(۲۳۶۸۲) حضرت ہشام سے مروی ہے ہے کہ حضرت مورق العجلی عاشر کے پاس سے گذرتے تو اس سے کھانا مانگ لیتے۔
 (۲۳۶۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَطِعَهُ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا إِنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَأْكُلَ .

(۲۳۶۸۳) حضرت حسن کھانا طلب کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ خود کھلا دے تو پھر کھالے۔
 (۲۳۶۸۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي أَسْفَلِ الْفُرَاتِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ صَاحِبِ الْقَنْطَرَةِ الْعُشَارِيِّنَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعَمُونَا ، فَأَطْعَمُونَا ، فَأَكَلْنَا مَعَنَا .
 (۲۳۶۸۳) حضرت حکیم بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر فرات کے قریب ہمارے پاس آئے، پھر عشروالوں کے پاس ایک شخص بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں کھلاؤ، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور خود بھی ہمارے ساتھ کھایا۔

(۵۶۶) فِي الرَّجُلِ يَكْسِرُ الطَّنْبُورَ

کوئی شخص باجا توڑ دے

(۲۳۶۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طَنْبُورًا لِرَجُلٍ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ شَيْئًا .

(۲۳۶۸۵) حضرت ابو حصین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا باجا توڑ دیا وہ جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گیا، انہوں نے اُس کو ضامن نہیں بنایا۔

(۵۶۷) فِي أَجْرِ الدَّلَالِ

دلالت کی اجرت کا بیان

(۲۳۶۸۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ عَثْمَانَ الشَّحَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ وَذَكَرَ عِنْدَهُ أَجْرَ الدَّلَالِ .
 (۲۳۶۸۶) حضرت ابن سیرین کے پاس دلالت کی اجرت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اُس کو ناپسند کیا۔

(۵۶۸) الْمَعْرِفَةُ تُوْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ بِبَيْعِ الشَّيْءِ

بیع کرتے وقت کوئی علامتی نشان مقرر کرنا

(۲۳۶۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ حَجَّارِ بْنِ أَبَجَرَ : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِعَلِيِّ : ذَهَبَ وَاللَّهِ مَالِي ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ : أَنْتَ صَبَّغْتَهُ ، أَفَلَا أَخَذْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَةٍ .
 (۲۳۶۸۷) حضرت حجار سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا خدا کی قسم میرا مال ضائع ہو گیا، حضرت

علی جیٹھو نے اُس سے فرمایا: تو نے خود ضائع کیا ہے، تو نے اُس سے کوئی علامت کیوں نہ لی۔

(۵۶۹) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ

کسی شخص کے دوسرے پر کچھ دراہم ہوں

(۲۳۶۸۸) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمٌ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مَسْمُوعِيَّةٌ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَرَدْنَا بِوَرْدِنِ .

(۲۳۶۸۸) حضرت حسن سے مروی ہے کہ اگر ایک شخص کے دوسرے پر دراہم ہوں اور وہ دراہم وصول کرے اور اس میں کچھ دراہم نشان زدہ ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اگر چودہ چاندی ہو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ وزن کے ساتھ برابر ہوں۔

(۲۳۶۸۹) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالمَسْمُوعِيَّةِ .

(۲۳۶۸۹) حضرت محمد بن یزید فرماتے ہیں کہ اگر کچھ دراہم نشان زدہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

(۵۷۰) فِي الرَّجُلِ يَبْتَاءُ جَارِيَةً فَيَجِدُ بِهَا دَبِيلَةً

کوئی شخص باندی خریدے پھر اس کے پیٹ پر پھوڑا پائے

(۲۳۶۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ : أَنَّ الصَّحَّاحَ بْنَ قَيْسٍ

اِخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا الدَّبِيلَةَ وَهُوَ ذَاؤٌ قَدِيمٌ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ ، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ الصَّحَّاحِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ أَنْ يَرُدَّ

وَيُوجِبُ يَمِينِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَ مَا رَأَاهُ .

(۲۳۶۹۰) حضرت صحاح کے پاس ایک باندی کا جھگڑا لایا گیا جس کو دہیلہ بیماری تھی۔ یہ ایک مشہور بیماری ہے جو اچانک نہیں لگتی تو

حضرت صحاح نے بائع کے خلاف فیصلہ کیا۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت صحاح کا قول مجھے حضرت شریح کی بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جب معلوم ہو

جائے کہ وہ نیا نہیں ہے تو وہ واپس کیا جائے گا، اور مشتری سے قسم لی جائے گی کہ اُس نے خریدنے سے قبل اس کو نہیں دیکھا تھا اور

دیکھنے کے بعد وہ اس پر راضی نہیں ہے۔

(۵۷۱) فِي الرَّجُلِ يُعْطَى لِلْإِنْسَانِ الشَّيْءَ فَيَضِيعُ

کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور وہ اس سے ضائع ہو جائے تو اس کا بیان

(۲۳۶۹۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فَضِيلٍ ، قَالَ : أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا اشْتَرَى لَهٗ بِهِ بَرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ

لِلْحَنَاطِ: كِرْلُ مَكَانَهُ فَذَكَرْتَهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْكَ.

(۲۳۶۹۱) حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے دینا دیا تاکہ میں اُس کے لئے گندم خریدوں، وہ مجھ سے ضائع (ہلاک) ہو گیا، میں نے گندم والے سے کہا کہ اس کی جگہ مجھے اور گندم تول دے، میں نے حضرت ابراہیم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: تجھ پر لازم نہیں تھا۔

(۲۳۶۹۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ عُمَرََانَ الْخَيَّاطِ ، قَالَ : أَعْطَيْتَنِي امْرَأَةً ذَرَاهِمَ أُشْرِي لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ ، فَذَكَرْتَهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : اجْعَلْ مَكَانَهُ .

(۲۳۶۹۳) حضرت عمران الخياط فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خاتون نے دراہم دیئے تاکہ میں اُس کے لئے اُن کے بدلہ کچھ خریدوں، ان میں سے کچھ ضائع ہو گئے، میں نے حضرت ابراہیم سے اُس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اُس کی جگہ (اُس کے بدلہ) دراہم دو۔

(۲۳۶۹۴) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ .

(۲۳۶۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قاصد پر ضمان نہیں ہے۔

(۲۳۶۹۶) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ .

(۲۳۶۹۷) حضرت علی اور حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں جس کے امانت رکھوائی جائے اس پر ضمان نہیں ہے۔

(۲۳۶۹۸) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ .

(۲۳۶۹۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ معتمد علیہ پر ضمان نہیں ہے سوائے اُس کے جس کی وہ خلاف کرے۔

(۵۷۲) فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً

کسی شخص کا دوسرے کو بطور مضاربت مال دینا

(۲۳۶۹۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعْبِرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضَلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أَفْضَلُكَ بِثَلَاثٍ ، أَوْ رُبْعٍ ، أَوْ سُدُسٍ .

(۲۳۶۹۷) حضرت حماد اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ مضارب اپنے ساتھی سے یوں کہے کہ: میں تجھ سے بیس یا تیس درہم لوں گا، اور اگر وہ یوں کہے کہ میں تجھ سے ثلث، ربع یا سدس زیادہ لوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۶۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولَ : لَكَ مِنْهَا رُبْعُ الْفِ دِرْهَمٍ .

(۲۳۶۹۹) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کو مال مضاربت یہ کہہ کر دے کہ اس میں سے ایک ہزار درہم کا نفع آپ کا۔

(۲۳۶۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثَلَاثًا ، أَوْ رُبْعًا ، أَوْ خُمْسًا .

(۲۳۶۹۸) حضرت حسن ثلث، ربع اور خمس کے علاوہ مضاربت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۳۶۹۹) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغْبِرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رِبْحُ الْمَالِ مَضْمُونٌ ، قَالَ : فَسَرَّهَا : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مَضَارِبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ ، وَكَانَ نِصْفُ الرَّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ .

(۲۳۶۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، مال مضمون کا نفع کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے مال مضاربت یہ کہہ کر لے کہ میں تیرا ضامن ہوں اور نصف یا ثلث نفع تیرا ہے۔

(۵۷۳) فِي الضَّالَّةِ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ

(۲۳۷۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَتْ : كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَاتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ قَالَتْ : عَرِّفِي وَأَعْلِفِي وَاحْلَبِي ، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا ؟ قَالَتْ : تَأْمُرِينِي أَنْ تَبِيعَهَا أَوْ تَذْبَحِيهَا ؟ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَكَ .

(۲۳۷۰۰) حضرت عالیہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک خاتون آئی اور عرض کیا اُمّ المؤمنین! میں نے ایک گشہ بکری پائی ہے، آپ مجھے اُس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کا حکم فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: اُس کا اعلان کرو اور اُس کو چارہ ڈالو اور دودھ استعمال کرو، پھر خاتون کچھ عرصہ بعد دوبارہ آئی اور دریافت کیا حضرت عائشہ نے فرمایا: نے فرمایا کہ تو مجھے حکم دیتی ہے کہ میں تجھے اس کو فروخت کرنے یا ذبح کرنے کی اجازت دے دوں، حضرت عائشہ نے فرمایا: یہ بات (کام) تیرے لئے درست نہیں ہے۔

(۲۳۷۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةٌ وَوَجَدْنَاهَا ، فَقَالَ : أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَانْشُدْ ، فَقَالَ : فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَرَى عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا .

(۲۳۷۰۱) حضرت زید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر تھا آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے ایک گشہ اونٹنی ملی ہے، اس کا خیال رکھو اور اس کے بارے میں پوچھو اور چارہ دہو، اُس نے عرض کیا کہ اگر میں اُس کا دودھ استعمال کر لوں تو کیا مجھ پر ضامن ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں تجھ پر کوئی تاوان ہو۔

(۲۳۷۰۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لَهُ : وَجَدْتُ جَمَلًا ضَالًّا ، أَدْعُهُ يَضْرِبُ فِي إِبِلِي ؟ قَالَ : لَا .

(۲۳۷۰۲) حضرت سعید بن المسیب سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے ایک گشدہ اونٹ ملا ہے، کیا میں اُس کو اپنے اونٹوں کے ساتھ گھومنے چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔

(۲۳۷۰۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ . قَالَ تَفْسِيرُ هَذَا : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مَضْرَابَةً ، وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ ، وَلَكَ نِصْفَ الرِّيحِ ، أَوْ ثَلَاثَةَ .

(۲۳۷۰۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، مال مضمون کے نفع کا مطلب یہ ہے کہ: ایک شخص دوسرے سے مال مضاربتہ یہ کہہ کر لے کہ میں تیرا ضامن ہوں اور نصف یا ثلث نفع تیرا ہے۔

(۵۷۴) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا

کوئی شخص سامان خریدنے کے بعد اُس میں عیب پائے

(۲۳۷۰۴) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا عَرَضَ الرَّجُلُ السَّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا .

(۲۳۷۰۴) حضرت عامر اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے سامان خریدنے کے بعد اُس میں عیب پایا، پھر اُس سامان کو فروخت کرنے کے لئے پیش کیا، تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔

(۲۳۷۰۵) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۷۰۵) حضرت ابراہیم سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۷۰۶) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا عَرَضَ الرَّجُلُ السَّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ مَا يَرَى الدَّاءَ حَارَزَتْ عَلَيْهِ .

(۲۳۷۰۶) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سامان میں عیب دیکھنے کے بعد اُس کو فروخت کرنے کے لئے پیش کرے تو اُس پر بیع نافذ ہو جائے گی واپس کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۲۳۷۰۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السَّلْعَةَ ، ثُمَّ وَطَنَهَا ، أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ لَزِمَتْهُ .

(۲۳۷۰۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باندی یا سامان خریدے پھر اُس سے ہمبستی کرے یا اُس کو عیب دیکھنے کے بعد فروخت کرنے کے لئے پیش کر دے تو اُس پر بیع لازم ہو جائے گی یا خیار ختم ہو جائے گا۔

(۵۷۵) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا

کوئی شخص اس طرح بیع کرے کہ وہ دینار اتنے میں لے گا۔

(۲۳۷۰۸) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ وَكَذَا .

(۲۳۷۰۸) حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہما اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اس طرح بیع کرے کہ وہ دینار کو اتنے میں لے گا۔

(۲۳۷۰۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۷۰۹) حضرت ابراہیم سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۷۱۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبُرَّ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا ،

الدِّينَارُ بِعَشْرَةٍ .

قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ .

(۲۳۷۱۰) حضرت عامر سے مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص گندم اس طرح خریدتا ہے کہ اتنے درہم میں یعنی

ایک دینار دس درہم کے ساتھ، فرمایا مجھ سے حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ایک صفحہ میں دو صفحے کرنا

درست نہیں۔

(۵۷۶) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ لَا تَحِيضُ

کوئی شخص ایسی باندی خریدے جس کو حیض نہ آتا ہو

(۲۳۷۱۱) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَرُدُّ الْأَمَةَ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ طَ الْمُبْتَاعُ .

(۲۳۷۱۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر بیع میں شرط نہ لگائی ہو تو پھر باندی کو حیض کی وجہ سے واپس نہیں لٹائے گا۔

(۵۷۷) الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً

کوئی شخص کسی پر مختلف چیزوں کا دعویٰ کرے

(۲۳۷۱۲) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً ؟ قَالَ :

يُحْلِفُهُ عَلَى شَيْءٍ شَيْءٍ .

(۲۳۷۱۲) حضرت عامر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے پر مختلف چیزوں کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا: وہ ہر چیز پر قسم

اٹھائے گا۔

(۵۷۸) فِي الرَّجُلِ اسْتَوْدَعَ غَنَمًا فَبَاعَهَا

کوئی شخص بکریوں کو ودیعت کے طور پر لے پھر ان کو فروخت کر دے

(۲۳۷۱۳) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ : عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ غَنَمًا فَتَنَاسَلَتْ عِنْدَهُ فَبَاعَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ فِيمَتِهَا يَوْمَ بَاعَهَا .

(۲۳۷۱۳) حضرت شیبانی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بکریوں کو ودیعت کے طور پر لے پھر وہ بکریاں اس کے پاس زیادہ ہو جائیں (ان کی نسل بڑھ جائے) اور وہ ان کو فروخت کر دے، تو اس پر فروخت کرنے کے دن کی قیمت لازم ہے۔

(۵۷۹) فِي الرَّجُلِ يُلْحِقُهُ الدِّينُ فَيَحْطُّ عَنْهُ

کسی شخص پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ جائے

(۲۳۷۱۴) حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بَكَّيْرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلِي مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُلْغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلا تَكُفُّوا لَهُ الْغَرَمَاءَ .

(مسلم ۱۱۹۱۔ ابو داؤد ۳۴۶۳)

(۲۳۷۱۴) حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دور مبارک میں پھل کی خریداری میں بہت گھانا پڑا، اور اس پر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس پر صدقہ کرو، لوگوں نے اس کو صدقہ دیا لیکن پھر بھی اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ قرضہ اتر سکے۔ اقدس ﷺ نے پھر آپ نے قرض خواہوں سے کہا کہ جو کچھ مل گیا ہے اسی کو لے لو اور اسی پر اکتفاء کرو۔

(۲۳۷۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مَلْأَمٌ مِنْ رَجُلٍ فِي أَوْقِيَّتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ هَكَذَا بِيَدِهِ ، أَى ضَعُ عَنْهُ الشُّطْرَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَدِّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ .

(بخاری ۳۵۷۔ ابو داؤد ۳۵۹۰)

(۲۳۷۱۵) حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دوسرے کا دواؤ تیکہ کا مقروض تھا، آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس سے ایک حصہ کم کر دے، اس شخص نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول ﷺ! پھر آپ ﷺ دوسرے سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا: اس کا جو باقی حق رہ گیا

ہے وہ اس کو ادا کرو۔

(۳۳۷۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْخَنَفِيِّ ، أَنَّ قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُبُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ يُؤَخَّرُوا ثَلَاثًا إِلَى الْمَيْسِرَةِ وَيَحْطُوا ثَلَاثًا وَيَجْعَلُوا ثَلَاثًا ، فَفَعَلُوا .

(۲۳۷۱۶) حضرت ابوصالح اٹھی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک قوم مقروض ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے عامل کو تحریر فرمایا کہ: ایک تہائی قرض کو تمہول تک مؤخر کرو، اور ایک تہائی ختم کرو اور ایک تہائی فوراً وصول کر لو، پس انہوں نے اسی طرح کیا۔

(۵۸۰) الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اشْتَرِ مِنِّي حَتَّى أَقْضِيكَ

کوئی شخص دوسرے کو یوں کہے: قرضہ کی ادائیگی تک مجھ سے یہ درہم خرید لو

(۳۳۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيكَ .

(۲۳۷۱۷) حضرت ابراہیم اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کو یوں کہے کہ یہ دینار مجھ سے خرید لو۔

(۵۸۱) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ بِالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ

کوئی شخص دو تین سالوں کے لئے پھلوں کی بیع کرے

(۳۳۷۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مَعَاوِمَةً .

(۲۳۷۱۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سالوں کے حساب سے کھجوروں کی بیع کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

(۳۳۷۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ بَيْنَيْنِ . (ابوداؤد ۳۳۶۷ - مسلم ۱۱۷۸)

(۲۳۷۱۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کھجور کی کئی سالوں کے لئے بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۳۳۷۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَعَاوِمَةِ .

(مسلم ۱۱۷۵ - ابوداؤد ۳۳۹۷)

(۲۳۷۲۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سالوں کے اعتبار سے (یعنی کئی سال کی اکٹھی بیع کرنے) سے منع

فرمایا ہے۔

(۲۳۷۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرُو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَرَيْتُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَاتِيَتٍ مَحْمُودِ بْنِ لَيْبِدٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ .

(۲۳۷۲۱) حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس ﷺ کے صدقات کا ولی بنایا گیا تو میں حضرت محمد بن لبید کے پاس آیا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ نے اس کا مال تین سال کے لئے فروخت کیا تھا۔

(۲۳۷۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ بَيْعَ النَّخْلِ السَّتِينِ ؟ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا .

(۲۳۷۲۲) حضرت منصور سے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم دو سال کے لئے کھجور کی بیج کرنے کو ناپسند کرتے تھے؟ حضرت منصور نے فرمایا: وہ تو اس سے بھی آسان چیز کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۷۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ سَعْدِ مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ أَسِيدَ بْنَ حُضَيْرٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَبَاعَ عُمَرُ لَمْرَةَ أَرْضِهِ سِتِّينَ .

(۲۳۷۲۳) حضرت سعد سے مروی ہے کہ حضرت اسید بن خضر فوت ہوئے تو ان کے ذمہ قرضہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی زمین کے پھلوں کو دو سال کے لئے فروخت فرمایا۔

(۵۸۲) فِي الْهَبَةِ يَرْجِعُ فِيهَا

ہبہ دے کر اس سے رجوع کرنا

(۲۳۷۲۴) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ قَالَ سُفْيَانُ : لَا رُجُوعَ فِي هَبَةٍ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِي .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَرْجِعُ دُونَ الْقَاضِي .

(۲۳۷۲۴) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ہبہ سے رجوع قاضی کے پاس ہی ہوگا، اور حضرت ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قاضی کے علاوہ بھی رجوع کر سکتا ہے۔

(۵۸۳) فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ عِنْدَ الْقَاضِي

کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کا اقرار کرے

(۲۳۷۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَقْرَأَ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أَخَذَ بِأَقْرَارِهِ إِلَّا الْحَدَّ .

(۲۳۷۲۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کا اقرار کرے پھر بعد میں اس کا انکار کر دے تو حد کے

علاوہ باقی چیزوں میں اتراری وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا۔

(۵۸۴) الرَّجُلَيْنِ يَتَدَارَأَنِ فِي الشَّيْءِ

دو آدمیوں کا کسی چیز میں اختلاف

(۲۳۷۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَأَنِ الشَّيْءَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنَّ حَلْفَ فُهْوَلَةَ .

(۲۳۷۲۲) حضرت عامر بن جابر فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ دے کہ اگر تو نے قسم اٹھائی تو یہ تیرا فرمایا اگر اُس نے قسم اٹھالی تو اُس کا ہو جائے گا۔

(۵۸۵) فِي بَيْعِ جُلُودِ النَّمُورِ

چیتے کی کھال کی بیع

(۲۳۷۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَكْتُمُ بَيْعَ جُلُودِ النَّمُورِ ، وَعِظَامِ الْفِيلِ ، وَيَشْرَاهَا .

(۲۳۷۲۷) حضرت محمد بن ميسره فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاووس سے سنا: وہ چیتے کی کھال کی بیع اور اونٹ کی ہڈیوں کی خرید و فروخت کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۳۷۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَرِ بَأْسًا بِبَيْعِ جُلُودِ النَّمُورِ وَيَشْرَاهَا .

(۲۳۷۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چیتے کی کھال کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۷۲۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ أُنْيَابِ الْفِيلَةِ ، وَلَا بِبَيْعِهَا بَأْسًا .

(۲۳۷۲۹) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین ہاتھی دانتوں کی خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۳۷۳۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّجَارَةِ فِي الْعَاجِ .

(۲۳۷۳۰) حضرت محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں ہاتھی کے دانتوں کی بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۵۸۶) فِي الْحَاءِ كِ يَفْسِدُ الثَّوْبَ

پارچہ بافت اگر کپڑا خراب کر دے

(۲۳۷۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ اِلَى نَسَاجٍ غَزْلًا فَافْسَدَهُ .

قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: أَرِمِ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ، فَإِذَا أَقَامَ الْبَيْتَةَ، قَالَ لِلنَّسَاجِ: أَعْطِهِ مِثْلَ غَزَلِهِ.

(۲۳۷۳۱) حضرت ابن سیرین سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے کپڑا بننے والے کو اون دیا لیکن اس نے خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شریح فرماتے تھے کہ اس بات پر گواہ پیش کرو کہ اُس نے خراب کیا ہے، اگر اس بات پر گواہ گواہی دے دیں تو پارچہ بانی کرنے والے سے کہا جائے گا کہ اس کی اون کی مثل اُس کو اون واپس کر۔

(۲۳۷۳۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَلَّمْتُ غَزَلًا لِأُمِّي إِلَى نَسَاجٍ فَأَفْسَدَهُ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: يَضْمَنُ.

(۲۳۷۳۲) حضور منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی اون ایک پارچہ بانی کرنے والے کو دیا تو اُس نے اُس کو خراب کر دیا، میں نے حضرت ابراہیم سے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا وہ ضامن ہوگا۔

(۵۸۷) مَنْ قَالَ لَا يَبِيعُ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بیع صرف اسی شخص کی منعقد ہوگی جو بیع کو سمجھتا ہو

(۲۳۷۳۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا يَبِيعَنَّ بَسُوقِكُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا إِنْسَانٌ يَعْقِلُ الْبَيْعَ. (۲۳۷۳۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے بازار میں صرف وہی شخص بیع کرے جو بیع کو سمجھتا ہو۔

(۵۸۸) فِي الرَّجُلَيْنِ يُوَدِعَانِ الشَّيْءَ

دو آدمیوں کا کسی کے پاس ایک چیز امانت رکھوانا

(۲۳۷۳۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَادَانَ، قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدَيْعَةً وَقَالَا لَهَا: لَا تَدْفَعِيهَا إِلَيَّ وَاحِدَةً مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكَ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَعَابَا، فَبَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ: أَعْطِينِي وَدَيْعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ، فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا، ثُمَّ أُعْطِيَتْ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ بَعْدُ فَقَالَ: هَاتِي وَدَيْعَتِي، فَقَالَتْ: قَدْ جَاءَ صَاحِبُكَ فَذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ، فَأَخَذَ وَدَيْعَتُكَ مِنِّي، فَأَرْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا قَصَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ لَهَا عُمَرُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَمِنْتَ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اجْعَلْ عَلَيَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قَالَ لِعَلِيِّ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَلِيُّ، قَالَ عَلِيُّ: هَذِهِ الْوَدَيْعَةُ عِنْدِي، وَقَدْ أَمَرْتُمَاهَا إِلَّا تَدْفَعِ إِلَيَّ وَاحِدَةً مِنْكُمَا حَتَّى نَجْتَمِعَا عِنْدَهَا، فَلَاتِي بِصَاحِبِكَ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا، قَالَ: فَرَأَوْا أَنَّهُمَا إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.

(۲۳۷۳۴) حضرت زاذان سے مروی ہے کہ دو شخصوں نے ایک خاتون کے پاس امانت رکھوانا چاہی اور ان دونوں نے اُس سے کہا کہ ہم میں سے کسی کو یہ مت دینا مگر جب ہم دونوں ایک ساتھ آجائیں، پھر وہ دونوں چلے گئے اور کہیں غائب ہو گئے، پھر کچھ

عرصہ بعد اُن میں سے ایک آیا اور خاتون سے کہا کہ میری امانت میرے حوالے کرو میرا دوست فوت ہو چکا ہے، اُس خاتون نے انکار کیا یہاں تک کہ اُن کا اختلاف بہت زیادہ ہو گیا، پھر خاتون نے اُس کے حوالہ کر دیا، پھر کچھ عرصہ بعد دوسرا آیا اور کہا کہ میری امانت میرے حوالہ کرو، خاتون نے کہا کہ تیرا دوست آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے اور وہ تمہاری امانت مجھ سے لے گیا ہے، وہ دونوں جھگڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکمل واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس خاتون سے فرمایا: میرا نہیں خیال مگر یہ کہ تو ضامن ہے۔ خاتون نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمارے درمیان حکم بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا: ان کے درمیان فیصلہ کرو، حضرت علی نے فرمایا، یہ امانت میرے پاس ہے، اور تم نے اس عورت کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو یہ ودیعت نہیں دینی، جب تک کہ دونوں اکٹھے حاضر نہ ہو جائیں۔ لہذا پہلے تو اتنا دوسرا سنا ہی لے کر آ۔ آپ نے خاتون کو ضامن نہیں بنایا، راوی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں اس خاتون کا مال لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔

(۵۸۹) فِي الشَّرِيكِ

شريك کا بيان

(۲۳۷۲۵) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَهْدِي لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً مِنَ الذَّهْنِ ، قَالَ يَحْسَبُهُ مِنَ الرَّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ .
(۲۳۷۳۵) حضرت ابراہیم اس مضارب کے متعلق، جو عاشر کے پاس سے گذرے تو اس کو ہدیہ پیش کرے اور تیل کی شیشی کو تحفے میں دے، فرماتے ہیں کہ اس خرچہ کو وہ نفع میں سے شمار کرے گا اور اگر نفع نہ ہو تو اس المال میں سے نکال لے گا۔

(۵۹۰) فِي الرَّجُلِ بَاءَ امٍّ وَكَلِيهِ

آدی کا اپنی ام ولد کو فروخت کرنا

(۲۳۷۳۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَادٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَلَيْدٌ مِنْهُ أَيْضًا ، قَالَ : تَرُدُّ إِلَى الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ مِثْلِهَا ، وَيَكُونُ وَلَدُهَا مِنَ الْآخِرِ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَأْخُذُ الْآخِرُ تَمَنُّهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ عَوْقِبَ ، فَإِنْ عَلِمَا كِلَاهُمَا عَوْقِبًا .

(۲۳۷۳۶) حضرت حماد سے مروی ہے کہ اگر ایک آدی اپنی ام ولد کو بیچ دے پھر خریدنے والا بھی اس سے وطی کر لے اور وہ باندی اس دوسرے کے پاس ایک اور بچہ جن دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ باندی پہلے شخص کو واپس کی جائے گی۔ باندی کو

مہر مثلگی گا، اور اس کا دوسرا بچہ بھی اس کی طرح غلام شمار ہوگا اور مال کے آزاد ہونے سے وہ بھی آزاد ہو جائے گا اور دوسرا آدمی اول سے باندی کی دی ہوئی قیمت وصول کرے گا پھر اگر کسی ایک کو معلوم تھا کہ یہ درست نہیں ہے تو اس کو سزا دی جائے گی اور اگر دونوں جانتے تھے تو دونوں سزا کے حق دار ہیں۔

(۵۹۱) رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا

کوئی شخص کسی سے سامان خریدے

(۲۳۷۳۷) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ : الرَّبْحُ لِلأَوَّلِ .

(۲۳۷۳۷) حضرت محمد اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے دوسرے کو کچھ فروخت کیا، پھر وہ سامان اُسی کے پاس رکھوادیا اور اُس کو مشتری نے آگے فروخت کر دیا تو فرمایا منافع پہلے کا ہوگا۔

(۲۳۷۳۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ بِيَجِيءُ بِحِمَالٍ يَنْقُلُهُ ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بَعِيْتَهُ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَرَبْحُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ .

(۲۳۷۳۸) حضرت حماد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے سامان خریدا، پھر سامان اٹھانے والے کو لینے چلا گیا تاکہ اُس کو منتقل کرے، پھر جب واپس آیا تو اُس کا ساتھی اُس کو آگے فروخت کر چکا تھا تو فرمایا کہ اگر بعینہ وہی چیز مل جائے تو اس سے لے لے۔ اور اگر دوسرا خریدنے والا لے جا چکا ہے اور اب وہ چیز نہیں مل سکتی تو اس پہلے مشتری کے لیے کھ نہیں ہوگا۔ اور نفع بائع کا ہوگا اُسی کے مثل چیز پائے تو اُس سے وصول کرے، اور اگر وہ لے جا چکا تھا اور اس پر قادر نہ تھا تو اُس کے لئے کچھ نہیں ہے، اور منافع فروخت کرنے والے کا ہوگا۔

(۲۳۷۳۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحَكَمَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يُجِبْهُ عَنْهُ .

(۲۳۷۳۹) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حکم کے پاس حاضر تھا حضرت ابراہیم سے انہوں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو ان کو جواب نہیں دیا گیا۔

(۵۹۲) فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ ، عَلَى مَنْ نَفَقْتُهُ ؟

کوئی شخص رہن رکھوائے تو رہن کا نفقہ (خرچہ) کس پر ہے؟

(۲۳۷۴۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا ، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. (بخاری ۲۵۱۱۔ ابوداؤد ۳۵۲۱)

(۲۳۷۳۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رہن رکھی ہوئی چیز پر سوار ہوا جائے گا اور دودھ پیا جائے گا، اور جس نے دودھ پیا اور سواری کی اس پر اس کا نفقہ ہے۔

(۲۳۷۴۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَعَنْ عَبَادِ بْنِ الْعَوَامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي عَبْدِ رَهْنٍ ، قَالَ : نَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ .

(۲۳۷۴۱) حضرت شعبی سے رہن والے غلام کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا اس کا نفقہ راہن پر ہے۔

(۲۳۷۴۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَقْسُلُ بْنُ مَهْلِبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ .

(۲۳۷۴۲) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ رہن کا نفقہ راہن پر ہے۔

(۲۳۷۴۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ ، قَالَ : نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ . وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَى الرَّاهِنِ .

(۲۳۷۴۳) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ رہن کا نفقہ مرتہن پر ہے کیونکہ وہ اس کی ضمان میں ہے اور حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نفقہ راہن پر ہے۔

(۲۳۷۴۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَرِيكًَا : عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ رَهْنًا ؟ قَالَ : عَلَى الرَّاهِنِ . (۲۳۷۴۴) حضرت یحییٰ بن آدم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریک سے دریافت کیا کہ اگر حیوان کو رہن رکھوایا جائے تو نفقہ کس پر ہوگا؟ فرمایا راہن پر۔

(۲۳۷۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا فَبِعْتَنِي بَعْضَهُ ثُمَّ يَقْطَعُ بِهِ فَلَا يَجِدُ مَا يُعْطِينِي فَيَقُولُ : بِعْنِي مِنْ طَعَامِكَ حَتَّى أُعْطِيكَ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، هَذَا الرَّبَا الصَّرَاحِيَّةُ .

(۲۳۷۴۵) حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے ایک شخص سے گندم خریدی، پھر اس نے مجھے کچھ دیا، پھر اس کے پاس طعام ختم ہو گیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا جو مجھے دے سکتا۔ اس نے کہا اپنی گندم میں سے مجھے فروخت کر دے تاکہ میں تجھے (تیرا باقی حصہ) دے دوں؟ حضرت ابو جعفر نے فرمایا: اس کے قریب بھی مت جانا یہ کھم کھلا سو ہے۔

(۵۹۲) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ يُؤْجَرُ بِأَكْثَرِ

کوئی شخص کرایہ پر لے کر اُس سے زیادہ کرایہ پر آگے دے دے تو اُس کا حکم

(۲۳۷۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَجَرَهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ الْفَضْلُ لِلأَوَّلِ .

(۲۳۷۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو مزدور کرایہ پر لے کر اُس سے زیادہ کرایہ پر آگے دے دے تو زیادتی پہلے کو ملے گی۔

(۲۳۷۷) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۳۷۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۳۷۸) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِى الْبَيْتَ فَيُكْرِيهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ : يَرُدُّ الْفَضْلَ .

(۲۳۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کرایہ پر مکان لے کر اُس سے زیادہ کرایہ پر آگے دے دے تو زیادتی کو واپس کر دیا جائے گا۔

(۲۳۷۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَبْرَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤْجَرُهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، فَرُخِّصَ فِيهِ اثْنَانِ ، وَكَرِهَهُ اثْنَانِ .

(۲۳۷۹) حضرت سعید بن المسیب، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن اور حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت سلیمان بن یسار سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص مکان کرایہ پر لے کر اُس سے زیادہ قیمت میں کرایہ پر دے دے تو ان حضرات میں سے دو نے اس کی اجازت دی ہے اور دو نے اس کو ناپسند کیا۔

(۲۳۸۰) حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذَنَّ فَضْلًا مِنْ ذَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا ، وَلَا بَيْتٍ .

(۲۳۸۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ گھریا جانور جو کرایہ پر لیا ہے اُس پر زیادتی وصول مت کرو۔

(۲۳۸۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَأْجَرْتَ غُلَامًا ، أَوْ دُخَانًا فَلَا تُؤْجَرُهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرْتَهُ .

(۲۳۸۱) حضرت ایسا بن معاویہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم دکان یا غلام کرایہ پر لو تو جتنا کرایہ لیا ہے اُس سے زیادہ کرایہ پر

مت دو۔

(۲۳۷۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرٍ مِنْ أُجْرِهِ .

(۲۳۷۵۲) حضرت شہر بن حوشب اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی کوئی چیز کرایہ پر لے کر زیادہ کرایہ پر آگے دے دے۔

(۲۳۷۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هُوَ حَرَامٌ .

(۲۳۷۵۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔

(۲۳۷۵۴) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ رِبَاٌ .

(۲۳۷۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ سود ہے۔

(۲۳۷۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرٍ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَمْ يَرِ يَرِيهِ بِأَسَا ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ بَعْدَ فِكْرِهِ .

(۲۳۷۵۵) حضرت زہری سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کوئی شخص کرایہ پر چیز لے کر اس سے زیادہ کرایہ پر آگے دے سکتا ہے؟

انہوں نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا، پھر بعد میں میں نے دوبارہ ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔

(۲۳۷۵۶) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ : أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۳۷۵۶) حضرت میمون بھی اس کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۳۷۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرٍ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا .

قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرٍ لِمَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ ؟ قَالَ : لِصَاحِبِهَا .

(۲۳۷۵۷) حضرت ابراہیم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی کرایہ پر مکان لے کر پھر زیادہ کرایہ پر دے دے، راوی کہتے ہیں

کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ اگر وہ زیادہ کرایہ پر دے دے تو کرایہ کس کا ہوگا؟ فرمایا اس کے مالک کا۔

(۲۳۷۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ .

(۲۳۷۵۸) حضرت ابن سیرین اس کو ناپسند فرماتے تھے۔

(۲۳۷۵۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيِّونَ يَكْرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ : لَمْ نَسْتَرِ وَلَمْ نَبِيعْ ؟ فَبِأَيِّ شَيْءٍ نَأْكُلُ مَالَهُ ؟ !

(۲۳۷۵۹) حضرت محمد بن عیاض فرماتے ہیں کہ ہمارے کوفہ کے اصحاب اس کو ناپسند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہ ہم خریدیں اور نہ

فروخت کریں؟ پھر ہم کس طرح اس کا مال کھائیں گے؟

(۲۳۷۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، وَأَبْنِ عُمَرَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ .

(۲۳۷۱۰) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص کرایہ پر چیز لے کر پھر اس سے زیادہ کرایہ پر دے دے۔

(۲۳۷۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كَانَ هِشَامُ بْنُ هَبِيرَةَ يَقْضِي : مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ لِرَبِّهِ .

(۲۳۷۱۱) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن ہبیرہ فیصلہ فرماتے تھے کہ جو شخص کرایہ پر چیز لے کر آگے زیادہ کرایہ پر دے دے تو زیادتی سود ہے۔

(۲۳۷۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ .

(۲۳۷۱۲) حضرت منصور سے اسی طرح مروی ہے۔

(۵۹۴) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ فِيهِ بِشَيْءٍ

جو حضرات فرماتے ہیں اگر اس میں کچھ کام کر دے تو پھر اس کی اجازت ہے

(۲۳۷۱۳) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْإِبِلَ ، ثُمَّ يَكْرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ ، أَوْ اكْتَرَى فِيهَا أُجِيرًا .

(۲۳۷۱۳) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی اور حضرت حکم سے دریافت کیا کہ آدمی اونٹ کرایہ پر لے پھر اس سے زیادہ کرایہ پر دے دے؟ فرمایا اگر اس نے خود اس میں کام کیا ہو یا اس میں اجیر کرایہ پر لیا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۷۱۴) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلًا فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَتَرَدَّدَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي رَأْيِي .

(۲۳۷۱۴) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اونٹ کرایہ پر لے کر اس سے زیادہ کرایہ پر دے دے؟ آپ ایک لمحہ خاموش رہے پھر فرمایا میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۳۷۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا اكْتَرَيْتَ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرِ مِنْ أُجْرِهِ .

(۲۳۷۱۵) حضرت طاووس فرماتے ہیں اگر آپ گھر کرایہ پر لے کر اس سے زیادہ کرایہ پر دے دیں تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۷۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هَبِيرَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمَلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ ،

أَوْ يَسْكُنُ بَعْضَهَا.

(۲۳۷۶۶) حضرت ہشام بن میرہ اس کو ناپسند فرماتے تھے، الا یہ کہ اس میں کوئی کام کرے یا پھر خود بھی اس گھر میں یا اس کے کچھ حصہ رہائش اختیار کرے۔

(۲۳۷۶۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَاجْرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۲۳۷۶۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر گھر کرایہ پر لے کر پھر کچھ حصہ میں خود رہے اور کچھ کرایہ پر دے دے تو کوئی حرج نہیں۔
(۲۳۷۶۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا .
(۲۳۷۶۸) حضرت عامر اس کو ناپسند فرماتے ہیں مگر یہ کہ اس میں کام کرے۔

(۲۳۷۶۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ وَمُبَارَكٌ وَأَبُو هَلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرِ .

(۲۳۷۶۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آدمی کرایہ پر کوئی چیز لے کر اس سے زیادہ کرایہ پر دے دے تو کوئی حرج نہیں۔
(۲۳۷۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرٍ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ .

(۲۳۷۷۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ آدمی کرایہ پر کوئی چیز لے کر اس سے زیادہ کرایہ پر دے دے تو کوئی حرج نہیں۔
(۲۳۷۷۱) حَدَّثَنَا عُثْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ ، أَوْ مَرٌّ فَوَاجِرَهُ بِأَكْثَرٍ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ .

(۲۳۷۷۱) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑے اور پھاوڑے وغیرہ سے کوئی کام شروع کر دے تو پھر کرایہ سے زیادہ کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۷۷۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَجِيرَ أَوْ الشَّيْءَ بِأَكْثَرٍ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ .

(۲۳۷۷۲) حضرت مکحول اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ اجیر یا کسی اور چیز کو زیادہ اجرت پر آگے دینا جائز ہے۔

(۵۹۵) فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْعِلْمَانِ

دو غلاموں کے درمیان اختیار

(۲۳۷۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْعِلْمَانِ حُكْمٌ .

(۲۳۷۷۳) دو غلاموں کے درمیان اختیار دینا حکم ہے۔

(۲۳۷۷۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ بُكَيْرِ الضَّخْمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هُوَ حُكْمٌ .
(۲۳۷۷۴) حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہے۔

(۵۹۶) فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَيَقُولُ اَعْمَلْ عَلَيْهَا

اگر ایک آدمی دوسرے کو سواری دے اور کہے کہ اس پر کام کرو تو کیا حکم ہے؟

(۲۳۷۷۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَمُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا تَكَرَّهَا أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّابَّةَ ، أَوْ الْغَلَامَ ، أَوْ الْبَيْتَ فَيَقُولُ : مَا كَسَبْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .
(۲۳۷۷۵) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ کوئی آدمی دوسرے کو سواری غلام یا گھر دے اور کہے کہ اس کی آمدنی ہم دونوں میں تقسیم ہوگی۔

(۵۹۷) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِصْطَبَلُ فَيَسْمِيهِ بِاسْمِ

اگر ایک آدمی کا اصطلبل ہو اور اس کا کوئی نام رکھے

(۲۳۷۷۶) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ نَاسًا مِنَ النَّخَاسِينَ وَأَصْحَابِ الدَّوَابِّ يُسَمُّوْنَ أَحَدَهُمْ إِصْطَبَلُ دَوَابَّةٍ : خُرَّاسَانَ وَسَجِسْتَانَ ! ثُمَّ يَأْتِي السُّوقَ فَيَقُولُ : جَاءَتْ مِنْ خُرَّاسَانَ وَسَجِسْتَانَ ، قَالَ : فَكِرَةٌ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ .

(۲۳۷۷۶) حضرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مویشی فروش نے اپنے اصطلبل کا نام خراسان یا سجستان رکھا۔ وہ بازار آ کر کہتا ہے کہ میں یہ جانور خراسان یا سجستان سے لایا ہوں اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(۵۹۸) فِي بَيْعِ الْبُلْحِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ

کھجوروں کے پکنے سے پہلے ان کی بیع کا حکم

(۲۳۷۷۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِأَسَا بَيْعِ الْبُلْحِ لِمَنْ يَصْرِمُهُ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ .
(۲۳۷۷۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر خریدتے وقت کچی کھجوریں کاٹ لے تو ان کی بیع میں کوئی حرج نہیں۔

(۵۹۹) الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ عَلَى الْمَيْتَةِ

مردار کو اٹھانے کی اجرت لے

(۲۳۷۷۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ الْمَيْتَةَ إِلَى مَنْ يَسْتَجِلُّ أَكْلَهَا ، وَلَا

یَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهَا مَنْ يَنْقُلُهَا عَنْهُ.

(۲۳۷۷۸) حضرت ابراہیم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی مرادار چیز کو اس شخص کی طرف اٹھا کر لے جائے۔ جو اس کے کھانے کو حلال سمجھتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ ایسی جگہ سے اٹھا کر لے جانے کی اجرت لے۔

(۶۰۰) فِي الرَّجْلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ إِلَى كَذَا وَكَذَا

کوئی شخص اتنی اتنی مدت کے لئے بیع کرے

(۲۳۷۷۹) حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا إِلَى شَهْرٍ بَغْدَا ، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بَغْدَا ، فَاسْتَهْلَكَ الْبَيْعَ ، قَالَ : لَهُ أَوْ كَسُ الثَّمَنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ .

(۲۳۷۷۹) حضرت ابراہیم اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو بیع کو ایک مہینے تک کے لئے اتنے میں اور دو مہینے تک کے لئے اتنے میں خریدے، پھر بیع ہلاک ہو جائے، فرمایا اس پر دونوں ٹمنوں میں سے جو کم ہے وہ لازم ہے اور اس کے لیے اقل قیمت لمبی مدت کے لیے ہے۔

(۲۳۷۸۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ إِلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقْلُ الثَّمَنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ .

(۲۳۷۸۰) حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ جو دو بیع کرے دو وقتوں تک کے لئے، اس پر اقل ٹمن لمبی مدت کے لئے ہے۔

(۶۰۱) الرَّاعِي عَلَيْهِ ضَمَانٌ

چرواہے پر ضمان

(۲۳۷۸۱) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُضَمَّنُ الرَّاعِيَّ إِلَّا مِنْ مَوْتٍ .

(۲۳۷۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چرواہا ضامن ہوگا مگر یہ کہ جانور مر جائیں۔

(۲۳۷۸۲) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّاعِيِّ يُضَمَّنُ إِذَا كَانَ أَجِيرًا ؟ قَالَ : لَا .

(۲۳۷۸۲) حضرت عامر سے دریافت کیا گیا کہ اگر چرواہا مزدور ہو تو کیا وہ ضامن ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں۔

(۲۳۷۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُضَمَّنُ الرَّاعِيُّ .

(۲۳۷۸۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ چرواہا ضامن ہوگا۔

(۲۳۷۸۴) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّاعِيِّ ضَمَانٌ .

(۲۳۷۸۴) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ چرواہے پر ضمان نہیں ہے۔

(۲۳۷۸۵) حَدَّثَنَا الشَّقْفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي .
(۲۳۷۸۵) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ چرواہا ضامن نہیں ہوگا۔

(۲۳۷۸۶) حَدَّثَنَا قُسَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ .
(۲۳۷۸۶) حضرت زہری سے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۳۷۸۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَرِيحًا قَطُّ إِلَّا وَهوَ يَضْمَنُ
الْأَجِيرَ ، إِلَّا رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَغْلِفُ لَهُ بَغْلَتَيْنِ حَشِيشًا ، فَشَرَدَتْ إِحْدَاهُمَا ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ .

(۲۳۷۸۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، مگر انہوں نے اجیر کو ضامن بنایا، سوائے ایک شخص کے کہ اس نے دوسرے سے دو بچروں پر گھاس ادھار لیا، پھر ان میں سے ایک بھاگ گیا پس انہوں نے اس کو ضامن نہیں بنایا۔

(۲۳۷۸۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الرَّاعِي ، إِذَا
كَانَ يَرْعَى لِهَذَا وَلِهَذَا ، فَإِنْ كَانَ يَرْعَى لَكَ وَحَدَكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ .

(۲۳۷۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر چرواہا کئی لوگوں کا ہو تو پھر وہ ضامن ہوگا، اور اگر صرف تمہارا چرواہا ہو تو پھر اس پر ضامن نہیں ہے۔

(۲۳۷۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي .
(۲۳۷۸۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ چرواہا ضامن نہیں ہوگا۔

(۶۰۲) فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْجَائِرِ

ظالم بادشاہ کے پاس گواہی دینا

(۲۳۷۹۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَوْ رَأَيْتُ
رَجُلًا شَاحَ رَجُلًا ، فَدَعَانِي إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ : مَا شَهِدْتُ لَهُ .

(۲۳۷۹۰) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کسی شخص کو دوسرے نے مار کر زخمی کر دیا ہے، پھر وہ مجھے ظالم بادشاہ کے پاس اس لئے بلائے کہ میں اس کے لئے گواہی دوں تو میں اس کے لئے گواہی نہیں دوں گا۔

(۶۰۳) فِي الْوَصِيِّ يَتَّهَمُ

وصی متہم ہو جائے

(۲۳۷۹۱) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، قَالَا : إِذَا اتَّهَمَ الْوَصِيُّ اسْتُحْلِفَ .

(۲۳۷۹۱) حضرت شعی اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر وصی متم ہو جائے تو اُس سے قسم لی جائے گی۔

(۶۰۴) فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا سِلْعَةٌ

دو آدمیوں کا مشترکہ سامان ہو

(۲۳۷۹۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرِيَاَهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاَهَا مَرَابَحَةً ، فَأَعْطِيَا بِهَا خَمْسِينَ دِينَارًا ، فَأَقْبَوَاهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مَرَابَحَةً ، قَالَ : يَبِيعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، تِلْكَ الْخَمْسَةُ رُبْحُهَا نَفْسُهُ .

(۲۳۷۹۲) حضرت حماد سے مروی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک باندی مشترک تھی، جو انہوں نے چالیس دینار میں خریدی تھی، پھر انہوں نے اُس کو مرابحہ فروخت کرنے کا ارادہ کیا، اُن کو پچاس دینار ملے، پھر ان میں سے ایک نے اُس کو خود خرید لیا، پھر اگر وہ مرابحہ فروخت کرنا چاہے تو وہ پینتالیس دینار میں فروخت کرے گا اور وہ پانچ دینار اُس کا نفع ہوگا۔

(۶۰۵) فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى أُمَّهِ بِجَارِيَةٍ

کوئی شخص اپنی والدہ کو باندی دے

(۲۳۷۹۳) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمَّهِ بِجَارِيَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَسَافَهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لِأُمَّهِ : إِنَّ ابْنَكَ لَمْ يَهَبْكَ صَدَقَتَهُ .

(۲۳۷۹۳) حضرت حارث سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو باندی بہہ کی، پھر اُس نے خاتون سے شادی کی اور اُس کو اپنی بیوی کو دے دیا، پھر وہ اپنا جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گئے، حضرت شریح نے اُس کی والدہ سے فرمایا: بے شک تیرے بیٹے نے تجھے اپنا صدقہ بہہ نہیں کیا تھا۔

(۲۳۷۹۴) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا لِأُمَّهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِبَيْتَةٍ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ .

(۲۳۷۹۴) حضرت ابراہیم نے باندی کو والدہ کی ملکیت قرار دیا مگر یہ کہ وہ اس پر گواہ لے آئے کہ اُس نے صدقہ (بہہ) کرنے سے قبل مہر میں دیا تھا۔

(۶۰۶) فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الشَّيْءِ

دو آدمیوں کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے

(۲۳۷۹۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَا فِي مَالٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا ، فَوَضَعَاهُ

عَلَى يَدَيَّ عَدْلٌ ، قَالَ : فَأَلْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدْلِ حَتَّى يُفِيمَ أَحَدَهُمَا الْبَيْتَةَ .

(۲۳۷۹۵) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما نے دو شخصوں کے متعلق فرماتے ہیں جن کا مال سے متعلق اختلاف ہو گیا، انہوں نے وہ مال ایک عادل کے پاس رکھوایا، فرمایا، مال اسی حالت میں عادل کے قبضہ میں رہے گا یہاں تک کہ ان میں سے ایک گواہ پیش کر دے۔

(۶۰۷) فِي الْقَوْمِ يَتْرَاضُونَ بِالشَّيْءِ بَيْنَهُمْ

قوم اگر کسی شے کے بارے میں باہمی اتفاق کر لیں

(۲۳۷۹۶) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَانَهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ مِنَ الْغُزَالِينَ فَقَالُوا : سُنْتَنَا فِيمَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ : سُنَّتُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ .

(۲۳۷۹۶) شرح کے پاس ایک قوم جھڑالے کر آئی جو کپڑا کاتتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارا طریقہ وہی ہے جو ہمارے درمیان مقرر ہے، فرمایا تمہارا طریقہ وہی ہے جو تمہارے درمیان ہے۔

(۶۰۸) الرَّجُلُ يَعْتَقُ بِالْفَارِسِيَّةِ

کوئی شخص فارسی کے الفاظ سے غلام کو آزاد کرے

(۲۳۷۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَطْفَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ أُمَّمَ وَكَدٍ قَالَتْ لِسَيِّدِهَا : رَقِّصْ صَبِيَّكَ إِذَا بَغَى عَلَيْكَ ، وَقُلْتُ : مَا دَرْتُوْا زَادَ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَا الْفَارِسِيَّةُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۲۳۷۹۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ام ولد نے اپنے آقا سے کہا: جب تمہارا بچہ تمہارے پاس روئے تو اس کو اچھا لو اور یوں کہو "مادر تو آزاد" یعنی تیری ماں آزاد ہے، حضرت شعبی نے فرمایا: اگر اس کو فارسی نہیں آتی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۶۰۹) فِي شَهَادَةِ الْأَقْلَفِ

جس کے ختنے نہیں ہوئے اس کی گواہی کا بیان

(۲۳۷۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْأَقْلَفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .

(۲۳۷۹۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اقلف کی گواہی قبول نہیں۔

(۲۳۷۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْأَقْلَفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُ ذَبِيحَةٌ .

قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى ذَلِكَ .

(۲۳۷۹۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اقلف کی گواہی قبول نہیں، اُس کی نماز قبول نہیں، اُس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۶۱۰) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ كُوْنِي شَخْصًا كَسَىٰ سَعَىٰ كُوْنِي شَيْءًا خَرِيْدَةً

(۲۳۸۰۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَفَقَدْتُهُ نَمْنَمًا ، ثُمَّ جِئْتُ لِأَقْبِضَهَا فَقَالَ الْبَائِعُ : أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ فَدَبَّحَهَا أَهْلِي ، فَحَاصَمْتُهُ إِلَىٰ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : رُدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ .

(۲۳۸۰۰) حضرت زیاد بن ابوزیاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے بکری خریدی اور ثمن ادا کر دیا، پھر جب میں اُس پر قبضہ کرنے آیا تو بائع نے کہا کہ بکری مرنے لگی تھی تو میں نے اُس کو ذبح کر دیا، میں بھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گیا، حضرت شریح نے فرمایا: اُس پر ثمن لٹاؤ۔

(۲۳۸۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عُمَيْرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَقَالَ : الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ : بَعْدَ لِي فَهُوَ مِنْكَ أَنْفَقَ ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَقَالَ : يَغْرَمُ الْبَائِعُ نَمْنَمَهُ .

(۲۳۸۰۱) حضرت عامر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے غلام خریدا، پھر مشتری نے بائع سے کہا، اُس کو میرے لئے فروخت کر دے وہ تجھ سے زیادہ مفلس ہے، غلام بائع کے ہاتھ میں فوت ہو گیا؟ فرمایا: بائع اُس کے ثمن کا ضامن ہوگا۔

(۲۳۸۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اعْتَقَبَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بَعْضُ الثَّمَنِ فَمَاتَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ .

(۲۳۸۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر بائع ثمن وصول کرنے کے لئے بیع کو اپنے پاس روک لے اور وہ ہلاک ہو جائے تو وہ بائع کے مال سے شمار ہوگا۔

(۶۱۱) فِي الدَّارِ تَشْتَرِي بِالذَّرَاهِمِ

اگر گھر کو دراہم کے بدلے خریدا جائے

(۲۳۸۰۳) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَىٰ دَارًا بِعَرْضٍ ، أَوْ بِذَرَاهِمٍ وَعَرْضٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ .

(۲۳۸۰۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر گھر کو سامان کے بدلے خریدا جائے، یا دراہم اور سامان کے بدلے خریدا جائے تو اس میں شفعہ نہیں ہے۔

(۶۱۳) فِي النَّسَاجِ يَدْعِي عَلَيْهِ غَزْلٌ

سوت کاتنے والے پرسوت کا دعویٰ کیا جائے

(۲۳۸.۴) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَهْلٍ الْغَدَّانِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ نَسَاجٌ فِي بَيْتِهِ غَزُولُ النَّاسِ ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ فَاحْتَرَقَتْ غَزُولُ النَّاسِ ، فَبَقِيَ ثَلَاثُ كُبَّاتٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى شُرَيْحٍ وَمَعَهُ امْرَأَتَانِ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا : هُوَ غَزْلِي ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : لَا وَاللَّهِ هُوَ غَزْلِي ، فَخَلَعِي بِإِحْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيِّشِ كَبَيْتِ غَزْلِكَ ؟ قَالَتْ : عَلَى قِشْرِ جَوْزَةٍ ، وَقَالَ لِلْأُخْرَى : عَلَى أَيِّشِ كَبَيْتِ غَزْلِكَ ؟ قَالَتْ : عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ ، فَقَالَ : يَا نَسَاجُ ، اذْهَبْ فَانْقُضْ هَذَا الْغَزْلَ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى قِشْرَةِ جَوْزَةٍ فَادْفَعُهُ إِلَيَّ هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ فَادْفَعُهُ إِلَيَّ هَذِهِ .

(۲۳۸.۰۴) حضرت شععی سے مروی ہے کہ ایک اون بنے والا (سوت کاتنے والا) تھا، جس کے گھر لوگوں کے سوت تھے، اُس کے گھر و آگ لگ گئی، اس آگ میں لوگوں کے سوت بھی جل گئے، اُس کے پاس صرف تین گولے اون کے رہ گئے، وہ اُن کو لے کر حضرت شریح کے پاس آ گیا اور اُس کے ساتھ دو خواتین تھیں، ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا سوت ہے اور دوسری خاتون نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم یہ میری ہے، انہوں نے ان میں سے ایک کو الگ کیا، اور اس سے دریافت کیا تو نے کس چیز پر سوت کا گولا بنایا تھا؟ اُس نے کہا: اخروٹ کے پھلکے پر، اور دوسری خاتون سے دریافت کیا کہ تو نے کس چیز پر سوت کا گولا بنایا تھا؟ اُس نے کہا روٹی کے ٹکڑے پر، آپ نے فرمایا: اے سوت کاتنے والے چلا جا اس سوت کے گولے تو ادھیڑ کر دیکھو اگر یہ اخروٹ کے پھلکے پر ہو تو اس کو دے دو، اور اگر روٹی کے ٹکڑے پر ہو تو پھر اُس کو دے دو۔

(۶۱۴) فِي الرَّجْلِ يَقُولُ يَوْمَ اشْتَرَيْتَ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ

کوئی شخص یوں کہے: جس دن میں فلاں کو خریدوں تو وہ آزاد ہے

(۲۳۸.۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ ، قَالَ : يَوْمَ اشْتَرَيْتَ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ ، فَاشْتَرَاهُ ، قَالَ : هُوَ حُرٌّ .

(۲۳۸.۰۵) حضرت شععی فرماتے ہیں کہ اگر یوں کہے جس دن میں نے فلاں کو خرید تو وہ آزاد ہے اور پھر اُس کو خرید لے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۳۸.۶) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : إِنِ اشْتَرَيْتَ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَهُوَ حُرٌّ .

(۲۳۸۰۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے اس غلام کو خرید اتویہ آزاد پھر اُس کو خرید لے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۳۸۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ اشْتَرَيْتَ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : يَوْمَ يَشْتَرِيهِ فَهُوَ عَتِقٌ .

(۲۳۸۰۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ جس دن میں فلاں کو خریدوں تو وہ آزاد ہے۔ اب جس دن بھی وہ اس کو خریدے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۲۳۸۰۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : قِيلَ لِرَجُلٍ : ذَكَرَ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَبْتَاعَ فُلَانَةَ وَوَلِيدَةَ سَمُوْهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ ابْتَعْتَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ فَقَالَ : أَمَا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا ، وَأَمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَيَأْبَاهُ .

(۲۳۸۰۸) حضرت عبداللہ بن رفاعہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو کہا گیا، تو فلاں باندی کو فروخت کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اُس شخص نے کہا: اگر میں نے اُس کو فروخت کر دیا تو وہ آزاد ہے، حضرت عبداللہ نے گمان کیا کہ حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: میں تو بہر حال کوئی خرابی نہیں سمجھتا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اس سے منع فرماتے۔

(۲۳۸۰۹) ... وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ لَا يُرْخِصَانِ لِأَحَدٍ فِي طَلَاقٍ ، أَوْ عِتَاقٍ .

(۲۳۸۰۹) حضرت قاسم اور حضرت سالم طلاق اور عتاق میں کسی کو مہلت نہ دیتے تھے۔

(۲۳۸۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ اشْتَرَيْتَ فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، أَوْ كُلُّ جَارِيَةٍ اشْتَرَيْتَهَا عَلَيْكَ فَهِيَ حُرَّةٌ : أَنَّهُ إِنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ عَتَقَ .

(۲۳۸۱۰) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں باندی کو خرید اتو وہ آزاد، یا یوں کہے کہ ہر وہ باندی جو تجھ سے خریدوں وہ آزاد، تو اگر وہ اُس سے کچھ خریدے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

(۶۱۴) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغَلَامِهِ أَنْتَ لِلَّهِ

کوئی شخص اپنے غلام سے کہے: تو اللہ کے لئے ہے

(۲۳۸۱۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مِغْبِرَةَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغَلَامِهِ : أَنْتَ لِلَّهِ ، قَالَ فَسِيلَ الشَّعْبِيِّ وَالْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ؟ فَقَالُوا : هُوَ حُرٌّ .

(۲۳۸۱۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ تو اللہ کے لئے ہے، حضرت شعبی، حضرت المسیب بن رافع، حضرت حماد بن ابوسلیمان سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا؟ سب نے فرمایا وہ آزاد ہے۔

(۲۳۸۱۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِينَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ ، أَوْ لَأَمِيهِ : أَنْتَ عَتِيقٌ أَنْتَ حُرٌّ أَنْتَ لِلَّهِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، إِذَا قَالَ : أَنْتَ مَوْلَى بَنِي ، فَهُوَ عَتِيقٌ .

(۲۳۸۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام یا باندی سے یوں کہے کہ تو آزاد شدہ ہے، تو آزاد ہے، یا تو اللہ کے لئے ہے تو ان سب صورتوں میں وہ آزاد شمار ہوگا۔ اور اگر یوں کہا: تو میرے بیٹے کا غلام ہے تو بھی وہ آزاد شمار ہوگا۔

(۶۱۵) العبد يأذن له مولاه

غلام کو آقا کسی کام کی اجازت دے

(۲۳۸۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ : أَنَّ عَبْدًا أَدِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ ، وَعَبْدًا أَدِنَ لَهُ فِي الصَّبْغِ ، قَالَ : فَصَمْنَهُمَا شُرَيْحٌ ، فَصَمَّنَ الْخِيَاطَ ثَمَنَ الْخُبُوطِ وَالْإِبْرِ ، وَصَمَّنَ الْآخَرَ الصَّبْغَ وَالْغُلَى ، وَمَا أَشْبَهَ أَعْمَالَهُمْ .

(۲۳۸۱۳) حضرت عمیر سے مروی ہے کہ ایک غلام کو اُس کے آقا نے سپلائی کی اجازت دی ہوئی تھی اور ایک غلام کو رنگنے کی، حضرت شریح نے دونوں کو ضامن بنایا، درزی کو سپلائی اور سوئی کا ضامن بنایا، اور دوسرے پر رنگنے کی اجرت بنائی، اور جو کچھ اُن کاموں کے مشابہ ہو۔

(۲۳۸۱۴) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَدِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التَّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَدِنَ لَهُ فِيهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ .

(۲۳۸۱۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر غلام کو کسی بھی قسم کے کاروبار کی اجازت مل جائے اور وہ اُس قسم کے علاوہ دوسری قسم میں تجارت کرے تو اُس پر ذمہ نہیں ہے۔

(۲۳۸۱۵) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَدِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَدْ أَدِنَ لَهُ .

(۲۳۸۱۵) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ اگر غلام کو صرف ایک قسم میں کام کے لئے بھیجا جائے تو اُس کو یہ اجازت ہے۔

(۶۱۶) مَنْ قَالَ الشَّفْعَةَ لِأَتُورَثُ

جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شفعہ میں وراثت نہیں چلے گی

(۲۳۸۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : الشَّفْعَةُ لِأَتُورَثُ .

(۲۳۸۱۶) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں شفعہ میں وراثت نہیں چلے گی۔

(۲۳۸۱۷) حَدَّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشَّفْعَةُ لِأَتُورَثُ .

(۲۳۸۱۷) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفعہ میں وراثت نہیں چلے گی۔

(۶۱۷) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِيَ غُرْمَاءَهُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ

جو حضرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ بعض قرض خواہوں کو قرضہ ادا کرے

اور بعض کو (فی الحال) نہ دے

(۲۳۸۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ رَكِبَهُ دِينَ ، فَكَانَ يَقْضِي غُرْمَاءَهُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ .

(۲۳۸۱۸) حضرت ابن سیرین مقروض ہوئے تو وہ بعض کو ادا کرتے اور بعض کو (فی الحال) نہ دیتے۔

(۲۳۸۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، بِنَحْوِ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهِ بِهِ .

(۲۳۸۱۹) حضرت ابو قلابہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(۶۱۸) مَنْ كَانَ لَا يَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ

جو حضرات بیماری سے بری نہیں کرتے تھے

(۲۳۸۲۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَبْرَأُ الْبَائِعِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ .

(۲۳۸۲۰) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح بائع کو بائع کو بری الذمہ نہیں قرار دیتے تھیں سوائے اس صورت کے کہ مبیعہ

کو کوئی بیماری ہو جو وہ بیان کر دے۔

(۶۱۹) الرَّجُلُ يَطَالِبُ فِيمَوْتٍ

جس پر مطالبہ ہو وہ فوت ہو جائے

(۲۳۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بَدَيْنَ فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنَتْهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَالْبُرَائَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَقُّفِ أَنْ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرَأَ ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ .

(۲۳۸۲۱) حضرت شریح اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس سے کوئی شخص اپنا حق طلب کرے پھر مطلوب فوت ہو جائے تو فرمایا

اُس کی گواہی اصل حق پر ہے، اور براءۃ اہل متوقفی پر ہے کہ اُن کا ساتھی بری ہو چکا تھا۔ یا پھر طالب اس پر قسم اٹھائے کہ وہ اس حال

میں فوت ہوا کہ اُس کا حق اُس مرنے والے پر لازم ہے۔

(۶۲۰) فِي الْمَتَاعِ يِبَاءً مَرَابِحَةً

سامان کو نفع کماتے ہوئے فروخت کرنا

(۲۳۸۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا بَعْتَ مَتَاعًا مَرَابِحَةً فَأَحْسِبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحْسِبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

(۲۳۸۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز مراہبہ فروخت کرو تو اس پر جتنا خرچہ آیا ہے اس کا حساب لگاؤ، اور جو تجھ پر خرچہ آیا ہے اس کا حساب مت لگاؤ۔

(۶۲۱) الرَّجُلُ يُعْطَى الرَّجُلَ الدِّينَارَ يَصْرِفُهُ

کوئی شخص کسی کو یہ کہہ کر دینار دے کہ اس کو تبدیل کر دے

(۲۳۸۲۳) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدِّينَارَ فَيَقُولُ : أَصْرِفُهُ بَكْدًا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا مَا فَضَّلَ .

(۲۳۸۲۳) حضرت مکحول اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کو یہ کہہ کر دینار دے کہ اتنے اتنے سونے سے تبدیل کر لے پھر جو بیچ جائے گا وہ تیرا ہوگا۔

(۶۲۲) فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَتَهُ فَادْعَى وَلَدَهَا

کوئی شخص باندی کو فروخت کرے پھر اس کے لڑکے کا دعویٰ کر دے

(۲۳۸۲۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْمَلِكِ ، وَلَا يَبْتِغِي النَّسَبَ .

(۲۳۸۲۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو باندی اور اس کے لڑکے کو فروخت کرے پھر لڑکے کا دعویٰ کر دے، فرمایا: اس کو ملکیت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا اور نسب ثابت نہیں ہوگا۔

(۶۲۳) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى قَصِيلاً فَتَرَكَهٗ

کوئی شخص کھیت کا بھوسہ (چارہ) خرید کر پھر اس کو چھوڑ جائے

(۲۳۸۲۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ : فِي سُورَى الْقَصِيلِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهُ ، قَالَ : إِنْ شَغَلَهُ شَيْءٌ عَنْ قَطْعِهِ حَتَّى يَزِيدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

(۲۳۸۲۵) حضرت حارث العکلی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھوسہ (چارہ) کو چارہ کے لئے خریدے پھر کسی کام میں مشغولی کی وجہ سے کاٹ نہ سکے اور وہ زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۶۲۴) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ

كُوْنِي شَخْصًا سَامَانًا خَرِيْدَةً

(۲۳۸۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ لَمَّا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا بَاعَهُ الطَّعَامَ : أَنْفَذَكَ إِذَا وَقَّيْتَنِي .

(۲۳۸۲۶) حضرت طاووسؓ اس طرح بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ گندم فروخت کرتے وقت وہ یوں کہے کہ جب تو سپرد کرے گا تو میں ٹھن ادا کروں گا۔

(۶۲۵) فِي الرَّجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ اخْدُمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ

كُوْنِي شَخْصًا اِپْنِي غَلَامًا سِي يُوْنُ سِي كِي تُو اِي كِ سَالٍ مِي رِي خِدْمَتِ كِر پُھِر تُو اَزَادِي هِي

(۲۳۸۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدُمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ ، قَالَ : يَخْدُمُهُ سَنَةً وَهُوَ حُرٌّ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَيَّ أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ : خَدَمَ وَلَدَهُ سَنَةً مِنْ بَعْدِهِ وَيُعْتَقُ مِنْ ثَلَاثِهِ .

(۲۳۸۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے کہ تو ایک سال میری خدمت کرے تو تو آزاد ہے، فرمایا غلام ایک سال خدمت کرے گا پھر وہ آزاد ہے، اور اگر غلام سے یوں کہے: تو اس شرط پر آزاد ہے کہ تو ایک سال میری خدمت کرے، پھر مالک فوت ہو جائے اور غلام اُس کی وفات کے بعد اُس کی اولاد کی ایک سال خدمت کرے تو وہ اس کے ثلث مال سے آزاد ہے۔

(۶۲۶) فِي شَهَادَةِ وِلْدِ الزَّوْنَا

وَلِدِ الزَّوْنَا كِي گُو اِي

(۲۳۸۲۸) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيَّ شَهَادَةً ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ : إِنَّهُ لَا تَقْبَلُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لَا يُدْرِي مَنْ أَبُوهُ ؟ قَالَ : ابْنَتِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ .

(۲۳۸۲۸) حضرت معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گواہی دی، جس کے خلاف گواہی دی تھی اُس نے کہا: اس کی گواہی قبول نہیں، آپ نے دریافت فرمایا کیوں؟ اُس شخص نے کہا کہ کیونکہ اس کے والد کا

نہیں پتہ، حضرت عمر نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور گواہ لاؤ۔

(۲۳۸۲۹) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُهَيْرِ الْعَبْسِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَكَدَّ الزَّوْنَا يَوْمَ ، وَتَجَوَزُ شَهَادَتَهُ .

(۲۳۸۲۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ولد الزنا امانت کروا سکتا ہے اور اس کی گواہی قبول ہے۔

(۲۳۸۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وُلْدِ الزَّوْنَا .

(۲۳۸۳۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ولد الزنا کی گواہی قبول نہیں۔

(۲۳۸۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .

(۲۳۸۳۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی جائز ہے۔

(۶۲۷) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدِّينُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا يَقْضِيهِ

کسی شخص پر قرضہ ہو اور وہ باوجود مال دار ہونے کے ادا نہ کرے

(۲۳۸۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي الْهَجِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ فَلَمْ يَقْضِهِ كَانَ كَأَكْبَلِ سَحْبٍ .

(۲۳۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر دین ہو اور وہ باوجود استطاعت کے ادا نہ کرے تو وہ حرام کھانے والا ہے۔

(۲۳۸۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمْ يَقْضِهِ ، فَقَدْ هَلَكَ .

(۲۳۸۳۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص پر مقررہ وقت کے لئے دین ہو پھر وہ مال دار ہو جائے اور پھر بھی دین ادا نہ کرے تو وہ ہلاک ہو گیا۔

(۶۲۸) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ قَدْ أَخَذْتُ ، قَدْ رَضِيَتْ

اگر کوئی شخص یوں کہے کہ: میں نے وصول کر لیا ہے اور میں راضی ہو گیا

(۲۳۸۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ أَخَذْتُ قَدْ رَضِيَتْ ، قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِ .

(۲۳۸۳۴) حضرت محمد رضی اللہ عنہما اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو کہے کہ میں نے وصول کر لیا اور میں راضی ہو گیا، فرمایا اُس کو خیار ہے جو شرط اُس نے لگائی تھی۔

(۶۲۹) فی رجل رأى بيد رجل ثوباً فقال رجلٌ أبيعك مثله

کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر کپڑا دیکھے اور کسی کو کہے کہ! میں آپ کو اس کے مثل فروخت کروں گا

(۲۳۸۲۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَمَ رَجُلًا يَتُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ : أبيعك مثله بكذا وكذا ، فباعه منه ، ثم انطلق إلى صاحب الثوب فاشتراه منه ، ثم أتاه به فأبى أن يقبله ، فخاصمه إلى شريح فقال : لا نجد شيئاً أشبه به منه ، فأجازة عليه .

(۲۳۸۳۵) حضرت محمد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ کپڑے کی قیمت لگائی، اُس شخص نے کہا، میں آپ کو اس جیسا کپڑا اتنے اتنے میں فروخت کروں گا، پھر اُس کے ساتھ بیع کی اور کپڑے والے کے پاس چلا گیا اور کپڑا اُس سے خرید کر آیا جب اس کے پاس آیا تو اُس نے کپڑا لینے سے انکار کر دیا، وہ اپنا جھڑا حضرت شریح کی خدمت میں لے گئے، حضرت شریح نے فرمایا: ہم کسی چیز کو بھی اس سے زیادہ اس کے مشابہ نہیں پاتے، پھر اُس پر نافذ کر دیا۔

(۶۳۰) فی قومٍ يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتصموها

کچھ لوگ میراث کے وارث بنیں، پھر ان میں سے کچھ لوگ اپنا حصہ دوسروں کو تقسیم سے

پہلے ہی فروخت کر دیں

(۲۳۸۳۶) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمْوَالًا وَمَتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

(۲۳۸۳۶) حضرت عطاء بن یسیر سے دریافت کیا گیا کہ دو شخص میراث میں کچھ مال اور سامان کے وارث بنے، پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو تقسیم سے پہلے کچھ فروخت کر دیا تو کیسا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔

(۲۳۸۳۷) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقَاسِمَهُ .

(۲۳۸۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے فروخت نہ کرے۔

(۲۳۸۳۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ .

(۲۳۸۳۸) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دونوں شریک برابر نکالیں گے۔

(۶۳۱) فی مکاتبٍ بین رجلین فأعتقه أحدهما

مکاتب غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھر ان میں سے ایک اُس کو آزاد کر دے

(۲۳۸۳۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الرَّجُلَ الْحَكَمَ عَنْ مَكَاتِبٍ بَيْنَ

رَجُلَيْنِ اَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهٗ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

(۲۳۸۳۹) حضرت عیسیٰ بن موسیٰ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت حکم سے دریافت کیا کہ ایک مکاتب غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک تھا ان میں سے ایک نے اُس کو آزاد کر دیا؟ فرمایا: بے شک وہ تو ایک مال ہے جو اُس کو ہبہ کیا گیا ہے، اُس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔

(۶۲۲) فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي بِالْكِفَايَةِ

کوئی شخص مزدور کو اس طرح کرایہ پر لے کہ اُس کو صرف سفر میں کھانا دے گا

(۲۳۸۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِكِرَاءِ الْكِفَايَةِ إِذَا لَمْ يُعْطِهِ الدَّرَاهِمَ .
(۲۳۸۴۰) حضرت زہری اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ اس طور پر کرایہ پر لے کہ اُس کو دراہم نہ دے۔ (صرف کھانا دے دے)

(۶۲۳) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَقَدْ جَعَلَ لِإِيْبِهِ الشَّيْءَ

کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والد (یا بیٹے) کے لئے کچھ ہو

(۲۳۸۴۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكِ ، قَالَ : خَاصَمَ رَجُلٌ أُخْتَهُ إِلَى سُورِجٍ فِي حُلِيِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هُوَ مِيرَاثٌ أَبِي ، فَاسْأَلَهَا الْبَيْتَةَ أَنَّهُ لَهَا ، فَقَالَ : لَا ، بَلْ أَسْأَلُكَ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ لِأَبِيكَ .

(۲۳۸۴۱) حضرت شباک سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنی بہن سے اُس کے ہار کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے حضرت شریع کے پاس آیا، اور کہا کہ یہ میرے والد کی میراث میں سے ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اس کے پاس اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ زیور اس کا ہے؟ حضرت شریع نے فرمایا نہیں بلکہ میں آپ سے گواہ مانگوں گا آپ اس بات پر گواہ پیش کرو کہ یہ تمہارے والد کا ہے۔

(۶۲۴) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ مَرَابِحَةً

کوئی شخص بطور مراہمہ کوئی سامان فروخت کرے

(۲۳۸۴۲) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً بِخِرَاجٍ بَكْدًا وَكَدًّا ، قَالَ : لَا بَأْسَ .

(۲۳۸۴۲) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص ایک سال کے طعام کی اجرت پر مزدور لے یا ایک سال کے اخراج پر اتنے عرصہ کے لئے تو کیا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۸۴۳) حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْاجِرُ غُلَامِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَهُ سَنَةً

وَهُوَ سَنَةٌ وَفِي الثَّالِثَةِ بِخَرَجٍ كَذًّا وَكَذًّا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۸۴۳) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ میرا غلام ایک سال کے طعام کی اجرت پر لے لیا گیا، اور ایک اور سال اور تیرے سال خراج کے ساتھ اتنے اتنے میں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۸۴۴) حَدَّثَنَا ابْنُ مَبَّارٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ بِطَعَامِهِ.

(۲۳۸۴۳) حضرت حماد اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی کو طعام کے بدلے اجرت پر لیا جائے۔

(۲۳۸۴۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُجِيرُ الْبُسْرَةَ

ابْنَةَ عَزْوَانَ بِطَعَامِي وَعُقْبَةَ رَجُلِي. (ابن ماجہ ۲۳۳۵)

(۲۳۸۴۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ:

(۶۲۵) ما جاء في القرعة

قرعة کے متعلق جو وارد ہوا ہے

(۲۳۸۴۶) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ

رَجُلًا كَانَ لَهُ بَيْتَةٌ أَعْبَدَ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ

وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. (مسلم ۱۲۸۸- ابو داؤد ۳۹۵۳)

(۲۳۸۴۶) حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ ایک شخص کے چھ غلام تھے، اُس نے موت کے وقت اُن سب کو آزاد کر دیا،

حضور اقدس ﷺ نے اُن غلاموں کے درمیان قرعہ اندازی فرمائی اور دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام باقی رکھا۔

(۲۳۸۴۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُخْتَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَقْرَعَ. (نسائی ۳۹۷۹)

(۲۳۸۴۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے قرعہ ڈالا۔

(۲۳۸۴۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ: أَنَّهَا أَقْرَعَتْ بَيْنَ حَمْرَةَ وَبَيْنَ رَجُلٍ

فِي كَفْنٍ.

(۲۳۸۴۸) حضرت صفیہ بنت عبد مناف نے حضرت حمزہ اور ایک شخص کے درمیان کفن کے معاملہ میں قرعہ ڈالا۔

(۲۳۸۴۹) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ؟ فَقُمْتُ فَقَالَ: أَيْلُغُ مُعَاوِيَةَ

إِذَا غِيَمَ غَيْمَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَهْمِهِمْ، فَلَيْكُتُبَ عَلَيَّ سَهْمٌ مِنْهَا لِلَّهِ، ثُمَّ لِيُقْرِعُ، فَحَيْثُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

فَلْيَأْخُذْهُ.

(۲۳۸۳۹) حضرت مالک بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کی خدمت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ یہاں شام والوں میں سے کوئی ہے؟ میں کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا حضرت معاویہ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ: جب مال غنیمت آئے تو اُس میں پانچ حصے الگ کر دو، پھر اُس میں سے ایک حصہ پر لکھ لو کہ یہ اللہ کے لئے ہے، پھر قرعہ ڈالو، پھر جو اس میں نکلے اُس کو لے لو۔

(۲۳۸۵۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَفْرَعُ بَيْنَ نِسَاءِهِ . (بخاری ۲۵۹۳۔ مسلم ۲۱۲۹)

(۲۳۸۵۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔

(۲۳۸۵۱) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ . (بخاری ۵۲۱۱۔ مسلم ۸۸)

(۲۳۸۵۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی ہے۔

(۲۳۸۵۲) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمَنْقَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ أَفْرَعُ .

(۲۳۸۵۲) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے قرعہ اندازی فرماتے۔

(۲۳۸۵۳) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ .

(۲۳۸۵۳) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

(۲۳۸۵۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيِّ قَوْمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ . (ابوداؤد ۲۲۲۳)

(۲۳۸۵۴) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ جھگڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے،

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کروں گا، پھر آنحضرت ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔

(۲۳۸۵۵) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لِهَمَّا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ .

(۲۳۸۵۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمی ایک جانور کے متعلق جھگڑتے ہوئے حضور ﷺ کی خدمت میں

آئے، دونوں کے پاس گواہ نہ تھے آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ۔

(۲۳۸۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلَيْنِ : اسْتَهَمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ .

(۲۳۸۵۶) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو شخصوں سے فرمایا: تم دونوں قرعہ اندازی ڈالو پھر حق بات کا قصد کرو، اور پھر تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ دوسرے کے لئے قابل استعمال بنائے۔

(۲۳۸۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقْرَعَ .

(۲۳۸۵۷) حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی قرعہ ڈالا۔

(۲۳۸۵۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ : أَنَّهُ أَقْرَعَ .

(۲۳۸۵۸) حضرت محمد بن عبیدہ نے قرعہ ڈالا۔

(۲۳۸۵۹) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : بَلَغَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ ، فَقَالَ : مَا أَرَى هَذَا إِلَّا مِنَ الْأَسْفَسَامِ بِالْأَزْلَامِ .

(۲۳۸۵۹) حضرت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے قرعہ ڈالا پھر فرمایا: میرے نزدیک تو یہ استقام بالازلام ہی ہے۔ (زمانہ جاہلیت میں تیروں کے ذریعہ قرعہ اندازی کی جاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے)۔

(۶۳۶) فِي قِطْعِ الْكُنْفِ

جانوروں کے باڑہ (سابانوں) کو توڑنے کا بیان

(۲۳۸۶۰) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيْعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ الْكُنْفَ ، أَوْ يَأْمُرُ بِقِطْعِهَا .

(۲۳۸۶۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ باڑوں (سابانوں) کو توڑ دیا کرتے تھے، یا پھر توڑنے کا حکم فرماتے۔

(۲۳۸۶۱) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : وَرِدِدْتُ أَنَّ كُلَّ كَنِيفٍ قُطِعَ ، وَأَوَّلُهَا كَنِيفُ عَبْدِ اللَّهِ .

(۲۳۸۶۱) حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام باڑہ (سابانوں) کو توڑ دیئے جائیں اور ان میں سے سب سے پہلے عبد اللہ کے سابان کو توڑا جائے۔

(۲۳۸۶۲) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَدْعُ ظِلَّةً لَا يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُوحِهِ ، وَيَقُولُ : بَنَيْتُمْ عَلَيَّ رُوحَ الْفَارِسِ !

(۲۳۸۶۲) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت شریح رضی اللہ عنہ ایسا سابان قائم نہ رہنے دیتے جس کے نیچے سے گھوڑا سوار اپنا نیزہ لے کر گذر نہ جائے، اور فرماتے کہ: تم نے مجھے رُوحِ الْفَارِسِ پر عمارت تعمیر کی ہے۔

(۶۳۷) الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِالذِّينِ

کسی شخص کا قرض خریدنا

(۲۳۸۶۳) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذِّينِ ؟ قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ وَكُلْ بِقَدْرِ مَالِكَ .

(۲۳۸۶۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ کوئی شخص دین کے ساتھ خرید سکتا ہے؟ فرمایا: اللہ سے ڈرو اور اپنی ملکیت کی بقدر کھاؤ۔

(۲۳۸۶۴) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِنَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَعَضِبَ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَشْتَرِي مِنْ قَوْمٍ قَدْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ ، فَيَمِطُهُمُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَلَهُ مِنَ الرَّبَاعِ مَا لَوْ شَاءَ لَبَاعَ فَقَضَاهُمْ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَيْسَرَ قَضَى .

(۲۳۸۶۴) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مال داری تک خریدتے تھے (کہ جب مال آیا تو رقم ادا کر دوں گا) حضرت نافع غصہ میں آئے اور فرمایا: وہ تو ایسے لوگوں سے خریدتے تھے جن کو وہ جانتے تھے اور وہ ان کو پہچانتے تھے، پس وہ ان کو ایک یا دو سال مہلت دیتے، اور ان کے لئے تاوان بھی تھا اگر وہ چاہتے تو اُس کو فروخت کر کے ان کی ادائیگی فرمادیتے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب صاحب استطاعت ہوئے تو ادا فرمادیا۔

(۶۳۸) الرَّجُلُ يَصْرِفُ الدَّنَانِيرَ

دیناروں کو تبدیل کرنا

(۲۳۸۶۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ الدَّنَانِيرَ فَيُعْطَى الدَّرَاهِمَ الزَّيْفَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهُ .

(۲۳۸۶۵) حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص دینار میں بیع صرف کرتا ہے اور کھوٹے درہم دیتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ تبدیل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۸۶۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : وَقَالَ سَفْيَانُ : إِنْ كَانَ سُتُوقًا رَدَّهُ ، وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الدَّنَانِيرِ بِحِصَّتِهِ .

(۲۳۸۶۶) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ کھوٹے ہیں تو واپس کر دیا جائے گا، اور وہ اُس دیناروں میں اپنے حصہ میں شریک ہوں گے۔

(۲۳۸۶۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَفْيَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِي بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَبِضَ الدِّيْنَارَ ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دَرَاهِمٌ ؟ قَالَ : إِنْ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَمَنٌ لِصَاحِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَّ الْبَيْعُ .

(۲۳۸۶۷) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زرگر کے پاس دینار لے کر آئے اور اُس کے پاس درہم کے ساتھ تبدیل کرے، اور وہ دینار پر قبضہ کر لے اور زرگر کے پاس درہم نہ ہوں؟ فرمایا: اگر انہوں نے جدا ہونے سے پہلے اُس کے لئے تبدیل کر لیا ہے تو بیع جائز ہے، اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک کا شئ دوسرے پر ہے، اور اگر وہ سامان تھا تو بیع فاسد ہو جائے گی۔

(۲۳۸۶۸) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ بِسَعَةِ وَفُلْسٍ ، فَكِرْهُهُ ، وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ يَتَسَعَةُ دَرَاهِمَ وَذَهَبٌ ، لَمْ يَرَّ بِهِ بَأْسًا .

(۲۳۸۶۸) حضرت سفیان دس درہم کو نو درہم اور فلس کے بدلے تبدیل کرنے کو ناپسند فرماتے۔ اور دس درہم کو نو درہم اور سونے کے ساتھ تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(۲۳۸۶۹) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا سَمَى بَرِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَصْعُقْ يَدَهُ .

(۲۳۸۶۹) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے بیان کر دیا (کہ اس میں فلاں عیب ہے) تو وہ بری الذمہ ہو گیا اگرچہ ہاتھ رکھ کر نہ بتائے۔

(۲۳۸۷۰) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : بَرِئْتُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَرِيءٌ ؟ .

(۲۳۸۷۰) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر یوں کہے کہ میں ہر عیب سے بری ہوں تو بری ہو جائے گا۔

(۲۳۸۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا فِعْطِنِي بَعْضَهُ ، ثُمَّ يَقْطَعُ بِهِ فَلَا يُعْطِنِي لِقَوْلٍ : بِعْنِي طَعَامَكَ حَتَّى أَقْضِيكَ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا هَذَا الرَّبَّاءَ الصَّرَاحِيَّةَ .

(۲۳۸۷۱) حضرت ربیع بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر سے دریافت کیا کہ ایک شخص سے میں نے گندم خریدی اُس نے کچھ مجھے دے دیا اور پھر وہ کہیں چلا گیا اور باقی مجھے نہیں دیا اور کہتا ہے کہ: اپنی گندم مجھے فروخت کر دے یہاں تک کہ میں آپ کو ادا کر دوں؟ فرمایا اس بیع کے قریب مت جانا یہ صراحۃً سود ہے۔

(۲۳۸۷۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : مَنِ احْتَاَزَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجْهِ لَا يَعْلَمُ ، فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ .

(۲۳۸۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کا مال رکھ لے یا کسی کا مال چوری کر لے پھر اس کو وہ مال اس طرح واپس کرنا چاہے کہ اس کو علم نہ ہو اور اس کو وہ مال پہنچا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۸۷۳) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الدِّيَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَبَا مَتَاعًا فَبَاعَهُ بَرِيحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْقُذْنِي رَأْسَ مَالِي ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ، فَكِرْهُهُ الْحَسَنُ .

(۲۳۸۷۳) حضرت سلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ دو شریکوں نے مل کر کوئی چیز خریدی پھر اُس کو کچھ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا کچھ نقد اور کچھ ادھار رقم کے ساتھ، پھر اُس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: میرا اس المال مجھے دے دو، جو باقی بچاؤ تمہارا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حسن نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۶۳۹) فی الرجل یشتري الشیء فیجده یزید وینقص

کوئی شخص چیز خریدنے کے بعد اس میں کچھ کمی یا زیادتی پائے

(۲۳۸۷۴) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ قَوْسَرَةً أَوْ حُلَّةً ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِقَيْتِهَا عَدَدًا يَكِيلُهَا ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ .

(۲۳۸۷۴) حضرت محمد اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما دونوں حضرات اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو کھجور کا برتن فروخت کرے پھر اُس کو اُس کا باقی حصہ گن کر دیا جائے جس میں وہ کیل ہے، تو دونوں حضرات نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۲۳۸۷۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَنَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَشْرَةَ آلَافِ جَوْزَوَةٍ بِنِائِلَيْنِ دِرْهَمًا يَشْتَرِيهِ عَدَدًا ، ثُمَّ يَصِيرُ بَجْرَةَ أَوْ بَجْرَتَيْنِ ، ثُمَّ يَعُدُّنَ بِقَيْتِهِ عَلَى مَا فِي الْجَوْرَتَيْنِ ، قَالَا : هُوَ مَكْرُوهٌ .

(۲۳۸۷۵) حضرت قتادہ اور حضرت ابو ہاشم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دس ہزار اخروٹ تیس درہم کے گن کر خریدے، پھر ان کو ایک یادوٹی کے گڑھوں میں ڈال دیئے گئے، پھر جو باقی رہ گئے تھے دو گڑھوں میں اُن کو شمار کرنے لگے، تو آپ دونوں حضرات نے اس کو ناپسند فرمایا۔

(۶۴۰) الرجل يقول لغلامه ما أنت إلا حر

کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے: ”نہیں ہے تو مگر آزاد“

(۲۳۸۷۶) حَدَّثَنَا جَبْرِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ : إِنَّكَ لَحُرٌّ النَّفْسِ ، فَهُوَ حُرٌّ .

(۲۳۸۷۶) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ بے شک تو آزاد نفس والا ہے تو وہ آزاد شمار ہوگا۔

(۲۳۸۷۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ ، قَالَ : فَقَالَ : الْحَسَنُ : زَيْتٌ .

(۲۳۸۷۷) حضرت حسن سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے کہ: نہیں ہے تو مگر آزاد تو اُس کی نیت کا اعتبار ہے۔

(۲۳۸۷۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِنْهُ .

(۲۳۸۷۸) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

(۲۳۸۷۹) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ قَاتَلَ غُلَامَهُ رَجُلًا فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ حُرٌّ مِنْكَ ، قَالَ : هُوَ حُرٌّ .

(۲۳۸۷۹) حضرت شعبی رضی اللہ عنہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کے غلام کو کسی شخص نے قتل کیا، اُس نے کہا وہ تمہاری طرح آزاد ہے تو اس طرح کہنے سے وہ آزاد شمار ہوگا۔





RIANTABA - E-BENHARMA

مكتبة حنيفة

إقرأ سنو عروق سنو حنيفة أنو و بانان لاندو

فون: 042-7224228-7355743

فیس: 042-7221395

